

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

فتاوى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولانا مفتي شبير احمد القاسمي

خادم الافتاء و الحديث جامعه قاسميه
مدرسه شاهي مرادآباد، الهند

(جلد ۲۶)

المجلد السادس و العشرون

فهارس مسائل

۱ ————— ۱۱۶۰۰

ناشر

مکتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

094 12552294 بخت صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی

09358001571 بخت مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند

08810383186 01336-223082

محرم الحرام ۱۴۳۷ھ پہلا ایڈیشن

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارنپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571-08810383186

مكمل اجمالى فهرست ايك نظر مين

رقم المسأله	عنوانات
المجلد الأول	١ ١٧٢ مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.
المجلد الثاني	١٧٣ ٥٥٧ بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر، إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.
المجلد الثالث	٥٥٨ ١٠٠٥ بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.
المجلد الرابع	١٠٠٦ ١٤١٥ بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار.
المجلد الخامس	١٤١٦ ١٩٣٥ الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.
المجلد السادس	١٩٣٦ ٢٤٥٧ الجماعة، المساجد، الإمامة.
المجلد السابع	٢٤٥٨ ٢٩٦٤ بقية الصلوة من تسوية الصفوف إلى سجود التلاوة.
المجلد الثامن	٢٩٦٥ ٣٤٢٣ بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والتوافل، التراويح، صلوة المسافر.

المجلد التاسع	٣٤٢٤	٣٨٩٣	بقية الصلوة، صلوة المريض، الجمعة، العيدين، الجنائز إلي حمل الجنازة.
المجلد العاشر	٣٨٩٤	٤٤٠٤	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلي باب الشهيد، كتاب الزكوة.
المجلد الحادي عشر	٤٤٠٥	٤٨٧٣	بقية الزكوة، كتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلي صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	٤٨٧٤	٥٣٤٨	كتاب الحج بتمام أبوابها، النكاح إلي باب نكاح المكره.
المجلد الثالث عشر	٥٣٤٩	٥٩٤٣	بقية النكاح إلي باب المهر.
المجلد الرابع عشر	٥٩٤٤	٦٤٦٢	الرضاع، الطلاق إلي باب الكناية.
المجلد الخامس عشر	٦٤٦٣	٦٩٠٢	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحلالة.
المجلد السادس عشر	٦٩٠٣	٧٤٠٢	بقية الطلاق، تعليق الطلاق، التفويض، الفسخ والتفريق، الظهار، الإيلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقة، ثبوت النسب، الحضانة.
المجلد السابع عشر	٧٤٠٣	٧٨٦٧	الأيمان والنذور، الحدود، الجهاد، السلقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلي باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	٧٨٦٨	٨٤٠٨	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلي مصلى العيد، والمقبرة. (قبرستان)

المجلد التاسع عشر	٨٤٠٩	٨٨٥٦	بقية الوقف، باب المدارس، كتاب البيوع، البيع الصحيح، الفاسد، المرابحة، الصرف، السلم، الوفاء، الشفعة، المزارعة.
المجلد العشرون	٨٨٥٧	٩٣٥٠	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	٩٣٥١	٩٧٣٥	الديون، الوديعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	٩٧٣٦	١٠٢٤٥	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحية بتمام أنواعها، العقيقة، الحقوق، بأكثر أبوابها إلي باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	١٠٢٤٦	١٠٧٠٥	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقي بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلي باب السابع، ما يتعلق باللحية.
المجلد الرابع والعشرون	١٠٧٠٦	١١٢٠٥	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدايا، الموالاة مع الكفار، المال الحرام، الأدب، الهوى، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير.
المجلد الخامس والعشرون	١١٢٠٦	١١٦٠٠	الوصية، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	١	١١٦٠٠	فهارس المسائل





فہرست مضامین

مقدمة التحقيق

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۷	○ تقریظ: استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہ .
۳۹	○ تقریظ: استاذ الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب مدظلہ
۴۰	○ تقریظ: استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا ریاست علی صاحب مدظلہ ..
۴۱	○ تقریظ: حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم
۴۳	○ تقریظ: حضرت اقدس مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی مدظلہ .
۴۵	○ تقریظ: حضرت اقدس مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب دامت برکاتہم ...
۴۷	○ تقریظ: حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مدظلہ
۵۱	○ تقریظ: حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری مدظلہ ..
۵۳	○ موقع حمد و ثناء: حضرت اقدس مولانا سید اشہد رشیدی صاحب مدظلہ
۵۵	○ مقدمة التحقيق

۵۸	الفصل الأول: حضرت امام ابوحنیفہ کا مقام	□
----	---	---

۵۹	○ امام ابوحنیفہؒ تابعی کی صف میں
۶۰	○ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مقام کبار مجتہدین میں
۶۳	○ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ صحاح ستہ کے رواۃ میں سے
۶۴	○ جمیع مستدلّات الإمام صحیح

- قلت روایت کا سبب ۶۶
- ”اذا صح الحديث فهو مذهبي“ کا مطلب ۶۷

۶۹	الفصل الثانی: اہم ترین شہرہ آفاق فقہاء کا تعارف	□
----	---	---

- (۱) الامام زفر بن ہذیل ۱۱۰-۱۵۸ھ ۶۹
- (۲) الامام حماد بن ابی حنیفہ المتوفی: ۱۷۰ھ ۶۹
- (۳) امام مالک بن انسؒ ۹۳-۱۷۹ھ ۷۰
- (۴) الامام عبداللہ بن المبارک ۱۱۸-۱۸۱ھ ۷۰
- (۵) الامام قاضی ابویوسفؒ ۱۱۳-۱۸۲ھ ۷۱
- (۶) الامام محمد بن الحسن الشیبانی ۱۳۱-۱۸۹ھ ۷۲
- (۷) الامام حسن بن زیاد اللؤلؤی المتوفی: ۲۰۴ھ ۷۲
- (۸) الامام محمد بن ادریس الشافعی ۱۵۰-۲۰۴ھ ۷۳
- (۹) الامام اسماعیل بن حماد المتوفی ۲۱۲ھ ۷۳
- (۱۰) الامام شداد بن اکیم المتوفی ۲۲۰ھ ۷۴
- (۱۱) الامام عیسیٰ بن ابان المتوفی: ۲۲۱ھ ۷۴
- (۱۲) الامام احمد بن حنبلؒ ۱۶۴-۲۴۱ھ ۷۴
- (۱۳) الامام محمد بن مقاتل الرازی المتوفی: ۲۴۲ھ ۷۵
- (۱۴) الامام محمد بن الاظہر المتوفی: ۲۵۸ھ ۷۵
- (۱۵) ابو حفص الکبیر ۷۵
- (۱۶) ابو حفص الصغیر المتوفی: ۲۶۴ھ ۷۵
- (۱۷) امام محمد بن شجاع النجفی المتوفی: ۲۶۶ھ ۷۶
- (۱۸) الامام محمد بن سلمہ ۷۶

- (۱۹) امام ابوعلی الدقاق ۷۶
- (۲۰) الامام ابوسعید بردعی المتوفی: ۳۱۷ھ ۷۶
- (۲۱) الامام ابوبکر الاسکاف المتوفی: ۳۳۳ھ ۷۷
- (۲۲) الامام ابوالحسن الکرخی ۲۶۰-۳۴۰ھ ۷۷
- (۲۳) الامام ابوعمیر الطبری المتوفی: ۳۴۰ھ ۷۷
- (۲۴) الامام ابو جعفر الہندوانی المتوفی: ۳۶۲ھ ۷۷
- (۲۵) الامام ابوبکر الجصاص الرازی ۳۰۵-۳۷۰ھ ۷۸
- (۲۶) فقیہ ابواللیث سمرقندی المتوفی: ۳۸۳ھ ۷۸
- (۲۷) الامام ابوبکر الخوارزمی المتوفی: ۴۰۳ھ ۷۸
- (۲۸) الامام ابوالحسین المتوفی: ۴۲۸ھ ۷۸
- (۲۹) الامام ابوزید الدبوسی المتوفی: ۴۳۰ھ ۷۹
- (۳۰) الامام شمس الائمہ الحلوانی المتوفی: ۴۴۸ھ ۷۹
- (۳۱) الامام فخر الاسلام بزدوی ۴۰۰-۴۸۲ھ ۷۹
- (۳۲) الامام صدر الاسلام البزدوی ۴۲۱-۴۹۳ھ ۷۹
- (۳۳) الامام نجم الدین نسفی المتوفی: ۵۳۷ھ ۸۰
- (۳۴) امام طاہر بن احمد المتوفی: ۵۴۲ھ ۸۰
- (۳۵) الامام الکرمانی ۴۵۷-۵۴۳ھ ۸۰
- (۳۶) الامام سراج الدین العوشی ۸۰
- (۳۷) امام ابونصر احمد بن محمد المتوفی: ۵۸۶ھ ۸۱
- (۳۸) امام علاؤ الدین الکاسانی المتوفی: ۵۸۷ھ ۸۱
- (۳۹) الامام فخر الدین قاضی خان المتوفی: ۵۹۲ھ ۸۱
- (۴۰) امام مرغینانی المتوفی: ۵۹۳ھ ۸۲

- (۴۱) الامام ابوالحسن الرازی المتوفی: ۵۹۸ھ ۸۲
- (۴۲) الامام محمود بن احمد المتوفی: ۶۱۶ھ ۸۲
- (۴۳) الامام ظہیر الدین بخاری المتوفی ۶۱۹ھ ۸۲
- (۴۴) الامام ناصر الدین سمرقندی المتوفی: ۶۵۶ھ ۸۳
- (۴۵) امام جلال الدین الخبازي ۶۲۹-۶۹۱ھ ۸۳
- (۴۶) الامام فخر الدین زلیحی المتوفی: ۴۳۳ھ ۸۳
- (۴۷) الامام تاج الشریعہ المتوفی: ۷۷۷ھ ۸۳
- (۴۸) الامام الباہریتی ۷۱۲-۸۷۶ھ ۸۴
- (۴۹) امام بزازی المتوفی: ۸۲۷ھ ۸۴
- (۵۰) محقق ابن ہمام ۷۹۰-۷۶۱ھ ۸۴
- (۵۱) الامام ابن کمال باشا المتوفی: ۹۴۰ھ ۸۴
- (۵۲) الامام حلیمی المتوفی: ۹۴۷ھ ۸۵
- (۵۳) الامام ابراہیم الحلی المتوفی: ۹۵۶ھ ۸۵
- (۵۴) الامام الفقیہ ابن نجیم المصری ۹۲۶-۹۷۰ھ ۸۵
- (۵۵) الامام التمرتاشی ۹۳۹-۱۰۰۴ھ ۸۵
- (۵۶) الملا علی قاری المتوفی: ۱۰۱۴ھ ۸۶
- (۵۷) الامام الشرنبلالی المتوفی: ۱۰۶۹ھ ۸۶
- (۵۸) الامام شیخ زاده المتوفی: ۱۰۷۸ھ ۸۶
- (۵۹) الامام الحکفی ۱۰۲۵-۱۰۸۸ھ ۸۶
- (۶۰) الامام الطحاوی المتوفی: ۱۲۳۱ھ ۸۷
- (۶۱) الامام ابن عابدین ۱۱۹۸-۱۲۵۲ھ ۸۷
- (۶۲) الامام علاؤ الدین ابن عابدین ۱۲۴۴-۱۳۰۶ھ ۸۷

○ (۶۳) الامام الرافعی ۱۲۴۸-۱۳۲۳ھ ۸۷

۸۸	الفصل الثالث: چند اہم محدثین کا تعارف	□
----	---------------------------------------	---

○ (۱) الامام علقمہ بن قیس المتوفی: ۶۲ھ ۸۸

○ (۲) الامام عبیدۃ السلمانی المتوفی: ۷۷ھ ۸۸

○ (۳) القاضي شریح المتوفی: ۷۸ھ ۸۹

○ (۴) الامام محمد بن الحنفیہ ۱۶-۸۱ھ ۸۹

○ (۵) الامام ابراہیم التیمی المتوفی: ۹۲ھ ۹۰

○ (۶) الامام عروہ بن الزبیر ۲۲-۹۳ھ ۹۰

○ (۷) الامام سعید بن المسیب ۱۳-۹۴ھ ۹۱

○ (۸) الامام سعید بن جبیر ۴۵-۹۵ھ ۹۱

○ (۹) الامام ابراہیم الثقفی ۴۶-۹۶ھ ۹۱

○ (۱۰) الامام عمر بن عبدالعزیز ۶۱-۱۰۱ھ ۹۱

○ (۱۱) الامام الثقفی ۱۹-۱۰۳ھ ۹۲

○ (۱۲) الامام مجاہد بن جبر ۲۱-۱۰۴ھ ۹۲

○ (۱۳) الامام عکرمہ ۲۵-۱۰۵ھ ۹۳

○ (۱۴) الامام سالم بن عبداللہ المتوفی: ۱۰۶ھ ۹۳

○ (۱۵) الامام طاؤس بن کیسان ۳۳-۱۰۶ھ ۹۳

○ (۱۶) الامام الحسن البصری ۲۱-۱۱۰ھ ۹۴

○ (۱۷) الامام محمد بن سیرین ۳۳-۱۱۰ھ ۹۴

○ (۱۸) الامام الحکم بن عتیہ ۵۰-۱۱۳ھ ۹۵

○ (۱۹) الامام عطاء بن ابی رباح ۲۷-۱۱۴ھ ۹۵

- (۲۰) الامام نافع مولیٰ بن عمر المتوفی: ۱۱۷ھ ۹۵
- (۲۱) الامام عمرو بن شعیب المتوفی: ۱۱۸ھ ۹۶
- (۲۲) الامام حافظ قتادہ ۶۱-۱۱۸ھ ۹۶
- (۲۳) الامام حماد بن ابی سلیمان المتوفی: ۱۲۰ھ ۹۶
- (۲۴) الامام ابن شہاب الزہری ۵۸-۱۲۴ھ ۹۷
- (۲۵) الامام منصور بن معتمر المتوفی: ۱۳۲ھ ۹۷
- (۲۶) الامام یحییٰ بن سعید الانصاری المتوفی ۱۴۳ھ ۹۷
- (۲۷) الامام عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ۷۴-۱۴۸ھ ۹۷
- (۲۸) الامام الاوزاعی ۸۸-۱۵۸ ۹۸
- (۲۹) الامام شعبہ بن الحجاج ۸۲-۱۶۰ھ ۹۸
- (۳۰) الامام سفیان الثوری ۹۷-۱۶۱ھ ۹۹
- (۳۱) الامام حماد بن سلمہ المتوفی: ۱۶۷ھ ۹۹
- (۳۲) الامام حماد بن زید ۹۸-۱۷۹ھ ۹۹
- (۳۳) الامام ابن علیہ ۱۱۰-۱۹۳ھ ۱۰۰
- (۳۴) الامام سفیان بن عیینہ ۱۰۷-۱۹۸ھ ۱۰۰
- (۳۵) الامام یحییٰ بن سعید القطان ۱۲۰-۱۹۸ھ ۱۰۰
- (۳۶) الامام ابوداؤد الطیالسی ۱۲۳-۲۰۴ھ ۱۰۱
- (۳۷) الامام الحافظ عبدالرزاق الصنعانی ۱۲۶-۲۱۱ھ ۱۰۱
- (۳۸) الامام الحمیدی المتوفی: ۲۱۹ھ ۱۰۱
- (۳۹) الامام سعید بن منصور المتوفی: ۲۲۷ھ ۱۰۲
- (۴۰) الامام محمد بن سعید ۱۶۸-۲۳۰ ۱۰۲
- (۴۱) الامام یحییٰ بن معین ۱۵۸-۲۳۳ھ ۱۰۳

- (۴۲) الامام علی بن المدینی ۱۶۱-۲۳۴ھ ۱۰۳
- (۴۳) الحافظ ابوبکر بن ابی شیبہ ۱۵۹-۲۳۵ھ ۱۰۳
- (۴۴) الامام اسحاق بن راہویہ ۱۶۱-۲۳۸ھ ۱۰۴
- (۴۵) الامام الدراری ۱۸۱-۲۵۵ھ ۱۰۴
- (۴۶) الامام محمد بن اسماعیل البخاری ۱۹۴-۲۵۶ھ ۱۰۴
- (۴۷) الامام مسلم القشیری ۲۰۴-۲۶۱ھ ۱۰۵
- (۴۸) الامام داؤد الظاہری ۲۰۱-۲۷۰ھ ۱۰۵
- (۴۹) الامام ابن ماجہ ۲۰۹-۲۷۳ھ ۱۰۵
- (۵۰) الامام ابوداؤد السجستانی ۲۰۲-۲۷۵ھ ۱۰۶
- (۵۱) الامام الترمذی ۲۰۹-۲۷۹ھ ۱۰۶
- (۵۲) الامام البزار المتوفی: ۲۹۲ھ ۱۰۶
- (۵۳) الامام النسائی ۲۱۵-۳۰۳ھ ۱۰۷
- (۵۴) امام ابو یعلیٰ الموصلی ۲۱۰-۳۰۷ھ ۱۰۷
- (۵۵) الامام محمد بن خزیمہ ۲۲۳-۳۱۱ھ ۱۰۷
- (۵۶) الامام الطحاوی ۲۲۹-۳۲۱ھ ۱۰۸
- (۵۷) الامام ابن حبان ۲۷۰-۳۵۴ھ ۱۰۸
- (۵۸) الامام الطبرانی ۲۶۰-۳۶۰ھ ۱۰۸
- (۵۹) الامام الحافظ الدر قطنی ۳۰۶-۳۸۵ھ ۱۰۹
- (۶۰) الامام الحاکم النسیبوری ۳۲۱-۴۰۵ھ ۱۰۹
- (۶۱) الامام الحافظ ابن حزم الظاہری ۳۸۴-۴۵۶ھ ۱۰۹
- (۶۲) الامام البیہقی ۳۸۴-۴۵۸ھ ۱۱۰
- (۶۳) الامام الحافظ ابو عبد اللہ الحمیدی ۴۲۰-۴۸۸ھ ۱۱۰

- (۶۴) الامام الغزالی ۳۵۰-۵۰۵ھ ۱۱۰
- (۶۵) الامام الحافظ ابن الاثیر ۵۵۵-۶۳۰ھ ۱۱۱
- (۶۶) الامام المذہبی ۵۸۱-۶۵۶ھ ۱۱۱
- (۶۷) الحافظ الذہبی ۶۷۳-۷۴۸ھ ۱۱۱
- (۶۸) الامام جمال الدین الزیلعی المتوفی: ۷۶۳ھ ۱۱۲
- (۶۹) الامام ابن کثیر ۷۰۱-۷۷۴ھ ۱۱۲
- (۷۰) الامام البیہقی ۷۳۵-۸۰۷ھ ۱۱۲
- (۷۱) الامام الحافظ ابن حجر العسقلانی ۷۷۳-۸۵۲ھ ۱۱۲
- (۷۲) الحافظ بدر الدین العینی ۷۶۲-۸۵۵ھ ۱۱۳
- (۷۳) الامام السخاوی ۸۳۱-۹۰۲ھ ۱۱۳
- (۷۴) الامام جلال الدین السيوطی ۸۴۹-۹۱۱ھ ۱۱۳
- (۷۵) الشيخ الامام علی المتقی ۸۸۸-۹۷۵ھ ۱۱۴
- (۷۶) الحافظ العجلونی ۱۰۸۷-۱۱۶۲ھ ۱۱۴

۱۱۵	الفصل الرابع: فقہائے مجتہدین کے طبقات و درجات	□
-----	---	---

- طبقہ اولیٰ ۱۱۵
- طبقہ ثانیہ ۱۱۵
- طبقہ ثالثہ ۱۱۵
- طبقہ رابعہ ۱۱۵
- طبقہ خامسہ ۱۱۶
- طبقہ سادسہ ۱۱۶
- طبقہ سابعہ ۱۱۶

- علامہ ابن کمال پاشا کی بات پر وضاحتی گفتگو ۱۱۶
- فتویٰ نویسی کے اہم اصول اور الفاظ ترجیح کی رعایت ۱۱۸

۱۲۰	الفصل الخامس: مفتی اور قاضی کی ذمہ داری اور دائرہ عمل	□
-----	---	---

- (۱) دیانت پر فتویٰ ۱۲۱
- (۲) قاضی اور مفتی کا فرق ۱۲۲
- (۳) جاہل قاضی کا فیصلہ ۱۲۶
- (۴) مفتی کے فتویٰ پر قاضی کا فیصلہ ۱۲۶
- (۵) دیانت و قضاء کا فرق ۱۲۷
- (۶) مسائل دیانت و قضاء میں تعارض ۱۲۹
- (۷) ایک واقعہ میں فتویٰ و فیصلہ میں تعارض کا حل ۱۳۱
- (۸) مفتی کی ذمہ داری اور دائرہ عمل ۱۳۲
- (۹) مفتی کے لئے واقعہ کی تحقیق ۱۳۳
- (۱۰) مفتی پر ہر سوال کا جواب لازم نہیں ۱۳۶
- (۱۱) غیر واضح سوال کا جواب ۱۳۷
- (۱۲) عدالت میں پیشی سے قبل فیصلہ درست نہیں ۱۳۸
- (۱۳) ”المرأة كالقاضي“ کی اصطلاح ۱۳۹
- (۱۴) ”الزوج كالقاضي“ کی اصطلاح ۱۴۳
- (۱۵) قضائے قاضی ظاہر او باطناً ۱۴۳

۱۴۷	الفصل السادس: مسئلہ تقلید پر مختصر و مدلل بحث	□
-----	---	---

- (۱) تقلید کی ضرورت ۱۴۷
- (۲) اقسام نصوص ۱۴۸

- بحث کا خلاصہ ۱۵۴
- تقلید مطلق (۳) ۱۵۶
- ائمہ اربعہ کی تقلید لازم کیوں؟ ۱۵۸
- صحابہ کی تقلید (۵) ۱۶۱
- تقلید شخصی (۶) ۱۶۱
- عوام اور غیر مجتہد کے لئے ایک امام کی تقلید کی پابندی ۱۶۴
- مقلد کی قسمیں ۱۶۷
- مفتی ناقل اور مقلد محض کا فتویٰ ۱۶۸
- مقلد محقق اور مفتی مجتہد ۱۷۱
- مقلد محقق کا انتقال عن المذہب ۱۷۴
- (۹) مقلد محقق کا تفرد ۱۷۵
- تفرد افضل نہیں ۱۷۷
- تفرد کی شرائط ۱۷۷
- تفرد کے اقسام ۱۷۸
- مقلد محض کا مقلد محقق کے تفرد کا اتباع ۱۸۱
- (۱۰) شہرہ آفاق پانچ محققین کے تفردات ۱۸۳
- (۱) حضرت امام طحاویؒ کے تفردات ۱۸۳
- (۲) علامہ ابن تیمیہ کے تفردات ۱۸۵
- (۳) شیخ ابن الہمام کے تفردات ۱۸۷
- (۴) مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے تفردات ۱۹۳
- (۵) حضرت شیخ الاسلامؒ کے تفردات ۱۹۵
- مکتوب گرامی حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ ۱۹۸

۲۰۱	الفصل السابع: مسئلہ تلفیق پر مدلل بحث	□
-----	---------------------------------------	---

- بحث ۱: تلفیق کی حقیقت ۲۰۱
- بحث ۲: تلفیق کا حکم ۲۰۲
- بحث ۳: تلفیق کے اقسام ۲۰۴
- خارقِ اجماع تلفیق ۲۰۵
- مقلد مقید اور مقلد محض ۲۰۵
- مجتہد مقید کی تلفیق ۲۰۶
- (۱) الگ الگ دو مسلوں میں تلفیق ۲۰۶
- (۲) دو وقتوں میں دو عمل کی تلفیق ۲۰۸
- (۳) عمل واحد میں مجتہد مقید کی تلفیق ۲۰۸
- (۴) ایک وقت میں دو عمل کی تلفیق ۲۰۹
- مقلد مقید کی تلفیق ۲۱۱
- مقلد مقید کی تلفیق کی قسمیں ۲۱۱
- (۱) عمل واحد میں تلفیق ۲۱۱
- (۲) ایک وقت میں متعدد عمل کی تلفیق ۲۱۳
- (۳) مقلد مقید کی دو وقتوں میں دو عمل کی تلفیق ۲۱۴
- (۴) مقلد مقید کی الگ الگ دو مسلوں میں اپنی رائے سے تلفیق ۲۱۵
- (۵) مذہب واحد میں مقلد محض کی تلفیق ۲۱۶
- تلفیق کی کونسی قسم جائز ۲۱۸
- دیایا نات و معاملات میں تلفیق ۲۱۸

۲۲۰	الفصل الثامن: ضرورت، حاجت اور عموم بلوی پر مدلل بحث	□
-----	---	---

- (۱) بحث ضرورت ۲۲۰
- (۱) ضرورت کی لغوی تعریف ۲۲۰
- اصطلاحی تعریف ۲۲۱
- (۲) ضرورت کے مراتب خمسہ ۲۲۲
- اضطراری ضرورت کا حکم ۲۲۶
- امور محرّمہ کی اباحت کی شرائط و اصول ۲۲۷
- (۳) ضرورت کے اسباب ۲۲۹
- (۱) حرمت کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور جان کی حفاظت سے متعلق ہو ... ۲۳۱
- (۲) حرمت کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور ایمان و کفر سے متعلق ہو ۲۳۲
- (۳) حرمت کا تعلق حقوق العباد میں سے حقوق مالی کے ساتھ ہو ۲۳۳
- (۴) حرمت کا تعلق حقوق العباد میں سے حقوق جانی کے ساتھ ہو ۲۳۴
- (۵) ضرورت کی تاثیر نفی گناہ کی حد تک ہے یا رفع حرمت تک؟ ۲۳۵
- (۶) کیا ضرورت پر مبنی احکام قانون شرعی سے مستثنیٰ ہوتے ہیں؟ ۲۳۶
- (۷) ضرورت کی تاثیر تمام محرمات میں ہوتی ہے یا چند ابواب میں؟ ۲۳۸
- ضرورت اور حاجت کا فرق ۲۳۸
- (۳) ضرورت و حاجت میں فرق کے لئے اصول ستہ ۲۴۰
- دلیل ظنی کا حکم ۲۴۱
- مکروہ کے لئے لفظ ”حرام“ کا استعمال ۲۴۲
- کراہت تحریمی کے لئے لفظ ”کراہت“ کا استعمال ۲۴۳
- اصول نمبر ۶: رکن اصلی اور رکن زائد ۲۴۷
- (۴) حاجت کی مثالیں اور مواقع استعمال ۲۴۹
- ریشم کا حکم ۲۵۰

- مثال نمبر ۱: حریر اور ریشم کا پہننا مرد کے لئے ناجائز اور ممنوع ہے۔ ۲۵۰
- مثال نمبر ۲: مجرم کا حلق راس ۲۵۱
- مثال نمبر ۳: سونے کا استعمال ۲۵۲
- مثال نمبر ۴: ہدی کے جانور پر سوار ہونا ۲۵۳
- مثال نمبر ۵: تصویر کا حکم ۲۵۴
- مثال نمبر ۶: ران ستر عورت ہے ۲۵۵
- مثال نمبر ۷: رشوت کا حکم ۲۵۶
- بحث نمبر ۳: مسئلہ عمومِ بلوی ۲۵۷
- (۱) عمومِ بلوی کی تعریف ۲۵۷
- (۲) عمومِ بلوی کا حکم ۲۵۸
- (۳) عمومِ بلوی کی وضاحتی مثالیں ۲۶۰
- مثال نمبر ۱: غسالہ میت: ۲۶۰
- مثال نمبر ۲: گوبر کی راکھ: ۲۶۰
- مثال نمبر ۳: پیشاب کی چھینٹیں: ۲۶۱
- مثال نمبر ۴: ناپاک چربی: ۲۶۱
- مثال نمبر ۵: بیع الوفاء: ۲۶۲
- مثال نمبر ۶: استیفاء بالحجر: ۲۶۲
- مثال نمبر ۷: ترنجاست سے جوتے کی پاکی: ۲۶۳
- (۴) عرف اور عمومِ بلوی کا ضرورت سے کیا تعلق ۲۶۴
- (۵) ضرورتِ عامہ و ضرورتِ خاصہ کا فرق ۲۶۵

۲۶۶	الفصل التاسع: ”عدول عن المذہب“ پر مدلل بحث	□
-----	--	---

- (۱) تلفیق کا عدم جواز ۲۶۶

- (۲) کس قسم کی ضرورت کی وجہ سے عدول عن المذہب جائز ہے؟ ۲۶۷
- (۴) مذہب غیر کے اختیار کرنے کی شرائط ۲۷۰
- (۵) عموم بلوئی کی وجہ سے عدول عن المذہب ۲۷۲
- (۶) مقلد مجتہد کا عدول عن المذہب ۲۷۳
- (۱) مقلد مجتہد کا تفرّد ۲۷۴
- تفرّد کا اتباع جائز نہیں ۲۷۵
- (۷) محقق کے لئے اپنے تفرّدات پر فتویٰ کا عدم جواز ۲۷۵
- محقق کا ضرورت کی وجہ سے مذہب غیر پر فتویٰ ۲۷۷
- مقلد غیر مجتہد کے عدول عن المذہب کی شرط ۲۷۷
- (۸) قول ضعیف پر فتویٰ ۲۷۹
- قول ضعیف کی موجودگی میں عدول عن المذہب ۲۸۲
- دیانات و معاملات میں عدول ۲۸۴
- عدول عن المذہب کی وضاحتی مثالیں ۲۸۴
- دیانات میں عدول عن المذہب کی مثالیں ۲۸۴
- (۱) جمع بین الصلاّاتین: ۲۸۴
- (۲) دم حیض: ۲۸۶
- (۳) ممتدة الطہر: ۲۸۶
- (۴) حجاز مقدس میں عصر کی نماز دو مثل سے قبل ۲۸۸

۲۹۱	الفصل العاشر: اہم ترین کتب فقہ کا تعارف	□
-----	---	---

- (۱) الاصل ۲۹۱
- (۲) البحر الرائق ۲۹۱

- (۳) بدائع الصنائع ۲۹۱
- (۴) البنایہ ۲۹۱
- (۵) تبیین الحقائق ۲۹۲
- (۶) التجرید ۲۹۲
- (۷) تحفۃ الفقہاء ۲۹۲
- (۸) تحفۃ المملوک ۲۹۲
- (۹) تقریرات رافعی ۲۹۳
- (۱۰) تنویر الابصار و جامع البحار ۲۹۳
- (۱۱) الجامع الصغیر فی الفروع ۲۹۳
- (۱۲) جامع الفتاویٰ ۲۹۳
- (۱۳) الجامع الکبیر فی الفروع ۲۹۳
- (۱۴) الجامع الوجیز (فتاویٰ بزازیہ) ۲۹۴
- (۱۵) الجوهرة النيرة ۲۹۴
- (۱۶) حاشیہ چلبی ۲۹۴
- (۱۷) حاشیة الطحاوی علی الدر المختار ۲۹۴
- (۱۸) حاشیة الطحاوی علی مراقی الفلاح ۲۹۵
- (۱۹) خزانة الفقه ۲۹۵
- (۲۰) خلاصة الفتاویٰ ۲۹۵
- (۲۱) الدر المختار ۲۹۵
- (۲۲) درر الحکام فی شرح غرر الاحکام ۲۹۶
- (۲۳) الذخيرة ۲۹۶

- (٢٣) رد المحتار على الدر المختار ٢٩٦
- (٢٥) سكب الانهر ٢٩٦
- (٢٦) السير الصغير ٢٩٤
- (٢٧) السير الكبير ٢٩٤
- (٢٨) شرح المجلدة ٢٩٤
- (٢٩) شرح الصغيرى ٢٩٤
- (٣٠) شرح منظومة بن وهبان ٢٩٤
- (٣١) شرح وقايه ٢٩٨
- (٣٢) شرح النقاية ٢٩٨
- (٣٣) عقود الدراية في تنقيح الفتاوى الحامديه ٢٩٨
- (٣٤) عمدة المفتى ٢٩٨
- العناية ٢٩٨
- (٣٥) غنية المستملي شرح منية المصلي ٢٩٩
- (٣٦) فتح التقدير ٢٩٩
- (٣٧) فتاوى ابى الليث ٢٩٩
- (٣٨) الفتاوى البقالى ٢٩٩
- (٣٩) الفتاوى التاتارخانية ٢٩٩
- (٤٠) فتاوى حسام الدين ٣٠٠
- (٤١) الفتاوى الحانية ٣٠٠
- (٤٢) فتاوى الخجندى ٣٠٠

- (۴۳) فتاویٰ خواہر زادہ ۳۰۰
- (۴۴) الفتاویٰ السراجیہ ۳۰۱
- (۴۵) الفتاویٰ السعدی ۳۰۱
- (۴۶) الفتاویٰ الصیرفیہ ۳۰۱
- (۴۷) الفتاویٰ الظہیریہ ۳۰۱
- (۴۸) الفتاویٰ العتابیہ ۳۰۱
- (۴۹) الفتاویٰ القاسمیہ ۳۰۲
- (۵۰) الفتاویٰ الولوالجیہ ۳۰۲
- (۵۱) الفتاویٰ الہندیہ ۳۰۲
- (۵۲) فقہ الیویع ۳۰۲
- (۵۳) کتاب الحج علی اہل المدینۃ ۳۰۳
- (۵۴) الکفاۃ ۳۰۳
- (۵۵) کنز الدقائق ۳۰۳
- (۵۶) المبسوط للسرخسی ۳۰۳
- (۵۷) مجمع الانہر ۳۰۳
- (۵۸) المحيط البرہانی ۳۰۴
- (۵۹) مختصر القدوری ۳۰۴
- (۶۰) مراقی الفلاح ۳۰۴
- (۶۱) ملتقى الابحار ۳۰۴
- (۶۲) الملتقط ۳۰۵
- (۶۳) منہ الخالق ۳۰۵
- (۶۴) النوازل ۳۰۵

- (۶۵) انہر الفائق ۳۰۵
- (۶۶) نور الایضاح ۳۰۵
- (۶۷) ہدایہ ۳۰۶

۳۰۷	الفصل حادی عشر: چند اردو فتاویٰ کی نشاندہی	□
-----	--	---

- (۱) فتاویٰ رشیدیہ ۳۰۷
- (۲) باقیات فتاویٰ رشیدیہ ۳۰۷
- (۳) امداد الفتاویٰ ۳۰۷
- (۴) فتاویٰ عبدالحی ۳۰۸
- (۵) فتاویٰ احیاء العلوم ۳۰۸
- (۶) کفایت المفتی ۳۰۸
- (۷) فتاویٰ خلیلیہ ۳۰۸
- (۸) عزیز الفتاویٰ / امداد المقتنین ۳۰۹
- (۹) فتاویٰ دارالعلوم (جدید) ۳۰۹
- (۱۰) فتاویٰ شیخ الاسلام ۳۰۹
- (۱۱) امداد الاحکام ۳۱۰
- (۱۲) جواہر الفقہ ۳۱۰
- (۱۳) فتاویٰ محمودیہ ۳۱۰
- (۱۴) منتخبات نظام الفتاویٰ ۳۱۱
- (۱۵) فتاویٰ رحیمیہ ۳۱۱
- (۱۶) احسن الفتاویٰ ۳۱۱
- (۱۷) آپ کے مسائل اور ان کا حل ۳۱۲

- (۱۸) فتاویٰ عثمانی ۳۱۲
- اسلام اور جدید معاشی مسائل ۳۱۲
- (۱۹) فتاویٰ حقانیہ ۳۱۲
- (۲۰) کتاب الفتاویٰ ۳۱۳
- (۲۱) قاموس الفقہ ۳۱۳
- (۲۲) کتاب المسائل ۳۱۳
- (۲۳) کتاب النوازل ۳۱۳
- (۲۴) محمود الفتاویٰ ۳۱۴
- فتاویٰ دینیہ ۳۱۴
- (۲۵) فتاویٰ ریاض العلوم گورینی ۳۱۴
- (۲۶) انوار رحمت ۳۱۴
- (۲۷) ایضاح النوادر ۳۱۵
- (۲۸) انوار مناسک ۳۱۵

۳۱۶	الفصل الثانی عشر: چند اکابر دیوبند کا مختصر تعارف	□
-----	--	---

- (۱) حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ متوفی: ۱۲۹۷ھ ۳۱۶
- (۲) حضرت نانوتویؒ متوفی: ۱۲۹۷ھ ۳۱۷
- (۳) حضرت گنگوہیؒ متوفی: ۱۳۲۳ھ ۳۱۸
- (۴) مولانا یعقوب صاحب نانوتویؒ متوفی: ۱۳۰۲ھ ۳۱۸
- (۵) مولانا سید احمد ہلویؒ متوفی: ۱۳۱۱ھ ۳۱۸
- (۶) مولانا محمد علی موگیلیؒ متوفی: ۱۳۴۶ھ ۳۱۹
- (۷) حضرت مولانا احمد حسن محدث امرہویؒ متوفی: ۱۳۳۰ھ ۳۲۰

- (۸) حضرت شیخ الہندؒ متوفی: ۱۳۳۹ھ ۳۲۰
- (۹) حضرت مولانا خلیل احمد انبھویؒ متوفی: ۱۳۴۶ھ ۳۲۱
- (۱۰) حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ متوفی: ۱۳۴۷ھ ۳۲۲
- (۱۱) مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانیؒ متوفی: ۱۳۴۷ھ ۳۲۲
- (۱۲) حضرت مولانا منصور علی خان مراد آبادیؒ متوفی: ۱۳۳۷ھ ۳۲۳
- (۱۳) حضرت مولانا عبدالحق پرقاضویؒ متوفی: ۱۳۴۲ھ ۳۲۴
- (۱۴) حضرت مولانا محمد حسن مراد آبادیؒ متوفی: ۱۳۶۴ھ ۳۲۴
- (۱۵) حضرت مولانا محمود حسن سہوائیؒ متوفی: ۱۳۳۹ھ ۳۲۴
- (۱۶) حضرت مولانا قاری عبدالرحمن امر وہویؒ متوفی: ۱۳۶۷ھ ۳۲۵
- (۱۷) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ متوفی: ۱۳۶۲ھ ۳۲۵
- (۱۸) حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ متوفی: ۱۳۴۷ھ ۳۲۶
- (۱۹) حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ متوفی: ۱۳۷۱ھ ۳۲۷
- (۲۰) مولانا عبید اللہ سندھیؒ متوفی: ۱۳۶۳ھ ۳۲۷
- (۲۱) مولانا حکیم اسحاق کھٹوریؒ متوفی: ۱۳۷۴ھ ۳۲۸
- (۲۲) علامہ انور شاہ کشمیریؒ متوفی: ۱۳۵۲ھ ۳۲۸
- (۲۳) حضرت مولانا امین الدین دہلویؒ متوفی: ۱۳۳۸ھ ۳۲۹
- (۲۴) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ متوفی: ۱۳۷۲ھ ۳۲۹
- (۲۵) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ متوفی: ۱۳۷۷ھ ۳۳۰
- (۲۶) حضرت مولانا سید احمد مدنیؒ متوفی: ۱۳۵۸ھ ۳۳۱
- (۲۷) حضرت میاں اصغر حسین دیوبندیؒ متوفی: ۱۳۶۳ھ ۳۳۱
- (۲۸) حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاریؒ متوفی: ۱۳۴۶ھ ۳۳۱

- (۲۹) حضرت مولانا اعجاز علی امر و ہومیؒ متوفی: ۱۳۷۴ھ ۳۳۲
- (۳۰) حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنیؒ متوفی: ۱۳۷۴ھ ۳۳۲
- (۳۱) علامہ شبیر احمد صاحب عثمانیؒ متوفی: ۱۳۶۹ھ ۳۳۳
- (۳۲) حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب بلیاویؒ متوفی: ۱۳۸۷ھ ۳۳۴
- (۳۳) حضرت جی مولانا الیاس صاحبؒ متوفی: ۱۳۶۳ھ ۳۳۴
- (۳۴) حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحبؒ متوفی: ۱۳۹۲ھ ۳۳۵
- (۳۵) حضرت مولانا عبدالحق صاحب لکھنویؒ متوفی: ۱۳۸۰ھ ۳۳۶
- (۳۶) حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کیمبل پوریؒ متوفی: ۱۳۸۶ھ ۳۳۷
- (۳۷) حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ متوفی: ۱۳۹۰ھ ۳۳۷
- (۳۸) حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحبؒ متوفی: ۱۳۸۷ھ ۳۳۷
- (۳۹) حضرت مولانا عزیز گل پشاوریؒ متوفی: ۱۴۱۰ھ ۳۳۸
- (۴۰) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ متوفی: ۱۴۰۲ھ ۳۳۸
- (۴۱) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ متوفی: ۱۳۹۶ھ ۳۳۹
- (۴۲) حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ متوفی: ۱۴۰۲ھ ۳۴۰
- (۴۳) حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ متوفی: ۱۳۹۴ھ ۳۴۰
- (۴۴) حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ متوفی: ۱۳۸۵ھ ۳۴۱
- (۴۵) حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوریؒ متوفی: ۱۳۹۶ھ .. ۳۴۱
- (۴۶) حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ متوفی: ۱۴۱۷ھ ۳۴۲
- (۴۷) حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحبؒ متوفی: ۱۴۲۰ھ ۳۴۳
- (۴۸) حضرت مولانا معراج الحق صاحبؒ متوفی: ۱۴۱۲ھ ۳۴۳
- (۴۹) حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خاں صاحبؒ متوفی: ۱۴۱۲ھ ۳۴۴
- (۵۰) مجاہد ملت مولانا حافظ الرحمن سیوہارویؒ متوفی: ۱۳۸۲ھ ۳۴۴

- (۵۱) حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ متوفی: ۱۳۹۷ھ ۳۳۵
- (۵۲) سیدالملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندیؒ متوفی: ۱۳۹۵ھ ۳۳۵
- (۵۳) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحبؒ متوفی: ۱۴۱۷ھ ۳۳۶
- (۵۴) حضرت مولانا عبد الجبار صاحبؒ متوفی: ۱۴۰۹ھ ۳۳۶
- (۵۵) حضرت جی مولانا یوسف صاحبؒ متوفی: ۱۳۸۴ھ ۳۳۷
- (۵۶) حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحبؒ متوفی: ۱۴۱۶ھ ۳۳۸
- (۵۷) حضرت مولانا عبید اللہ بلیاویؒ متوفی: ۱۴۰۹ھ ۳۳۹
- (۵۸) حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوریؒ متوفی: ۱۴۱۸ھ ۳۳۹
- (۵۹) عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندویؒ متوفی: ۱۴۱۸ھ .. ۳۳۹
- (۶۰) حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردویؒ متوفی: ۱۴۲۶ھ ۳۵۰
- (۶۱) فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنیؒ متوفی: ۱۴۲۷ھ ۳۵۰
- (۶۲) حضرت مولانا رشید الدین جمیدیؒ متوفی: ۱۴۲۲ھ ۳۵۱
- (۶۳) حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحبؒ متوفی: ۱۴۳۱ھ ۳۵۲
- (۶۴) حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ، متوفی: ۱۴۳۲ھ ۳۵۳

۳۵۴	الفصل الثالث عشر: مدرسہ شاہی کا دارالافتاء	□
-----	--	---

- مدرسہ شاہی میں احقر کا تقرر ۳۵۵
- مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کا تقرر ۳۵۸
- ”فتاویٰ قاسمیہ“ ۳۶۰

۳۶۲	الفصل الرابع عشر: شکریہ کے مستحقین	□
-----	------------------------------------	---

- آخری گزارش: ۳۶۶

۱ / کتاب الایمان والعقائد

۳۶۷	۱ / باب ما يتعلق بالإيمان والإسلام	□
-----	------------------------------------	---

۳۶۷	دین کے پانچ ارکان	۱
۳۶۹	اسلام کا بانی کون ہے؟	۲
۳۷۰	کیا حالت نزع کا ایمان معتبر ہے؟	۳
۳۷۱	اعمال کس طرح مقبول ہوں؟	۴
۳۷۲	کلمہ شہادت کے بعد ارکانِ خمسہ بھی لازم	۵
۳۷۳	کیا موجودہ زمانہ میں کافروں کو دعوتِ اسلام دینا فرض ہے؟	۶
۳۷۶	دین کہاں سے چلا اور کہاں آ کر ختم ہوا؟	۷
۳۷۷	اسلام میں کیفیت معتبر ہے یا مکیت؟	۸

۳۷۹	۲ / باب ما يتعلق بالله تعالى وصفاته	□
-----	-------------------------------------	---

۳۷۹	لفظ ”خدا“ کی تحقیق	۹
۳۸۰	”اللہ فرماتے ہیں“ کہنے کا حکم	۱۰
۳۸۱	اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کی ضمیر کا استعمال	۱۱
۳۸۳	اللہ رب العزت کے لئے واحد اور جمع دونوں صیغوں کا استعمال کرنا جائز ہے	۱۲
۳۸۳	اسماء الہی لفظ ”عبد“ کے بغیر بطور علم استعمال کرنا	۱۳
۳۸۵	کیا دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے؟	۱۴
۳۸۶	مؤمنین کو آخرت میں دیدارِ الہی نصیب ہوگا	۱۵
۳۸۷	”اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے“ کا صحیح مطلب	۱۶

۳۸۸ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر ماننا	۱۷
۳۸۹ اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا	۱۸
۳۹۰ چپل کی شول پر لفظ ”اللہ“ بلا قصد یا بالقصد لکھنے کا حکم	۱۹
۳۹۱ ”اللہ جھوٹ بول سکتا ہے“ (العیاذ باللہ)	۲۰
۳۹۳ بیگن کے ٹکڑے میں لفظ ”اللہ“ اور ”محمد“ سے متعلق ایک سوال	۲۱
۳۹۵ ”اللہ اکبر“ والے گھنٹے کا استعمال	۲۲
۳۹۶ ”رام“ اور ”حیم“ ملا کر کہنے کا حکم	۲۳

۳۹۷	۳ / باب ما يتعلق بعلم الغیب	□
-----	-----------------------------	---

۳۹۷ کیا علم غیب کے متعلق آیات متعارض ہیں؟	۲۴
۴۰۰ علم غیب کی حقیقت	۲۵
۴۰۲ حضور ﷺ کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟	۲۶
۴۰۷ حضور ﷺ کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا	۲۷
۴۰۹ کیا اللہ کے رسول ﷺ کو علم غیب عطا کیا گیا تھا؟	۲۸
۴۱۰ کیا حضور ﷺ کو علم غیب تھا؟	۲۹
۴۱۲ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟	۳۰
۴۱۳ نبی اکرم ﷺ کے لئے علم غیب ماننے اور علماء دیوبند کو کافر کہنے والے کا حکم	۳۱
۴۱۷ علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم	۳۲
۴۱۹ حضور ﷺ کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا	۳۳
۴۲۱ اولیاء اللہ کو صاحب عطا، حاضر و ناظر اور مشکل کشاں گرداننا	۳۴
۴۲۳ حضور ﷺ کا میلاد کی مجلس میں تشریف لانا	۳۵

۳۶	علم غیب ذاتی و عطائی کی حقیقت	۴۲۴
۳۷	بصیغہ نداء صلوة و سلام پڑھنا	۴۲۸
۳۸	حضور ﷺ کو حاضر و ناظر مان کر درود شریف پڑھنا	۴۲۹
۳۹	حضور ﷺ کو ”امام الاکبر، اکرم الاکرمین“ کہنا اور علم غیب کا عقیدہ رکھنا	۴۳۱

□	۴ / باب الاستمداد بغیر اللہ	۴۳۳
---	-----------------------------	-----

۴۰	دعا میں ”یا رسول اللہ! کرم کر دیجئے خدا کے واسطے“ کہنا	۴۳۳
۴۱	”یا رسول اللہ! میری پھوٹی قسمت سنبھال دیجئے“ کہنا	۴۳۴
۴۲	سلام کے بعد ”حق لا الہ الا اللہ، یا غوث! الہدء“ پڑھنا	۴۳۴
۴۳	”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شی اللہ“ کا وظیفہ پڑھنا	۴۳۶
۴۴	قبر والوں سے دعا کی درخواست کرنا	۴۳۷
۴۵	”بابا میری مدد کرو“ کہنا	۴۳۸
۴۶	”یا مصطفیٰ کرم کیجئے خدا کے واسطے“ کہنے کا حکم	۴۳۹
۴۷	دفع مصائب کی غرض سے بکرا ذبح کرنا	۴۴۰
۴۸	وباء سے بچنے کے لئے کالی بکری ذبح کرنا	۴۴۲
۴۹	دفع مصائب کے لئے بکرا ذبح کرنا	۴۴۳
۵۰	شفایابی کے لئے بکرا ذبح کرنا	۴۴۴
۵۱	اجیر سے لائے ہوئے دھاگے کو باعث شفا سمجھنا	۴۴۵

□	۵ / باب ما يتعلق بالتوسل	۴۴۶
---	--------------------------	-----

۵۲	اللہ سے براہ راست مانگیں یا وسیلہ سے؟	۴۴۶
۵۳	زندگی میں آپ ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگنا	۴۴۷

۴۴۸ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگنا	۵۴
۴۵۰ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے توسل سے دعا مانگنا	۵۵
۴۵۱ حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگنے کا ثبوت	۵۶
۴۵۲ حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگنا	۵۷
۴۵۳ نبی اکرم ﷺ یا بزرگوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا	۵۸
۴۵۴ اولیاء اللہ کے وسیلہ سے دعا مانگنا	۵۹
۴۵۶ نبی، صحابی یا کسی بزرگ کے طفیل دعا و مناجات کرنا	۶۰
۴۵۷ اے اللہ! کرم فرما محمد کے واسطے یا رسول اللہ! کرم فرمائیے اللہ کے واسطے	۶۱
۴۶۰ صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا کیسا ہے؟	۶۲
۴۶۲ مزارات کا سفر اور اولیاء اللہ کے وسیلہ سے دعائیں مانگنا	۶۳

۴۶۴	۶ / باب ما يتعلق بالارتداد	□
-----	----------------------------	---

۴۶۴ کافر، مرتد، زندیق، منافق اور فاسق کسے کہتے ہیں؟	۶۴
۴۶۷ ایک احتمال بھی مؤمن ہونے کا ہو تو تکفیر کا حکم	۶۵
۴۶۸ دل میں ایمانیات سے متعلق کلام کرنے سے کیا آدمی کافر ہو جائے گا؟	۶۶
۴۷۰ لاعلمی میں کلمہ کفر کہنے پر تجدید ایمان و نکاح لازم نہیں	۶۷
۴۷۱ بلا ارادہ زبان سے الفاظ کفر صادر ہونے کا حکم	۶۸
۴۷۴ دل میں خیال آئے کہ نماز کوئی چیز نہیں تو کیا حکم ہے؟	۶۹
۴۷۵ ذہن میں برے خیالات اور شیطانی وسوسہ آنا	۷۰
۴۷۷ کسی کو خدا کہنے کا شرعی حکم	۷۱
۴۷۹ اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا الفاظ کہنا	۷۲
۴۷۹ اللہ کو پھر بھی چین نہیں آیا	۷۳

- ۴۸۰ ”خدا زنا کر سکتا ہے“ کہنا (العیاذ باللہ) ۷۴
- ۴۸۱ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ہودہ الفاظ کہنا ۷۵
- ۴۸۳ اللہ ورسول کی شان میں گستاخی کرنا ۷۶
- ۴۸۵ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ہودہ الفاظ کہنے کا حکم ۷۷
- ۴۸۷ اے اللہ! تو نے یہ کیسی اذیت بھیج دی؟ ۷۸
- ۴۸۸ خدا ورسول کی توہین کرنے والے کا حکم ۷۹
- ۴۸۸ ”اللہ بھی آ کر تمہا کو سے منع کرے تو بھی نہ چھوڑوں گا“ ۸۰
- ۴۸۹ ”کوئی خدا نہیں“ کہنے والے کا حکم ۸۱
- ۴۹۱ اذان کے ساتھ استہزاء و استخفاف کفر ہے ۸۲
- ۴۹۲ مالی پریشانی کی وجہ سے خدا اور رسول کو گالی دینا ۸۳
- ۴۹۳ ”تم کو بھی چھوڑ دیا اور خدا ورسول کو چھوڑ دیا“ کہنا ۸۴
- ۴۹۵ غصہ کی حالت میں ”میں کسی خدا ورسول کو نہیں مانتا“ کہنے کا حکم ۸۵
- ۴۹۶ ”میری شادی اللہ کو منظور ہی نہیں تھی“ کہنے کا حکم ۸۶
- ۴۹۸ ”حضرت فاطمہؑ اللہ سے بڑی اور ان کی والدہ ہیں“ کہنے کا حکم ۸۷
- ۴۹۹ حسن و حسین کی تختی کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ نہ کر سکا ۸۸
- ۵۰۰ جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں تو شرک در شرک ہے ۸۹
- ۵۰۵ ”اللہ کے نور سے حضور اکرم ﷺ اور آپ کے نور سے سارا جہاں پیدا ہوا“ کہنا ۹۰
- ۵۰۶ تقدیر کا مضحکہ کفر ہے ۹۱
- ۵۰۷ علماء حق کی توہین اور ان کو منافق کہنا ۹۲
- ۵۰۹ ”مفتی سے جو چاہے لکھوا لو“ کہنے والے کا حکم ۹۳
- ۵۱۰ ”ہم بے شرع ہی رہیں گے اور ہم فتویٰ نہیں مانتے“ کہنا؟ ۹۴
- ۵۱۱ اکابر علماء دیوبند و ندوۃ العلماء کو کافر کہنا ۹۵

- ۹۶ قرآن، رسول اللہ ﷺ، اذان اور علماء کی توہین کا حکم ۵۱۳
- ۹۷ بریلوی علماء کا اکابر دیوبند کو کافر کہنا ۵۱۵
- ۹۸ حضرت نانوتویؒ حضرت گنگوہیؒ وغیرہ کو-العیاذ باللہ-کافر کہنے والے کی نماز جنازہ ... ۵۱۶
- ۹۹ ہندی انگریزی نہ جاننے والے علماء کو پچھلے درجہ کا گنوار سمجھنا ۵۱۷
- ۱۰۰ کیا عورت کی ران پر تعویذ باندھنا موجب کفر ہے؟ ۵۲۰
- ۱۰۱ ”قرآن اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے“ کہنے والے کا حکم ۵۲۲
- ۱۰۲ قرآن شریف اٹھا کر پھینک دینا ۵۲۶
- ۱۰۳ قرآن شریف کو چھڑانے اور ردی کہنے والے کا حکم ۵۲۸
- ۱۰۴ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا یہ کوئی چیز نہیں ۵۳۰
- ۱۰۵ تعلیم قرآن اور صحابہ سے بدظنی رکھنے والے کا حکم ۵۳۲
- ۱۰۶ مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتوں کا مذاق اڑانا ۵۳۳
- ۱۰۷ بیوی کا مذاق میں کہنا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی ۵۳۵
- ۱۰۸ دو نمازوں کے منکر اور حدیث کو غیر معتبر سمجھنے والے شخص کا حکم ۵۳۶
- ۱۰۹ اہل قرآن اور صرف تین وقت کی نماز کے قائل کا حکم ۵۳۸
- ۱۱۰ بچہ سے پریشان ہو کر ”ہم نماز نہیں پڑھیں گے“ کہنے کا حکم ۵۳۹
- ۱۱۱ ضروریات دین کا انکار کفر ہے ۵۴۱
- ۱۱۲ شرعی تقسیم وراثت کو نہ ماننے والے کا حکم ۵۴۳
- ۱۱۳ مرنے کے بعد مٹی ہو جاوے گے حساب کچھ نہیں اور میں قرآن کو نہیں مانتا .. ۵۴۵
- ۱۱۴ ”مجھے ایسے ثواب کی ضرورت نہیں“ کہنے کا حکم ۵۴۶
- ۱۱۵ لکڑی کا گنبد خضر ابیت اللہ شریف کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کرنا ۵۴۷
- ۱۱۶ سود کی حرمت کے منکر کا حکم ۵۵۰

- ۱۱۷ نماز چنگانہ اور احادیث متواترہ کا منکر خارج از اسلام ۵۵۱
- ۱۱۸ کسی عالم کا ہندوستان کے مسلمانوں کو کافر کہنا ۵۵۳
- ۱۱۹ نمازیوں کی پیشانی کا داغ کیا شیطان کے پیشاب سے بنتا ہے؟ ۵۵۴
- ۱۲۰ سجدہ کے نشان کو کوڑھ کا نشان بتانا ۵۵۶
- ۱۲۱ کیا مرتد ہونے کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے؟ ۵۵۷
- ۱۲۲ مرتد کی بیوی کا حکم ۵۶۰
- ۱۲۳ صاحب قبر کی قدم بوسی کا حکم ۵۶۱
- ۱۲۴ ”میں آپ کے سایہ میں جی رہا ہوں“ کہنے کا حکم ۵۶۲
- ۱۲۵ سجدہ تعظیمی اور دست و قدم بوسی کا حکم ۵۶۳
- ۱۲۶ قدم بوسی و دست بوسی کا شرعی حکم ۵۶۶
- ۱۲۷ کیا ارتداد کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ۵۶۷
- ۱۲۸ کیا اس وقت منافقین ہیں؟ ۵۶۹
- ۱۲۹ ہندوستان میں ہندوؤں کو کافر کے بجائے غیر مسلم کہنا ۵۶۹
- ۱۳۰ ”میں ہندو ہو جاؤں گا“ کہنا کفر ہے ۵۷۰
- ۱۳۱ کفر یہ گانہ لکھنے اور سننے کا حکم ۵۷۲
- ۱۳۲ ہندو سننتال کے ساتھ بھاگنے والی لڑکی کا حکم ۵۷۳
- ۱۳۳ مسلم رسم رواج کے مطابق گڈے گڑیا کی شادی کرنا ۵۷۳
- ۱۳۴ قسم کے لئے ”میں تو مندر جاتا ہوں“ کہنے کا حکم ۵۷۵
- ۱۳۵ شادی کے موقع پر دیوتاؤں کی پوجا کرنا ۵۷۶
- ۱۳۶ مسلم نیتاؤں کا مالا پر شاد چڑھانا ۵۷۷
- ۱۳۷ ہندوؤں کی پوجا پاٹ میں شرکت کرنا موجب کفر ہے ۵۷۸
- ۱۳۸ بتوں کی پوجا، سادھوؤں کی خدمت اور مندر میں روپے پیسے دینا ۵۷۹

۱۳۹ پنڈتوں سے ٹونا ٹوٹا کرانے والی عورت کا حکم ۵۸۰

□	۷ / باب ما يتعلق بالقدر والقضاء	۵۸۲
---	---------------------------------	-----

۱۴۰ مسئلہ تقدیر کی حقیقت ۵۸۲

۱۴۱ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہونے کا مطلب ۵۸۳

۱۴۲ ہر کام خدا کی مشیت سے ہوتا ہے ۵۸۴

۱۴۳ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی تعریف ۵۸۶

۱۴۴ دعاؤں کے ذریعہ کون سی تقدیر بدل جاتی ہے؟ ۵۸۷

۱۴۵ عمل کا ذمہ دار بندہ ہے روزی تقدیر سے ملتی ہے ۵۸۹

۱۴۶ اشیاء کی طرف نفع و نقصان کی نسبت کرنا ۵۸۹

۱۴۷ کیا زوجین کا رشتہ عالم ارواح میں ہی طے ہو جاتا ہے؟ ۵۹۱

۱۴۸ تقدیر کے خلاف غیر دانستہ طور پر کوئی بات نکالنا ۵۹۲

۱۴۹ کیا سفلی عمل کے ذریعہ سے کاروبار بند ہو جاتا ہے؟ ۵۹۳

۱۵۰ پیر پڑنے اور پیر سڑ جانے کا عقیدہ ۵۹۴

۱۵۱ ماہ شعبان میں شادی کرنا کیسا ہے؟ ۵۹۵

۱۵۲ ماہ صفر کے آخری بدھ کو بلائیں اترنے کی حقیقت ۵۹۶

۱۵۳ اپنی نماز جنازہ خود پڑھانے کا عدم ثبوت ۵۹۸

۱۵۴ لفظ ”اتفاق“ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ۵۹۹

□	۸ / باب ما يتعلق بالأرواح والقبور	۶۰۱
---	-----------------------------------	-----

۱۵۵ رحم کی دعا کرنے سے موت کا حکم ۶۰۱

۱۵۶ نیک بندوں کو موت کی شدت کا احساس ۶۰۲

- ۱۵۷ روح اور جان میں فرق ۶۰۴
- ۱۵۸ روح کی حقیقت اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق ۶۰۶
- ۱۵۹ جنین میں روح چار ماہ میں ڈالی جاتی ہے ۶۰۷
- ۱۶۰ علمین اور سحین میں روحیں کس حالت میں رہتی ہیں؟ ۶۰۸
- ۱۶۱ کیا عالم دنیا کا انسان عالم برزخ کے عذاب کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ ۶۰۹
- ۱۶۲ مرنے کے بعد کیا مؤمنین کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ ۶۱۰
- ۱۶۳ قبر میں کیا انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے؟ ۶۱۱
- ۱۶۴ میت کو قبر میں فرشتے کس جسم سے کس طرح بیٹھاتے ہیں؟ ۶۱۲
- ۱۶۵ جب نبی ﷺ نے پوری امت کی مغفرت کروالی تو جہنم و عذاب قبر کے کیا معنی؟ .. ۶۱۳
- ۱۶۶ کیا رمضان المبارک یا جمعہ کے دن مرنے والے کافر سے عذاب اٹھایا جاتا ہے؟ ... ۶۱۷
- ۱۶۷ کیا ماہ رمضان میں مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوگا؟ ۶۱۹
- ۱۶۸ عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو؟ ۶۲۰
- ۱۶۹ قبر میں عذاب و راحت کا تعلق برزخی جسم سے ہوگا ۶۲۲
- ۱۷۰ بزرگ کا قبر میں چندہ دہندگان کے لئے دعا کرنا ۶۲۴
- ۱۷۱ ایک عہد نامہ کا حکم ۶۲۵
- ۱۷۲ اہل قبور کا زندوں کے لئے دعائیں مانگنا ۶۲۷



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۱ / بقیۃ کتاب الایمان والعقائد

۲۸	۹ / باب ما يتعلق بالحشر والنشر	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------------	--------------------------

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۲۸	۱۷۳ کیا محرم کے دن قیامت قائم ہوگی؟
۲۹	۱۷۴ قیامت کے دن سورج کتنا قریب ہوگا؟
۳۱	۱۷۵ میزان عدل پہلے قائم ہوگی یا پل صراط؟
۳۳	۱۷۶ پل صراط کا راستہ کتنے برس کا ہے؟
۳۴	۱۷۷ کیا جمعرات کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں؟
۳۶	۱۷۸ قیامت میں ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا؟
۳۷	۱۷۹ قیامت کے دن والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟
۳۸	۱۸۰ کیا بلا عقیقہ فوت ہونے والا بچہ سفارشی ہوگا؟
۳۹	۱۸۱ بلا عقیقہ فوت ہونے والی اولاد بھی سفارشی ہوگی
۴۱	۱۸۲ روزِ محشر میں قرض کی ادائے گی کی کیفیت
۴۲	۱۸۳ قاتل اور حق تلفی کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

۴۴	۱۰ / باب ما يتعلق بالجنة والجهنم	<input type="checkbox"/>
----	----------------------------------	--------------------------

۴۴	۱۸۴ جنت کہاں ہے؟
----	------------------

۱۸۵	جنت میں جانے والی سب سے پہلی خاتون	۴۴
۱۸۶	ایک جنتی کونتنی حوریں ملیں گی	۴۶
۱۸۷	کیا انسان جنت میں چالیس سال تک متواتر صحبت کرتا رہے گا؟	۴۷
۱۸۸	جنت میں حور و بیوی سے ہمبستری و منی مذی کا حکم	۴۸
۱۸۹	کیا جنت میں تو والد و تناسل ہوگا اور ایک جنتی مرد کو کتنے مردوں کی طاقت دی جائے گی؟	۵۰
۱۹۰	مطلقہ اور کنواری لڑکی جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟	۵۲
۱۹۱	کیا مؤمنین کو جہنم میں عذاب نہیں ہوگا؟	۵۳
۱۹۲	کیا جہنمیوں کا لباس کالا ہوگا؟	۵۴
۱۹۳	نابالغی میں وفات پانے والی اولاد والدین کی سفارشی ہوگی	۵۶
۱۹۴	اولادِ مشرکین کا حکم	۵۷
۱۹۵	غیر مسلموں کے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟	۵۸
۱۹۶	غیر مسلم کے نابالغ بچے جنتی ہیں یا جہنمی؟	۵۹
۱۹۷	مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے والا شخص جنتی ہے یا جہنمی؟	۶۱

□	۱۱ / باب ما يتعلق بالملائكة والجن	۶۳
---	-----------------------------------	----

۱۹۸	حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کے نام	۶۳
۱۹۹	کس آسمان پر کس فرشتے کی ڈیوٹی ہے؟	۶۵
۲۰۰	ملک الموت کی روح کون قبض کرے گا؟	۶۶
۲۰۱	کیا حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت جبرئیل دنیا میں تشریف لائے ہیں؟	۶۶
۲۰۲	کیا کسی بزرگ کو خواب میں حضرت جبرئیل کا پانی پلانا صحیح ہے؟	۶۷
۲۰۳	کیا حضرت جبرئیل کا کسی مریض کو پانی پلانا ممکن ہے؟	۶۹

۶۹ کیا کسی ولی یا بزرگ کے پاس حضرت جبرئیل آسکتے ہیں؟	۲۰۴
۷۱ جناتوں کا انسانوں پر سوار ہونا	۲۰۵
۷۴ بزرگان دین کا انتقال کے بعد لوگوں پر سوار ہونا	۲۰۶
۷۶ جنات و شیاطین میں فرق	۲۰۷
۷۸ جنات میدانِ حشر میں کس شکل میں ہوں گے؟	۲۰۸
۷۸ ہمزاد کیا ہے؟	۲۰۹
۷۹ جنات و شیاطین میں فرماں برداری اور نافرمانی کا مادہ	۲۱۰
۸۱ جنات کی صحبت سے حمل قرار پانے کے متعلق چند سوالات	۲۱۱
۸۴ چاند، سورج گھومتے ہیں یا زمین گھومتی ہے؟	۲۱۲
۸۵ فلک اطلس، فلک ثابتہ	۲۱۳
۸۶ خانہ کعبہ کا رابعہ بصری کی تعظیم میں اٹھ کر ان کے پاس آنا	۲۱۴

۸۷	باب ما يتعلق بالأنبياء	□
----	------------------------	---

۸۷ کیا حضور ﷺ حضرت آدم علیہم السلام کی خلقت سے قبل نبی تھے؟	۲۱۵
۸۸ حضور ﷺ کے متعلق اہل دیوبند کا عقیدہ	۲۱۶
۹۰ کیا حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے مجبور محض اور محتاج بندے ہیں؟	۲۱۷
۹۱ امہات المؤمنین تمام مؤمنین کی مائیں اور حضور ﷺ روحانی باپ ہیں	۲۱۸
۹۲ حضور ﷺ کو اپنا بڑا بھائی ماننا	۲۱۹
۹۳ امتی کا آپ ﷺ کو ’بھائی‘ کہنا	۲۲۰
۹۴ حضور ﷺ کا نکاح کس نے پڑھایا؟	۲۲۱
۹۶ آپ ﷺ کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں؟	۲۲۲
۹۷ وفات کے بعد حضور ﷺ کو کس طرح غسل دیا گیا؟	۲۲۳

- ۲۲۴ حضور پاک ﷺ کی نماز جنازہ میں کیا پڑھا گیا؟ ۹۸
- ۲۲۵ آپ ﷺ کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی گئی؟ ۱۰۰
- ۲۲۶ کیا کفار بھی حضور ﷺ کی امت ہیں؟ ۱۰۱
- ۲۲۷ شبِ معراج میں اقتداء کرنے والے انبیاء علیہم السلام کی تعداد ۱۰۲
- ۲۲۸ حضرت مریم و آسیہ علیہما السلام کی حضور ﷺ سے جنت میں شادی ۱۰۳
- ۲۲۹ جنت میں حضور اکرم ﷺ سے حضرت مریم وغیرہ کا نکاح ۱۰۴
- ۲۳۰ پیر کو ”سید الکونین“ کہنا ۱۰۶
- ۲۳۱ معجزہ شق القمر کیسے ہوا؟ ۱۰۷
- ۲۳۲ مکرم، معظم، قبلہ و کعبہ، حضور پر نور اور مختار کل وغیرہ تعظیماً لکھنا ۱۰۸
- ۲۳۳ کیا حضور ﷺ کی عمر کے ۲۷ سال معراج میں گزرے ہیں؟ ۱۰۸
- ۲۳۴ کیا انبیاء علیہم السلام وارث ہوتے ہیں؟ ۱۰۹
- ۲۳۵ کیا حضور ﷺ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی؟ ۱۱۱
- ۲۳۶ کیا حضور ﷺ پر مہر دینا واجب تھا؟ ۱۱۳
- ۲۳۷ کیا حضور ﷺ پر عورتوں سے پردہ فرض تھا؟ ۱۱۹
- ۲۳۸ حضور ﷺ کے معجزات سے متعلق چند سوال و جواب ۱۲۰
- ۲۳۹ عبد اللہ طارق کے چند اعتراضات کے جوابات ۱۲۲
- ۲۴۰ حضور ﷺ کے پیشاب، خون اور دیگر فضلات کا حکم ۱۲۷
- ۲۴۱ کیا حضور ﷺ کا خون اور فضلات پاک تھے؟ ۱۲۹
- ۲۴۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ۱۳۰
- ۲۴۳ سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ۱۳۱

۱۳۱	کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟	۲۴۴
۱۳۲	کیا حضور ﷺ کا سایہ تھا؟	۲۴۵
۱۳۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟	۲۴۶
۱۳۵	کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں	۲۴۷
۱۳۷	کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں؟	۲۴۸
۱۳۸	کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟	۲۴۹
۱۴۲	حضور ﷺ کا مرض الموت میں دور و زقبل اپنی وفات کی خبر دینا	۲۵۰
۱۴۳	نبی مر گئے، امت یتیم ہو گئی سے حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا	۲۵۱
۱۴۵	کیا حضور پاک ﷺ مٹی میں مل گئے ہیں۔ العیاذ باللہ۔	۲۵۲
۱۴۶	حضور ﷺ کا پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں کسی سے ملاقات کے لئے آنا	۲۵۳
۱۴۷	کیا حضور اکرم ﷺ کے والدین مؤمن تھے؟	۲۵۴
۱۴۹	حضور ﷺ کی خدمت میں سلام بھیجنا اور مدینہ بلوانے کی درخواست کروانا	۲۵۵
۱۵۰	حضور ﷺ کی خدمت میں سلام بھیجنا اور حاجت براری کے لئے دعا کرانا ..	۲۵۶
۱۵۱	اجتماعی طور پر ”یا نبی سلام علیک“ پڑھنے کی شرعی حیثیت	۲۵۷
۱۵۳	روضہ اقدس پر بلکی آواز سے درود پڑھنا	۲۵۸
۱۵۴	بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے علاوہ دوسری دعائیں کرنا	۲۵۹
۱۵۵	روضہ اقدس پر بذریعہ فون سلام پیش کرنا	۲۶۰
۱۵۷	دوران صلاۃ حضور ﷺ کا خیال آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی	۲۶۱
۱۵۸	نماز میں حضور ﷺ کا خیال آنا مفسد صلاۃ نہیں؟	۲۶۲
۱۵۹	کیا حضرت تھانویؒ نے نماز میں حضور ﷺ کے خیال آنے کو مفسد صلوٰۃ لکھا ہے؟	۲۶۳

- ۲۶۴ نماز میں حضور ﷺ کے خیال آنے کی شرعی حیثیت ۱۶۰
- ۲۶۵ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا ۱۶۲
- ۲۶۶ نبی ﷺ کی ذات مبارک سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۱۶۳
- ۲۶۷ حضرت آدم وحواء علیہما السلام سے تو الودت اسل کے جاری ہونے والے سلسلہ کی حقیقت ۱۶۵
- ۲۶۸ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی دلیل ۱۶۷
- ۲۶۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختنہ کی حقیقت ۱۶۹
- ۲۷۰ کیا شاہد یوسف نے شیر خوارگی کی حالت میں گواہی دی؟ ۱۷۰
- ۲۷۱ جناتوں کے نبی جن ہوتے تھے یا انسان؟ ۱۷۲
- ۲۷۲ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی تھی؟ ۱۷۴
- ۲۷۳ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ ۱۷۵
- ۲۷۴ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے نہ پڑنے سے متعلق تحقیقی فتویٰ ۱۷۷
- ۲۷۵ کیا حضرت زلیخا زانیہ تھیں؟- العیاذ باللہ- ۱۷۸
- ۲۷۶ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو کیا کہتے ہیں؟ ۱۸۰
- ۲۷۷ فرعون کے ماتحت لوگوں کو امت کہنا ۱۸۱
- ۲۷۸ شداد کے زمانہ کے نبی کا نام اور شداد کی بنائی ہوئی جنت کا مقام ۱۸۲
- ۲۷۹ کیا بھلائی کی طرف بلانے والے کو نبی یا ولی کہا جاسکتا ہے؟ ۱۸۳
- ۲۸۰ کیا عورت نبی ورسول ہو سکتی ہے؟ ۱۸۴
- ۲۸۱ مہاتما گاندھی کو نبی کہنا ۱۸۶
- ۲۸۲ گوتم بدھ کو نبی کہنا ۱۷۰

۲۸۳	ہندوؤں کے ”وید“ آسمانی کتاب ہیں یا نہیں؟	۱۸۸
۲۸۴	رام جی اور کرشن رسول ہیں یا نہیں؟	۱۸۹
۲۸۵	کیا ہندوؤں کو اہل کتاب کہا جاسکتا ہے؟	۱۹۰
۲۸۶	کیا رام چندر جی، کچھن وغیرہ نبی ہیں؟	۱۹۱
۲۸۷	ہولی کے موقع پر تعطیل اور رام کرشنا کا حکم	۱۹۳

۱۹۵	۱۳ / باب ما يتعلق بالصحابة	□
-----	----------------------------	---

۲۸۸	صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں؟	۱۹۵
۲۸۹	حضور ﷺ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟	۱۹۶
۲۹۰	کیا صحابہ حضور ﷺ کے بھائی نہیں ہیں؟	۲۰۰
۲۹۱	کیا حضور ﷺ نے اصحاب صفہ کو تعلیم دی ہے اور حضرت انس خادم رسول ہیں	۲۰۲
۲۹۲	صحابہ کرام کی تخصیص اور ان کی شان مبارک میں گستاخیاں	۲۰۵
۲۹۳	حضرت نعمان بن بشیرؓ کی کوئی نافرمان اولاد تھی؟ نیز نافرمان اولاد کو محروم کرنا	۲۰۶
۲۹۴	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیونی کے ساتھ کشتی لڑنا	۲۰۸
۲۹۵	کیا حضرت ابو ثعمہ رضی اللہ عنہ کو حد زنا لگائی گئی؟	۲۰۹
۲۹۶	حضرت ابو ثعمہؓ کا شراب پی کر بدکاری کرنے کے واقعہ کی تحقیق	۲۱۱
۲۹۷	حضرت ابو ثعمہؓ کے زنا کے واقعہ کی تحقیق	۲۱۳
۲۹۸	کیا حضرت ابو ثعمہؓ نے شراب پی تھی؟	۲۱۶
۲۹۹	کیا حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو وصیت لکھوانے سے روکا تھا؟	۲۱۸
۳۰۰	لکھنؤ کا مدح صحابہ کا جلوس	۲۱۹

- ۳۰۱ امام اہل سنت ہال میں مدرج صحابہ کی محفل کا انعقاد ۲۲۰
- ۳۰۲ جلوسِ محمدی و مدرج صحابہ کا حکم ۲۲۱
- جواب منجانب دارالافتاء وقف دارالعلوم دیوبند ۲۲۲
- دارالافتاء مدرسہ شاہی کا جواب ۲۲۲
- ۳۰۳ جلوسِ مدرج صحابہ کا حکم ۲۲۶
- ۳۰۴ صحابہؓ پر زنا بالجبر اور ڈیکیتی کا الزام لگانا - العیاذ باللہ - ۲۳۰
- ۳۰۵ کیا شیخینؓ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے صحابہ غلطی پر تھے؟ ۲۳۳
- ۳۰۶ کیا حضرت عمارؓ کو قتل کرنے والا گروہ معیار حق نہیں؟ ۲۳۶
- ۳۰۷ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اشکال کا جواب ۲۳۹
- ۳۰۸ حضرت معاویہؓ کی امارت پر اشکال کا جواب ۲۴۱
- ۳۰۹ ولی کو 'رضی اللہ عنہ' کہنا ۲۴۳
- ۳۱۰ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر نقد تھا؟ ۲۴۴
- ۳۱۱ کیا حلیمہ سعدیہ مشرف بہ اسلام ہوئی تھیں؟ ۲۴۶
- ۳۱۲ ابوطالب کے ایمان کے بارے میں علماء امت کا مسلک ۲۴۷
- ۳۱۳ کیا حضرت فاطمہؓ، حضرت ابو بکرؓ سے ناراض تھیں؟ ۲۴۸

۲۵۳	۱۴ / باب ما يتعلق بالتقليد	□
-----	----------------------------	---

- ۳۱۴ اہل سنت والجماعت ۲۵۳
- ۳۱۵ فرقہ ناجیہ ۲۵۵
- ۳۱۶ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابیں ۲۵۶

- ۳۱۷ ائمہ اربعہ حق پر ہیں؟ ۲۵۷
- ۳۱۸ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی اقتداء کی شرعی حیثیت ۲۵۹
- ۳۱۹ کیا چاروں اماموں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ۲۶۲
- ۳۲۰ ائمہ اربعہ کی تقلید ۲۶۴
- ۳۲۱ ایک امام کی تقلید لازم کیوں؟ ۲۶۵
- ۳۲۲ تقلید شخصی واجب ہے؟ ۲۶۶
- ۳۲۳ کیا حنفی حدیث پر فقہ کو ترجیح دیتے ہیں؟ ۲۶۸
- ۳۲۴ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا کس مسلک میں جائز ہے؟ ۲۶۹
- ۳۲۵ اختلافی مسائل میں جس پر چاہے عمل کرنا کیسا ہے؟ ۲۷۰
- ۳۲۶ سہولت کے پیش نظر چاروں مسلک پر عمل کرنا ۲۷۱
- ۳۲۷ عارضی طور پر مذہب بدلتا ۲۷۲
- ۳۲۸ محض پیسوں کی خاطر تبدیلی مسلک کا حکم ۲۷۳
- ۳۲۹ غیر مقلدین کا حنفیوں کو صحاح ستہ کا دشمن بتانا ۲۷۴
- ۳۳۰ غیر مقلدین کے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر ایک اعتراض کا جواب .. ۲۷۶
- ۳۳۱ غیر مقلدین کا فرقہ اہل سنت والجماعت میں ہے یا نہیں؟ ۲۷۹
- ۳۳۲ غیر مقلدین کی طرف سے حنفیوں کے لئے چیلنج ۲۸۰

۲۸۲	۱۵ / باب الفرق الضالة	□
-----	-----------------------	---

- ۳۳۳ بریلوی، غیر مقلدین، جماعت اسلامی ۲۸۲
- ۳۳۴ ”ایمان کمزور ہو گئے ذمہ دار کون؟“ نامی کتاب کی چند گمراہ کن باتوں کا جواب .. ۲۸۳
- ۳۳۵ ”مجلس اشاعت التوحید والسنة“ ۲۸۶

۲۸۹ جواب منجانب دارالافتاء دارالعلوم دیوبند	
۲۹۰ جواب منجانب: دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد	
۲۹۰ پرویزی عقائد رکھنے والے کا حکم	۳۳۶
۲۹۲ فرقہ واری	۳۳۷
۲۹۳ فرقہ مہدویہ کا حکم	۳۳۸

۲۹۴	۱۶ / باب في الشيعة	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------	--------------------------

۲۹۴ شیعہ کافر ہیں یا نہیں؟	۳۳۹
۲۹۵ فرقہ اثنا عشریہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۳۴۰
۲۹۸ شیعہ کافر ہیں؟	۳۴۱
۲۹۹ کیا شیعہ اثنا عشریہ کافر ہیں؟ اور ان کے ذبیحہ کا حکم	۳۴۲
۳۰۰ شیعہ کے بارہ اماموں کے اسماء	۳۴۳
۳۰۱ بارہ خلفاء کے مصداق	۳۴۴
۳۰۳ شیعہ کا ذبیحہ، نماز جنازہ اور ان کے یہاں شادی کرنے کا حکم	۳۴۵
۳۰۴ شیعہ روافض کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے اموال مساجد وغیرہ میں صرف کرنا	۳۴۶
۳۰۶ شیعوں کے مکان پر قرآن خوانی میں شرکت اور شیرینی کھانا	۳۴۷
۳۰۷ تعزیہ بنانے والے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟	۳۴۸

۳۰۹	۱۷ / باب في القادياني	<input type="checkbox"/>
-----	-----------------------	--------------------------

۳۰۹ مسلمان کے لئے قادیانیوں سے میل جول رکھنا اور ان کی تقریبات میں شرکت کرنا کیا ہے؟	۳۴۹
۳۱۰ مؤمنہ عورت کے لئے قادیانی شوہر کے پاس رہنا جائز نہیں ہے	۳۵۰
۳۱۰ مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت، معراج جسمانی کا منکر ہے؟	۳۵۱

۳۱۳	۱۸ / باب في البريلوية	<input type="checkbox"/>
-----	-----------------------	--------------------------

- ۳۵۲ بریلوی فرقہ کی ابتداء کب ہوئی؟ ۳۱۳
- ۳۵۳ ایک بریلوی طالب علم کے نازیبا جملے کا جواب ۳۱۴
- ۳۵۴ دیوبندیوں اور بریلویوں کے عقائد میں کیا کیا فرق ہیں؟ ۳۱۶

۳۲۰	۱۹ / باب في المودودية وغيرها	<input type="checkbox"/>
-----	------------------------------	--------------------------

- ۳۵۵ کیا جماعت اسلامی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ ۳۲۰
- ۳۵۶ مودودی مسلک کی حقیقت ۳۲۰
- ۳۵۷ کیا جماعت اسلامی راہ راست پر ہیں؟ ۳۲۲
- ۳۵۸ مودودی صاحب اور ان کی جماعت کا حکم ۳۲۴
- ۳۵۹ جماعت اسلامی ۳۲۵
- ۳۶۰ ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابیں پڑھنا ۳۲۸
- ۳۶۱ جماعت اسلامی اور اس سے تعلق رکھنے والے کا حکم ۳۲۸
- ۳۶۲ جماعت اسلامی اور ڈاکٹر اسرار پاکستانی کی تحریک کا شرعی حکم ۳۳۰

۳۳۳	۲۰ / باب مايتعلق بأهل الكتاب	<input type="checkbox"/>
-----	------------------------------	--------------------------

- ۳۶۳ کیا شریعت عیسوی میں خنزیر حلال تھا؟ ۳۳۳
- ۳۶۴ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خنزیر حلال تھا؟ ۳۳۴
- ۳۶۵ اہل کتاب سے نکاح اور ان کے ذبیحہ کا حکم ۳۳۵
- ۳۶۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی تعداد اور ان کی شریعت میں خنزیر کا حکم ۳۳۷
- ۳۶۷ کیا دور حاضر کے انگریز اہل کتاب ہیں؟ ۳۳۹

۲ / کتاب التاریخ والسیر

۳۴۱	۱ / باب ما يتعلق بالأنبياء و أتباعهم	□
۳۴۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟	۳۶۸
۳۴۲	سید الکوین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ ولادت	۳۶۹
۳۴۳	کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاسم رزق اللہ بھی تھا؟	۳۷۰
۳۴۴	کتنی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے؟	۳۷۱
۳۴۶	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و وفات کس مہینے میں ہوئی؟	۳۷۲
۳۴۷	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسل ہونے کی دلیل	۳۷۳
۳۴۸	کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفا میں تکلیف ہوئی تھی؟	۳۷۴
۳۴۹	آپ ﷺ کے اجداد کے عرب مستعربہ میں سے ہونے کی تحقیق	۳۷۵
۳۵۰	بنائے کعبہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوش ہونا	۳۷۶
۳۵۱	شعب معراج سے قبل حضور کو سی نماز پڑھتے تھے؟	۳۷۷
۳۵۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ کے معمولات	۳۷۸
۳۵۳	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کئے؟	۳۷۹
۳۵۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی بیٹھتی تھی یا نہیں؟	۳۸۰
۳۵۵	کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی یا چھینک آتی تھی؟	۳۸۱
۳۵۷	وہ کولوگ ہیں جنہیں کبھی احتلام نہیں ہوتا	۳۸۲
۳۵۸	سرور کائنات کے داندان مبارک کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟	۳۸۳

- ۳۸۴ نبی اکرم کوز ہر دینے والی اور اصحاب کہف سے متعلق سوال ۳۵۹
- ۳۸۵ حضور کے راستے میں ام جمیل عوراء بنت حرب کا کاناٹا الٹا ۳۶۰
- ۳۸۶ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا جبکہ آپ مکہ میں ہی تھیں؟ ۳۶۲
- ۳۸۷ عہد نبوی کے جھنڈے کی کیفیت ۳۶۳
- ۳۸۸ گنبد حضرت کی جالی پر لگے نشان کی حقیقت ۳۶۵
- ۳۸۹ کتنے غزوات میں اقام کی نوبت آئی؟ ۳۶۶
- ۳۹۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے تھے؟ ۳۶۶
- ۳۹۱ حضرت آدم علیہ السلام نے کس درخت کا دانہ کھایا تھا؟ ۳۶۸
- ۳۹۲ حضرت آدم کی توبہ کہاں کتنی مدت کے بعد قبول ہوئی؟ ۳۶۹
- ۳۹۳ حضرت اسماعیل کی قربانی کے موقع پر مذبح و ذنبہ کے گوشت کا کیا گیا تھا؟ ۳۷۰
- ۳۹۴ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذنبہ کی قربانی کا گوشت کیا ہوا؟ ۳۷۱
- ۳۹۵ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض کیا تھا؟ ۳۷۲
- ۳۹۶ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا نام ۳۷۳
- ۳۹۷ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے نام سے کیسے مشہور ہو گئی؟ ۳۷۴
- ۳۹۸ حضرت آمنہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ کو حیض و نفاس آتا تھا یا نہیں؟ ۳۷۵
- ۳۹۹ حضرت ہاجرہ و سارہ کے والدین کا نام ۳۷۶
- ۴۰۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صحابہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی؟ ۳۷۷

۳۷۹ ۲/باب ما يتعلق بالصحابہ و غیرہم □

۳۷۹ حضرات شیخین کی قبریں روضہ اقدس میں کس رخ پر ہیں؟ ۴۰۱

- ۴۰۲ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے صحابی رسول..... ۳۸۰
- ۴۰۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارنے والا شخص کون تھا؟..... ۳۸۱
- ۴۰۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟..... ۳۸۲
- ۴۰۵ حضرت عاتکہؓ نے حضرت عمرؓ سے کب نکاح کیا؟..... ۳۸۳
- ۴۰۶ کیا حضرت عمر نے بیوی کو مسجد سے روکنے کے لئے رات میں دوپٹہ کھینچا تھا؟..... ۳۸۴
- ۴۰۷ حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کا سبب کیا بنا؟..... ۳۸۴
- ۴۰۸ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟..... ۳۸۶
- ۴۰۹ حضرت عثمانؓ کے دور میں جمعہ کی اذانیں کہاں دی جاتی تھیں؟..... ۳۸۷
- ۴۱۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟..... ۳۸۹
- ۴۱۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟..... ۳۹۱
- ۴۱۲ حضرت امیر معاویہؓ جنگ بدر میں کس جماعت کی طرف سے تھے؟..... ۳۹۲
- ۴۱۳ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مدفن..... ۳۹۳
- ۴۱۴ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پینے والے صحابی رسول..... ۳۹۴
- ۴۱۵ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تین سواولادیں تھیں؟..... ۳۹۵
- ۴۱۶ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنے عرصہ تک زندہ رہے؟..... ۳۹۶
- ۴۱۷ ہجرت کے بعد سب سے پہلے کس صحابی کی وفات ہوئی؟..... ۳۹۷
- ۴۱۸ کیا ابوالعباس عبداللہ سفاح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟..... ۳۹۸
- ۴۱۹ ابو جہل عبدالمطلب کا لڑکا ہے یا نہیں؟..... ۳۹۹
- ۴۲۰ محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟..... ۴۰۰

- ۴۲۱ یزید کی امارت کو خلافت حقہ قرار دینا یا کافر کہنا ۴۰۰
- ۴۲۲ خانہ کعبہ کی غلاف پوشی کی ابتداء ۴۰۲
- ۴۲۳ کشتی نوح سے متعلق ایک سوال ۴۰۳
- ۴۲۴ کیا سورہ نوح میں ذکر کردہ پانچوں بت اللہ کے نیک صالح بندے تھے؟ ۴۰۴
- ۴۲۵ فرعون کہاں غرق ہوا؟ ۴۰۶
- ۴۲۶ فرعون لڑکیوں کو کیوں نہیں قتل کرتا تھا؟ ۴۰۷
- ۴۲۷ کیا فرعون نے حضرت آسیہ کی اولاد کو مار ڈالا تھا؟ ۴۰۸
- ۴۲۸ سامری نے جو مخلوق دیکھی تھی وہ شیطان تھی یا آسمانی؟ ۴۰۹
- ۴۲۹ کفار مکہ کا بنا تحقیق کے پڑا ہوا خون چاٹنا ۴۱۰
- ۴۳۰ کیا کسی غیر صحابی کی حذو انعل بالنعل اقتداء کرنا شرعاً واجب ہے؟ ۴۱۱
- ۴۳۱ ائمہ اربعہ کے والدین کے نام اور خاندان ۴۱۲
- ۴۳۲ ائمہ اربعہ کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عرصہ بعد ہے؟ ۴۱۳
- ۴۳۳ کیا حضرت امام اعظم کی لڑکی حنیفہ نام کی تھی؟ ۴۱۴
- ۴۳۴ علامہ ابن تیمیہ کے چند تفردات اور ان کا مسلک ۴۱۵
- ۴۳۵ سائبہ کی نحوست کس شخص سے شروع ہوئی؟ ۴۱۷
- ۴۳۶ حضور کی موافقت میں اویس قرنی نے کس ماہ میں دندان شہید کئے تھے؟ ۴۱۸
- ۴۳۷ علامہ سندھی کی سوانح ۴۲۰
- ۴۳۸ گوشت خوری کی ابتداء کہاں سے ہوئی ۴۲۱

۳/ کتاب البدعات والرسوم

۲۲۳	۱/ باب: بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام	□
۲۲۳ بدعت کی تعریف	۲۳۹
۲۲۴ بدعت کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۲۴۰
۲۲۵ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کا کرنا بدعت ہے؟	۲۴۱
۲۲۶ بدعت حسنہ، بدعت سیدہ	۲۴۲
۲۲۸ بدعات و رسومات سے کس طرح روکا جائے؟	۲۴۳

۲۳۰	۲/ باب: ماہ محرم کی رسومات	□
۲۳۰ دسویں محرم کے کچھڑے کی شرعی حیثیت	۲۴۴
۲۳۱ دسویں محرم کو شربت کی سبیل لگانا	۲۴۵
۲۳۲ یوم عاشوراء میں دسترخوان وسیع کرنا	۲۴۶
۲۳۳ دس محرم کو دسترخوان وسیع کرنے اور فاتحہ خوانی کا حکم	۲۴۷
۲۳۴ عاشوراء کے دن تعزیہ نکالنا	۲۴۸
۲۳۵ دس محرم کو حلیم بنانے اور تقسیم کرنے کا حکم	۲۴۹
۲۳۶ کیا تعزیہ داری جائز ہے؟	۲۵۰
۲۳۷ یوم عاشوراء میں ڈھول تاشہ کے ساتھ جلوس نکالنا	۲۵۱
۲۳۸ محرم میں ڈھول تاشہ بجانا	۲۵۲
۲۳۹ یوم عاشوراء کے روزے کا حکم	۲۵۳
۲۴۰ محرم میں کچھڑا بنا کر تقسیم کرنا	۲۵۴
۲۴۱ دس محرم کو شربت تقسیم کرنا	۲۵۵

۴۴۳ دس محرم میں حلیم بنا کر سر ماییدار کے گھر بھیجنا	۴۵۶
۴۴۳ محرم الحرام میں تعزیہ بنانا اور کھانا بنا کر تقسیم کرنا	۴۵۷
۴۴۵ ماہ محرم کی رسومات -	۴۵۸
۴۴۷ دس محرم کو گٹکا (لاٹھی ڈنڈے کا کھیل) کھیلنا	۴۵۹
۴۴۹ محرم کے موقع پر لنگر کرنا -	۴۶۰
۴۵۰ دس محرم کو کچھڑا پکا کر لوگوں کو کھلانا -	۴۶۱
۴۵۱ ماہ محرم کی چند بدعات و خرافات کا شرعی حکم -	۴۶۲
۴۵۳ محرم کے دن سونا خریدنے کا فائدہ	۴۶۳
۴۵۴ باب / ۳: ماہ ربیع الاول کی رسومات	□
۴۵۴ ۱۲ بارہ ربیع الاول کو جلوس نکالنا	۴۶۴
۴۵۵ ۱۲ بارہ ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا	۴۶۵
۴۵۶ ربیع الاول کے مہینہ میں جلسہ جلوس کی شرعی حیثیت	۴۶۶
۴۵۷ ذکر ولادت شریفہ کا حکم	۴۶۷
۴۵۸ عید میلاد النبی	۴۶۸
۴۵۹ ۱۲ بارہ ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا	۴۶۹
۴۶۰ عید میلاد النبی اور جلوس کی شرعی حیثیت	۴۷۰
۴۶۲ قیام میلاد کا شرعی حکم	۴۷۱
۴۶۳ بارہ وفات میں اکھٹا ہو کر میلاد کرنا	۴۷۲
۴۶۴ عید میلاد النبی میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھنا	۴۷۳
۴۶۶ میلاد میں شیرینی تقسیم کرنا	۴۷۴
۴۶۷ ذکر ولادت شریفہ کے وقت قیام و سلام	۴۷۵

۴۶۸	میلا د میں قیام کی شرعی حیثیت	۴۷۶
۴۶۹	جشنِ عیدِ میلا دالنبی منانا	۴۷۷
۴۷۰	میلا د شریف کرنا کیسا ہے؟	۴۷۸
۴۷۱	ذکرِ ولادت شریفہ میں صلوٰۃ و سلام کا شرعی حکم	۴۷۹
۴۷۲	مُحفلِ میلا د میں قیام و سلام	۴۸۰
۴۷۳	بارہ ربیع الاول کو مسجد میں چراغاں کرنا اور اگر بتی جلانا	۴۸۱
۴۷۴	عیدِ میلا دالنبی کے دن جلسہ جلوس کا اہتمام	۴۸۲
۴۷۵	مُحفلِ میلا د میں حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدہ سے قیام کرنا	۴۸۳
۴۷۶	مروجہ میلا د کا شرعی حکم	۴۸۴
۴۷۸	بلند آواز سے میلا د پڑھنا اور قیام کرنا	۴۸۵
۴۷۹	عیدِ میلا دالنبی میں چندہ کر کے حلوہ بنانا	۴۸۶
۴۸۰	مُحفلِ میلا دالنبی میں کتاب تاریخ حبیب الہ پڑھنا	۴۸۷
۴۸۱	میلا د یا جمعہ کے دن با آواز بلند صلوٰۃ و سلام پڑھنا	۴۸۸
۴۸۲	میلا د میں سلام پڑھنا	۴۸۹
۴۸۳	بریلوی حضرات کے یہاں پیش آنے والے مختلف بدعات کا تحقیقی جائزہ	۴۹۰
۴۸۷	علماء دیوبند کا میلا د کی مجلسوں میں شرکت کرنا	۴۹۱
۴۸۸	فاسق شخص کا میلا د پڑھنا	۴۹۲
۴۸۹	مُحفلِ میلا د میں اور بعد نماز جمعہ قیام و سلام	۴۹۳
۴۹۰	کھڑے ہو کر مروجہ میلا د پڑھنا	۴۹۴
۴۹۲	۴/باب: ماہِ ربیع الاول کی بدعات	□
۴۹۲	کیا کوٹڈے کرنا جائز ہے؟	۴۹۵

۲۹۳ رجب کے کوٹڈے بھرنے کی اصل	۲۹۶
۲۹۴ ماہ رجب کے کوٹڈوں کی شرعی حیثیت	۲۹۷
۲۹۵ رجب کا کوٹڈا اور اس کی حقیقت	۲۹۸
۲۹۷ ۲۲ رجب کے کوٹڈوں کی حقیقت	۲۹۹
۲۹۸ کوٹڈے اور حلوہ کی حقیقت	۵۰۰
۲۹۹ امام جعفر صادق کے نام سے کوٹڈے کرنا	۵۰۱
۵۰۰ امام جعفر صادق کے نام سے کوٹڈے کرنا کیسا ہے؟	۵۰۲
۵۰۱ گیارہویں اور کوٹڈوں کی نیاز کرنا	۵۰۳
۵۰۲ کھانے پر فاتحہ خوانی اور کوٹڈوں کی نیاز کا حکم	۵۰۴
۵۰۳ رجب کے کوٹڈوں کی ممانعت کیوں ہے؟	۵۰۵

۵/باب: ماہ شعبان کی بدعات

۵۰۵ شب برأت میں جلسہ جلوس کرنا	۵۰۶
۵۰۶ شب برأت کی بعض بدعات	۵۰۷
۵۰۷ شب برأت میں حلوہ بنانا	۵۰۸
۵۰۸ شب برأت کے حلوہ کا شرعی حکم	۵۰۹
۵۰۹ شب برأت میں جلسہ کرنا اور اس میں شرکت کرنا	۵۱۰
۵۱۰ شب برأت میں کی جانے والی مختلف عبادات کا حکم	۵۱۱
۵۱۳ شب برأت کے موقع پر مسجد میں شبینہ کرنا	۵۱۲
۵۱۴ شب قدر و شب برأت میں چراغاں کرنا	۵۱۳
۵۱۵ شب برأت و شب قدر میں بیٹھا کھانا پکانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا	۵۱۴
۵۱۶ لیلۃ القدر اور شب برأت میں مسجد سجانا	۵۱۵

۵۱۷	شب برأت و شب قدر میں قبر کی زیارت کرنا.....	۵۱۶
۵۱۸	شب برأت و شب قدر میں شیرینی تقسیم کرنا.....	۵۱۷
۵۱۹	شب معراج و شب برأت کی فضیلت.....	۵۱۸
۵۲۰	لیلة القدر سے متعلق چند سوالات و جوابات.....	۵۱۹
۵۲۶	۶/باب: نماز کے بعد کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام کا رواج	□
۵۲۶	نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنا.....	۵۲۰
۵۲۶	جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام.....	۵۲۱
۵۲۸	نمازوں کے بعد دعائیں ’’الفا تحہ‘‘ کہنا.....	۵۲۲
۵۲۸	نماز فجر و جمعہ کے بعد قیام میلاد کرنے کی ضد کرنا.....	۵۲۳
۵۳۰	کیا نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر مروجہ صلوٰۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے؟	۵۲۴
۵۳۲	حاجی امداد اللہ و دیگر بزرگوں کے اقوال سے قیام پڑا استدلال.....	۵۲۵
۵۳۴	کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنا.....	۵۲۶
۵۳۵	مسجد میں بریلوی کے طریقہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام اور دیگر منکرات	۵۲۷
۵۳۶	مروجہ صلوٰۃ و سلام.....	۵۲۸
۵۳۷	صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا صحیح طریقہ.....	۵۲۹
۵۳۸	مجلس میں کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھنا.....	۵۳۰
۵۳۹	سلام مسجد میں پڑھیں یا درگاہ شریف پر؟.....	۵۳۱
۵۴۰	مروجہ صلا و سلام اور آپ ﷺ کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ.....	۵۳۲
۵۴۵	اذان یا نماز کے بعد یا رسول اللہ پڑھنا.....	۵۳۳
۵۴۶	فجر کی نماز اور اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنا.....	۵۳۴

۵۳۵	اجتماعی طور پر درود پڑھنے کا حکم	۵۲۸
۵۳۶	نئے مکان میں قیام سے پہلے میلاد کرانا	۵۲۹
۵۳۷	ماہ شعبان میں مروج میلاد کا حکم	۵۵۰
□	۷/باب: آذان کے بعد نماز سے قبل صلوٰۃ و سلام کا رواج	۵۵۲
۵۳۸	اذنِ پنجگانہ کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنا	۵۵۲
۵۳۹	نماز سے قبل صلوٰۃ پڑھنا	۵۵۳
۵۴۰	اذان کے بعد مروجہ صلوٰۃ و سلام کا شرعی حکم	۵۵۳
۵۴۱	دورانِ اذان و اقامت صلوٰۃ و سلام پڑھنا	۵۵۵
۵۴۲	اذان کے بعد جماعت سے قبل صلوٰۃ و سلام پڑھنا	۵۵۶
۵۴۳	اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کی شرعی حیثیت	۵۵۷
۵۴۴	اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا شرعی حکم	۵۵۸
□	۸/حضور ﷺ کے اسم مبارک پر انگوٹھا چومنا	۵۶۰
۵۴۵	خطبہ کی اذان میں انگوٹھا چومنا	۵۶۰
۵۴۶	اذان میں کلمہ شہادت پر انگوٹھا چومنا	۵۶۱
۵۴۷	اذان و اقامت میں ”محمد رسول اللہ“ پر انگوٹھا چومنا	۵۶۲
۵۴۸	حضرت ابو بکر صدیق کا حضور ﷺ کا نام سن کر انگوٹھا چومنا	۵۶۳
۵۴۹	اذان میں ”اشہدان محمد“ پر انگوٹھا چومنا	۵۶۴
۵۵۰	حضور ﷺ کا نام مبارک سن کر انگوٹھا چومنا	۵۶۵
۵۵۱	نام مبارک پر انگوٹھا چومنے کی شرعی حیثیت	۵۶۶

۵۶۸	انگوٹھا چومنے کی حدیث موضوع ہے۔	۵۵۲
۵۶۹	اذان میں انگوٹھے چومنا کیسا؟	۵۵۳
۵۷۰	نام مبارک سن کر انگوٹھا چومنے اور آنکھوں پر پھیرنے کی شرعی حیثیت	۵۵۴
۵۷۱	شہادتین میں انگوٹھا چومنا	۵۵۵
۵۷۲	کلمہ شہادت پر انگوٹھا چومنے کی شرعی حیثیت	۵۵۶
۵۷۳	تکبیر میں حضور ﷺ کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا	۵۵۷





فہرست مضامین

۳/ بقیۃ کتاب البدعات والرسوم

صفحہ نمبر	۹/ باب: رسومات جنازہ	مسلہ نمبر	مردہ کے نام پر کھانا کھلانے کی رسم	۳۰
۳۰	۵۵۸	۳۰
۳۱	۵۵۹	۳۱
۳۲	۵۶۰	۳۲
۳۳	۵۶۱	۳۳
۳۵	۵۶۲	۳۵
۳۷	۵۶۳	۳۷
۳۸	۵۶۴	۳۸
۳۹	۵۶۵	۳۹
۴۰	۵۶۶	۴۰
۴۱	۵۶۷	۴۱
۴۲	۵۶۸	۴۲
۴۳	۵۶۹	۴۳
۴۴	۵۷۰	۴۴
۴۵	۵۷۱	۴۵

- ۵۷۲ دفن کے بعد قبر پر شاخ گاڑنا ۴۶
- ۵۷۳ تدفین کے بعد قبر پر موم بتی، اگر بتی جلانا اور قرآن کریم پڑھنا ۴۷
- ۵۷۴ تنہا یا جماعت کی شکل میں قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ۴۸
- ۵۷۵ تدفین کے بعد قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا ۴۹
- ۵۷۶ تدفین کے بعد مٹھائی غلہ وغیرہ تقسیم کرنا ۵۰
- ۵۷۷ حیلہ اسقاط ۵۱
- ۵۷۸ بیوی کے انتقال کے دس دن بعد بہنوئی کا سالے سے ہدیہ قبول کرنا ۵۲
- ۵۷۹ قبر پر اذان ۵۳
- ۵۸۰ قبر پر اذان دینا ۵۴
- ۵۸۱ قبر پر اذان دینے کی شرعی حیثیت ۵۵
- ۵۸۲ قبر پر اذان دینے کا شرعی حکم ۵۶
- ۵۸۳ کیا قبر پر اذان دینا مسنون ہے؟ ۵۷
- ۵۸۴ قبر پر اذان دینے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ۵۸
- ۵۸۵ کیا تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا ضروری ہے؟ ۵۹
- ۵۸۶ کیا قبر پر اذان دینا بدعت ہے؟ ۶۰
- ۵۸۷ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا بدعت ہے ۶۱
- ۵۸۸ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا ۶۲
- ۵۸۹ تدفین کے بعد پر اذان دینے کا شرعی حکم ۶۳
- ۵۹۰ دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا ۶۴
- ۵۹۱ قبر پر اذان کی شرعی حیثیت ۶۵
- ۵۹۲ قبر پر اذان، تیجہ، دسواں وغیرہ کا شرعی حکم ۶۶

- ۵۹۳ تدفین کے بعد صلوة وسلام اور قبر پر اذان دینا ۶۷
- ۵۹۴ تیجہ، دسواں اور چالیسویں کی شرعی حیثیت ۶۸
- ۵۹۵ تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں ۷۰
- ۵۹۶ فاتحہ، تیجہ، چالیسواں ۷۱
- ۵۹۷ تیجہ، دسواں اور چالیسویں کا شرعی حکم ۷۳
- ۵۹۸ تیجہ، دسواں اور چالیسواں کرنا ۷۴
- ۵۹۹ تیجہ، دسواں اور چالیسواں کرنا کیسا ہے؟ ۷۵
- ۶۰۰ تیجہ وچہلم کرنے کی شرعی حیثیت ۷۶
- ۶۰۱ دسویں اور چالیسویں کا حکم ۷۷
- ۶۰۲ تیجہ کرنا، یا قل پڑھوانا ۷۸
- ۶۰۳ تیجہ، دسویں، چالیسویں وغیرہ کا شرعی حکم ۸۰
- ۶۰۴ دسویں، گیارہویں، تیرہویں، بیسویں وغیرہ کی حقیقت ۸۱
- ۶۰۵ تیجہ، دسویں، چالیسویں وغیرہ کا التزام کرنا ۸۲
- ۶۰۶ تیجہ، چالیسواں اور چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھوانا ۸۵
- ۶۰۷ برسی میں چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھنا ۸۷
- ۶۰۸ تعزیہ داری، تیجہ، دسواں اور میلا دمر وجہ ۸۸
- ۶۰۹ کیا قرآن کریم میں دسویں، بیسویں کا ثبوت ہے؟ ۹۰
- ۶۱۰ تیجہ کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ۹۱
- ۶۱۱ کیا تیجہ اور چالیسواں کا ثبوت ہے؟ ۹۲
- ۶۱۲ تیجہ دسویں وغیرہ میں تقریر کرنا ۹۳
- ۶۱۳ گیارہویں منانا اور اس کی دعوت کھانا ۹۵

۶۱۴	دسویں، چالیسویں میں قرآن کریم پڑھنا.....	۹۵
۶۱۵	چالیسویں دن میت کے گھر پر جمع ہو کر کھانا کھانا.....	۹۶
۶۱۶	تیجہ، دسویں اور اس میں شرکت کا حکم.....	۹۸
۶۱۷	تیجہ، دسویں، چالیسویں میں شرکت کرنا.....	۹۹
۶۱۸	تیجہ، دسواں اور چالیسواں نہ کرنے کی وصیت کرنا.....	۱۰۰
۶۱۹	دسویں چالیسویں کی فاتحہ دلانا.....	۱۰۱
۶۲۰	تیجہ وغیرہ کے وقت ”درود تاج“ اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھنا.....	۱۰۲
۶۲۱	طلبہ کو دسویں، بیسویں اور چالیسویں کی دعوت میں بھیجنا.....	۱۰۴
۶۲۲	تیجہ وغیرہ کا کھانا لوگوں کے لئے جائز ہے؟.....	۱۰۵
۶۲۳	مختلف بدعات کے کھانے کا حکم.....	۱۰۶
۶۲۴	دسویں، چالیسویں اور تیجہ کا کھانا.....	۱۰۸
۶۲۵	تیجہ اور چالیسویں کے کھانے کا حکم.....	۱۰۹
۶۲۶	کیا تیجہ، چالیسویں وغیرہ کا کھانا جائز ہے؟.....	۱۱۰

۱۰/باب: فاتحہ، نیاز، عرس اور مزار کی بدعات

۶۲۷	فاتحہ دینا.....	۱۱۲
۶۲۸	کھانے وغیرہ پر فاتحہ و نیاز دلانا.....	۱۱۲
۶۲۹	میٹھی چیز پر فاتحہ دینا.....	۱۱۳
۶۳۰	کھانے یا میٹھائی پر فاتحہ.....	۱۱۴
۶۳۱	فاتحہ کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟.....	۱۱۵
۶۳۲	فاتحہ و نیاز کا شرعی حکم.....	۱۱۶

- ۶۳۳ بارش نہ ہونے پر غلہ وغیرہ جمع کر کے نیاز کرنا..... ۱۱۷
- ۶۳۴ شریعت اسلامی میں نیاز کی حقیقت..... ۱۱۸
- ۶۳۵ نیاز کی تعریف اور اس کی حقیقت..... ۱۲۰
- ۶۳۶ امام حسینؑ کے نام پر امام باڑے میں جانور کی نیاز اور اس کے کھانے کا حکم..... ۱۲۰
- ۶۳۷ عرس اور قدم بوسی کی شرعی حیثیت..... ۱۲۱
- ۶۳۸ عرس میں قوالی کا حکم..... ۱۲۳
- ۶۳۹ کیا صحابہ کرامؓ و اولیاء عظامؓ نے بھی رسول اللہ ﷺ کا جشن منایا ہے؟..... ۱۲۵
- ۶۴۰ مزارات پر عرس، قوالی، سماع خانہ، اور رہائش گاہ کی تعمیر..... ۱۲۶
- ۶۴۱ مزارات پر عرس، قوالی اور قبروں پر چادر چڑھانا..... ۱۲۷
- ۶۴۲ اہل اللہ کی قبروں کی طرف پیٹھ کرنے سے بچنے کے لئے التا چلنا..... ۱۲۸
- ۶۴۳ اولیاء اللہ کے مزار پر عرس کرنا..... ۱۲۹
- ۶۴۴ عرس میں شرکت کرنا، اور قبروں پر چڑھاوا چڑھانا..... ۱۳۰
- ۶۴۵ بزرگوں کی قبروں سے متعلق چند سوالات کے جوابات..... ۱۳۱
- ۶۴۶ اولیاء کی قبروں کو ثواب سمجھ کر چھومنا..... ۱۳۲
- ۶۴۷ عید گاہ میں قوالی کرنا..... ۱۳۵
- ۶۴۸ اولیاء اللہ کو درود و سلام پیش کرنے کی شرعی حیثیت..... ۱۳۶
- ۶۴۹ قل شریف پڑھنا اور مزار کا چڑھاوا کھانا..... ۱۳۸
- ۶۵۰ مزار پر سجدہ تعظیمی کرنا..... ۱۳۹
- ۶۵۱ مزار پر چادر پوشی، طواف کرنا، اور قبروں کو چومنا..... ۱۴۰
- ۶۵۲ ایصال ثواب کے وقت مزار کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا..... ۱۴۱
- ۶۵۳ مزار پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا..... ۱۴۲

۱۴۳	قبر کو بوسہ دینا	۶۵۴
۱۴۳	قبر پر چڑھائی ہوئی مٹھائی کھانا	۶۵۵
۱۴۴	قبروں پر پھول ڈالنا	۶۵۶
۱۴۵	قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھانا	۶۵۷
۱۴۷	قبر پر پھول اور چادر ڈالنا	۶۵۸
۱۴۷	مزار پر جمعرات کو نذر و نیاز دینا اور عورتوں کا اس میں شریک ہونا	۶۵۹
۱۴۸	عورتوں کا قبرستان جانا	۶۶۰
۱۴۹	مزارات پر مستورات کی حاضری کا حکم	۶۶۱
۱۵۰	عورتوں کا قبرستان جا کر سجدہ وغیرہ کرنا	۶۶۲

□ ۱۱/باب: فرائض پنجگانہ اور عیدین کے بعد کی رسومات

۱۵۲	نمازوں کے بعد مصافحہ سے متعلق ایک جامع فتویٰ	۶۶۳
۱۵۸	فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد مصافحہ کی شرعی حیثیت	۶۶۴
۱۶۰	نمازوں کے بعد مصافحہ	۶۶۵
۱۶۲	بعد نماز فجر و عصر مصافحہ کی شرعی حیثیت	۶۶۶
۱۶۳	نمازوں کے بعد مصافحہ و معانقہ کا شرعی حکم	۶۶۷
۱۶۵	بعد نماز فجر و عصر امام کا مقتدیوں سے مصافحہ کرنا	۶۶۸
۱۶۶	نماز عیدین کے بعد مصافحہ سے متعلق جامع فتویٰ	۶۶۹
۱۷۴	عید کے دن معانقہ کی شرعی حیثیت	۶۷۰
۱۷۶	عید کی مبارک باد پیش کرنا	۶۷۱
۱۷۷	نماز عید کے بعد مصافحہ و معانقہ کا حکم	۶۷۲

۶۷۳	نمازِ عید کے بعد مصافحہ کی شرعی حیثیت	۱۷۹
۶۷۴	عید کی نماز کے بعد مصافحہ کا شرعی حکم	۱۸۱
۶۷۵	عیدین کی نماز کے بعد گلے ملنا اور مصافحہ کرنا	۱۸۲
۶۷۶	عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ و معانقہ	۱۸۴
۶۷۷	عیدین کی نماز کے بعد سلام و مصافحہ کا حکم	۱۸۵
۶۷۸	عیدین کے موقع پر معانقہ کی شرعی حیثیت	۱۸۷
۶۷۹	نمازِ عید کے بعد مصافحہ و معانقہ کے ذریعے ناراضگی دور کرنا	۱۸۸
۶۸۰	عیدین اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور معانقہ	۱۹۰
۶۸۱	عیدین کے خطبہ کے بعد اجتماعی دعا مانگنا	۱۹۱
۶۸۲	عیدین کے خطبہ کے بعد دعا کرانا	۱۹۲
۶۸۳	عیدین کی نماز کے بعد متولی کا امام صاحب کو پگڑی باندھنا	۱۹۳
۶۸۴	عید کی نماز کے بعد شیرینی تقسیم کرنا	۱۹۵
۶۸۵	نمازِ عید کے بعد مصافحہ، معانقہ اور دعا کا حکم	۱۹۶
۶۸۶	خطبہ کی اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۱۹۷
۶۸۷	مسجد میں امام صاحب کا مقتدیوں کو لیکر اجتماعی ذکر کرنا	۱۹۸
۶۸۸	ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کا معمول بنانا	۱۹۹

۱۲/باب: رسومات نکاح

۶۸۹	کیا محرم کے مہینہ میں نکاح کرنا ممنوع ہے؟	۲۰۱
۶۹۰	شادی کے لئے کسی خاص تاریخ کا انتظار کرنا	۲۰۲
۶۹۱	منگنی کی حقیقت اور شادی کی رسومات	۲۰۲

۲۰۴ شادی سے ایک دن قبل میلاد شریف پڑھنا	۶۹۲
۲۰۵ طے شدہ رشتہ کے بعد ساس کی موت ہونے پر رشتہ کو منحوس سمجھنا	۶۹۳
۲۰۷ رشتہ ختم ہونے کے بعد سگائی کے وقت دیئے گئے تحفہ کی واپسی	۶۹۴
۲۰۸ لڑکی والوں سے جوڑے کی رقم اور پرسنڈیز لینا	۶۹۵
۲۰۹ شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے موٹی رقم لینا	۶۹۶
۲۱۰ شادی میں مجبور کر کے حلال یا حرام مال لینا	۶۹۷
۲۱۲ لڑکے کے اولیاء کا نکاح کے اخراجات کا مطالبہ کرنا	۶۹۸
۲۱۳ شادی میں مدعو حضرات کا روپیہ کیڑا دینا	۶۹۹
۲۱۴ سیدھا دیجا	۷۰۰
۲۱۴ تلک کی رقم کا حکم	۷۰۱
۲۱۵ بھات کی شرعی حیثیت	۷۰۲
۲۱۶ بھات کھلانے کی رسم	۷۰۳
۲۱۷ نیوتا کا شرعی حکم	۷۰۴
۲۱۸ نوشہ سے مختلف مقامات پر روپے لینا	۷۰۵
۲۱۹ شادی کے موقع پر پیسوں کا لین دین	۷۰۶
۲۲۰ شادی کے موقع پر رسم ”نشرح“ کا ادا کرنا	۷۰۷
۲۲۱ دو لہے کو ہلدی لگانا	۷۰۸
۲۲۲ دو لہے اور دلہن کو اپٹن لگانا	۷۰۹
۲۲۳ شادی کے موقع پر زوجین کو اپٹن لگانا	۷۱۰
۲۲۴ اپٹن لگانے کی شرعی حیثیت	۷۱۱
۲۲۴ نکاح کے وقت نوشہ کو کلمہ پڑھوانا	۷۱۲

۲۲۵	مجلس نکاح میں نوشتہ کو کلمہ پڑھوانا	۷۱۳
۲۲۶	نکاح سے قبل لڑکا یا لڑکی کو کلمہ طیبہ، ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھوانا	۷۱۴
۲۲۷	بارات میں جانے سے قبل دو لہے کا دو رکعت نماز پڑھنا	۷۱۵
۲۲۷	ایجاب و قبول سے قبل دو لہے کو تین مرتبہ کلمہ پڑھوانا تین بار قبول کروانا	۷۱۶
۲۲۸	نکاح میں دو لہا سے تین مرتبہ قبول کروانا	۷۱۷
۲۲۹	دو لہے کا دو رکعت نماز پڑھنا	۷۱۸
۲۳۰	دو لہا کے سر پر عمامہ باندھنا	۷۱۹
۲۳۱	سہرا باندھنا	۷۲۰
۲۳۲	دو لہے کے پر سہرایا گجر باندھنا	۷۲۱
۲۳۳	سہرا باندھنے کی رسم میں شرکت کرنا	۷۲۲
۲۳۴	دو لہے کا سہرا کس پھول کا ہو؟	۷۲۳
۲۳۵	پھولوں کا سہرا باندھنا اور پیسے بکھیرنا	۷۲۴
۲۳۵	دو لہے کا مہندی لگانا اور سہرا باندھنا	۷۲۵
۲۳۷	روپیوں اور گلاب کے ہار کے استعمال کا حکم	۷۲۶
۲۳۷	دو لہے کے گلے میں ہار ڈالنا	۷۲۷
۲۳۸	دو لہے کو پگڑی، سہرا اور گلے میں ہار پہننے کا حکم	۷۲۸
۲۴۰	نوشتہ کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالنا	۷۲۹
۲۴۱	دو لہے کو شادی کے دن تکیہ پر بٹھانے کی رسم	۷۳۰
۲۴۲	شادی کے موقع پر گولاد اغنا	۷۳۱
۲۴۴	شادی میں بے حجابانہ مخلوط اجتماع کا حکم	۷۳۲
۲۴۵	شادی کی ویڈیو فلم بنانا	۷۳۳

۲۴۶ مجلس نکاح کی ویڈیو بنانا	۷۳۴
۲۴۸ شادی میں گانے بجانے اور بے حجابانہ اختلاط کا شرعی حکم	۷۳۵
۲۴۹ جس نکاح میں ناچ گانے ہوں کیا وہ منعقد نہیں ہوتا	۷۳۶
۲۵۰ لڑکے والے بچہ لائیں تو گناہ گار کون؟	۷۳۷
۲۵۱ لڑکی سے نکاح کی اجازت لیتے وقت دوسری لڑکیوں کا ہاں کہنا	۷۳۸
۲۵۳ منکرات والی شادی میں قاضی کے نکاح پڑھانے کا حکم	۷۳۹
۲۵۳ خلاف شرع شادی میں دعوت کھانا	۷۴۰
۲۵۵ خرافات والی شادی میں مقتدی حضرات کی شرکت	۷۴۱
۲۵۶ مختلف منکرات والی شادی میں شرکت	۷۴۲
۲۵۸ خلاف شرع شادی میں شرکت	۷۴۳
۲۵۹ شادی کی مختلف رسومات کا بیان	۷۴۴
۲۶۱ نکاح کے وقت پیش آنے والی مختلف رسومات	۷۴۵
۲۶۵ نکاح کے بعد مصافحہ و معانقہ	۷۴۶
۲۶۶ عقد نکاح کے بعد دو لہے کا سلام کرنا	۷۴۷
۲۶۷ زوجین کو تخلیہ کا موقع نہ دینا	۷۴۸
۲۶۹ شادی کے بعد چوتھی کرنا	۷۴۹
۲۶۹ شادی کے ساتویں ماہ میں گود بھرائی کی رسم	۷۵۰

باب: متفرق بدعات و رسوم

۲۷۲ ربن کاٹ کر دوکان کا افتتاح کرنا	۷۵۱
۲۷۲ بلی کے راستہ کاٹنے کی حیثیت	۷۵۲

- ۴۵۳ عدت پوری ہونے پر میکہ سے نئے کپڑے اور مٹھائی آنا ۲۷۴
- ۴۵۴ راستہ میں ویلکم لکھنا ۲۷۵
- ۴۵۵ چھوٹے بچے کے دودھ کو معاف کرنے کی رسم ۲۷۶
- ۴۵۶ سورج گرہن کے وقت بحالت حمل میں قینچی چلانے اور کروٹ لیٹنے کا حکم ۲۷۷
- ۴۵۷ بسم اللہ وغیرہ رسوم کی دعوت کا حکم ۲۷۷
- ۴۵۸ یوم پیدائش، یوم شادی وغیرہ منانا ۲۷۹
- ۴۶۹ پھٹے ہوئے بنیان کے سلنے کا حکم ۲۸۰
- ۴۶۰ مجالس دینیہ و سیاسیہ میں پھولوں کا ہار پہننا ۲۸۰
- ۴۶۱ ہولی کے پانچ یا چھ روز کے بعد بارش ہونے کو ضروری سمجھنا ۲۸۱
- ۴۶۲ مسجد میں عیدلن کا پروگرام کرنا ۲۸۲
- ۴۶۳ چیل کوؤں کو گوشت کھلانا ۲۸۳
- ۴۶۴ چند بدعات کی شرعی حیثیت ۲۸۴
- ۴۶۵ انبیاء، اولیاء و دیگر لوگوں کی یوم پیدائش منانے کی شرعی حیثیت ۲۸۷
- ۴۶۶ گود بھرائی کا حکم ۲۹۰
- ۴۶۷ الوداع جمعہ اور چودھویں روزے کا اہتمام کرنا ۲۹۰
- ۴۶۸ دعوت کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جہراً دعا کا التزام ۲۹۱
- ۴۶۹ خوشیوں کے موقع پر تحائف کا لین دین ۲۹۲
- ۴۷۰ خوشی کے موقع پر تحائف کا لین دین ۲۹۳
- ۴۷۱ جلائی ہوئی بتی کو جلتے رہنے دینا ۲۹۳
- ۴۷۲ نفاس والی عورت سے چھوت منانے کی رسم ۲۹۴
- ۴۷۳ رات گیارہ بجے آندھی آنے پر اذان دینا ۲۹۵

۲ / کتاب العلم

□	۱ / باب ما يتعلق بطلب العلم	□
---	-----------------------------	---

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۲۹۷	۷۷۳ عربی زبان کے فضائل
۳۰۱	۷۷۴ دینی علوم کے مقابلے میں دنیاوی علوم کو ترجیح دینے کا حکم
۳۰۳	۷۷۵ علم دین سیکھنا مقدم ہے یا تبلیغ میں جانا؟
۳۰۴	۷۷۶ کیا عالم دین پر درس و تدریس لازم ہے؟
۳۰۵	۷۷۷ طالب علم کے لئے والد کے مخلوط مال کے استعمال کا حکم
۳۰۷	۷۷۸ والدہ کی اجازت کے بغیر دینی تعلیم حاصل کرنا
۳۰۸	۷۷۹ والدین کی اجازت کے بغیر دینی تعلیم حاصل کرنے کا حکم
۳۰۹	۷۸۰ محض کتابوں کے مطالعہ سے علم دین حاصل کرنا
۳۱۱	۷۸۱ جشنِ ختمِ بخاری
۳۱۲	۸۷۲ جشنِ بخاری کے لئے مجبور کرنا
۳۱۴	۸۷۳ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری کی تکمیل پر دعوت کیوں کی؟
۳۱۵	۸۷۴ کتاب کے افتتاح یا اختتام پر طالب علموں سے شیرینی کھانا
۳۱۶	۸۷۵ پرائمری تعلیم سرکاری نصابِ تعلیم کے مطابق ہو یا مدرسہ کے؟
۳۱۷	۸۷۶ انگلش و ہندی میڈیم اسکول قائم کرنا
۳۱۹	۷۸۷ علماء و طلباء کے لئے انگلش پڑھنا کیسا ہے؟
۳۲۰	۷۸۸ مسلمانوں کے لئے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کا حکم
۳۲۰	۷۸۹ مخلوط تعلیم کا حکم
۳۲۳	۷۹۰ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے رجوع کردہ مسائل

□	۲/باب ما يتعلق بالافتاء و آدابہ	□
۳۲۵ کیا مفتی صاحب پر سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟	۷۹۱
۳۲۸ اعتراض پر جواب مذکور	۷۹۲
۳۳۲ اہل علم اور مفتیان کرام کی شان میں احتیاط سے کام لینا	۷۹۳
۳۳۲ فتویٰ دینے کے لئے ماہر مفتی کی شاگردی لازم ہے	۷۹۴
۳۳۳ علماء و مفتیان کا مسئلہ بتانے کے لئے آگے بڑھ کر خود کو پیش کرنے کا حکم	۷۹۵
۳۳۴ فتویٰ میں حدیث کا حوالہ لکھیں یا کتب فقہ کا	۷۹۶
۳۳۶ جہاں حدود شرعیہ قائم نہ ہو وہاں مفتی زنا کی کیا سزا لکھے؟	۷۹۷
۳۳۷ کیا مختلف فیہ مسئلہ میں نرمی ہے؟	۷۹۸
۳۳۸ کیا عالم دین فتویٰ پر دستخط کر سکتا ہے؟	۷۹۹
۳۳۹ کیا کافیہ کے طالب علم کے لئے مسئلہ بیان کرنا جائز ہے؟	۸۰۰
۳۴۱ عالم دین کے لئے محض مطالعہ سے مسئلہ بیان کرنے کا حکم	۸۰۱
۳۴۲ فتویٰ کو نہ ماننے والے کا حکم	۸۰۲
۳۴۳ فتویٰ کے انکار کا شرعی حکم	۸۰۳
۳۴۵ قرآن و حدیث اور شرعی فتوؤں کو پوس پشٹ ڈالنے کا حکم	۸۰۴
۳۴۶ امامت کے لئے بہاری نہ ہونے کی شرط کی تائید کرنے والے مفتی کا حکم	۸۰۵
۳۴۸ کتاب دائمی اوقات الصلوٰۃ کی حیثیت	۸۰۶
۳۴۹ بریلی کے ایک فتویٰ کی حقیقت	۸۰۷

□	۳ / باب ما يتعلق باصطلاحات العلم	□
---	----------------------------------	---

- ۸۰۸ سنت اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ ۳۵۲
- ۸۰۹ دینار کتنے تولہ یا ماشہ کا ہوتا ہے؟ ۳۵۳
- ۸۰۱ دارھی سے متعلق فتح الباری کے ایک جزئیہ کی وضاحت ۳۵۴
- ۸۱۱ و ماء الورد المنقطع الرائحة کی ترکیب ۳۵۵
- ۸۱۲ نور الايضاح کی عبارت ”ضيق الوقت“ کی تشریح ۳۵۶
- ۸۱۳ صدقہ فطر کی مقدار سے متعلق ایضاح المسائل کی عبارت کی وضاحت ۳۵۷
- ۸۱۴ ہدایہ کی عبارت ”المعاني الموجبة للغسل“ کی تشریح ۳۵۸
- ۸۱۵ تجارت وغیرہ کے ضروری مسائل کس کتاب سے حاصل کریں؟ ۳۵۹
- ۸۱۶ تشہد کو عدالت کے گواہ پر قیاس کرنے کا شرعی حکم ۳۶۰
- ۸۱۷ بہشتی زیور کے ایک مسئلہ کا حل ۳۶۱
- ۸۱۸ الأشباہ کی ایک مشکل عبارت کا حل ۳۶۲
- ۸۱۹ بہشتی زیور کے ”کمین“ لفظ کی وضاحت ۳۶۳
- ۸۲۰ یونٹ ٹرسٹ کمپنی سے متعلق ایضاح المسائل کی ایک عبارت کا حل ۳۶۵
- ۸۲۱ نحو سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۳۶۶
- ۸۲۲ اسلام شناسی نامی کتاب تقسیم کرنے کا شرعی حکم ۳۶۹
- ۸۲۳ اردو میں لفظ ابن کا قاعدہ ۳۶۹
- ۸۲۴ کلمہ طیبہ میں ”محمد“ اور اذان میں ”محمداً“ کیوں ہے؟ ۳۷۱
- ۸۲۵ علم الصیغہ کی ایک عبارت کا حل ۳۷۱
- ۸۲۶ کیا مصدر کا فعل مذکر و مؤنث دونوں ہو سکتا ہے؟ ۳۷۳

- ۸۲۷ لفظ ”سبحانہ“ شبہ تائید کی وجہ سے کیسے غیر منصرف ہے؟ ۳۷۴
- ۸۲۸ رب کی طرف راجع ضمیر مذکر ہو یا مؤنث ۳۷۵
- ۸۲۹ جاوداں کی ضد کیا ہے؟ ۳۷۶
- ۸۳۰ اہل ذکر سے کون مراد ہیں؟ ۳۷۷
- ۸۳۱ کل مخلوقات کی تعداد کتنی ہے؟ ۳۷۸
- ۸۳۲ ”غروب سے قبل نمودار ہونے والی سرخی“ کیا علامات قیامت میں سے ہے؟ ... ۳۷۹
- ۸۳۳ ”ایمان کمزور ہو گئے ذمہ دار کون“ نامی کتاب کی شرعی حیثیت ۳۸۰
- ۸۳۴ تیرہویں، چودھویں شب میں چاند کب نکلتا ہے؟ ۳۸۱
- ۸۳۵ ایضاح النوادر کے چند مسائل پر اعتراضات کے جوابات ۳۸۲
- ۸۳۶ کیا تقویۃ الایمان حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی کتاب ہے؟ ۳۸۷

□	۴ / باب ما يتعلق بتعليم النساء	□
---	--------------------------------	---

- ۸۳۷ مدرسۃ البنات کا شرعی حکم ۳۸۸
- ۸۳۸ لڑکیوں کا دارالاقامہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شرعی حکم ۳۸۹
- ۸۳۹ مدرسۃ البنات اور عمر رسیدہ عورتوں کے گشت کا حکم ۳۹۰
- ۸۴۰ لڑکیوں کے مدرسہ سے متعلق کچھ سوالات و جوابات ۳۹۲
- ۸۴۱ مدرسۃ البنات میں مدرس کا پڑھانا کیسا ہے؟ ۳۹۵
- ۸۴۲ کیا دور حاضر میں لڑکیوں کو تعلیم دلانا ضروری ہے؟ ۳۹۶
- ۸۴۳ ان کالجوں میں علوم دنیوی حاصل کرنا جن میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے ۳۹۷
- ۸۴۴ بے پردہ غیر محرم لڑکیوں کو پڑھانے اور ان کو پردہ سے روکنے کا حکم ۳۹۹

۴۰۰	۸۴۵	مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کا بے پردہ تعلیم حاصل کرنا
۴۰۱	۸۴۶	کیا ۲۰ سالہ لڑکی کا مخلوط تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟
۴۰۲	۸۴۷	غیر محرم کو بغیر پردہ قرآن کی تعلیم دینا
۴۰۳	۸۴۸	بالغہ منہ بولی بہن کو قرآن کریم پڑھانے کا شرعی حکم
۴۰۵	۸۴۹	جامعۃ البنات میں تعطیل کس دن ہو؟
۴۰۶	۸۵۰	مدرسہ نسواں میں پاس پڑوس سے آنے والے پانی کا حکم
۴۰۷	۸۵۱	جلسہ نسواں کی شرعی حیثیت
۴۰۹	۸۵۲	عورتوں کا تقریر کرنا کیسا ہے؟
۴۱۰	۸۵۳	دعوت نامہ پر فارغات کا نام لکھنا
۴۱۱	۸۵۴	کیا عورتوں کا رات کے جلسوں میں شرکت کرنا درست ہے؟
۴۱۱	۸۵۵	خواتین کی مدرسے کی شرعی حیثیت
۴۱۳	۸۵۶	لڑکیوں کا گاڑیاں چلانا

□	۵/ باب ما يتعلق بالكتابة و آدابها و أحكامها	□
---	---	---

۴۱۵	۸۵۷	کیا صلعم ص یا عہ لکھنے سے درود شریف کا ثواب مل سکتا ہے؟
۴۱۶	۸۵۸	حضور ﷺ کے نام کے ساتھ ص: یا صلعم لکھنا کافی نہیں
۴۱۷	۸۵۹	غیر نبی کے لئے علیہ السلام اور غیر صحابی کے لئے ﷺ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟
۴۱۹	۸۶۰	علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کے استعمال کا محل
۴۲۰	۸۶۱	واقعہ ہرقل کے علاوہ دیگر خطوط میں مکمل تسمیہ لکھنے کا ثبوت
۴۲۲	۸۶۲	صحابہ کرام کا خطوط کے شروع میں مکمل بسم اللہ لکھنا

- ۸۶۳ تسمیہ کے بجائے باسمہ سبحانہ تعالیٰ لکھنا کیسا ہے ۴۲۴
- ۸۶۴ اہم تحریر کے شروع میں پورا بسم اللہ نہ لکھا جائے تو کیسا ہے؟ ۴۲۵
- ۸۶۵ کیا صرف زبان سے پڑھ لینے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ ۴۲۶
- ۸۶۶ ۷۸۶ لکھنے سے بسم اللہ کی سنت ادا ہوگی یا نہیں؟ ۴۲۷
- ۸۶۷ کیا ۷۸۶ بسم اللہ کے قائم مقام ہے؟ ۴۲۹
- ۸۶۸ ”۷۸۶“ ۴۳۰
- ۸۶۹ ۷۸۶ لکھنے کا شرعی حکم ۴۳۱
- ۸۷۰ تسمیہ کا عدد ۴۳۲
- ۸۷۱ بسم اللہ کی جگہ ۷۸۶ لکھنے کا حکم شرعی ۴۳۳
- ۸۷۲ ۷۸۶ لکھنے کا مقصد ۴۳۴
- ۸۷۳ کیا ”۷۸۶“ بسم اللہ کا عدد ہے ۴۳۵
- ۸۷۴ بسم اللہ کے بجائے ۷۸۶ لکھنا ۴۳۷
- ۸۷۵ خطوط میں ۷۸۶ لکھنا کیسا ہے؟ ۴۳۸
- ۸۷۶ کیا بسم اللہ کی جگہ ۷۸۶ لکھنا جائز ہے؟ ۴۳۹

□	۶ / ماب ما يتعلق بالقرآن الکریم	□
---	---------------------------------	---

۱ / فصل في علوم القرآن

- ۸۷۷ وحی، تفسیر و تاویل کی تعریف ۴۴۱
- ۸۷۸ تفسیر قرآن کا آغاز کب ہوا؟ ۴۴۳
- ۸۷۹ قرآن کریم میں اعراب کس نے لگائے ہیں؟ ۴۴۴

- ۸۸۰ قرآن شریف میں اعراب کی تعداد ۴۴۵
- ۸۸۱ آیات کی تعداد میں اختلاف کی وجہ ۴۴۶
- ۸۸۲ قرآن کریم کی کل آیتوں کی تعداد ۴۴۷
- ۸۸۳ قرآن میں رکوع اور تمام حروف کی مقدار ۴۴۷
- ۸۸۴ تسمیہ قرآن کریم کا جزء ہے یا نہیں؟ ۴۵۱
- ۸۸۵ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جزء ہے یا نہیں؟ ۴۵۲
- ۸۸۶ قرآن کریم ختم کرنے کا مسنون طریقہ ۴۵۳
- ۸۸۷ حافظ صاحب کا دس جہنمیوں کی سفارش کرنا ۴۵۵
- ۸۸۸ کیا تالی کا ثواب سامع سے زیادہ ہے؟ ۴۵۶
- ۸۸۹ کیا مقتدی کو قراءت قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ ۴۵۷
- ۸۹۰ قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھنے کو بے سود کہنے والے کا حکم ۴۵۸
- ۸۹۱ خیر و برکت کے لئے غیر مسلم کے یہاں قرآن پڑھنے کا شرعی حکم ۴۶۱
- ۸۹۲ اوقات نماز سے متعلق آیات قرآنیہ ۴۶۲
- ۸۹۳ قرآن کریم میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ ۴۶۳
- ۸۹۴ کیا قرآن کے نچ پراستاد قائم نہیں ہو سکتا؟ ۴۶۳
- ۸۹۵ اہل کتاب سے نکاح کے متعلق آیات قرآنی ۴۶۵
- ۸۹۶ کیا سانس قرآن سے نکلا ہے؟ ۴۶۶
- ۸۹۷ مسابقتہ القرآن الکریم کی شرعی حیثیت ۴۶۷
- ۸۹۸ مسابقتہ قرأت کے جلسہ کی شرعی حیثیت ۴۶۹
- ۸۹۹ کیا قراء مصر کی متواترہ قرأت بدعت ہے؟ ۴۷۲

- ۹۰۰ قرآن سے متعلق عبداللہ طارق کے چند شبہات کا تحقیقی جواب ۴۷۴
- ۹۰۱ حروف مقطعات کو باعث اجر و ثواب وغیرہ سمجھنے کا حکم ۴۸۲
- ۹۰۲ سورۃ کہف میں ”ولیطلطف“ بڑے حرفوں میں لکھنے کی وجہ ۴۸۳
- ۹۰۳ الہدایۃ کالقرآن کا صحیح مطلب ۴۸۴

□	۲ / فصل في تفسير القرآن	□
---	--------------------------------	---

- ۹۰۴ قرآن مقدس میں قصوں کے ذکر کرنے کا مقصد ۴۸۶
- ۹۰۵ حروف مقطعات کے مصداق کیا ہیں؟ ۴۸۶
- ۹۰۶ ”وإن الذين اختلفوا“ کی تفسیر ۴۸۷
- ۹۰۷ ”لکم دینکم ولی دین“ کی تفسیر ۴۸۸
- ۹۰۸ حرمت علیکم المیتۃ الخ کی صحیح تفسیر پر اعتراض ۴۹۱
- ۹۰۹ الصمد کا ترجمہ اور تفسیر ۴۹۲
- ۹۱۰ ”وما اهل به لغير الله“ کی صحیح تفسیر ۴۹۳
- ۹۱۱ ”استغفر لهم“ کی تفسیر ۴۹۴
- ۹۱۲ ”لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر“ کا ترجمہ ۴۹۶
- ۹۱۳ ”کل نفس ذائقة الموت“ کی تفسیر ۴۹۸
- ۹۱۴ ”لوکان فیہا الہہ الا لله“ کی تفسیر ۵۰۰
- ۹۱۵ کیا ”إن الله وملائکته“ پڑھنے یا سننے سے درد بھیجنا لازم ہے؟ ... ۵۰۱
- ۹۱۶ ”وامرأه مؤمنة إن وهبت نفسها“ کی تفسیر ۵۰۳
- ۹۱۷ ”الم یان للذین آمنوا“ کی تفسیر ۵۰۵

- ۹۱۸ سورۃ والضحیٰ کے بعد سورۃ ناس تک تکبیر کہنے کا حکم ۵۰۶
- ۹۱۹ سورۃ فلق، ناس اور دہر کی ہیں یا مدنی ۵۰۷
- ۹۲۰ کیا طوالم مفصل منسوخ ہو چکا ہے؟ ۵۰۹
- ۹۲۱ قرآن کریم کا اشعار میں ترجمہ کرنا ۵۱۱
- ۹۲۲ مساجد میں تفسیر کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ ۵۱۳
- ۹۲۳ فارغ التحصیل علماء کے لئے مساجد میں تفسیر کرنے کا شرعی حکم ۵۱۴
- ۹۲۴ تفسیر بالرائے کے چند نمونے اور اس سے متعلق احکام ۵۱۵
- ۹۲۵ تفسیر بالرائے کے چند نمونے ۵۲۰
- ۹۲۶ غیر عالم کا قرآن کریم کی تفسیر کرنا ۵۲۲
- ۹۲۷ غیر عالم کے لئے قرآن وحدیث کی تفسیر کرنا کیسا ہے؟ ۵۲۴
- ۹۲۸ غیر عالم کا معارف القرآن پڑھ کر سننا ۴۲۵
- ۹۲۹ غیر عالم کے لئے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا شرعی حکم ۵۲۸
- ۹۳۰ کیا عامی تفسیر بیان کر سکتا ہے؟ ۵۳۰
- ۹۳۱ غیر عالم کا مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سننا ۵۳۱
- ۹۳۲ عامی کا بیان القرآن، تفہیم القرآن وغیرہ کا پڑھ کر سننا ۵۳۲
- ۹۳۳ کیا غیر عالم کے لئے معتبر تفسیر کی کتاب پڑھ کر سننا جائز ہے؟ ۵۳۳
- ۹۳۴ غیر عالم دین کا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھنے کا حکم ۵۳۵
- ۹۳۵ تفہیم القرآن کے درس قرآن کا حکم ۵۳۷
- ۹۳۶ مودودی اور اہلحدیث کی تفسیر مسجد سے ہٹانے کا حکم ۵۳۸
- ۹۳۷ کیا داڑھی منڈے کے لئے قرآن کریم کی تفسیر کرنا جائز ہے؟ ۵۳۹

□	۳۰ فصل في تجويد القرآن الكريم	□
---	--------------------------------------	---

- ۹۳۸ ضادا کا مخرج ۵۴۱
- ۹۳۹ ہر غنہ کی مقدار ایک الف ہے ۵۴۲
- ۹۴۰ بوقت وقف ”خلق الانسان“ کے مد کی مقدار ۵۴۲
- ۹۴۱ ”ہوی غوی“ وغیرہ پر وقف کے وقت مد کرنے کا حکم ۵۴۳
- ۹۴۲ ”ان لا“ پر نون غنہ ہے یا نہیں؟ ۵۴۴
- ۹۴۳ ضمہ اور کسرہ کو معروف پڑھیں یا مجہول ۵۴۵
- ۹۴۴ قولہ الحق پر وقف ہے یا کن فیکون پر؟ ۵۴۵
- ۹۴۵ اردو میں قراءت کی بہترین کتاب ۵۴۶
- ۹۴۶ جلسہ گاہ میں قراءت سب سے تلاوت کرنے کا حکم ۵۴۷

□	۳۱ فصل في تلاوة القرآن و آدابہ	□
---	---------------------------------------	---

- ۹۴۷ قرآن شریف کی تلاوت افضل ہے یا مسائل کا معلوم کرنا ۵۴۹
- ۹۴۸ متعدد سورتوں کے فضائل ۵۵۰
- ۹۴۹ سورہ کہف کس وقت پڑھیں؟ ۵۵۰
- ۹۵۰ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ ۵۵۱
- ۹۵۱ کیا گھر میں رکھے سبھی قرآن کریم میں تلاوت کرنا لازم ہے؟ ۵۵۳
- ۹۵۲ عورتوں کی آواز میں تلاوت قرآن وغیرہ سننے کا حکم ۵۵۳
- ۹۵۳ ترتیل اور ادائے گی حروف کی صحت کے بغیر ختم قرآن کرنے کا حکم ۵۵۵

- ۹۵۴ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں تلاوت کا حکم ۵۵۶
- ۹۵۵ کیا قرآن پاک کو الٹا پڑھنا جائز ہے؟ ۵۵۸
- ۹۵۶ قرآن کریم کی چند سورتوں کی آیات کو کاٹ کاٹ کر ختم کرنے کا حکم... ۵۵۹
- ۹۵۷ کیا تہبند پہن کر تلاوت کرنا جائز ہے؟ ۵۶۱
- ۹۵۸ ننگی پنڈلی پر قرآن کریم رکھ کر تلاوت کرنا ۵۶۲
- ۹۵۹ تمباکو والا پان منھ میں رکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنا ۵۶۳
- ۹۶۰ دوران تلاوت اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ ۵۶۴
- ۹۶۰ ناخواندہ عورت کا قرآن کی ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ۵۶۵
- ۹۶۱ قبرستان میں تلاوت کرنے کا حکم ۵۶۶
- ۹۶۲ کیا دوران تعلیم آواز بلند قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ ۵۶۷
- ۹۶۳ راستے میں چلتے پھرتے تلاوت کرنے کا حکم ۵۶۸
- ۹۶۴ کیا بازار میں تلاوت کرنا جائز ہے؟ ۵۶۹
- ۹۶۵ حافظ قرآن کا راہ چلتے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ ۵۷۱
- ۹۶۶ موبائل پر قرآن چالو کر کے گھر کے کام یا نماز وغیرہ پڑھنا ۵۷۱
- ۹۶۷ مصروف عمل لوگوں کے پاس تلاوت کرنے کا شرعی حکم ۵۷۳
- ۹۶۸ اپنے کاموں میں مشغول لوگوں کے پاس تلاوت کی شرعی حیثیت ۵۷۴
- ۹۶۹ بلا وضو تلاوت قرآن کا حکم ۵۷۵
- ۹۷۰ کیا بلا وضو تلاوت کرنا جائز ہے؟ ۵۷۶
- ۹۷۱ بلا وضو سورتوں اور دیگر وظائف کا پڑھنا کیسا ہے؟ ۵۷۷
- ۹۷۲ کیا بلا وضو آیات قرآنیہ کا لکھنا جائز ہے؟ ۵۷۸
- ۹۷۳ آیات قرآنیہ لکھے ہوئے کاغذ کو بلا وضو چھونے کا حکم ۵۸۰

- ۹۷۴ مادون الآیہ کو بلا وضو چھونا جائز ہے ۵۸۰
- ۹۷۵ جنسی کیلئے ذکر اللہ اور زبانی قرآن پڑھنے کا حکم ۵۸۱
- ۹۷۶ کیا جنسی کے لئے تلاوت کرنا جائز ہے؟ ۵۸۳
- ۹۷۷ جنابت میں دعائے آیتوں کے دعاء کی غرض سے پڑھنے کا حکم ۵۸۴
- ۹۷۸ کاپی پر حرف قرآن کا ترجمہ لکھنا اور حائضہ کا اس کو پڑھنا ۵۸۵
- ۹۷۹ جزدان سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۵۸۶
- ۹۸۰ قرآن کریم کو آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے اور بوسہ دینے کا حکم ۵۸۸
- ۹۸۱ دماغی کمزوری کی بنیاد پر قرآن بھولنے کا حکم ۵۹۰
- ۹۸۲ قرآن بھولنے کی وعید کا تعلق کتنا قرآن بھولنے پر ہے؟ ۵۹۱
- ۹۸۳ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر تم کھانا کیسا ہے؟ ۵۹۲
- ۹۸۴ ٹی وی، وی سی آر میں قرآن کریم بھرنا اور سننا ۵۹۴
- ۹۸۵ ریڈیو سے گانا، نائٹ، خبریں، قرآن کریم سننا ۵۹۵
- ۹۸۶ قرآن کو ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ میں بھرنا اور سننا ۵۹۵
- ۹۸۷ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیپ ریکارڈ پر قرآن کریم سننے کا حکم ۵۹۶
- ۹۸۸ قرآن کریم کی ریکارڈنگ کیسٹوں کا شرعی حکم ۵۹۷
- ۹۸۹ ٹیلی ویژن پر قرآن سننے کا حکم ۵۹۸
- ۹۹۰ کیسٹ سے تلاوت سننے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟ ۵۹۹
- ۹۹۱ قرآن کے بارے میں کفریہ کلمات کہنے کا حکم ۶۰۰
- ۹۹۲ کیا حروف مقطعات کی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء جانا جائز ہے؟ ۶۰۱
- ۹۹۳ زوجین کا برہنہ لیٹنے سے قرآن کی بے ادبی کا حکم ۶۰۲
- ۹۹۴ قرآن کریم ہاتھ سے گر جائے تو کیا کریں؟ ۶۰۳

- ۹۹۵ قرآن پڑھے ہوئے لیموں کو پیروں سے کچل کر سفر پر روانہ ہونے کا شرعی حکم ۶۰۴
- ۹۹۶ کیا غلاف کے اندر بند تعویذ کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا جائز ہے؟ ۶۰۴
- ۹۹۷ ایک سالہ بچے کے قرآن پر پیشاب کرنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ ۶۰۵
- ۹۹۸ بچے کے پیشاب کی دھار قرآن کریم پر چلی گئی تو کیا کریں؟ ۶۰۶
- ۹۹۹ جماعت اسلامی کا دعوت کے بہانے ہندی قرآن غیر مسلم تقسیم کرنے کا حکم ۶۰۷
- ۱۰۰۰ غیر مسلم کو ہندی قرآن ہدیہ کرنے کا شرعی حکم ۶۰۸
- ۱۰۰۱ کیا ہدایت کی امید سے قرآن کریم غیر مسلم کو ہدیہ کرنا جائز ہے؟ ۶۱۰
- ۱۰۰۲ غیر مسلم کو ہندی میں چھپا ہوا قرآن دینے کا حکم ۶۱۱
- ۱۰۰۳ کیا غیر مسلموں کو قرآن شریف بانٹنا جائز ہے؟ ۶۱۲
- ۱۰۰۴ غیر مسلم کا قرآن شریف وغیرہ فروخت کرنا ۶۱۵
- ۱۰۰۵ غیر مسلم کو قرآنی آیات سے تعویذ لکھ کر دینا ۶۱۶



فہرست مضامین

۲ / بقیۃ کتاب العلم

□	۵ / فصل في كتابة القرآن وأحكامه	□
صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۲۷	کھانے کی چیزوں پر کلمہ طیبہ یا آیات قرآنی کا لکھا ہوا ہونا	۱۰۰۶
۲۸	سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟	۱۰۰۷
۲۹	آیات قرآنیہ کو ابجد ہوز کے عدد کے اعتبار سے لکھنے کا حکم	۱۰۰۸
۳۰	قرآن کریم کو ہندی یا انگریزی رسم الخط میں لکھنا	۱۰۰۹
۳۴	قرآن شریف ہندی میں چھاپنا اور پڑھنا کیسا ہے؟	۱۰۱۰
۳۵	مدارس میں بلیک بورڈ پر آیات قرآنیہ لکھنے کا حکم	۱۰۱۱
۳۷	کیا قرآنی آیات لکھے ہوئے اسٹیکر مکان یا دکان میں چسپاں کرنا جائز ہے؟	۱۰۱۲
۳۸	سبق کے اختتام پر قلم سے قرآن میں نشان لگانے اور تاریخ لکھنے کا حکم	۱۰۱۳
۳۹	کیا پوسٹر و اشتہارات میں قرآنی آیات لکھنا جائز ہے؟	۱۰۱۴
۴۰	آیات قرآنیہ لکھے ہوئے پوسٹر دیواروں پر چسپاں کرنا	۱۰۱۵
۴۲	آیات قرآنیہ والے پوسٹر دیواروں پر چسپاں کرنا کیسا ہے؟	۱۰۱۶
۴۳	آیات قرآنیہ فریم میں کر کے گھروں میں آویزاں کرنے کا حکم	۱۰۱۷
۴۵	کیا اخبار میں قرآن کی آیت چھاپنا جائز ہے؟	۱۰۱۸
۴۶	قرآنی آیات کو کٹوری یا برتنوں میں لکھوانا کیسا ہے؟	۱۰۱۹
۴۸	آیات قرآنیہ لکھے ہوئے برتنوں کی تجارت کا حکم	۱۰۲۰

- ۱۰۲۱ آیات قرآنیہ لکھے ہوئے پیالہ کے استعمال کا حکم ۴۹
- ۱۰۲۲ کیا برتنوں پر قرآنی آیات لکھنا جائز ہے؟ ۵۰
- ۱۰۲۳ کتاب اللہ کے بوسیدہ اوراق کو کیا کریں؟ ۵۲
- ۱۰۲۴ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کیا کئے جائیں؟ ۵۴
- ۱۰۲۵ بوسیدہ قرآن کریم کو جلانا ۵۵
- ۱۰۲۶ بوسیدہ اوراق قرآن کا حکم ۵۶
- ۱۰۲۷ قرآن کریم کے پھٹے پرانے اوراق کو جلانے کا حکم ۵۷
- ۱۰۲۸ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کو جلا کر اڑانا ۵۹
- ۱۰۲۹ قرآن کے بوسیدہ اوراق کو جلا کر دفن کرنا ۶۰
- ۱۰۳۰ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق جلانا ۶۱
- ۱۰۳۱ قرآنی آیات لکھے ہوئے اخبارات اور خطوط کا حکم ۶۳
- ۱۰۳۲ اخبار کے قرآنی تراشوں کو کیا کریں؟ ۶۴
- ۱۰۳۳ اسلامی مضامین والے بوسیدہ اردو اخبار کو کیا کریں؟ ۶۶
- ۱۰۳۴ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے S.M.S ڈیلیٹ کرنا ۶۷
- ۱۰۳۵ قرآن کے بوسیدہ اوراق ڈالے گئے کنویں میں لٹر ڈال کر فلیش ٹینک بنانا ۶۸
- ۱۰۳۶ بغیر متن کے ترجمہ قرآن کی اشاعت ۷۱
- ۱۰۳۷ متن کے ساتھ ترجمہ قرآن کی اشاعت ۷۲
- ۱۰۳۸ غیر عربی رسم الخط میں قرآن کی کتابت ۷۴
- ۱۰۳۹ بریل کوڈ میں قرآن مجید کی کتابت ۷۷
- ۱۰۴۰ موبائل پر قرآن مجید ۷۸
- ۱۰۴۱ اسکرین والے موبائل کو لے کر بیت الخلاء میں داخل ہونا ۸۱

□	۶ / فصل في قراءة القرآن واهداء الثواب	□
---	---------------------------------------	---

۱۰۴۲ سورہ یٰسین کا ختم کرنا کیسا ہے؟ ۸۵

۱۰۴۳ اجتماعی قرآن خوانی ۸۶

۱۰۴۴ قرآن پڑھ کر ایصالِ ثواب حدیث سے ثابت ہے ۸۷

۱۰۴۵ اجتماعی ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ ۸۸

۱۰۴۶ قرآن خوانی کے ذریعہ ایصالِ ثواب ۸۹

۱۰۴۷ قرآن خوانی ۹۰

۱۰۴۸ ایصالِ ثواب کے لئے اجتماعی قرآن خوانی کا حکم ۹۱

۱۰۴۹ قرآن پڑھ کر نابالغ بچہ کا ایصالِ ثواب کرنا کیسا ہے؟ ۹۲

۱۰۵۰ خوشی یا غمی کے موقع پر ایصالِ ثواب یاد دعا کرنے کا حکم ۹۳

۱۰۵۱ قرآن خوانی کے لئے لوگوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ ۹۴

۱۰۵۲ ہفتہ میں ایک دن مقرر کر کے ختم قرآن کرنے کی شرعی حیثیت ۹۶

۱۰۵۳ آیت کریمہ کے ختم سے متعلق سوال کا جواب ۹۷

۱۰۵۴ ایضاح المسائل میں قرآن خوانی کے مسئلہ پر حوالہ نہ ہونے کی وجہ سے تذبذب ۹۸

۱۰۵۵ مانگ میں اجتماعی قرآن خوانی کی شرعی حیثیت ۹۹

۱۰۵۶ اجتماعی قرآن خوانی کے لئے مانگ سے اعلان کرنے کا شرعی حکم ۱۰۲

۱۰۵۷ مروجہ قرآن خوانی اور شبینہ کا شرعی حکم ۱۰۳

۱۰۵۸ کیا مروجہ قرآن خوانی جائز ہے؟ ۱۰۴

۱۰۵۹ اجتماعی قرآن خوانی کی شرعی حیثیت ۱۰۵

- ۱۰۶۰ اجتماعی قرآن خوانی
- ۱۰۶۱ برکت اور ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور شیرینی تقسیم کرنا ۱۰۷
- ۱۰۶۲ دوکان کے افتتاح میں قرآن خوانی کروا کر دعوت کھلانے کا شرعی حکم .. ۱۰۸
- ۱۰۶۳ دفع مصائب، خیر و برکت کے لئے قرآن خوانی کرانے کا شرعی حکم ... ۱۰۹
- ۱۰۶۴ دفع ضرر و حصول برکت کے لئے قرآن خوانی ۱۱۲
- ۱۰۶۵ قرآن خوانی سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۱۱۳
- ۱۰۶۶ قرآن خوانی کے لئے لوگوں کو گھر پر بلانے کی شرعی حیثیت ۱۱۵
- ۱۰۶۷ قرآن خوانی کے لئے طلبہ کو جمع کرنا اور ان کی دعوت کرنا ۱۱۶
- ۱۰۶۸ قرآن خوانی کے بعد کھانا کھلانے کی شرعی حیثیت ۱۱۷
- ۱۰۶۹ ختم قرآن کے موقع پر دعوت کی رسم ۱۱۸
- ۱۰۷۰ قرآن خوانی کے بعد شیرینی تقسیم کرنا ۱۱۹
- ۱۰۷۱ قرآن خوانی کے لئے دعوت وغیرہ کا التزام کرنا ۱۲۰
- ۱۰۷۲ قرآن خوانی کے چند روز بعد جوڑے کا انعام دینا کیسا ہے؟ ۱۲۳
- ۱۰۷۳ ایصال ثواب کے لئے قرآن پڑھوا کر کھانا کھلانا کیسا ہے؟ ۱۲۵
- ۱۰۷۴ دسویں، تیسویں، چالیسویں میں قرآن پڑھنا پڑھانا ۱۲۶
- ۱۰۷۵ فاتحہ خوانی اور شیرینی کا حکم ۱۲۷
- ۱۰۷۶ قرآن خوانی کے عوض دعوت کھانا یا پیسہ لینا کیسا ہے؟ ۱۲۹
- ۱۰۷۷ قرآن خوانی پر اجرت لینا یا اس کے بدلے کھانا کھانا ۱۳۰
- ۱۰۷۸ قرآن خوانی کے کھانے پینے کا حکم ۱۳۱

□	۷ / فصل في الأجره والهدايا على تلاوة	□
---	--------------------------------------	---

- ۱۰۷۹ آغاز تعلیم قرآن رسم بسم اللہ کی شرعی حیثیت ۱۳۳
- ۱۰۸۰ کیا حضرت عمرؓ نے بارہ سال کی عمر میں سورہ بقرہ حفظ کی تھی؟ ۱۳۴
- ۱۰۸۱ کیا استاذ کا ختم قرآن پر ہدیہ قبول کرنا جائز ہے؟ ۱۳۶
- ۱۰۸۲ تکمیل قرآن پر اساتذہ کا والدین کا ہدیہ قبول کرنا ۱۳۷
- ۱۰۸۳ حفظ قرآن پر دعوت کرنا کیسا ہے ۱۳۸
- ۱۰۸۴ ناظرہ یا حفظ کی تکمیل پر تقریب کا اہتمام کرنا ۱۴۰
- ۱۰۸۵ حفظ قرآن کی تکمیل پر عزیز و اقارب کو مدعو کرنا ۱۴۱
- ۱۰۸۶ تکمیل حفظ کے بعد باہم چندہ کر کے دعوت کرنا ۱۴۵
- ۱۰۸۷ تکمیل حفظ قرآن پر دعا اور کھانے وغیرہ کا حکم ۱۴۶
- ۱۰۸۸ قرآن پڑھانے والی کا تحفہ قبول کرنا کیسا ہے؟ ۱۴۷
- ۱۰۸۹ ٹیوشن پر بچوں کو قرآن پڑھانا ۱۴۸
- ۱۰۹۰ قاری کا تحفہ و ہدیہ قبول کرنا ۱۵۰
- ۱۰۹۱ ختم کلام پاک پر اجرت لینا حرام ہے ۱۵۱
- ۱۰۹۲ قرآن خوانی کی اجرت کا حکم ۱۵۲
- ۱۰۹۳ کیا ۴۰ دن سورہ بقرہ پڑھ کر اجرت لینا، دینا جائز ہے؟ ۱۵۳
- ۱۰۹۴ دوکان و مکان میں قرآن خوانی اور اس کی اجرت کا شرعی حکم ۱۵۴
- ۱۰۹۵ ختم قرآن کا نذرانہ ۱۵۶
- ۱۰۹۶ کیا قرآنی آیات سے گنڈے تعویذ کرنا شرک ہے؟ ۱۵۷
- ۱۰۹۷ کیا قرآنی آیات و احادیث شریفہ سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے؟ ۱۵۹
- ۱۰۹۸ بطور رقیہ قرآن خوانی کی اجرت کا جواز ۱۶۰

- ۱۰۹۹ بطور علاج قرآن خوانی (رقیہ) کی اجرت کا حکم ۱۶۲
- ۱۱۰۰ قرآن کی آیت سے تعویذ لکھ کر اس کا عوض لینا جائز ہے ۱۶۳

□	۸/باب ما يتعلق بالحديث و شرحه	□
---	-------------------------------	---

- ۱۱۰۱ ثقہ، جرح، تعدیل کی تعریف ۱۶۵
- ۱۱۰۲ کیا حضور ﷺ نے دس لاکھ احادیث بیان فرمائی ہیں؟ ۱۶۶
- ۱۱۰۳ کیا امام بخاری کے استاذ صحابی رسول ہیں؟ ۱۶۶
- ۱۱۰۴ گناہ کبیرہ کے مرتکب کا شائل ترمذی کی تعلیم دینا ۱۶۸
- ۱۱۰۵ احادیث کی دعائیں ہندی زبان میں شائع کرنا ۱۶۹
- ۱۱۰۶ حدیث متواتر کا انکار ۱۷۱
- ۱۱۰۷ اللہ کے مقابلہ میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا علم کتنا ہے؟ ۱۷۲
- ۱۱۰۸ إذا قاتل أحدکم..... علی صورتہ میں ہضمیر کا مرجع ۱۷۳
- ۱۱۰۹ جنت میں داخلہ قبل الحساب ہو گا یا بعد الحساب؟ ۱۷۴
- ۱۱۱۰ مال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہ ہونے والی حدیث کلاماً خذ ۱۷۵
- ۱۱۱۱ چار کروڑ نیکیوں کی دعاء حدیث سے ثابت ہے ۱۷۶
- ۱۱۱۲ حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد غسل کا حدیث سے ثبوت ۱۷۸
- ۱۱۱۳ چند حدیثوں کے مصداق کی تعیین ۱۷۹
- ۱۱۱۴ کیا دونوں ہاتھوں سے لینے دینے کے متعلق حدیث ہے؟ ۱۸۱
- ۱۱۱۵ ازواج مطہرات سے متعلق حدیث کی تحقیق ۱۸۲
- ۱۱۱۶ هذا الکلب علمنا السنة کی تشریح ۱۸۴
- ۱۱۱۷ حضرت آدمؑ کا حضور ﷺ کے وسیلے سے دعا مانگنے والی حدیث کلاماً خذ ۱۸۶

- ۱۱۱۷ "الماء من الماء" والی حدیث شریف منسوخ ہے ۱۸۷
- ۱۱۱۸ حضور ﷺ کا والدین کے لئے استغفار کی اجازت طلب کرنا ۱۸۸
- ۱۱۱۹ "الاسلام یعلو ولا یعلیٰ" والی حدیث کس کتاب میں ہے؟ ۱۹۰
- ۱۱۲۰ اصحابی کا لجوم کے ہم معنی حدیث ۱۹۱
- ۱۱۲۱ حدیث "سیدة اهل الجنة فاطمه" کی تحقیق ۱۹۲
- ۱۱۲۲ ڈوبتے سورج کے واپس آنے سے متعلق روایت کی تحقیق ۱۹۳
- ۱۱۲۳ سبحان ربك رب العزة الخ کی فضیلت سے متعلق روایت ۱۹۵
- ۱۱۲۴ چہرہ انور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈالنے والی روایت کی تحقیق ۱۹۶
- ۱۱۲۵ مٹی ڈالتے وقت آیت پڑھنے والی حدیث کی تحقیق ۱۹۷
- ۱۱۲۶ کیا حضور ﷺ کا شیطان آپ کا فرماں بردار ہو گیا تھا؟ ۱۹۸
- ۱۱۲۷ دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت برباد کرنا ۱۹۹
- ۱۱۲۸ دو بھائیوں میں صلح کر دینا نماز، روزہ اور صدقہ سے بہتر ۲۰۰
- ۱۱۲۹ حضرت آدم علیہ السلام کا دعاء میں حضور ﷺ کا واسطہ دینا ۲۰۱
- ۱۱۳۰ تاقیامت حریم شریفین میں کافر کی حکومت قائم نہ ہوگی ۲۰۳
- ۱۱۳۱ زبانی عبادت کا ثواب مردے کو بخشنے کا ثبوت حدیث شریف سے ۲۰۴
- ۱۱۳۲ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے پر سخت وعید والی حدیث ۲۰۶
- ۱۱۳۳ دو حدیثوں کی تحقیق ۲۰۷
- ۱۱۳۴ ۵۶ اعتراضات کتاب کی دو حدیثوں کے حوالہ پر اعتراض ۲۰۹
- ۱۱۳۵ "كنت نبيا و آدم بين الماء والطین" حدیث کی تحقیق ۲۱۱
- ۱۱۳۶ حضور ﷺ تشریف نہ لاتے پھر بھی دنیا قائم ہوتی کہنا کیسا ہے؟ ۲۱۵

- ۱۱۳۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے سے قبل دس سالہ بیچی کو زندہ درگور کرنا ۲۱۶
- ۱۱۳۸ پیرو جمعرات کے روز خدمت اقدس ﷺ میں اعمال پیش کئے جانے کی تحقیق ۲۱۸
- ۱۱۳۹ فاذا كانت غداة الفطر والی حدیث موضوع ہے یا ضعیف ۲۱۹
- ۱۱۴۰ یوم عاشوراء میں پیش آنے والی مشہور باتوں کی تحقیق ۲۲۰
- ۱۱۴۱ کیا فرأض کے بعد سر پکڑ کر ”یا قوی، یا نور“ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ ۲۲۱
- ۱۱۴۲ نماز سے فراغت کے بعد ہاتھ رکھ کر سر پر ”یا قوی“ پڑھنے سے متعلق حدیث کی تحقیق ۲۲۲
- ۱۱۴۳ میت کے ساتھ ہمزاد کے مدفون ہونے والی حدیث کی تحقیق ۲۲۳
- ۱۱۴۴ حدیث ”مسجد میں خرن کردہ تنگ فرشتہ منہ میں لے کر مسجد سے باہر جاتا ہے“ کی تحقیق ۲۲۵
- ۱۱۴۵ ابو بزرہ کے قول کی تحقیق ۲۲۶
- ۱۱۴۶ محدثین فقہاء اور اہل ادب کے نزدیک اشتمال صماء کی صورت ۲۲۷
- ۱۱۴۷ قربانی کے جانور سے متعلق ایک حدیث کی وضاحت ۲۲۸
- ۱۱۴۸ ”لاغیبة لفاسق ولا مجاہر“ کی وضاحت ۲۳۰
- ۱۱۴۹ صحیح بخاری کی ایک حدیث کی تشریح ۲۳۲
- ۱۱۵۰ ”إذا كذب العبد تباعد عنه الملائكة ميلا“ ۲۳۳
- ۱۱۵۱ صلوٰۃ الاستسقاء سے قبل تین روزے رکھنے سے متعلق ایک اثر ۲۳۴
- ۱۱۵۲ حدیث کے الفاظ ”أن تشیر بأصبع“ سے کیا مراد ہے؟ ۲۳۶
- ۱۱۵۳ حدیث ”تنکح المرأة لأربع الخ“ کا صحیح مفہوم ۲۳۷
- ۱۱۵۴ حدیث قیامت کے دن سورج سوانیزے پر ہوگا کا صحیح مطلب ۲۳۸
- ۱۱۵۵ حدیث ”عضوه بهن أبيه“ کا صحیح ترجمہ ۲۳۹
- ۱۱۵۶ حدیث میں لفظ سہام کا مفہوم ۲۴۱
- ۱۱۵۷ ”وقال ابن نمیر ملان“ کی وضاحت ۲۴۳

- ۱۱۵۸ ترمذی شریف میں ”من غیر وجه“ کا مطلب ۲۴۵
- ۱۱۵۹ ”یکفیه من ذلك رأس الجوزاء“ کی تشریح ۲۴۹
- ۱۱۶۰ ”إذا سفرتم في الأمور فاستعينوا.....“ کا صحیح مطلب ۲۵۰

□	۹ / باب ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة والموضوعة	□
---	--	---

- ۱۱۶۱ دو حدیثوں کی تحقیق اور غلط حدیث بیان کرنا کیسا ہے؟ ۲۵۳
- ۱۱۶۲ ”اطلبوا العلم ولو بالصين“ حدیث ہے یا نہیں؟ ۲۵۵
- ۱۱۶۳ ”تسافروا تصحوا“ والی حدیث کیسی؟ ۲۵۶
- ۱۱۶۴ حب الوطن من الإيمان ۲۵۷
- ۱۱۶۵ ”الدنيا جيفة“ حدیث ہے یا نہیں؟ ۲۵۹
- ۱۱۶۶ ”السؤال ذل“ حدیث ہے یا نہیں؟ ۲۶۰
- ۱۱۶۷ سؤرا المؤمن شفاء حدیث ہے؟ ۲۶۱
- ۱۱۶۸ ”علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل“ ۲۶۲
- ۱۱۶۹ ”كل قليل قصير فتنة.....“ کیا یہ حدیث ہے؟ ۲۶۳
- ۱۱۷۰ ”قوموا ليلها“ حدیث کی تحقیق ۲۶۳
- ۱۱۷۱ کیا لولاک لما خلقت الأفلاك حدیث ہے؟ ۲۶۵
- ۱۱۷۲ ”لولاک لما خلقت الأفلاك“ کی تحقیق ۲۶۶
- ۱۱۷۳ کیا ”من زار العلماء فقد زارني“ کے الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث ہے؟ ۲۶۷
- ۱۱۷۴ حدیث ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کی تحقیق ۲۶۸
- ۱۱۷۵ ”المدرسة بيتي والمسجد بيت الله“ کی تحقیق ۲۶۹
- ۱۱۷۶ ”المشورة أمانة“ کس درجہ کی حدیث ہے؟ ۲۷۰

- ۱۱۷۷ مشورہ کے بارے میں احادیث نبویہ ۲۷۰
- ۱۱۷۸ مشورہ سے متعلق حدیث ۲۷۱
- ۱۱۷۹ ایک واقعہ کی تحقیق ۲۷۲
- ۱۱۸۰ اکثر لوگ اور ایک چوتھائی لوگ ایماندار ہیں حدیث ہے یا نہیں؟ ۲۷۳
- ۱۱۸۱ بلوغ کے بعد والدین شادی نہ کریں تو ہر حیض پر نبی کے قتل کا گناہ ہوگا؟ ۲۷۵
- ۱۱۸۲ کیا بے نمازی عورت چار آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ ۲۷۶
- ۱۱۸۳ کیا تاش کھیلنا ستر بار کعبۃ اللہ کو ڈھانا اور ستر مرتبہ ماں سے زنا کرنا جیسا ہے؟ ۲۷۶
- ۱۱۸۴ تمام گناہ معاف کرانے والی نماز ۲۷۷
- ۱۱۸۵ جزائی سے بات کرتے وقت دستی سچکھے سے آڑ کرنا ۲۷۸
- ۱۱۸۶ جنبی کا غسل کے ذریعہ پاک ہونے سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق ۲۷۹
- ۱۱۸۷ حضور ﷺ پر عورت کوڑا ڈالتی تھی اس حدیث کی تحقیق ۲۸۰
- ۱۱۸۸ کیا حضرت بلالؓ کے سیاہ پن کا ٹیکہ جنتیوں کو لگایا جائے گا؟ ۲۸۱
- ۱۱۸۹ حیاۃ الحیوان کی ایک حدیث کی تحقیق ۲۸۱
- ۱۱۹۰ ایک حدیث کی تحقیق ۲۸۲
- ۱۱۹۱ کیا درود پڑھنے والے کی سانس سے بادل اور بادل کے ہر قطرہ سے سونا پیدا ہوتا ہے؟ ۲۸۳
- ۱۱۹۲ عہد نامہ میں بیان کردہ فضیلت کا ثبوت ۲۸۴
- ۱۱۹۳ فرائض پنجگانہ کے ترک کے گناہ سے متعلق حدیث ۲۸۵
- ۱۱۹۴ قیامت میں بے نمازیوں کو خنزیر بنا دئے جانے والی حدیث کی تحقیق ۲۸۶
- ۱۱۹۵ فاتحہ سے متعلق موضوع روایت ۲۸۶

□	۱۰/ باب الوعظ والنصيحة	□
---	------------------------	---

- ۱۱۹۶ عشاء کے بعد سیرت پاک کا جلسہ منعقد کرنے کا شرعی حکم ۲۸۸
- ۱۱۹۷ رات میں کتنی دیر جلسے کئے جاسکتے ہیں؟ ۲۸۹
- ۱۱۹۸ پروگرام کے موقع پر اجتماعی درود پڑھنے کا شرعی حکم ۲۹۲
- ۱۱۹۹ جلسہ میں شریک نہ ہو کر صرف دعاء میں شرکت کرنا ۲۹۴
- ۱۲۰۰ مسجد میں جلسہ کے دوران منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا ۲۹۵
- ۱۲۰۱ اذان فجر کے بعد تقریر کرنا کیسا ہے؟ ۲۹۶
- ۱۲۰۲ انجمن کا نام مجلس دعوت الخیر رکھنا ۲۹۷
- ۱۲۰۳ کیا داعی اسلام کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ۲۹۸
- ۱۲۰۴ برے کام سے رکتا اور روکنادونوں موجب ثواب ہے ۲۹۹
- ۱۲۰۵ منکر پر نکیر کا طریقہ ۳۰۰
- ۱۲۰۶ غلطی ہونے پر علی الاعلان ٹوکنا کیسا ہے؟ ۳۰۱
- ۱۲۰۷ حکمت و دانائی سے کسی کو تنبیہ کرنا ۳۰۲
- ۱۲۰۸ قبر پر ہونے والی منکرات و خرافات سے روکنے کا شرعی حکم ۳۰۳
- ۱۲۰۹ فسادات روکنے کی غرض سے پختہ قبر کو ڈھانا ۳۰۴
- ۱۲۱۰ ضروت سے زائد مسجد میں لائٹنگ کرنے سے روکنا ۳۰۵
- ۱۲۱۱ کیا داڑھی منڈے کے لئے وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے؟ ۳۰۶
- ۱۲۱۲ واعظ حلیمہ خاتون سے متعلق چند سوالات ۳۰۷
- ۱۲۱۳ چند مقررین کی قابل اعتراض باتوں کی تحقیق ۳۱۱

۵ / کتاب الدعوة و التبلیغ

	۱ / باب الدعوة و متعلقاتها	□
۳۱۴ کیا تبلیغ نبیوں والا کام ہے؟	۱۲۱۴
۳۱۶ ظہور اسلام کا مطلب	۱۲۱۵
۳۱۷ اسلام میں دعوت اسلام کا درجہ	۱۲۱۶
۳۱۸ دعوت ایمان افضل ہے یا دعوت اصلاح؟	۱۲۱۷
۳۲۲ مولانا الیاس کے متعلق مثل انبیاء عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟	۱۲۱۸
۳۲۳ تبلیغی جماعت بھی اعلائے کلمۃ اللہ کا مصداق	۱۲۱۹
۳۲۵ کیا خانقاہ اور جماعت کے علوم سے مستفید حضرات عالم کہلائے جانے کے مستحق ہیں؟	۱۲۲۰
۳۲۵ دعوت و تبلیغ سے متعلق علماء کانپور کے چند سوالات اور دارالعلوم دیوبند کی	۱۲۲۱
۳۳۲ تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کو بدعت کہنے کا حکم	۱۲۲۲
۳۳۶ تبلیغی جماعت پر شبہ کا جواب	۱۲۲۳
۳۳۸ تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات	۱۲۲۴
۳۴۶ تبلیغی جماعت پر اعتراض اور اس کا جواب	۱۲۲۵
۳۴۹ تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے؟	۱۲۲۶
۳۵۰ تبلیغی جماعت سے متعلق چند امور کا حکم	۱۲۲۷
۳۵۳ جماعت میں نکلنے کا مقصد اصلاح نفس ہے	۱۲۲۸
۳۵۴ تبلیغ والوں کا علماء کے لئے تین سال اور عوام کے لئے ڈیڑھ سال مقرر کرنا..	۱۲۲۹
۳۵۵ چلہ اور چار مہینے کی تعیین میں کیا حکمت؟	۱۲۳۰
۳۵۷ چلہ کی خصوصیت	۱۲۳۱

- ۱۲۳۲ کیا دو رنبت وصحابہ میں کوئی صحابی تبلیغ کی خاطر مسجد میں ٹھہرے ہیں؟ ۳۵۸
- ۱۲۳۳ تبلیغ والوں کا مسجد میں سونا ۳۶۰
- ۱۲۳۴ تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں ٹھہرنا ۳۶۱
- ۱۲۳۵ تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں قیام کرنا ۳۶۳
- ۱۲۳۶ تبلیغ دین کی خاطر مسجد میں قیام کرنا ۳۶۵
- ۱۲۳۷ تبلیغ والوں کا مسجد میں قیام و طعام ۳۶۶
- ۱۲۳۸ تبلیغی جماعت والوں کا مساجد میں سونا ۳۶۷
- ۱۲۳۹ قرآن کی تعلیم افضل ہے یا گشت؟ ۳۶۸
- ۱۲۴۰ کیا گشت کا عمل قرآن سے بھی اونچا ہے؟ ۳۷۰
- ۱۲۴۱ گشت کرنا اور لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ۳۷۱
- ۱۲۴۲ گشت کرنے کے وقت مسجد سے باہر نکل کر دعا کرنے کا ثبوت ۳۷۲
- ۱۲۴۳ گشت کر کے نماز پڑھنے پر سات لاکھ نمازوں کا ثواب ۳۷۳
- ۱۲۴۴ ہفتہ واری گشت میں مسجد کے دروازہ پر کسی کو کھڑا کرنا ۳۷۵
- ۱۲۴۵ مختلف مقامات سے آنے والی تبلیغی جماعت میں شرکت ۳۷۵
- ۱۲۴۶ ۲۵ دسمبر میں تبلیغی اجتماع کا حکم ۳۷۶
- ۱۲۴۷ کیا اللہ کے راستہ میں جانا حضور ﷺ کی زیارت سے افضل ہے؟ ۳۷۸
- ۱۲۴۸ اصلاح مدرسہ میں ہے یا تبلیغی جماعت میں؟ ۳۷۹
- ۱۲۴۹ کیا تبلیغ والوں پر جہاد وغیرہ کی فضیلت سے متعلق احادیث صادقہ آسکتی ہیں؟ ۳۸۱
- ۱۲۵۰ کیا طلباء کے لئے بیان کی گئی فضیلت تبلیغ کرنے والوں پر صادق آتی ہے؟ .. ۳۸۳
- ۱۲۵۱ کیا جماعت میں نکلنے والے کو طالب علم کہہ سکتے ہیں؟ ۳۸۴
- ۱۲۵۲ کیا جماعت میں جانے والے کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ ۳۸۵

۳۸۶	مکتب بند کر کے تبلیغی جماعت میں جانا	۱۲۵۳
۳۸۷	تبلیغ میں بھیجے گئے اساتذہ کو تنخواہ دینا	۱۲۵۴
۳۸۸	تبلیغی نصاب کی عبارت پر اعتراض	۱۲۵۵
۳۸۹	فضائل اعمال کے چند واقعات پر اعتراض کا جواب	۱۲۵۶
۳۹۱	فضائل اعمال سے متعلق ایک اعتراض	۱۲۵۷
۳۹۳	کیا جنت البقیع میں مدفون شخص کو عذاب ہو سکتا ہے؟	۱۲۵۸
۳۹۶	سیرت کے جلسہ کی وجہ سے مشورہ کو موخر کرنا	۱۲۵۹
۳۹۷	مساجد میں تبلیغی نصاب سنانے کا موزوں وقت	۱۲۶۰
۳۹۸	فضائل اعمال کی تعلیم کس وقت کی جائے؟	۱۲۶۱
۴۰۰	بعد نماز فجر دعا سے قبل تبلیغی نصاب پڑھنا	۱۲۶۲
۴۰۰	کیا ”فضائل اعمال“ سننے سے تلاوت قرآن کا ثواب مل جائے گا؟	۱۲۶۳
۴۰۲	فضائل اعمال کی تعلیم کو ”حدیث پاک پڑھی جائے گی“ سے تعبیر کرنے کا حکم	۱۲۶۴
۴۰۳	”فضائل اعمال“ کی تعلیم میں شرکت نہ کر کے وظیفہ پڑھنا	۱۲۶۵
۴۰۴	مانک میں ”فضائل اعمال“ کی تعلیم	۱۲۶۶
۴۰۵	مسجد میں نماز کے بعد مانک میں ”فضائل اعمال“ پڑھنا	۱۲۶۷
۴۰۷	کیا عشاء کے بعد تعلیم کرنا سمر میں داخل ہے؟	۱۲۶۸
۴۰۹	داڑھی منڈے شخص کا تعلیم کرنا	۱۲۶۹
۴۱۱	تبلیغی جماعت میں جانے والے ان پڑھ مرد و عورت کا وعظ کرنا	۱۲۷۰
۴۱۳	اپنی مرضی سے تبلیغی جماعت کا امیر بننا	۱۲۷۱
۴۱۴	ادنی جنتی کی جنت دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی	۱۲۷۲
۴۱۶	قرض لے کر جماعت میں جانا	۱۲۷۳

- ۱۲۷۴ اہل خانہ کے حقوق میں کوتاہی کے ساتھ تبلیغی اصول کی پابندی ۴۱۸
- ۱۲۷۵ اہل و عیال کو محتاج چھوڑ کر جماعت میں جانا جائز نہیں؟ ۴۱۹
- ۱۲۷۶ بیمار والدہ کی بات نہ مان کر جماعت میں جانا؟ ۴۲۰
- ۱۲۷۷ کمزور والد کی خدمت کریں یا جماعت میں جائیں؟ ۴۲۲
- ۱۲۷۸ جماعت کا کام کرتے ہوئے والدین کی فرماں برداری لازم ہے ۴۲۳
- ۱۲۷۹ کاروباری اوقات میں کسی ایک شریک کا تبلیغی میٹنگ میں شرکت کرنا ۴۲۶
- ۱۲۸۰ تبلیغی اجتماعات میں دوکانیں لگانے سے متعلق چند سوالات ۴۲۷
- ۱۲۸۱ تبلیغ کے لئے جانے والے صحابی کے مردہ گدھے کا زندہ ہونا ۴۲۸
- ۱۲۸۲ زکوٰۃ کی رقم جماعت میں خرچ کرنے سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۴۲۹
- ۱۲۸۳ کیا تبلیغی اجتماعات کے لئے صدقات واجبہ کی رقوم استعمال کر سکتے ہیں؟ ۴۳۲
- ۱۲۸۴ عطیہ میں دی ہوئی رقم کی واپسی نہیں ہوتی ۴۳۵
- ۱۲۸۵ تبلیغی اجتماع کی باقی ماندہ رقم سے مرکز کے لئے جزیئر خریدنا ۴۳۷
- ۱۲۸۶ دعوت و تبلیغ کے لئے بنائی گئی عمارت میں اسکول قائم کرنا ۴۳۸
- ۱۲۸۷ تبلیغی جماعت کے پنڈال میں تین صف درمیان میں چھوڑ کر نماز پڑھنا ۴۳۹
- ۱۲۸۸ ایک ہی شہر کے مختلف محلوں میں چلہ لگانے والی جماعت مقیم ہے یا مسافر؟ ۴۴۰
- ۱۲۸۹ ایک شہر کی متعدد مساجد میں قیام کرنے والی چلہ کی جماعت مسافر ہے یا مقیم؟ ۴۴۱
- ۱۲۹۰ ”مرکز نظام الدین“ کے اکابر کی نیت اقامت معتبر ہے یا نہیں؟ ۴۴۳

۲ / باب: مستورات کی جماعت	□
---------------------------	---

- ۱۲۹۱ مستورات کی جماعت کی شرعی حیثیت ۴۴۷
- ۱۲۹۲ مستورات کا جماعت میں نکلنا کیسا ہے؟ ۴۴۸

۱۲۹۳	مستورات کی جماعت سے متعلق تحقیقی فتویٰ	۲۵۰
۱۲۹۴	عورتوں کا جماعت میں نکلنا	۲۵۶
۱۲۹۵	چند شرائط کے ساتھ مستورات کا جماعت میں جانا	۲۵۷
۱۲۹۶	عورتوں کا تبلیغ دین اور تعلیم دین کے لئے باہر نکلنا	۲۶۰
۱۲۹۷	مستورات کی جماعت اور اجتماعات کا شرعی حکم	۲۶۳
۱۲۹۸	مستورات کی جماعت کا حکم	۲۶۸
۱۲۹۹	مستورات کی جماعت کا حکم	۲۶۹
۱۳۰۰	مستورات کی جماعت سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۲۷۲
۱۳۰۱	عورتوں کے لئے جماعت میں نکلنے کا حکم	۲۷۴
۱۳۰۲	مستورات کی جماعت کی شرعی حیثیت	۲۷۷
۱۳۰۳	خواتین کا محرم کے ساتھ تبلیغ دین کے لئے سفر کرنا	۲۷۹
۱۳۰۴	مستورات کا با محرم تبلیغی جماعت میں سفر کرنا	۲۸۰
۱۳۰۵	عورتوں کا گھر سے باہر نکل کر تبلیغ کرنا	۲۸۲
۱۳۰۶	مستورات کا جماعت میں بیان کرنا	۲۸۳
۱۳۰۷	مستورات کے اجتماع کا حکم	۲۸۵
۱۳۰۸	خالص مستورات کے اجتماع میں عورت کا بیان اور دعا کرنا	۲۸۶
۱۳۰۹	مستورات کی جماعت پر اعتراض اور جواب	۲۸۷
۱۳۱۰	مستورات کا جماعت میں نکلنے کا حکم	۲۸۹
۱۳۱۱	مستورات کی جماعت پر اعتراض کا جواب	۲۹۱
۱۳۱۲	کیا عورت تبلیغی جماعت میں جاسکتی ہے؟	۲۹۷
۱۳۱۳	مستورات کی جماعت کا شرعی حکم	۲۹۸
۱۳۱۴	مستورات کی جماعت کے بارے میں فتاویٰ دارالعلوم پر نظر ثانی	۵۰۲

- ۱۳۱۵ مستورات کے سلسلے میں مدرسہ شاہی کافتوی دارالعلوم کے فتویٰ کے خلاف نہیں... ۵۱۰
- ۱۳۱۶ عورتیں نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتیں تو جماعت میں کیسے اعتراض کا جواب... ۵۱۳
- ۱۳۱۷ دودھ پیتی بچی کو چھوڑ کر جماعت میں جانے کا حکم..... ۵۱۸

۵۲۲	۶ / کتاب السلوک والإحسان	□
-----	--------------------------	---

- ۱۳۱۸ شریعت اور طریقت کے درمیان فرق ۵۲۲
- ۱۳۱۹ مدرسہ اور خانقاہ کے علوم میں فرق ۵۲۳
- ۱۳۲۰ اصلاح کے لئے بیعت کافی ہے یا جماعت میں نکلنا بھی ضروری ہے؟ .. ۵۲۴
- ۱۳۲۱ بیعت ہونے کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات ۵۲۷
- ۱۳۲۲ کیا حضرت حاجی امداد اللہ تہج شریعت تھے؟ ۵۳۲
- ۱۳۲۳ پیر کے اوصاف کیسے ہوں؟ ۵۳۲
- ۱۳۲۴ مرتکب کبیرہ سے بیعت ہونے کا حکم ۵۳۴
- ۱۳۲۵ مختلف منکرات کے مرتکب شخص سے بیعت کا حکم ۵۳۸
- ۱۳۲۶ ”منکوحۃ الغیر“ سے شادی کرنے والے سے بیعت ہونا ۵۴۷
- ۱۳۲۷ عرس و قوالی کرانے اور قبروں پر سجدہ کرنے والے سے بیعت ہونا ۵۴۸
- ۱۳۲۸ مستحق خلافت کون ہے؟ ۵۴۹
- ۱۳۲۹ خواب کی خلافت اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی شرعی حیثیت ... ۵۵۰
- ۱۳۳۰ ”دوسروں کو اللہ اللہ سکھاؤ“ کہنے سے خلافت کا حکم ۵۵۵
- ۱۳۳۱ جو کسی کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہے؟ ۵۵۵
- ۱۳۳۲ عورتوں کو خلافت دینا ۵۵۶
- ۱۳۳۳ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے؟ ۵۵۷
- ۱۳۳۴ کیا انسان کا تصور عبادت ہے؟ ۵۵۸

- ۱۳۳۵ کشف و کرامات کی شرعی حیثیت ۵۵۸
- ۱۳۳۶ کشف و مکاشفہ کا شرعی حکم ۵۶۰
- ۱۳۳۷ کشفِ قبور کا حکم ۵۶۲
- ۱۳۳۸ کیا بطور کشف و کرامت بیداری میں حضور ﷺ کی زیارت ممکن ہے؟ .. ۵۶۳
- ۱۳۳۹ کیا اولیاء کے جنازوں میں فرشتے شریک ہوتے ہیں؟ ۵۶۶
- ۱۳۴۰ کیا ولی کی قبر سے روشنی نکلتا، مردہ کا بات کرنا اور بیک وقت دو مجلسوں میں شرکت کرنا ممکن ہے؟ ۵۶۶
- ۱۳۴۱ کیا کتے سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵۶۹
- ۱۳۴۲ مفرد اسم ذات کا ذکر اور ذکرِ جہری ۵۷۰
- ۱۳۴۳ شیخ کا بچا ہوا تبرک کھانے پینے کا حکم ۵۷۲
- ۱۳۴۴ مریدہ کا شیخ کا رومال کفن میں بطور تبرک استعمال کرنا ۵۷۳
- ۱۳۴۵ مسجد میں اجتماعی ذکرِ جہری کرنے کا شرعی حکم ۵۷۵
- ۱۳۴۶ چند آدمیوں کا اکٹھا ہو کر ذکرِ جہری کرنا ۵۷۶
- ۱۳۴۷ لاؤڈ اسپیکر میں ذکر کرنا ۵۷۷
- ۱۳۴۸ ”لا الہ الا اللہ حافظ جمال اللہ“ کی ضرب لگانا ۵۷۸
- ۱۳۴۹ ختم خواجگان میں خلیفہ کا کچھ اضافہ کرنا ۵۷۸
- ۱۳۵۰ ”هُوَ الْأَسْمَاءُ سِرُّنَا هُوَ“ کا وظیفہ پڑھنا ۵۸۰
- ۱۳۵۱ ”مناجات مقبول“ میں اضافہ شدہ اشعار کی تحقیق ۵۸۰
- ۱۳۵۲ کیمیائے سعادت کا شرعی حکم ۵۸۲
- ۱۳۵۳ شیخ کی تعریف میں مبالغہ بھرا خط لکھنے اور اس کو شائع کرنے کا حکم ۵۸۲
- ۵۸۳ قابل استفسار عبارات اور جملے مندرجہ ذیل ہیں: ۵۸۳
- ۱۳۵۴ بزرگان دین کی قدم بوسی اور دست بوسی کی شرعی حیثیت ۵۸۷
- ۱۳۵۵ مریدین کا لوٹے وقت شیخ کی طرف پیٹھ نہ کرنا ۵۸۹

- ۱۳۵۶ خرقہ تبرک کیا ہے؟ ۵۹۰
- ۱۳۵۷ اولیاء کو قدرت تصرف حاصل ہے یا نہیں؟ ۵۹۱
- ۱۳۵۸ تمباکو استعمال کرنے والے پیر کا حکم ۵۹۲

۵۹۳	۷ / کتاب الأدعیۃ والأذکار	□
-----	---------------------------	---

- ۱۳۵۹ (الف) حضور ﷺ سے کن کن مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے؟ ۵۹۳
- ۱۳۵۹ (ب) دعا کے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھانا ۵۹۴
- ۱۳۶۰ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ۵۹۵
- ۱۳۶۱ دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان قدرے فاصلہ رکھنا ۵۹۶
- ۱۳۶۲ بنا ہاتھ پھیلائے دعا کرنے کا حکم ۵۹۷
- ۱۳۶۳ اجتماعی دعائیں جہراً آمین کہنا ۵۹۸
- ۱۳۶۴ اجتماعی دعائیں جمع کا صیغہ استعمال کرنا ۵۹۹
- ۱۳۶۵ عورت کے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ۶۰۲
- ۱۳۶۶ کیا دعا مانگتے وقت عورت ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر رکھے گی؟ ۶۰۳
- ۱۳۶۷ دعا کو ختم کرنے کا مسنون طریقہ ۶۰۴
- ۱۳۶۸ ختم دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ۶۰۵
- ۱۳۶۹ ”بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پر دعا کو ختم کرنا ۶۰۶
- ۱۳۷۰ دعا کی قبولیت کے اوقات ۶۰۹
- ۱۳۷۱ اذکار سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ۶۱۰
- ۱۳۷۲ ذکر اللہ کی جگہ پر کب تک رحمت نازل ہوتی رہتی ہے؟ ۶۱۲
- ۱۳۷۳ کیا ذکر اللہ سے بخل اور جہاد میں نہ جانے کی تلافی ہو سکتی ہے؟ ۶۱۴
- ۱۳۷۴ دعائیں سعودیوں اور یہودیوں پر لعنت کرنا ۶۱۴

- ۱۳۷۵ کیا ایسی کوئی سنت ہے جو تمام سنتوں کے قائم مقام ہو؟ ۶۱۶
- ۱۳۷۶ نورِ الہی کے توسل سے دعا مانگنا ۶۱۹
- ۱۳۷۷ حضور ﷺ اور بزرگوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا ۶۲۰
- ۱۳۷۸ وسیلہ سے دعا مانگنا اور غیر اللہ سے حاجت روائی کرنا ۶۲۱
- ۱۳۷۹ نئی دوکان میں عالم کو بلوا کر دعا کروانا ۶۲۳
- ۱۳۸۰ مغرب سے قبل دعا کا ثبوت ۶۲۴
- ۱۳۸۱ اذانِ مغرب سے قبل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ۶۲۵
- ۱۳۸۲ مغرب کی نماز سے قبل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ۶۲۷
- ۱۳۸۳ مغرب کی نماز سے قبل ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ۶۲۸
- ۱۳۸۴ مغرب کی اذان کے وقت دعا کرنا ۶۲۹
- ۱۳۸۵ مغرب سے قبل دعا کا ثبوت ۶۳۰
- ۱۳۸۶ غروبِ آفتاب سے قبل دعا مانگنا ۶۳۲
- ۱۳۸۷ مغرب کی اذان کے بعد دعا کرنا ۶۳۴
- ۱۳۸۸ غروب سے قبل دعاؤں میں مشغول ہو جانا ۶۳۵
- ۱۳۸۹ عشاء کے بعد اجتماعی دعا پراسرار کرنا ۶۳۷
- ۱۳۹۰ مصیبت میں نجات کی دعا کریں یا صبر کی؟ ۶۴۰
- ۱۳۹۱ ”سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا إله إلا اللہ“ کی فضیلت ۶۴۲
- ۱۳۹۲ کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے ستون کا ہلنا ۶۴۳
- ۱۳۹۳ مشورہ کی دعا کا ثبوت ۶۴۴
- ۱۳۹۴ دعائے گنج العرش کی شرعی حیثیت ۶۴۵
- ۱۳۹۵ قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا ۶۴۶

۶۳۷	کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۱۳۹۶
۶۳۸	دامی مصائب سے نجات اور ادائے کئی قرض کی دعا	۱۳۹۷
۶۵۰	گھر و مکان کی پریشانی سے نجات دلانے والی دعا و عمل	۱۳۹۸
۶۵۱	ایک دعا کی تحقیق	۱۳۹۹
۶۵۲	”اللہم صل علی محمد النبی الخ“ کے معمول کا نظام بنانا	۱۴۰۰
۶۵۳	ٹی وی دیکھتے ہوئے ذکر کرنا	۱۴۰۱
۶۵۵	ایک ہی صفحہ پر دعائے طعام اور گائتری منتر لکھنا	۱۴۰۲
۶۵۵	روضہ اقدس پر ہلکی آواز میں درود پڑھنا	۱۴۰۳
۶۵۷	حضور ﷺ کے اسم مبارک پر کہاں کہاں درود پڑھا جائے؟	۱۴۰۴
۶۵۹	سب سے افضل درود	۱۴۰۵
۶۵۹	”اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی و آل سیدنا مولانا محمد“	۱۴۰۶
۶۶۰	روضہ اقدس پر حضور ﷺ سے تزکیہ کے لئے کہنا	۱۴۰۷
۶۶۲	جماع اور رفعِ حدث کی حالت میں حضور ﷺ پر درود بھیجنا	۱۴۰۸
۶۶۲	”صلی اللہ علیہ وسلم“ کی جگہ ادھور ادرو پڑھنا	۱۴۰۹
۶۶۴	ایک درود شریف اور اس کی تحقیق	۱۴۱۰
۶۶۵	ایک درود سے متعلق سوال	۱۴۱۱
۶۶۸	درود ابراہیمی کا پہلا نکلنا پڑھنے سے سنت کی ادائے گی کا حکم	۱۴۱۲
۶۶۹	اجتماعی طور پر آیت کریمہ یا درود شریف وغیرہ کا سلسلہ جاری کرنا	۱۴۱۳
۶۷۱	ہر روز ”سورہ یسین“ ختم کرنے کے بعد دعا کرنا	۱۴۱۴
۶۷۲	(الف) جب موت کی یاد ستائے تو کیا کرے؟	۱۴۱۵
۶۷۳	(ب) سجدہ کی حالت میں دعا مانگنے کا ثبوت	۱۴۱۵





فہرست مضامین

۸ / کتاب الطہارۃ

صفحہ نمبر	باب ما يتعلق بالوضوء	مسئلہ نمبر
۳۳	۱ / باب ما يتعلق بالوضوء	□
۳۳	وضو کی فضیلت	۱۴۱۶
۳۵	وضو کا حکم کب نازل ہوا؟	۱۴۱۷
۳۶	وضو کے بعد کی دعا	۱۴۱۸
۳۷	مسواک صرف مردوں کے لئے سنت ہے یا عورتوں کے لئے بھی؟	۱۴۱۹
۳۸	مسواک کی موٹائی و لمبائی کیا ہونی چاہئے؟	۱۴۲۰
۴۰	مسواک نہ ہونے کی صورت میں کیا کریں؟	۱۴۲۱
۴۱	وضو سے کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟	۱۴۲۲
۴۲	سر کا مسح بھولنے کا حکم	۱۴۲۳
۴۴	مسح کا مسنون طریقہ	۱۴۲۴
۴۶	کیا مسح علی الراس کے لئے ماء جدید لینا ضروری ہے؟	۱۴۲۵
۴۷	وضو میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک کتنی دفعہ دھونا سنت ہے؟	۱۴۲۶
۴۸	وضو میں تثلیث کی سنت کب ادا ہوتی ہے؟	۱۴۲۷
۴۹	نماز جنازہ یا کسی اور عبادت کے لئے کئے گئے وضو سے فرض نماز پڑھنا	۱۴۲۸
۵۱	جنازہ کے لئے کئے گئے وضو یا یتیم سے نماز پنجگانہ پڑھنے کا حکم	۱۴۲۹

- ۱۴۳۰ وضو میں قبلہ کی طرف پشت کرنا ۵۲
- ۱۴۳۱ وضو سے پہلے پیر تر کرنے کا حکم ۵۳
- ۱۴۳۲ وضو کے لئے دوسرے سے پانی منگانے کا حکم ۵۴
- ۱۴۳۳ کیا استنجاء میں استعمال شدہ لوٹے سے وضو کرنا جائز ہے؟ ۵۵
- ۱۴۳۴ درمیان وضو سلام اور اس کا جواب ۵۷
- ۱۴۳۵ دوران وضو یعنی یاد نیادی باتیں کرنے کا حکم ۵۹
- ۱۴۳۶ دوران وضو چار یا پانچ مرتبہ منہ دھلنے کا حکم ۶۰
- ۱۴۳۷ بہت دیر تک وضو کرنے کا حکم ۶۱
- ۱۴۳۸ وضو کے بعد کھڑے ہو کر چلو سے ٹنکی کا پانی پینا ۶۲
- ۱۴۳۹ غل یا حوض وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بقیہ پانی کس طرح چپے؟ ۶۳
- ۱۴۴۰ کیا وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا مسنون ہے؟ ۶۴
- ۱۴۴۱ گرم پانی کی حصول یا بانی کے لئے ٹھنڈا پانی بہانے کا حکم ۶۵
- ۱۴۴۲ ووٹ کی روشنائی ناخن پر جم جائے تو وضو کا حکم ۶۶
- ۱۴۴۳ اعضائے وضو میں لگی ہوئی روشنائی و سفیدہ کا حکم ۶۷
- ۱۴۴۴ چوری کی بجلی سے کئے گئے وضو کا حکم ۶۸
- ۱۴۴۵ خروج ریح پر ہاتھ منہ دھونے کا حکم تعبدی ہے؟ ۷۰
- ۱۴۴۶ کیا ٹخنوں سے نیچے پانچا منہ پہننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ۷۰
- ۱۴۴۷ کیا عمدہ آستر کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ۷۱
- ۱۴۴۸ محض کشف عورت سے وضو نہیں ٹوٹتا ۷۲
- ۱۴۴۹ کیا دودھ پلانا ناقض وضو ہے؟ ۷۳
- ۱۴۵۰ پستان سے دودھ نکلنا ناقض وضو ہے یا نہیں؟ ۷۴
- ۱۴۵۱ سجدہ میں کون سی ہیئت نوم ناقض وضو ہے؟ ۷۵

- ۱۴۵۲ ایسی کون سی ٹیک ہے جس کو ہٹانا ممکن نہیں؟ ۷۶
- ۱۴۵۳ انجکشن سے خون نکالنے یا بڑے مچھر، چچڑی کے کاٹنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ۷۷
- ۱۴۵۴ کیا شراب پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ۷۸
- ۱۴۵۵ مذی ناقض وضو ہے موجب غسل نہیں؟ ۸۰

۸۱	۲/ باب ما يتعلق بالاستنجاء	□
----	----------------------------	---

- ۱۴۵۶ کیا استنجاء میں پانی استعمال کرنا ضروری ہے؟ ۸۱
- ۱۴۵۷ ٹیشو پیپر سے استنجاء کا حکم ۸۲
- ۱۴۵۸ ہندوستان میں قدمچہ کس سمت میں رکھنا چاہئے؟ ۸۳
- ۱۴۵۹ کیا سر ڈھک کر استنجاء کرنا مسنون ہے؟ ۸۷
- ۱۴۶۰ دوران استنجاء بایاں ہاتھ پیٹ پر اور دایاں ہاتھ سر پر رکھنے کا حکم ۸۷
- ۱۴۶۱ شبہ کی بنا پر درمیانی حصہ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ۸۹
- ۱۴۶۲ بیت الخلاء میں تھوکنے کا شرعی حکم ۹۰

۹۱	۳/ باب ما يتعلق بالغسل	□
----	------------------------	---

- ۱۴۶۳ بلوغت کی عمر ۹۱
- ۱۴۶۴ لڑکا اور لڑکی شرعاً کب بالغ شمار ہوتے ہیں؟ ۹۲
- ۱۴۶۵ لیس دار پانی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ۹۳
- ۱۴۶۶ بغیر انزال کے جماع کرنے سے غسل کا حکم ۹۴
- ۱۴۶۷ بلا انزال محض غیوبت حشفہ موجب غسل ہے؟ ۹۵
- ۱۴۶۸ بلا انزال خواب میں جماع کرنے سے غسل کا حکم ۹۶
- ۱۴۶۹ غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم ۹۷
- ۱۴۷۰ کیا غسل کے وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ۹۸

- ۱۴۷۱ غسل خانہ میں برہنہ نہانا اور حضرت ایوب اور موسیٰ علیہما السلام کا برہنہ نہانا ۹۸
- ۱۴۷۲ کیا غسل خانہ میں برہنہ کرنا جائز ہے؟ ۱۰۰
- ۱۴۷۳ غسل خانہ میں ننگے نہانے کی شرعی حیثیت ۱۰۱
- ۱۴۷۴ برہنہ غسل کرنے والے کا اسی غسل سے نماز پڑھنے کا حکم ۱۰۲
- ۱۴۷۵ جنبی شخص ٹب سے پانی کیسے نکالے؟ ۱۰۳
- ۱۴۷۶ داڑھ میں مسالہ بھرے ہونے کی صورت میں غسل کا حکم ۱۰۴
- ۱۴۷۷ کیا بیوی سے صحبت کے لئے غسل کرنا ضروری ہے؟ ۱۰۵
- ۱۴۷۸ دانتوں کا کیپ صحت غسل کے لئے مانع نہیں؟ ۱۰۶

□	۳ / باب ما يتعلق بالمیاء والآبار	۱۰۸
---	----------------------------------	-----

- ۱۴۷۹ حوض شرعی کی مقدار ۱۰۸
- ۱۴۸۰ ستون اور نواریہ درودہ کی مقدار میں مانع ہیں؟ ۱۰۹
- ۱۴۸۱ پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ ۱۱۰
- ۱۴۸۲ ٹنکیوں کو پاک کرنے کا طریقہ ۱۱۱
- ۱۴۸۳ کنویں میں آدمی کے داخل ہونے سے کنویں کی ناپاکی کا حکم ۱۱۳
- ۱۴۸۴ کنویں کا سارا پانی نکالنے کا مسئلہ خاص ہے یا عام؟ ۱۱۴
- ۱۴۸۵ ناپاک کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ ۱۱۵
- ۱۴۸۶ جس کنویں میں بکرے نے پیشاب کر دیا، اس کی پاکی کا طریقہ ۱۱۶
- ۱۴۸۷ آب خورہ سے استنجاء کرنے کا حکم ۱۱۷
- ۱۴۸۸ آب زمزم سے وضو و غسل کی شرعی حیثیت ۱۱۹
- ۱۴۸۹ کنویں کی ناپاکی کا علم نہ ہو تو نمازوں کا عادیہ کب سے کریں؟ ۱۲۰
- ۱۴۹۰ پھولا ہوا کتا کنویں میں پایا گیا تو کتنی نمازیں لوٹائیں؟ ۱۲۱

- ۱۴۹۱ ٹنکی کے اندر پرندہ پھول پھٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ۱۴۳
- ۱۴۹۲ ٹنکی میں میڈک مرنے کے بعد پھول کر پھٹ جائے ۱۴۴
- ۱۴۹۳ کنویں میں چپل گر جائے تو کتنا پانی نکالیں؟ ۱۴۶
- ۱۴۹۴ وہ دردہ کنویں میں پیشاب کرنے کا حکم ۱۴۷
- ۱۴۹۵ جس بورنگ کو ۶۰ فٹ پر چھوڑ دیا جائے، اس کے پانی کا حکم ۱۴۸
- ۱۴۹۶ (الف) بیت الخلاء کے گڑھے سے کنویں کی دوری کتنی ہو؟ ۱۴۹
- ۱۴۹۶ (ب) کیا گند اپانی فلٹر کرنے سے پاک ہو جائے گا؟ ۱۳۰
- ۱۴۹۷ ہینڈ پائپ کے قریب بیت الخلاء بنوانا ۱۳۵
- ۱۴۹۸ کیا چوری کی بجلی سے بھرے گئے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ ۱۳۹
- ۱۵۹۹ چوری کی بجلی سے ٹنکی میں پانی بھرنے اور اس سے کئے گئے وضو و غسل کا حکم ۱۴۰
- ۱۵۰۰ سرکاری ٹنکی کا پانی بغیر اجازت استعمال کرنا ۱۴۱
- ۱۵۰۱ کیا چوری کی بجلی سے حاصل شدہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ۱۴۲
- ۱۵۰۲ حرام کمائی سے لگائے گئے کنویں یا حوض سے نکلنے والے پانی کا حکم ۱۴۳
- ۱۵۰۳ مسجد میں چوری کی بجلی سے پانی گرم کرنے اور وضو و نماز کا حکم ۱۴۴
- ۱۵۰۴ غیر قانونی طور پر ہیٹر سے گرم کئے ہوئے پانی سے وضو و نماز کا حکم ۱۴۵
- ۱۵۰۵ دائمی شراب پینے والے کے پسینہ اور جھوٹے کا حکم ۱۴۶
- ۱۵۰۶ کیا ناپاک پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ ۱۴۸
- ۱۵۰۷ ناپاک ٹنکی کے پانی سے دھوئے ہوئے گوشت اور کپڑوں کا حکم ۱۴۹
- ۱۵۰۸ کیا ٹنکی میں پانی آنے والے اور پانی نکلنے والے لٹل کو کھولنے سے ۱۵۰
- ۱۵۰۹ ٹنکی میں گلہری مر کر پھول کر پھٹ گئی ۱۵۱
- ۱۵۱۰ شامی کی ایک عبارت کی وضاحت ۱۵۲

۱۵۵	۵/ باب ما يتعلق بالتيمم	□
-----	-------------------------	---

۱۵۵ کیا مريض تيمم کر سکتا ہے؟	۱۵۱۱
۱۵۶ کیا بیماری کی وجہ سے تيمم کرنا جائز ہے؟	۱۵۱۲
۱۵۷ ڈاکٹر چہرہ پر پانی لگانے سے منع کرے تو وضو کا حکم	۱۵۱۳
۱۵۸ ٹرین میں حالت جنابت میں تيمم کرنے کا حکم	۱۵۱۴
۱۵۸ جنابت کا تيمم کرنے والا وضو کے بقدر پانی پر قادر ہو تو کیا حکم ہے؟ ...	۱۵۱۵
۱۶۰ جنابت سے تيمم کر کے امامت کرنا	۱۵۱۶
۱۶۱ تيمم کے پیچھے متوضیٰ کی نماز کا حکم	۱۵۱۷
۱۶۳ جنابت کے تيمم سے نماز پڑھنا درست ہے، الگ سے وضو کی ضرورت نہیں	۱۵۱۸
۱۶۴ تيمم سے پڑھی گئی نمازوں کے اعادہ کا حکم	۱۵۱۹
۱۶۶ نماز کے لئے کئے گئے تيمم سے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم	۱۵۲۰
۱۶۷ پینٹ والی دیوار پر تيمم کا حکم	۱۵۲۱
۱۶۸ مسجد کی دیوار پر تيمم کرنا درست ہے؟	۱۵۲۲

۱۶۹	۶/ باب المسح على الخفين	□
-----	-------------------------	---

۱۶۹ موزے پر مسح کی شرائط کیا ہیں؟	۱۵۲۳
۱۷۰ وضو کے کچھ دیر کے بعد موزہ پر مسح کرنے کا حکم	۱۵۲۴
۱۷۱ خفین پر مسح کا جواز، مسح کی مدت اور اس کی مقدار	۱۵۲۵
۱۷۳ صحت مند شخص کا خفین پر مسح کرنا جائز ہے؟	۱۵۲۶
۱۷۵ مقیم نے ایک دن ایک رات سے قبل سفر شروع کیا اور مسافر نے تین دن	۱۵۲۷
۱۷۶ خفین کے اوپر سوتی موزہ پہن کر مسح کرنے کا حکم	۱۵۲۸
۱۷۷ دبیز موٹے اونٹنی موزہ پر مسح کا حکم	۱۵۲۹

- ۱۵۳۰ سوتی موزہ پر خفین پہن کر مسح کرنے کا حکم ۱۷۹
- ۱۵۳۱ کیا موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ ۱۸۰
- ۱۵۳۲ موزے کی چین ٹخنوں سے نیچے تلوے تک کھلنے کا حکم ۱۸۱
- ۱۵۳۳ موزے پر مسح سے متعلق ”ایضاح المسائل“ کے ایک مسئلہ کی وضاحت ۱۸۳

□	۷ / باب في النجاسات و أحكامها	۱۸۵
---	-------------------------------	-----

- ۱۵۳۴ انسان کے آنسو، پسینہ اور لعاب کا حکم ۱۸۵
- ۱۵۳۵ منی ائمہ اربعہ میں سے کس کے نزدیک پاک ہے؟ ۱۸۶
- ۱۵۳۶ کپڑے میں لگی ہوئی منی کو پاک کرنے کا طریقہ ۱۸۷
- ۱۵۳۷ بدن سے نجاست غیر مرئی کی تطہیر کا طریقہ ۱۸۸
- ۱۵۳۸ روٹی پر لگی ہوئی گوبر کی راکھ کا حکم ۱۸۹
- ۱۵۳۹ با وضو کیلے پیرنا پاک فرش پر رکھنے سے پیر پاک ہے یا ناپاک؟ ۱۹۰
- ۱۵۴۰ چاول کی دیگ میں چوہا گر جائے تو کیا کریں؟ ۱۹۱
- ۱۵۴۱ دودھ پتی بچی اور بچے کے پیشاب کا حکم ۱۹۲
- ۱۵۴۲ جانور کے پیشاب کی چھینٹوں کا حکم ۱۹۳
- ۱۵۴۳ نگلی ہوئی چھالی پیچھے کے راستہ سے نکل آئے ۱۹۴
- ۱۵۴۴ تقاطر سے کیا مراد ہے؟ ۱۹۵
- ۱۵۴۵ مرغ کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال دیں تو کیا حکم؟ ۱۹۶
- ۱۵۴۶ (الف) مذبوہ مرغی کو آگ پر تپانا ۱۹۸
- ۱۵۴۶ (ب) ناپاک گرم پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ذبح شدہ مرغ پاک رہے گا یا ناپاک؟ ۱۹۹
- ۱۵۴۷ کتے اور خنزیر کا بدن پاک ہے یا ناپاک؟ ۲۰۰
- ۱۵۴۸ دھوبی کے یہاں دھلے کپڑوں کا حکم ۲۰۲

۲۰۳ دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے کا حکم	۱۵۴۹
۲۰۵ ڈرائی کلیں سے دھلے ہوئے ناپاک کپڑے کا حکم	۱۵۵۰
۲۰۸ ڈرائی کلیں میں دھلے ہوئے کپڑے کا حکم	۱۵۵۱
۲۱۰ نومولود بچہ کی رطوبت اور سر کے بال پاک ہیں یا ناپاک؟	۱۵۵۲

۲۱۲	۸ / باب أحكام المعذورین	□
-----	-------------------------	---

۲۱۲ معذور شرعی کون؟	۱۵۵۳
۲۱۳ عذر شرعی کا تحقق کب ہوتا ہے؟	۱۵۵۴
۲۱۴ قطرات کے مریض کی طہارت کا طریقہ	۱۵۵۵
۲۱۵ سلسل البول کے وضو و نماز کا حکم	۱۵۵۶
۲۱۷ قطرہ آنے کا شبہ ہونے کے بعد نماز کس طرح پڑھے؟	۱۵۵۷
۲۱۸ قطرہ آنے والے مریض کی نماز	۱۵۵۸
۲۱۹ کیا فالج زدہ شخص کو تیمم کرنے کی اجازت ہے؟	۱۵۵۹
۲۲۰ کیا نابینا شخص ناپاک کی حالت میں نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے؟	۱۵۶۰
۲۲۲ نابینا جنابت کی حالت میں نماز، روزہ اور تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟	۱۵۶۱
۲۲۳ والدہ کا اپنے مست لڑکے کو نہلانے کا شرعی حکم	۱۵۶۲
۲۲۴ مریضہ عورت کا شوہر نہ ہو تو استنجاء معاف	۱۵۶۳
۲۲۵ پائیر یا کامریض کس طرح وضو کرے؟	۱۵۶۴

۲۲۷	۹ / باب الحيض	□
-----	---------------	---

۲۲۷ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟	۱۵۶۵
۲۲۸ لڑکی کے بلوغ کی عمر اور علامت	۱۵۶۶

۲۲۹ شریعت اسلامیہ کی نظر میں لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟	۱۵۶۷
۲۳۱ جس کو تین دن سے کم خون آئے وہ حائضہ ہوگی یا نہیں؟	۱۵۶۸
۲۳۳ کیا حالت حیض میں بیوی سے مکمل علیحدگی اختیار کرنا لازم ہے؟	۱۵۶۹
۲۳۴ حالت حیض میں زینت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟	۱۵۷۰
۲۳۴ حائضہ عورت کا غسل اور اس سے صحبت کا حکم	۱۵۷۱
۲۳۶ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟	۱۵۷۲
۲۳۷ حائضہ عورت فضائل اعمال کو ہاتھ میں لے کر تعلیم کر سکتی ہے؟	۱۵۷۳
۲۳۸ کیا عادت مکمل ہونے کے بعد غسل سے قبل جماع کرنا جائز ہے؟	۱۵۷۴
۲۳۹ حیض سے متعلق چند سوالات و جوابات	۱۵۷۵
۲۴۱ رحم میں کوپر پٹی رکھنے کی حالت میں غسل حیض کا حکم	۱۵۷۶
۲۴۲ طہر متخلل سے متعلق تفصیلی فتویٰ	۱۵۷۷
۲۴۷ حائضہ و نفساء کے لئے قرآن کی تلاوت کا حکم	۱۵۷۸
۲۴۸ حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت اور ذکر اللہ کی شرعی حیثیت	۱۵۷۹
۲۴۹ حائضہ و نفساء کا قرآن شریف، درود شریف وغیرہ کا پڑھنا	۱۵۸۰
۲۵۰ پندرہ دن میں نفاس ختم ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنے کا حکم	۱۵۸۱
۲۵۱ اسقاط حمل کے بعد خون جاری رہتے ہوئے نماز و جماع کا حکم	۱۵۸۲
۲۵۲ مستحاضہ عورت کا مسئلہ	۱۵۸۳

۹ / کتاب الصلوٰۃ

۲۵۴ فرانس بیچ گانہ ادا کرنے کی فضیلت	۱۵۸۴
۲۵۶ نماز ہجرت سے قبل فرض ہوئی یا بعد میں؟	۱۵۸۵

۲۵۸	نماز پڑھنے کا مقصد	۱۵۸۶
۲۵۹	نماز پڑھنے کا فائدہ	۱۵۸۷
۲۶۰	غائب و ظالم کی نماز کا حکم	۱۵۸۸
۲۶۲	شرابی کی نماز کا حکم	۱۵۸۹
۲۶۳	نمازی کی پیشانی پر سیاہ نشان کی شرعی حیثیت	۱۵۹۰

۲۶۵	۱ / باب أوقات الصلاة	□
-----	----------------------	---

۲۶۵	مساجد کے متعینہ اوقات کی شرعی حیثیت	۱۵۹۱
۲۶۶	نماز کے اوقات گھٹانے بڑھانے کا حقدار کون؟	۱۵۹۲
۲۶۷	اختلافات مطالع کی وجہ سے ایک ہی نماز کے مکرر فرض ہونے کی صورت ..	۱۵۹۳
۲۶۸	۱۵ رڈ گری پر صبح صادق ہوتی ہے یا ۱۸ رڈ گری پر؟	۱۵۹۴
۲۶۹	فجر کی نماز کا افضل وقت	۱۵۹۵
۲۷۲	نماز فجر غلَس میں پڑھنے کا حکم	۱۵۹۶
۲۷۴	رمضان میں نماز فجر اول وقت میں پڑھنا	۱۵۹۷
۲۷۵	رمضان میں نماز فجر غلَس میں پڑھیں یا اسفار میں؟	۱۵۹۸
۲۷۷	رمضان میں فجر کی نماز کس وقت ادا کی جائے؟	۱۵۹۹
۲۷۹	نماز فجر طلوع شمس سے کتنی دیر پہلے پڑھی جائے؟	۱۶۰۰
۲۸۱	طلوع شمس سے پندرہ منٹ قبل نماز فجر پڑھنا	۱۶۰۱
۲۸۳	تین منٹ قبل نماز فجر شروع کرنا	۱۶۰۲
۲۸۴	فجر کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں پہلے فرض پڑھیں یا سنت؟	۱۶۰۳
۲۸۵	طلوع شمس کے وقت پڑھی گئی نماز کا حکم	۱۶۰۴

- ۱۶۰۵ نماز فجر میں آفتاب نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ ۲۸۶
- ۱۶۰۶ صبح صادق کے بعد سنت فجر کے علاوہ دوسری نفل نماز پڑھنا ۲۸۸
- ۱۶۰۷ نماز فجر کے بعد سنت فجر، نیز عصر و فجر کے بعد ”تحیۃ الوضوء“ پڑھنے کا حکم ۲۸۹
- ۱۶۰۸ فجر کے وقت میں سنت و فرض کے علاوہ دیگر نماز پڑھنا ۲۹۰
- ۱۶۰۹ طلوع شمس اور نماز فجر کے درمیان سنن و نوافل پڑھنا ۲۹۲
- ۱۶۱۰ فجر کی سنتوں کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ۲۹۳
- ۱۶۱۱ وقت زوال کی تحقیق ۲۹۴
- ۱۶۱۲ استواء شمس کی مقدار ۲۹۶
- ۱۶۱۳ زوال کی ابتدا و انتہا ۲۹۷
- ۱۶۱۴ نصف النہار، وقت زوال اور ضحوة الکبریٰ کی تشریح ۲۹۸
- ۱۶۱۵ ظہر کی نماز کس وقت پڑھی جائے؟ ۳۰۱
- ۱۶۱۶ جمعہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ۳۰۲
- ۱۶۱۷ نصف النہار کے وقت تلاوت قرآن، نماز جنازہ اور نکاح پڑھانے کا حکم ۳۰۳
- ۱۶۱۸ مثل اول معلوم کرنے کا طریقہ ۳۰۴
- ۱۶۱۹ عصر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ ۳۰۵
- ۱۶۲۰ حنفیہ کے نزدیک بھی ایک مثل پر عصر پڑھنا جائز ہے؟ ۳۰۸
- ۱۶۲۱ حجاز مقدس میں عصر کی نماز مثل اول پر پڑھیں یا مثلین پر؟ ۳۱۰
- ۱۶۲۲ حرم میں حنفی شخص کے عصر میں اقتدا پر شبہ کا جواب ۳۱۲
- ۱۶۲۳ شافعی وقت میں نماز پڑھنا ۳۱۴
- ۱۶۲۴ عصر کی نماز سے فراغت کے بعد سورج غروب ہو گیا ۳۱۵
- ۱۶۲۵ غروب آفتاب اور مغرب کا وقت ایک ہے یا الگ الگ؟ ۳۱۵

۱۶۲۶	مغرب کی اذان و نماز کے درمیان فاصلہ کی مقدار	۳۱۶
۱۶۲۷	مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان کا فصل	۳۱۸
۱۶۲۸	رمضان میں مغرب میں اذان اور جماعت میں دس منٹ کا وقفہ کرنا ..	۳۲۰
۱۶۲۹	عصر و فجر کے ممنوع اوقات کی انتہا	۳۲۱
۱۶۳۰	غروب پر عصر جائز اور طلوع پر فجر ناجائز کیوں؟	۳۲۲
۱۶۳۱	نورالایضاح کی عبارت کا صحیح مجمل	۳۲۳
۱۶۳۲	اوقات مکروہہ میں فرض نماز پڑھنا	۳۲۴
۱۶۳۳	عصر اور فجر کے بعد قضا نماز پڑھنا	۳۲۵
۱۶۳۴	طلوع شمس سے قبل فجر کی سنت کی قضا	۳۲۶
۱۶۳۵	طلوع شمس سے قبل فجر کی سنت کی قضا	۳۲۸
۱۶۳۶	بعد نماز عصر نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کرنا	۳۲۸
۱۶۳۷	نماز فجر و عصر کے بعد قضا عمری پڑھنا	۳۲۹
۱۶۳۸	بعد نماز عصر سنن کی قضا کا حکم	۳۳۱
۱۶۳۹	طلوع شمس کے وقت اعلان کا التزام	۳۳۲
۱۶۴۰	فجر کے بعد طلوع آفتاب کا اعلان کرنا	۳۳۳
۱۶۴۱	طلوع شمس کا اعلان کرنا	۳۳۴
۱۶۴۲	نماز فجر کی قضا اور طلوع شمس کا اعلان	۳۳۵
۱۶۴۳	مسجد کے مآئیک سے نماز فجر کا وقت ختم ہونے کا اعلان کرنا	۳۳۶
۱۶۴۴	مسجد میں طلوع شمس کا اعلان کرنا	۳۳۷
۱۶۴۴	کیا طلوع آفتاب کا اعلان کرنا کار ثواب ہے؟	۳۳۹
۱۶۴۶	مساجد میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کا اعلان کرنا	۳۴۰

۳۴۱	طلوع آفتاب کا اعلان کرنا	۱۶۴۷
۳۴۲	طلوع شمس کا مانتک سے اعلان کرنا	۱۶۴۸
۳۴۳	طلوع شمس کا مانتک سے اعلان کرنا	۱۶۴۹
۳۴۴	اختتام فجر کے وقت طلوع شمس کے اعلان کا التزام	۱۶۵۰

۳۴۶	۲ / باب الأذان	□
-----	----------------	---

۳۴۶	اذان دینے کی فضیلت	۱۶۵۱
۳۴۷	اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟	۱۶۵۲
۳۴۹	کیا حضور ﷺ نے اذان دی ہے؟	۱۶۵۳
۳۵۰	اذان کے بعد دعا کی فضیلت	۱۶۵۴
۳۵۲	کیا شہر کی ایک مسجد کی اذان کی آواز ریڈیو کے ذریعہ دوسری	۱۶۵۵
۳۵۴	مؤذن تنبیح شریعت ہو	۱۶۵۶
۳۵۵	مؤذن کسے بنایا جائے؟	۱۶۵۷
۳۵۶	اذان دینے کا مستحق کون؟	۱۶۵۸
۳۵۸	کیا بے وقت اذان دینے والے ضعیف مؤذن کو معزول کر سکتے ہیں؟	۱۶۵۹
۳۵۹	فرد واحد کا اذان و اقامت اور نماز پڑھانا	۱۶۶۰
۳۶۰	کیا مؤذن کو اذان سن کر نماز پڑھنے والوں کے بقدر ثواب ملتا ہے؟	۱۶۶۱
۳۶۰	کیا اذان کے لئے مسجد ہونا شرط ہے؟	۱۶۶۲
۳۶۲	کیا اذان کے بغیر نماز صحیح ہو جائے گی؟	۱۶۶۳
۳۶۳	بغیر اذان و تکبیر کے تنہا تنہا نماز ادا کرنا	۱۶۶۴
۳۶۴	اذان پنجگانہ اندرون مسجد دی جائے یا باہر؟	۱۶۶۵

۳۶۵	حدود مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟	۱۶۶۶
۳۶۷	مسجد کے اندر محراب کے پاس اذان دینا	۱۶۶۷
۳۶۸	مسجد کے اندر اذان دینا	۱۶۶۸
۳۶۹	مسجد کے اندر اذان دینا	۱۶۶۹
۳۷۱	مسجد کے اندر اذان دینا	۱۶۷۰
۳۷۲	مسجد میں اذان دینا	۱۶۷۱
۳۷۳	مسجد کے اندر بغیر مانک کے اذان دینا	۱۶۷۲
۳۷۴	مانک میں اذان کی شرعی حیثیت	۱۶۷۳
۳۷۵	لاؤڈ اسپیکر پر اذان کا شرعی حکم	۱۶۷۴
۳۷۶	لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان دینا کیسا ہے؟	۱۶۷۵
۳۷۷	مسجد کے اندر مانک میں اذان پڑھنا	۱۶۷۶
۳۷۸	حیصلہ کہاں سے شروع کرے؟	۱۶۷۷
۳۷۹	فجر کی اذان میں ”الصلوٰۃ خیر من النوم“ کا اضافہ کس نے کیا؟	۱۶۷۸
۳۸۱	کانوں میں انگلی ڈال کر اذان دینا	۱۶۷۹
۳۸۲	اذان میں ”مد“ کی مقدار	۱۶۸۰
۳۸۳	اذان میں آواز میں لچک پیدا کرنا	۱۶۸۱
۳۸۵	اذان میں راگ پیدا کرنا	۱۶۸۲
۳۸۶	اذان میں تجوید کی رعایت مقصود نہیں	۱۶۸۳
۳۸۷	غلط خواں کی اذان	۱۶۸۴
۳۸۹	لا علمی میں پورب کی طرف رخ کر کے اذان دینا	۱۶۸۵
۳۹۰	اذان کے بعد مسجد سے نکل کر بلا عذر دوسری مسجد میں جانا	۱۶۸۶

۳۹۰	اذان و تکبیر کہہ کر جماعت سے الگ ہو جانا	۱۶۸۷
۳۹۱	ایک مسجد میں فرض پڑھ کر دوسری میں اذان و اقامت کہنا	۱۶۸۸
۳۹۳	کیا با وضو اذان دینا ضروری ہے؟	۱۶۸۹
۳۹۴	بلا وضو اذان دینا کیسا ہے؟	۱۶۹۰
۳۹۵	بغیر وضو کے اذان دینے کا شرعی حکم	۱۶۹۱
۳۹۶	مؤذن کا دوسرے شخص کو اذان کی اجازت دینا	۱۶۹۲
۳۹۶	مؤذن کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص کا اذان دینا	۱۶۹۳
۳۹۷	کیا دس سالہ بچہ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟	۱۶۹۴
۳۹۸	ناپیدنا شخص کی اذان و اقامت	۱۶۹۵
۳۹۹	عورتوں کی اذان و اقامت	۱۶۹۶
۴۰۰	بیٹھ کر اذان و اقامت کہنا	۱۶۹۷
۴۰۱	اذان میں صرف ”علی الصلوٰۃ“ یا ”الصلوٰۃ“ کہنا	۱۶۹۸
۴۰۲	الفاظ چبانے والے کی اذان و اقامت	۱۶۹۹
۴۰۳	تاش کھیلنے والے کی اذان و اقامت	۱۷۰۰
۴۰۴	ٹخنوں سے نیچے پاؤں پہننے والے کی اذان و اقامت	۱۷۰۱
۴۰۵	فاسق کی اذان	۱۷۰۲
۴۰۶	بغیر دارٹھی والے کی اذان و اقامت	۱۷۰۳
۴۰۷	دارٹھی کٹانے والے کا اذان دینا	۱۷۰۴
۴۰۹	دارٹھی منڈانے والے کی اذان و اقامت	۱۷۰۵
۴۱۰	دارٹھی منڈے کی اذان	۱۷۰۶
۴۱۴	دارٹھی کو حد شرع سے کم کرنے والے کی اذان و اقامت	۱۷۱۱

۴۱۵ مدعی نبوت کی اذان و اقامت	۱۷۱۲
۴۱۶ صبح صادق کے بعد فوراً اذان دینے کا حکم	۱۷۱۳
۴۱۸ ظہر کی اذان کا وقت	۱۷۱۴
۴۱۹ تہجد کی نماز کے لئے اذان دینا	۱۷۱۵
۴۲۰ تیز آندھی کے وقت اذان دینا	۱۷۱۶
۴۲۱ قبر پر اذان	۱۷۱۷
۴۲۲ ٹرین میں اذان و اقامت کہنے میں جنگل کی اذان و اقامت کا ثواب	۱۷۱۸
۴۲۳ گاؤں کی اذان تین بیگدہ دوری پر واقع مدرسہ کے لئے کافی ہے؟	۱۷۱۹
۴۲۴ ایک مسجد کی اذان سب مسجدوں کے لئے کافی نہیں	۱۷۲۰
۴۲۵ فرم میں اذان دینا	۱۷۲۱
۴۲۷ اذان سے قبل فرائض و نوافل پڑھنا	۱۷۲۲
۴۲۸ شافعی مسجد میں حنفی کی اذان کا حکم	۱۷۲۳
۴۲۹ غم اور برے اخلاق کو دور کرنے کے لئے کان میں اذان دینا	۱۷۲۴
۴۳۰ ”الصلاة خير من النوم“ کہنا بھول گیا تو اذان کا اعادہ ہوگا یا نہیں؟	۱۷۲۵
۴۳۱ اذان کے کلمات چھوٹ جانے پر اعادہ کا حکم	۱۷۲۶
۴۳۳ دوران اذان بجلی کا چلا جانا	۱۷۲۷
۴۳۳ دوران اذان بجلی چلی جائے تو اذان کا حکم	۱۷۲۸
۴۳۵ دوران اذان بجلی چلی جائے تو تکمیل کا طریقہ	۱۷۲۹
۴۳۶ دوران اذان لاؤڈ اسپیکر خراب ہونے پر تکمیل کا طریقہ	۱۷۳۰
۴۳۷ بجلی جانے پر از سر نو اذان دینا	۱۷۳۱
۴۳۹ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت؟	۱۷۳۳

۱۷۳۳	اذان کے جواب کی شرعی حیثیت	۲۴۰
۱۷۳۵	اذان کے جواب کا مسنون طریقہ	۲۴۱
۱۷۳۶	”لا حول ولا قوۃ“، کس حدیث سے ثابت ہے؟	۲۴۳
۱۷۳۷	حیثیتیں میں ”لا حول“ کیوں پڑھا جاتا ہے؟	۲۴۵
۱۷۳۸	”الصلاة خیر من النوم“ کا جواب کس جملہ سے دیا جائے؟	۲۴۶
۱۷۳۹	کیا تالی پر اذان کا جواب دینا واجب ہے؟	۲۴۷
۱۷۴۰	کیا حائضہ و نفساء پر اذان کا جواب دینا واجب ہے؟	۲۴۸
۱۷۴۱	جنسی کا اذان و سلام کا جواب دینا	۲۴۹
۱۷۴۲	دوران اذان بیت الخلاء میں داخل ہونا	۲۵۰
۱۷۴۳	اذان میں تشہد پر ”صلی اللہ علیہ وسلم“ پڑھنا	۲۵۱
۱۷۴۵	”أشہد أن“ کے جواب میں صرف درود پڑھے یا ”أشہد أن“ بھی کہے؟	۲۵۳
۱۷۴۶	مؤذن کے تشہد پڑھنے پر سماع کا ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کہنا	۲۵۴
۱۷۴۷	تلاوت کے دوران اذان شروع ہونے کا حکم	۲۵۶
۱۷۴۸	اذان کے وقت دنیاوی باتیں کرنا	۲۵۷
۱۷۴۹	اذان کے بعد دعا کا مسنون طریقہ	۲۵۸
۱۷۵۰	اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۲۵۹
۱۷۵۱	مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان دعا مانگنا	۲۶۱
۱۷۵۲	اذان میں شہادت کے وقت انگلی اٹھانا	۲۶۳

۲۶۴	۳ / باب الإقامة و التشویب	□
-----	---------------------------	---

۱۷۵۳	اذان و اقامت کے لئے کوئی جہت متعین نہیں	۲۶۴
۱۷۵۴	تیسری صف میں کھڑے شخص کا تکبیر کہنا	۲۶۵

۲۶۶	کیا امام کے دائیں جانب ہی کھڑے ہو کر تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ ..	۱۷۵۵
۲۶۷	تکبیر اقامت کے لئے مسجد میں کوئی جگہ متعین نہیں.....	۱۷۵۶
۲۶۷	امام کے بائیں طرف کھڑے ہونے والے کی اقامت کہنا.....	۱۷۵۷
۲۶۸	منفرد کے لئے اقامت کا شرعی حکم.....	۱۷۵۸
۲۶۹	تنہا فرض پڑھتے وقت اقامت کہنا.....	۱۷۵۹
۲۷۰	اقامت کا مسنون طریقہ.....	۱۷۶۰
۲۷۲	بحالت وصل اقامت کے کلمات کہنے کا مسنون طریقہ.....	۱۷۶۱
۲۷۳	اقامت میں حیعلینین پر چہرہ دائیں بائیں گھمانا.....	۱۷۶۲
۲۷۹	اقامت میں حیعلینین پر چہرہ گھمانا.....	۱۷۶۳
۲۸۰	اقامت میں دائیں بائیں گردن پھیرنا.....	۱۷۶۵
۲۸۱	امام صاحب کا اقامت کہنا.....	۱۷۶۶
۲۸۲	داڑھی منڈے کی اقامت.....	۱۷۶۷
۲۸۳	مؤذن کی اجازت کے بغیر دوسرے کا تکبیر کہنا.....	۱۷۶۸
۲۸۴	مؤذن کے علاوہ دوسرے پر تکبیر کہنے کی پابندی لگانا.....	۱۷۶۹
۲۸۶	مؤذن کی اجازت کے بغیر کسی اور کا تکبیر کہنا.....	۱۷۷۰
۲۸۶	تکبیر کہنے کا زیادہ حقدار کون؟.....	۱۷۷۱
۲۸۸	مؤذن کی اجازت کے بغیر تکبیر کہنا.....	۱۷۷۲
۲۸۹	مؤذن کے علاوہ دوسرے شخص کا ہمیشہ تکبیر کہنا.....	۱۷۷۳
۲۹۱	مؤذن کی اجازت کے بغیر تکبیر کہنا.....	۱۷۷۴
۲۹۲	داڑھی منڈے کا تکبیر پڑھنا.....	۱۷۷۵
۲۹۳	اقامت کے جواب کا مسنون طریقہ.....	۱۷۷۶

- ۱۷۷۷ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے ۴۹۴
- ۱۷۷۸ دو مرتبہ تکبیر کہنے کا حکم ۴۹۵
- ۱۷۷۹ کیا حضور ﷺ ”حی علی الفلاح“ پر مصلے پر جایا کرتے تھے؟ ... ۴۹۷
- ۱۷۸۰ اقامت میں حضور ﷺ مصلیٰ پر کب تشریف لے جاتے تھے؟ ۴۹۷
- ۱۷۸۱ اقامت کے وقت مقتدی صف سیدھی کب کریں؟ ۵۰۱
- ۱۷۸۲ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں (جامع فتویٰ) ۵۰۲
- ۱۷۸۳ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں؟ ۵۱۱
- ۱۷۸۴ مقتدی حضرات نماز کے لئے کس وقت کھڑے ہوں؟ ۵۲۰
- ۱۷۸۵ نماز میں کس وقت کھڑے ہوں؟ ۵۲۱
- ۱۷۸۶ مقتدی کب کھڑے ہوں؟ ۵۲۲
- ۱۷۸۹ امام اور مقتدی تکبیر میں کس وقت کھڑے ہوں؟ ۵۲۵
- ۱۷۹۰ اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے یا کھڑے ہو کر؟ ۵۲۷
- ۱۷۹۱ امام تکبیر سے قبل کھڑا ہو گا یا ”حی علی الفلاح“ پر؟ ۵۲۸
- ۱۷۹۲ مقتدی تکبیر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں یا ”حی علی الصلوٰۃ“ پر؟ ۵۳۰
- ۱۷۹۳ تکبیر کے شروع ہونے کے وقت مقتدی کھڑے ہوں یا بیٹھے رہیں؟ ۵۳۱
- ۱۷۹۴ امام کے مصلے پر آنے سے قبل تکبیر کہنا ۵۳۳
- ۱۷۹۵ تکبیر کھڑے ہو کر سننا افضل ہے یا بیٹھے کر؟ ۵۳۴
- ۱۷۹۶ قیام جماعت کے وقت کھڑا ہونا کیسا ہے؟ ۵۳۶
- ۱۷۹۷ ”حی علی الصلوٰۃ“ پر کھڑا ہونا ۵۳۸
- ۱۷۹۸ ”حی علی الصلوٰۃ“ تک بیٹھے رہنا ۵۴۰
- ۱۸۰۰ کیا تکبیر کے وقت کبوتر کے علاوہ مقتدی ان کا کھڑا ہونا ممنوع ہے؟ ۵۴۲

- ۱۸۰۱ تکبیر ہوتے ہی مصلیوں کے کھڑے ہونے کی دلیل ۵۴۴
- ۱۸۰۲ تکبیر کے وقت مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہئے ۵۴۵
- ۱۸۰۳ اقامت میں حیلین پر دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا ۵۴۶
- ۱۸۰۴ تکبیر کے شروع ہی میں کھڑے ہو جانا ۵۴۷
- ۱۸۰۵ تکبیر کہتے وقت مقتدی کب کھڑے ہوں؟ ۵۴۸
- ۱۸۰۶ شروع تکبیر میں کھڑا ہونا مسنون ہے ۵۵۰
- ۱۸۰۷ اقامت کے وقت کب کھڑے ہوں؟ ۵۵۱
- ۱۸۰۸ امام ”قد قامت الصلوٰۃ“ پر تکبیر کہے گا تو مقتدی صف سیدھی کر کے ۵۵۲
- ۱۸۰۹ اوقات نماز میں سونے والے کو جگانا ۵۵۴
- ۱۸۱۰ اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ۵۵۵
- ۱۸۱۱ اذان کے بعد بے نمازیوں کو بلا بلا کر مسجد لے جانا ۵۵۶
- ۱۸۱۲ نماز فجر سے قبل لوگوں کو ”اٹھو نماز پڑھو“ کی صدا لگا کر بیدار کرنا ۵۵۷
- ۱۸۱۳ نماز فجر کے بعد لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو جگانا ۵۵۸
- ۱۸۱۴ فجر کی اذان کے بعد محلے والوں کو نام لے کر جگانا ۵۵۹
- ۱۸۱۵ اذان فجر کے بعد محلہ میں نماز پڑھنے کا اعلان کرنا ۵۶۰
- ۱۸۱۶ اذان کے بعد اقامت سے پہلے ”صلاۃ و سلام“ پڑھنا ۵۶۱
- ۱۸۱۷ نماز سے قبل ”صلاۃ“ پڑھنا ۵۶۳
- ۱۸۱۸ اذان کے بعد ”صلاۃ“ پڑھنا ۵۶۴
- ۱۸۱۹ اذان کے بعد پابندی سے ”صلاۃ و سلام“ پڑھنا ۵۶۴

۱۸۲۰	حامل نجاست کی نماز	۵۶۶
۱۸۲۱	جیب میں گلاسٹرا اور بدبودار اٹھا ہونے کی حالت میں نماز	۵۶۷
۱۸۲۲	جیب میں نکسیر صاف کی گئی دستی ہونے کی حالت میں نماز	۵۶۸
۱۸۲۳	جیب میں بوتل میں پیشاب ہونے کی حالت میں نماز	۵۶۹
۱۸۲۴	نابالغ فجر کے وقت تری دیکھے تو عشاء فرض ہوگی یا نفل	۵۷۰
۱۸۲۵	نشہ کی حالت میں نماز کا حکم	۵۷۲
۱۸۲۶	ناپاک کپڑے کے ساتھ بچہ نمازی عورت کی پیٹھ پر چڑھ گیا	۵۷۳
۱۸۲۷	ناہین شخص کا احتلام والے کپڑے میں نماز پڑھنا	۵۷۴
۱۸۲۸	وقت نکل جانے کے خوف سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا	۵۷۵
۱۸۲۹	گوبر کے فرش پر نماز پڑھنا	۵۷۷
۱۸۳۰	ناپاک جگہ پر چادر بچھا کر نماز پڑھنا	۵۷۸
۱۸۳۱	گندے نالے کے اوپر شیشہ بچھا کر نماز پڑھنا	۵۷۹
۱۸۳۲	بدن جھلکنے والے کپڑے میں عورت کا نماز پڑھنا	۵۸۰
۱۸۳۳	نئے کپڑے کو دھو کر نماز پڑھنے کا حکم	۵۸۱
۱۸۳۴	بلا استنجاء نماز پڑھنا	۵۸۲
۱۸۳۵	بیت الخلاء کی ٹینکی پر نماز پڑھنا	۵۸۳
۱۸۳۶	میت کو نہلائے جانے والے پٹلہ پر نماز	۵۸۳
۱۸۳۷	ناپاک چڑی پہن کر نماز پڑھنا	۵۸۴
۱۸۳۸	ہندوستانی مسلمان صرف مغرب کی سمت میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟	۵۸۵
۱۸۳۹	تحویل قبلہ کی نوعیت	۵۸۶
۱۸۴۰	متعین ستارے سے مسجد کا رخ متعین کرنے کا شرعی حکم	۵۹۰
۱۸۴۱	استقبال قبلہ پر غیر مسلم کے اعتراض کا جواب	۵۹۱

۱۸۴۲	مسجد کے قبلہ کا رخ کتنی ڈگری کے اندر ہو؟	۵۹۴
۱۸۴۳	عین قبلہ کا رخ شرط نہیں ہے	۵۹۵
۱۸۴۴	استقبال قبلہ میں عین قبلہ ہے یا جہت قبلہ بھی کافی ہے؟	۵۹۷
۱۸۴۵	مسجد کی دیوار قبلہ کعبہ کے رخ سے منحرف ہو تو کیا حکم ہے؟	۶۰۰
۱۸۴۶	قبلہ کے متعلق چند سوالات	۶۰۱
۱۸۴۷	قبلہ اور وقت کا تعین نہ ہو تو نماز کا حکم	۶۰۳
۱۸۴۸	کیا مریض پر استقبال قبلہ لازم ہے؟	۶۰۵
۱۸۴۹	اسنچ پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟	۶۰۷
۱۸۵۰	نیت کا طریقہ	۶۰۷
۱۸۵۱	نیت کیا ہے؟	۶۰۸
۱۸۵۲	نیت دل کے ارادہ کا نام ہے؟	۶۰۹
۱۸۵۳	کیا زبان سے نیت کرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے؟	۶۱۰
۱۸۵۴	امام کے لئے امامت کی نیت لازم نہیں	۶۱۱
۱۸۵۵	امام کن الفاظ سے نیت کرے؟	۶۱۲
۱۸۵۶	فرائض و سنن سے قبل نیت کرنے کا طریقہ	۶۱۳
۱۸۵۷	جمعہ کی سنن قبلہ کی نیت کس طرح کریں؟	۶۱۴
۱۸۵۸	جمعہ کی سنن قبلہ و بعدیہ کی نیت کا طریقہ	۶۱۵
۱۸۵۹	کیا سنتوں کی نیت میں سنت رسول اللہ کہنا ضروری ہے؟	۶۱۷

۶۱۸	۵/ باب صفة الصلوة	□
-----	-------------------	---

۱۸۶۰	بحالت قیام پیروں کی انگلیوں کا رخ	۶۱۸
۱۸۶۱	تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا مسنون طریقہ	۶۱۸

- ۱۸۶۲ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ ۶۱۹
- ۱۸۶۳ کیا کان کی لو کو چھونا ضروری ہے؟ ۶۲۱
- ۱۸۶۳ تکبیر تحریمہ سے قبل تسمیہ پڑھنا ۶۲۲
- ۱۸۶۴ صرف لفظ ”اللہ“ سے تکبیر تحریمہ ۶۲۳
- ۱۸۶۵ تکبیر تحریمہ میں لفظ ”اکبر“ کو بہت آہستہ سے کہنا ۶۲۴
- ۱۸۶۶ امام کا تکبیر میں ”اللہ“ کہنا ۶۲۵
- ۱۸۶۷ تکبیر تحریمہ میں لفظ ”اللہ“ کے بعد لفظ ”اکبر“ کو چھوڑ دینا ۶۲۶
- ۱۸۶۸ تکبیرات انتقالیہ کا مسنون طریقہ ۶۲۷
- ۱۸۶۹ تکبیرات انتقالیہ کہنے کا مسنون طریقہ ۶۲۸
- ۱۸۷۰ تکبیرات انتقالیہ کو زیادہ کھینچنا ۶۳۰
- ۱۸۷۱ الفاظ تکبیر کو کھینچنا ۶۳۱
- ۱۸۷۲ کیا حضور ﷺ سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے؟ ۶۳۲
- زیر ناف ہاتھ باندھنے کا تحقیقی جائزہ ۶۳۳
- سینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایات ۶۳۴
- ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایات ۶۳۷
- غیر مقلدین کے پیشوا کا فتویٰ ۶۴۰
- ۱۸۷۳ سری نماز میں قراءت شروع ہونے کے بعد ثناء پڑھنا ۶۴۱
- ۱۸۷۴ نماز میں ثناء درود شریف اور دعا کا ترک کرنا ۶۴۱
- ۱۸۷۵ نماز میں سورہ فاتحہ سے قبل ”بسم اللہ“ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ ۶۴۲
- ۱۸۷۶ سورت اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ۶۴۳
- ۱۸۷۷ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت سے قبل تسمیہ پڑھنا ۶۴۵

- ۱۸۷۸ سورت ملانے سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنا ۶۳۶
- ۱۸۷۹ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ ۶۳۷
- ۱۸۸۰ فاتحہ خلف الامام کا حکم ۶۳۹
- ۱۸۸۱ قراءت خلف الامام کا مسئلہ ۶۵۰
- ۱۸۸۲ قراءت خلف الامام کا حکم ۶۵۲
- ۱۸۸۳ کیا فاتحہ اور ضم سورت کے درمیان مقتدیوں کے فاتحہ پڑھنے ۶۵۳
- قرأت خلف الامام کا تحقیقی جائزہ ۶۵۶
- سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق چار صحابہ کی روایات ۶۵۷
- مقتدی کے لئے مطلق قراءت کی ممانعت ۶۶۱
- جہری نماز میں قراءت کی ممانعت ۶۶۱
- سری نماز میں قراءت کی ممانعت ۶۶۶
- جہری اور سری دونوں نمازوں میں ممانعت ۶۷۱
- خلفاء راشدین کا فتویٰ ۶۷۳
- روایات کا تحقیقی جائزہ ۶۷۳
- امام کو رکوع میں پانے والا رکعت پالیتا ہے ۶۷۶
- رکعت کے معتبر ہونے کی روایات ۶۷۷
- روایات کا تحقیقی جائزہ ۶۸۱
- ۱۸۸۲ قراءت خلف الامام اور آمین بالجہر کا حکم ۶۸۲
- ۱۸۸۵ مکبر کا بلند آواز سے آمین کہنا ۶۸۵
- ۱۸۸۶ آمین بالجہر کا حکم ۶۸۶
- ۱۸۸۷ نماز میں آمین بالجہر یا آمین بالسر ۶۸۸
- ۱۸۸۸ سری نماز میں مقتدی کا آمین کہنا ۶۸۹

- مسئلہ آمین بالسر کا تحقیقی جائزہ ۲۹۰
- نماز میں آمین کہنے کی فضیلت ۲۹۱
- آمین بالجہر کی روایت ۲۹۲
- آمین بالسر کی روایت ۲۹۳
- دونوں قسم کی روایات کا جائزہ ۲۹۳
- راوی کے ضعف کا اثر امام ابوحنیفہؒ پر نہیں پڑتا ۲۹۴
- مزید پانچ حدیثیں ۲۹۵
- حضرت وائل بن حجرؓ کی مزید روایت ۲۹۵
- خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ کا اثر ۲۹۶
- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اثر ۲۹۶
- حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کا مشترکہ اثر ۲۹۷
- حضرت عمر فاروقؓ و حضرت علیؓ کا مشترکہ اثر ۲۹۷
- ضم سورت کے وقت ”بسم اللہ“ پڑھنا ۲۹۸ ۱۸۸۹
- دوران نماز ہر سورت کے شروع میں ”بسم اللہ“ جہر پڑھنا ۲۹۹ ۱۸۹۰
- ضم سورت کے وقت ”بسم اللہ“ سر پڑھنا ۷۰۰ ۱۸۹۱
- کیا آپ ﷺ رفع یدین کیا کرتے تھے؟ ۷۰۱ ۱۸۹۲
- کیا خلفائے اربعہ رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ ۷۰۳ ۱۸۹۳
- نماز کا صحیح طریقہ ۷۰۴ ۱۸۹۴
- رفع یدین ۷۰۵ ۱۸۹۵
- عدم رفع یدین کی حدیث صحیح ۷۰۸ ۱۸۹۶
- کیا آستینوں میں بت چھپائے رکھنے کی وجہ سے رفع یدین کا حکم تھا؟ ۷۰۹ ۱۸۹۷

- مسئلہ رفع یدین کا تحقیقی جائزہ ۷۱۰
- رفع یدین کی منسوخ روایات ۷۱۱
- عدم رفع یدین کی روایات ۷۱۳
- روایات کا جائزہ ۷۱۷
- ۱۸۹۸ رفع یدین، آمین بالجہر، سینہ پر ہاتھ رکھنا اور نماز میں پیروں کو کشادہ رکھنا ۷۱۸
- ۱۸۹۹ رکوع، سجود کی تکبیرات سنت ہیں یا واجب؟ ۷۲۶
- ۱۹۰۰ کیا قومہ کی دعا مرد عورت دونوں پڑھیں گے؟ ۷۲۶
- ۱۹۰۱ قومہ و جلسہ میں کتنی دیر بیٹھے اور کیا پڑھے؟ ۷۲۷
- ۱۹۰۲ فرائض میں قومہ اور جلسہ استراحت کی دعا پڑھنا ۷۲۹
- ۱۹۰۳ کیا نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں؟ ۷۳۱
- ۱۹۰۴ سجدہ میں جاتے وقت کی تکبیر کب پوری کی جائے؟ ۷۳۲
- ۱۹۰۵ سجدہ میں کہنیوں کی حالت کا حکم ۷۳۳
- ۱۹۰۶ سجدہ میں پیروں کی انگلیاں کیسے رکھیں؟ ۷۳۴
- ۱۹۰۷ سجدہ میں ”سبحان ربی الکریم“ کہنا ۷۳۶
- ۱۹۰۸ سجدہ ثانیہ سے کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ۷۳۷
- ۱۹۰۹ قعدہ میں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنے کی کیفیت ۷۳۸
- ۱۹۱۰ تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسنون طریقہ ۷۳۹
- ۱۹۱۱ تشہد میں حلقہ بنا کر آخر تک اسی طرح رکھنا ۷۴۱
- ۱۹۱۲ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد حلقہ کھولنا بہتر ہے یا نہیں؟ .. ۷۴۲
- ۱۹۱۳ تشہد میں کلمہ شہادت کی انگلی کب تک اٹھائیں؟ ۷۴۳
- ۱۹۱۴ تشہد میں انگلی کب اٹھائی جائے؟ ۷۴۵

۱۹۱۵ نماز میں اشارہ بالسابہ کی کیفیت اور اس کا شرعی حکم	۷۴۶
۱۹۱۶ تشہد میں انگلی اٹھانے اور حلقہ کھولنے کا مستحب طریقہ	۷۴۷
۱۹۱۷ رفع سبابہ کی شرعی حیثیت	۷۴۸
۱۹۱۸ قعدہ میں اپنی انگلیوں کو اپنی ہیئت پر رکھنا	۷۵۱
۱۹۱۹ عذر کی بنا پر صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا	۷۵۱
۱۹۲۰ مقتدی کا التحیات پڑھ کر امام سے قبل سلام پھیرنا	۷۵۲
۱۹۲۱ لفظ ’سلام‘ واجب ہے یا سنت؟	۷۵۴
۱۹۲۲ ایک سلام پھیرنے کے بعد حدث لاحق ہو گیا	۷۵۵
۱۹۲۳ لفظ ’سلام‘ کے علاوہ کسی دوسرے فعل سے نماز سے نکلنا	۷۵۶
۱۹۲۴ سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں رکھیں؟	۷۵۷
۱۹۲۵ نماز میں دوسرے سلام کی مقدار	۷۵۸
۱۹۲۶ سلام پھیرنے کا مسنون طریقہ	۷۵۹
۱۹۲۷ نماز میں سلام پھیرنے کا مسنون طریقہ	۷۶۰
۱۹۲۸ سلام پھیرنے کا طریقہ	۷۶۲
۱۹۲۹ بحالت مجبوری ٹرین یا بس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا	۷۶۴
۱۹۳۰ بس میں نماز کا طریقہ	۷۶۵
۱۹۳۱ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ	۷۶۶
۱۹۳۲ شیخ فانی اشارہ سے نماز پڑھے	۷۶۷
۱۹۳۳ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں سرین کو اٹھانا کیسا ہے؟	۷۶۸
۱۹۳۴ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع میں کتنا جھکا جائے؟	۷۶۹
۱۹۳۵ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں سرین کو اٹھانا	۷۷۰



۹ / بقیة کتاب الصلوة

صفحہ نمبر	۶ / باب السترة	مسئلہ نمبر:
۳۲ سترہ کی شرعی حیثیت اور شرائط	۱۹۳۶
۳۴ سترہ کی مقدار	۱۹۳۷
۳۵ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ	۱۹۳۸
۳۷ نمازی کے آگے سے گزر کر خالی صف کو پر کرنا	۱۹۳۹
۳۸ نمازی کے سامنے سے گزرنے اور اس کو پریشان کرنے کا حکم	۱۹۴۰
۳۹ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد	۱۹۴۱
۴۰ مسجد کبیر میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد	۱۹۴۲
۴۲ نمازی کے سامنے سے گزرنا	۱۹۴۳
۴۳ نمازی کے آگے کتنے فاصلہ سے گزرنے کی گنجائش ہے؟	۱۹۴۴
۴۴ نمازی کے سامنے والے چبوترہ کے اوپر سے گزرنے کا حکم	۱۹۴۵
۴۶ نمازی کے سامنے بیٹھے شخص کا ہٹ کر جانا	۱۹۴۶
۴۷ چٹائی سترہ کے قائم مقام ہے یا نہیں؟	۱۹۴۷
۴۹ نمازی کے سامنے سے گزرنا	۱۹۴۸

۷ / باب صلوة المساجد

۵۱ مسجد صغیر، مسجد کبیر	۱۹۴۹
۵۲ مسجد کبیر	۱۹۵۰
۵۳ احاطہ مسجد کی حد	۱۹۵۱

۱۹۵۲	تخریب المسجد.....	۵۳
۱۹۵۳	منبر کی سیڑھیوں کی مسنون تعداد.....	۵۴
۱۹۵۴	منبر مسنون.....	۵۵
۱۹۵۵	کیا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد حرام ہی کے ساتھ مخصوص ہے؟	۵۸
۱۹۵۶	مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ثواب کہاں تک ملے گا.....	۵۹
۱۹۵۷	کیا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب صرف مردوں کیلئے ہے.....	۶۲
۱۹۵۸	حرم شریف کی قضاء نماز کے ثواب کا بیان.....	۶۳
۱۹۵۹	تعمیر مسجد کے دوران دوسری مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا	۶۴
۱۹۶۰	دوران تعمیر مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرنا ضروری نہیں.....	۶۵
۱۹۶۱	منقش مصلی.....	۶۶
۱۹۶۲	مساجد سے روکنے کا حکم.....	۶۷
۱۹۶۳	شہید کردہ مسجد میں نماز کا شرعی حکم.....	۶۹
۱۹۶۴	عید گاہ کے دروازہ پر تعمیر شدہ مسجد میں نماز.....	۷۰
۱۹۶۵	امام صاحب کے حجرہ کا دروازہ مسجد میں کھولنے کا حکم.....	۷۲
۱۹۶۶	احاطہ مسجد میں بنے ہوئے حجرہ میں مؤذن کی رہائش.....	۷۳
۱۹۶۷	وضو کی جگہ پر امام کا کپڑے دھونا.....	۷۴
۱۹۶۸	مسجد کی چھت سے اونچی عمارت بنانا.....	۷۵
۱۹۶۹	جمعہ کے علاوہ مسجد کی دوسری تیسری منزل بند رکھنا.....	۷۶
۱۹۷۰	مسجد کی دوکانوں پر امام صاحب کا کھڑے ہو کر نماز پڑھانا.....	۷۸
۱۹۷۱	مسجد چھوڑ کر مدرسہ میں نماز پڑھنا.....	۸۰
۱۹۷۲	کارخانوں میں نماز عشاء و تراویح ادا کرنے سے مسجد کا	
	ثواب حاصل نہ ہوگا.....	۸۲

۸۳ ہندو کی شادی ہونے والے مکان میں نماز تراویح پڑھنا	۱۹۷۳
۸۴ قبرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟	۱۹۷۴
۸۵ قبروں کو برابر کر کے ان پر نماز پڑھنا	۱۹۷۵
۸۶ بوسیدہ قبرستان میں نماز پڑھنے کا حکم	۱۹۷۶
۸۷ قبروں پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا	۱۹۷۷
۸۸ مزار پر قبر کے متصل مصلے پر نماز پڑھنا	۱۹۷۸
۹۰ زکوٰۃ کی رقم سے بنائی گئی مسجد میں نماز کا حکم	۱۹۷۹
۹۱ حرام کمائی سے بنائی گئی مسجد میں نماز	۱۹۸۰
۹۲ چوری کے ریت سے بھرائی گئی مسجد میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم	۱۹۸۱
۹۳ مساجد میں قالین وغیرہ بچھانا	۱۹۸۲
۹۵ قالین کے گدے پر نماز	۱۹۸۳
۹۶ اندرون مسجد خراب ہونے کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا	۱۹۸۴
۹۷ مسجد کا پانی گھریلجا کر وضو کرنا	۱۹۸۵
۹۸ ایک مسجد کے گرم پانی سے وضو کر کے دیگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا	۱۹۸۶
۹۹ صفوں کو پیروں کی ٹھوکروں سے بچھانا اور سمیٹنا	۱۹۸۷
۱۰۰ کارپوریشن کی زمین میں نماز کا شرعی حکم	۱۹۸۸
۱۰۱ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا	۱۹۸۹
۱۰۳ گرمی کی بناء پر صحن مسجد میں نماز ادا کرنا	۱۹۹۰
۱۰۴ موسم گرمیوں میں صحن مسجد میں جماعت	۱۹۹۱
۱۰۴ صحن مسجد یا دالان مسجد میں نماز پڑھنا	۱۹۹۲
۱۰۶ موسم گرمیوں میں صحن مسجد کی چھت پر جماعت قائم کرنا	۱۹۹۳
۱۰۷ گرمی کی وجہ سے دوسری منزل میں جماعت کرنا	۱۹۹۴

۱۰۸ شدید گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا	۱۹۹۵
۱۰۹ شدت گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت	۱۹۹۶
۱۱۰ مساجد میں ناک کان اور بغیر سروالی تصاویر لٹکانا	۱۹۹۷
۱۱۴ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نماز کی عملی مشق کرانا	۱۹۹۸
۱۱۴ مسجد میں نماز کے بعد حلقہ بنا کر دنیاوی باتیں کرنا	۱۹۹۹
۱۱۶ مسجد میں دینی باتیں سنانے کے لئے روک کر سوال کرنا	۲۰۰۰
۱۱۷ نماز کے بعد مسجد میں سوال اور سائل کی مدد	۲۰۰۱
۱۱۸ مسجد میں کسی شخص کے فساد مچانے سے متعلق چند سوالات	۲۰۰۲
 کئی منزلہ مسجد کی کسی بھی منزل کو جماعت خانہ بنالینا اور	۲۰۰۳
۱۲۲ چھت پر نماز پڑھنا	
۱۲۴ سودی قرض کی رقم سے بنائے گئے اسکول میں نماز	۲۰۰۴
۱۲۶ سودی میلوں میں مجمع کے ساتھ نماز باجماعت	۲۰۰۵
۱۲۷ ہوائی جہاز میں نماز کا جواز	۲۰۰۶
۱۲۸ کیا مساجد میں نماز کی ترکیب والی تصاویر ٹانگنا جائز ہے؟	۲۰۰۷
۱۳۰ مظاہر العلوم کا فتویٰ	۲۰۰۸
۱۳۱ استفتاء	۲۰۰۹
۱۳۲ ماہنامہ مظاہر العلوم میں شائع ہونے والا فتویٰ	۲۰۱۰
۱۳۳ مظاہر العلوم وقف کا فتویٰ	۲۰۱۱
۱۳۴ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کا فتویٰ	۲۰۱۲
۱۳۸ محاکمہ متعلقہ مسئلہ تصویر ازمولانا غلیل احمد صاحب	۲۰۱۳

۸ / باب الجماعة



۱۴۴ باجماعت نماز واجب ہے یا سنت؟	۲۰۱۴
-----	------------------------------------	------

۲۰۱۵	تارک جماعت مردود الشہادہ ہے.....	۱۳۵
۲۰۱۶	تارک جماعت کا حکم.....	۱۳۶
۲۰۱۷	کسی کے انتظار میں جماعت میں تاخیر کرنا.....	۱۳۷
۲۰۱۸	راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ترک جماعت.....	۱۳۸
۲۰۱۹	کیا نابینا پر باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے.....	۱۵۰
۲۰۲۰	مدرسہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر مسجد میں دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنا.....	۱۵۰
۲۰۲۱	کیا لوگوں کے طعنہ کے سبب تنہا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے.....	۱۵۲
۲۰۲۲	ملا کہنے کی وجہ سے نماز باجماعت ترک کر دینا.....	۱۵۳
۲۰۲۳	مسجد میں دوران نماز الگ نماز پڑھنا.....	۱۵۵
۲۰۲۴	مسجد میں جماعت کے بعد تنہا نماز پڑھنا.....	۱۵۶
۲۰۲۵	مال کی حفاظت کی وجہ سے مسجد نہ جا کر تنہا نماز پڑھنا.....	۱۵۷
۲۰۲۶	اجرت لے کر نماز تراویح پڑھانے والے کی اقتداء کرے یا تنہا نماز پڑھے.....	۱۵۸
۲۰۲۷	معدور شخص کا گھر پر نماز پڑھنا.....	۱۵۹
۲۰۲۸	برص کی بیماری میں گھر پر نماز پڑھنا.....	۱۶۱
۲۰۲۹	کوڑھی کے لئے جماعت کا سقوط.....	۱۶۲
۲۰۳۰	کوڑھ کے مریض کا جماعت میں شریک ہونا.....	۱۶۳
۲۰۳۱	کھانسی کے مریض کا مسجد میں نماز کے لئے جانا.....	۱۶۴
۲۰۳۲	جماعت کے وقت سنت و نفل پڑھنے کا حکم.....	۱۶۵
۲۰۳۳	جماعت شروع ہونے کے بعد نوافل کی نیت باندھنا.....	۱۶۷
۲۰۳۴	جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگلی صف میں سنن و نوافل پڑھنا.....	۱۶۸

۲۰۳۵	جماعت کے وقت تنہا صف میں نماز پڑھنا.....	۱۶۹
۲۰۳۶	جماعت کے قعدہ اخیرہ میں شمولیت افضل ہے یا الگ سے	
۲۰۳۷	دوسری جماعت کرنا.....	۱۷۱
۲۰۳۷	دس تا پندرہ سال تک کے بچوں کو لے کر جماعت کرنا.....	۱۷۲
۲۰۳۸	عید گاہ میں پختہ نماز ادا کرنا.....	۱۷۳
۲۰۳۹	ایک ہی باؤنڈری میں مسجد چھوڑ کر مدرسہ میں نماز پڑھنے کا حکم؟	۱۷۴
۲۰۴۰	دوسری منزل پر جماعت کرنا.....	۱۷۵
۲۰۴۱	مسجد کی چھت پر نماز باجماعت ادا کرنا.....	۱۷۷
۲۰۴۲	شدید گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا.....	۱۷۸
۲۰۴۳	رمضان میں نماز عشاء کی جماعت محلہ میں ادا کرنا.....	۱۷۹
۲۰۴۴	خارج از مسجد جماعت ادا کرنا.....	۱۸۲
۲۰۴۵	مسجد کے علاوہ جگہ میں جماعت سے نماز پڑھنا.....	۱۸۳
۲۰۴۶	دوران نماز کسی مقتدی کا الگ سے زور سے تلاوت کرنا.....	۱۸۵
۲۰۴۷	قیام اللیل کی جماعت.....	۱۸۶
۲۰۴۸	تہجد کی جماعت.....	۱۸۸
۲۰۴۹	نوافل کی جماعت.....	۱۸۹
۲۰۵۰	رمضان المبارک میں باجماعت تہجد پڑھنا.....	۱۹۰
۲۰۵۱	مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا.....	۱۹۱
۲۰۵۲	متعدد اعدار کی بنا پر نماز کے تکرار کا حکم.....	۱۹۲
۲۰۵۳	دارالحدیث میں جماعت ثانیہ.....	۱۹۵
۲۰۵۴	جماعت ثانیہ کرنے والوں کی نماز مع انکراہت ادا ہوتی ہے.....	۱۹۷
۲۰۵۵	جس ہال میں چٹنگ نہ نماز ہوتی ہو اس میں جماعت ثانیہ کرنا.....	۱۹۹

۲۰۰	محلّہ کے لوگوں کے لئے جماعت ثانیہ	۲۰۵۶
۲۰۱	ایک مسجد میں تکرار جماعت کا حکم	۲۰۵۷
۲۰۲	مسجد تنگ ہونے کی وجہ سے جماعت ثانیہ قائم کرنا	۲۰۵۸
۲۰۴	ایک ہی مسجد میں متعدد بار نماز جمعہ قائم کرنا	۲۰۵۹
۲۰۶	مسجد کی سہ دری یا حجرہ میں جماعت ثانیہ کرنے کا حکم	۲۰۶۰
۲۰۷	مسجد یا اس سے متصل دوسری جگہ میں دوسری جماعت کرنا	۲۰۶۱
۲۱۰	کیا دوسری صف میں جماعت ثانیہ کی جاسکتی ہے؟	۲۰۶۲
۲۱۱	مسجد میں جماعت ثانیہ کرنا	۲۰۶۳
۲۱۳	محلّہ کی مسجد میں جماعت ثانیہ	۲۰۶۴
۲۱۴	ایک مسجد میں جمعہ کی جماعت ثانیہ کرنا	۲۰۶۵
۲۱۵	دو منزلہ مسجد میں بیک وقت دو جماعت کا قائم کرنا	۲۰۶۶
۲۱۶	اختلاف کی وجہ سے دو جماعتیں کرنا	۲۰۶۷
۲۱۷	محراب سے ہٹ کر جماعت ثانیہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے	۲۰۶۸
۲۱۸	مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم	۲۰۶۹
۲۱۹	اہل محلّہ کا مسجد سے متصل حجرہ میں جماعت ثانیہ کرنا	۲۰۷۰
۲۲۱	جہاں امام اور مؤذن متعین نہ ہوں وہاں جماعت ثانیہ کرنا	۲۰۷۱
۲۲۲	محلّہ کی مسجد میں جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے	۲۰۷۲
۲۲۳	جماعت خانہ میں جماعت ثانیہ	۲۰۷۳
۲۲۵	جماعت ثانیہ سے متعلق ایک جامع فتویٰ	۲۰۷۴
۲۲۹	ایسی مسجد میں تکرار جماعت جائز ہے	۲۰۷۵
۲۳۱	مسافر کا محلّہ کی مسجد میں متعینہ جماعت سے قبل اپنی جماعت کرنا	۲۰۷۶
۲۳۲	بازار کی مسجد میں متعدد جماعت کرنا	۲۰۷۷

۲۳۴	کن صورتوں میں جماعت ثانیہ جائز اور کن صورتوں میں ممنوع	۲۰۷۸۰
۲۳۵	جماعت ثانیہ کہاں جائز اور کہاں مکروہ ہے.....	۲۰۷۹
۲۳۷	چار صورتوں میں جماعت ثانیہ جائز ہے.....	۲۰۸۰
۲۳۸	بارش کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں متعدد بار نماز جمعہ یا نماز عید ادا کرنا	۲۰۸۱

۹ / باب الإمامة



(۱) فصل: فی أوصاف الإمام

۲۴۰	شریعت اسلامی میں امام کا مرتبہ.....	۲۰۸۲
۲۴۲	امام کیسا ہونا چاہئے؟.....	۲۰۸۳
۲۴۴	امامت کا زیادہ حق دار کون؟.....	۲۰۸۴
۲۴۶	کیا اسلام میں امام کا اعلیٰ نسب والا ہونا مطلوب ہے؟.....	۲۰۸۵
۲۴۸	حافظ اور عالم میں امامت کا حقدار کون؟.....	۲۰۸۶
۲۴۹	افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مستقل امام متعین کرنا.....	۲۰۸۷
۲۵۰	اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنیٰ کی امامت.....	۲۰۸۸
۲۵۱	امام و مؤذن کے فرائض و ذمہ داریاں.....	۲۰۸۹
۲۵۲	امام صاحب و مؤذن نماز سے کتنی دیر قبل مسجد میں آئیں.....	۲۰۹۰
۲۵۳	امام کا تکبیر سے قبل یا تکبیر ہوتے ہوئے مصلے پر بیٹھنا.....	۲۰۹۱
۲۵۴	بوقت اقامت امام صاحب کا سیدھے مصلے پر جانا.....	۲۰۹۲
۲۵۵	امام رکوع و سجود کی تسبیحات کے درجات میں سے کس پر عمل کرے.....	۲۰۹۳
۲۵۶	امام کا دو تین منٹ تاخیر کر کے نماز پڑھانا.....	۲۰۹۴
۲۵۷	متعینہ شخص کے انتظار میں جماعت میں تاخیر کرنا.....	۲۰۹۵

۲۵۸ کیا امام پر مقتدیوں کی رعایت کرنا لازم ہے؟	۲۰۹۶
۲۶۰ امام کو مقتدیوں کی کس قدر رعایت کرنی چاہئے	۲۰۹۷
۲۶۳ کسی کی آہٹ پر امام کا رکوع کو لمبا کرنا	۲۰۹۸
۲۶۵ نماز میں بٹن کھلا رکھنے والے امام کی امامت	۲۰۹۹
۲۶۶ گر بیان کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھانا	۲۱۰۰
۲۶۷ صاحب عمامہ کی بلا عمامہ والے امام کے پیچھے نماز	۲۱۰۱
۲۶۹ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھانا	۲۱۰۲
۲۷۰ تہبند اور بنیان پہن کر امامت کرنا	۲۱۰۳
۲۷۱ پٹھانی سوٹ پہن کر نماز پڑھانا	۲۱۰۴
۲۷۲ لقطہ کی قمیص پہن کر نماز پڑھانے کا حکم	۲۱۰۵
۲۷۴ شخص واحد کا دو جگہ نماز جمعہ کی امامت کرنا	۲۱۰۶
۲۷۵ غیر شادی شدہ کی امامت	۲۱۰۷
۲۷۶ قاری و عالم اگر انگریزی ڈاکٹر ہوں تو ان کی امامت کا کیا حکم ہے؟	۲۱۰۸
۲۷۸ امامت کے ساتھ تجارت کا حکم	۲۱۰۹
۲۷۸ ثوب جازب سے استنجاء کرنے والے شخص کی امامت	۲۱۱۰
۲۷۹ سیاہ خضاب لگانے والے کی امامت	۲۱۱۱
۲۸۱ بیوی کو خوش کرنے کیلئے سیاہ خضاب لگانے والے کی امامت	۲۱۱۲
۲۸۲ سیاہ خضاب لگانے والے کی امامت	۲۱۱۳
۲۸۳ امامت کی اجرت مقرر کرنا	۲۱۱۴
۲۸۴ باتخوہ امام کی امامت	۲۱۱۵
۲۸۵ مسجد کی دوکان کے کرایہ سے تنخواہ پانے والے کی امامت	۲۱۱۶
۲۸۶ جمعہ کی نماز پڑھا کر سرکار سے پورے ماہ کی تنخواہ لینے والے کی امامت	۲۱۱۷

۲۸۷ کیا امام کو ملنے والا کھانا امام کے اہل خانہ کھا سکتے ہیں؟	۲۱۱۸
۲۸۸ طلبہ کے نام پر سرکاری وظیفہ لے کر اس کو نہ دینے والے کی امامت	۲۱۱۹
۲۸۹ چندہ کی رقم سے ۲۵ فیصد رقم لینے والے معلم کی امامت	۲۱۲۰
۲۹۱ زکوٰۃ و صدقات کھا کر تعلیم حاصل کرنے والے کی امامت	۲۱۲۱
۲۹۲ حلال و حرام پیشہ والے کے یہاں کھانا کھانے والے کی امامت	۲۱۲۲
 حضرت حسینؓ مع رفقاء شہید نہ ہوتے تو دین ٹھوکریں کھاتا	۲۱۲۳
۲۹۵ کہنے والے کی امامت	۲۱۲۴
۲۹۶ ایکشن میں کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز کا حکم	۲۱۲۵
۲۹۷ کیا طبیب امامت کر سکتا ہے؟	۲۱۲۶
۲۹۸ ڈاکٹر عالم کی امامت	۲۱۲۷
۲۹۹ پیشاب کی نالی بنے ہوئے غنسل خانہ میں غنسل کرنے والے کی امامت	۲۱۲۸
۳۰۰ مسائل نماز سے ناواقف شخص کی امامت	۲۱۲۹
۳۰۱ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر دوسری جگہ امامت کرنا	۲۱۳۰
۳۰۲ امام کو حدیث لاحق ہونے پر دوسرے شخص کو خلیفہ بنانے کی ایک شکل	۲۱۳۱
۳۰۳ دوران نماز ڈراؤنی آواز سے برابر ڈکار لینے والے امام کی امامت	۲۱۳۲
 بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے	۲۱۳۳
۳۰۴ والوں کی اقتداء	۲۱۳۴
۳۰۶ ایک نماز فوت ہونے والے صاحب ترتیب کی امامت کا حکم	۲۱۳۵
۳۰۷ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتداء کرنا	۲۱۳۶
۳۰۹ ایک وضو سے کئی وقتوں کی نماز پڑھانا	۲۱۳۷
۳۱۰ تیمم کرنے والے کے پیچھے با وضو پڑھنے والوں کی اقتداء	۲۱۳۸
۳۱۲ نصف عضو پر وضو نصف پر مسح کرنے والے کی امامت	۲۱۳۹

۲۱۳۸	بیٹھ کر اشارہ سے پڑھنے والے کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے
۳۱۳	والوں کی نماز کا حکم.....
۲۱۳۹	امام مسجد سے مسئلہ دریافت کرنا.....
۲۱۴۰	تعویذات کی اجرت لینے والے کی امامت.....
۲۱۴۱	تعویذات پر اجرت لینے والے کے پیچھے نماز.....
۲۱۴۲	تعویذ گنڈہ کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا.....
۲۱۴۳	گھر کی عورتوں کی امامت کرنا.....
۲۱۴۴	محرم اور غیر محرم عورتوں کو نماز پڑھانا.....
۲۱۴۵	طلاق دینے والے کی امامت.....
۲۱۴۶	مجبور اُپرہ کا انتظام نہ کر پانے والے کی امامت.....
۲۱۴۷	کمیشن پر چندہ کرنے والے کی امامت.....

۲ / فصل: فی النیابة عن الإمام

۲۱۴۸	شاہی امام کی تاخیر کی بناء پر نائب امام کے نماز پڑھانے پر تنازع
۲۱۴۹	امام کے ہوتے ہوئے بضرورت اس کے نائب امام کو رکھ
۳۲۴	سکتے ہیں یا نہیں؟.....
۲۱۵۰	مقررہ امام کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے
۳۲۶	دوسرے کا امامت کرنا.....
۲۱۵۱	امام کی موجودگی میں دوسرے شخص کو نماز پڑھانے کا حق نہیں
۲۱۵۲	متعینہ امام کا بغیر کسی عذر کے وقتیہ اور نماز جمعہ دوسروں سے پڑھوانا
۲۱۵۳	کیا اجازت شدہ شاگرد امامت کر سکتا ہے؟.....
۲۱۵۴	امام صاحب کی عدم موجودگی میں دوسرے شخص کا نماز پڑھانا.....

۳ / فصل : فی إمامة الصبي



۳۳۳ بارہ سال کے طالب علم کی امامت	۲۱۵۵
۳۳۴ عالم وقاری کے ہوتے ہوئے تیرہ سالہ لڑکے کی امامت	۲۱۵۶
۳۳۵ کتنی عمر میں لڑکا امامت کے قابل بن سکتا ہے؟	۲۱۵۷
۳۳۶ باشعور نابالغ کی امامت	۲۱۵۸
۳۳۷ بالغ کا نابالغوں کی امامت کرنا درست ہے یا نہیں؟	۲۱۵۹
۳۳۸ اٹھارہ سالہ لڑکے کی امامت	۲۱۶۰
۳۳۹ نابالغ بچوں کی امامت	۲۱۶۱
۳۴۰ ناظرہ خواں کی امامت	۲۱۶۲
۳۴۱ امرد کی امامت	۲۱۶۳
۳۴۲ بے ریش امرد کی امامت	۲۱۶۴
۳۴۳ بے ریش امام کے پیچھے نماز کا حکم	۲۱۶۵

۴ / فصل : فی إمامة تارك الصلاة



۳۴۵ امام صاحب کو فجر کی نماز پڑھانا یا نہیں رہا	۲۱۶۶
۳۴۶ آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا کرنے والے کی امامت	۲۱۶۷
۳۴۷ فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھنے والے مؤذن کی امامت	۲۱۶۸
۳۴۸ جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے کی امامت	۲۱۶۹
۳۴۹ تارک جماعت کی امامت	۲۱۷۰
۳۵۱ تارک صلوٰۃ کی امامت	۲۱۷۱
۳۵۲ ایک دن نماز ترک کرنے والے کا جمعہ وعیدین کی امامت کرنا	۲۱۷۲

۳۵۳	عہد نماز پنجگانہ چھوڑنے والا امامت کا اہل نہیں	۲۱۷۳
۳۵۴	مہینہ میں صرف ۷ یا ۸ دن نماز پڑھنے والے کی امامت	۲۱۷۴
۳۵۶	دو وقت کی نماز پڑھنے والے کی امامت	۲۱۷۵
۳۵۷	جمعہ کے دن تارکِ فجر کا نماز جمعہ کی امامت کرنا	۲۱۷۶
۳۵۸	سننوں کا اہتمام نہ کرنے والے کی امامت	۲۱۷۷
۳۵۹	نوافل کی پابندی نہ کرنے والے کی امامت	۲۱۷۸
۳۶۱	سنت کی رعایت کرنے والے امام پر زبانِ طعن دراز کرنا	۲۱۷۹

۵ / فصل: فی امامة الفاسق



۳۶۴	فاسق کی تعریف اور اس کے پیچھے نماز کا حکم	۲۱۸۰
۳۶۵	فاسق کی امامت کا حکم	۲۱۸۱
۳۶۷	فاسق کی امامت کا حکم	۲۱۸۲
۳۶۸	فاسق کی امامت کا حکم	۲۱۸۳
۳۷۰	مرتب کبار کی امامت	۲۱۸۴
۳۷۱	خلاف شرع امور کے مرتب کی امامت	۲۱۸۵
۳۷۴	مختلف محرمات کے مرتب امام کا حکم	۲۱۸۶
۳۷۵	مختلف منہیات کے مرتب کی امامت	۲۱۸۷
۳۷۷	خلاف سنت افعال کے مرتب کی امامت	۲۱۸۸
۳۷۸	کیا امور شنیعہ کا مرتب امامت نہیں کر سکتا؟	۲۱۸۹
۳۸۱	مختلف منکرات سے متصف شخص کی امامت	۲۱۹۰
۳۸۲	بد اخلاق و بد کردار امام کی امامت	۲۱۹۱
۳۸۳	والدین کو برا بھلا کہنے والے کی امامت	۲۱۹۲

۳۸۵ اسباب کے منکر کی امامت	۲۱۹۳
۳۸۸ موبائل کی دوکان اور مینڈھے لٹوانے والے کی امامت	۲۱۹۴
۳۹۰ مندر تعمیر کرنے والے کی امامت	۲۱۹۵
۳۹۱ نسبندی کرانے ہوئے شخص کا جماعت میں شریک ہونا اور امامت کرنا	۲۱۹۶
۳۹۲ نسبندی کرانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟	۲۱۹۷
۳۹۳ نسبندی کرانے والے کی امامت اور ناجائز و حرام میں فرق	۲۱۹۸
۳۹۵ نسبندی شدہ شخص کی امامت کا حکم	۲۱۹۹
۳۹۶ نسبندی کرانے والے کی امامت	۲۲۰۰
۳۹۷ نسبندی کرانے والے کی امامت	۲۲۰۱
۳۹۸ اپنی نسبندی کرانے والے کے پیچھے نماز	۲۲۰۲
۳۹۹ نسبندی کرانے اور ٹخنوں سے نیچے پانچواں پہننے والے کی امامت	۲۲۰۳
۴۰۰ چوری کرنے والے اور سود لینے والے کی امامت	۲۲۰۴
۴۰۱ سودی کاروبار سے وابستگی رکھنے والے کی امامت	۲۲۰۵
۴۰۲ رشوت دے کر زمین حاصل کرنے والے کی امامت	۲۲۰۶
۴۰۴ لائٹری کی خرید و فروخت کرنے والے کی امامت	۲۲۰۷
۴۰۵ مسلم فنڈ میں ملازم شخص کی امامت	۲۲۰۸
۴۰۶ سود خور کی امامت	۲۲۰۹
۴۰۸ مسلم فنڈ میں ملازمت کرنے والے کی امامت	۲۲۱۰
۴۰۹ لون پر سود لینے والے کی امامت	۲۲۱۱
۴۱۱ زانی کی امامت	۲۲۱۲
۴۱۲ زانی امام کے پیچھے نماز	۲۲۱۳
۴۱۳ لوطی کی امامت کا حکم	۲۲۱۴

۴۱۵ بد فعلی کے مرتکب کی امامت	۲۲۱۵
۴۱۶ لواطت کرنے والے شخص کی امامت	۲۲۱۶
۴۱۷ بد فعلی کرانے والے کی امامت	۲۲۱۷
۴۱۸ متہم باللواطت کی امامت کا حکم	۲۲۱۸
۴۱۹ مسجد کا موقوفہ مکان اپنے نام کرانے والے کی امامت	۲۲۱۹
۴۲۰ غیر مسلم کی دوکان پر قبضہ کرنے والے شخص کی امامت	۲۲۲۰
۴۲۱ پڑوسی کی دیوار پر ناجائز قبضہ کرنے والے کی امامت	۲۲۲۱
۴۲۳ غاصب و ظالم کی امامت	۲۲۲۲
۴۲۵ شراب پینے والے کی امامت	۲۲۲۳
۴۲۶ سالن میں خنزیر کا گوشت ملانے والے کی امامت	۲۲۲۴
۴۲۸ جاندار کی تصویر بنانے والے کی امامت	۲۲۲۵
۴۲۹ ہاتھ پر ٹیٹو (تصویر) بنوانے والے کی امامت، اذان و اقامت	۲۲۲۶
۴۳۰ بیڑی سگریٹ پینے والے کی امامت	۲۲۲۷
۴۳۲ تمباکو نوش اور کفریہ کلمات کہنے والے کی امامت	۲۲۲۸
۴۳۴ گٹکا کھانے والے کی امامت	۲۲۲۹
۴۳۴ متکبر کی امامت	۲۲۳۰
۴۳۵ قتل کے ملزم کی امامت	۲۲۳۱
۴۳۶ قاتل کے پیچھے نماز کا حکم	۲۲۳۲
۴۳۷ قاتل کی امامت	۲۲۳۳
۴۳۸ قاتل کی امامت	۲۲۳۴
۴۴۰ چغل خور اور غیبت کرنے والے کی امامت	۲۲۳۵
۴۴۱ اغلام باز و چغل خور کی امامت	۲۲۳۶

۲۲۳۲ غیبت کرنے والے کی امامت	۲۲۳۷
۲۲۳۳ قاطع تعلق کی امامت	۲۲۳۸
۲۲۳۴ کاذب کی امامت	۲۲۳۹
۲۲۳۵ جھوٹی قسم کھانے والے کی امامت	۲۲۴۰
۲۲۳۶ قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھانے والے کی امامت	۲۲۴۱
۲۲۳۷ جھوٹ بول کر قرض اور سود لینے والے کی امامت	۲۲۴۲
۲۲۳۸ جھوٹ سے توبہ کرنے والے کی امامت	۲۲۴۳
۲۵۰ چوری کا مال خریدنے والے کی امامت	۲۲۴۴
۲۵۰ دھوکہ میں رکھنے والے کی امامت	۲۲۴۵
۲۵۱ دھوکہ دے کر پیسہ لینے والے شخص کی امامت	۲۲۴۶
۲۵۳ دھوکہ دینے والے اور والدہ کو پیٹنے والے کی امامت	۲۲۴۷
۲۵۴ ٹی وی کی آواز آنے والے مکان میں امام کے قیام کا حکم	۲۲۴۸
۲۵۵ چرس کا کاروبار جائز بتانے نیز ٹی وی دیکھنے والے کی امامت	۲۲۴۹
۲۵۶ امام و مقتدیوں کا گھر میں ٹیلی ویژن رکھنا	۲۲۵۰
۲۵۸ باجے والی بارات کا نکاح پڑھانے والے کی امامت	۲۲۵۱
۲۵۹ سنیمیا دیکھنے اور بیوی کو بے پردہ گھمانے والے کی امامت	۲۲۵۲
۲۶۰ ٹی وی دیکھنے والے کی امامت	۲۲۵۳
۲۶۱ والی بال کا کھیل دیکھنے والے کی امامت	۲۲۵۴
۲۶۲ ناچ گانا ڈھولک بجانے والے کی امامت	۲۲۵۵
۲۶۴ ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز کا حکم	۲۲۵۶
۲۶۵ ٹی وی دیکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم	۲۲۵۷
۲۶۶ سنیمیا ہال اور محفل قوالی میں شرکت کرنے والے کی امامت	۲۲۵۸

۴۶۷ کبڈی اور والی بال کا کھیل دیکھنے والے کی امامت	۲۲۵۹
۴۶۸ ٹی وی دیکھنے والے کی امامت اور اس سے بیعت ہونے کا حکم	۲۲۶۰
۴۶۹ ٹیلی ویژن دیکھنے اور ریڈیو سننے والے کی امامت	۲۲۶۱
۴۷۰ سودی کاروباری اور سنیما ہال بنانے والے کے بھائی کی امامت	۲۲۶۲
۴۷۲ شرعی تقسیم نہ ماننے والے کی امامت	۲۲۶۳
۴۷۳ مسلمانوں کو مسجد سے باہر نکالنے والے کی امامت	۲۲۶۴
۴۷۴ مدرسہ کی رسید چوری کر کے چندہ کرنے والے کی امامت	۲۲۶۵
۴۷۵ ادھار لے کر ادا نہ کرنے والے کی امامت	۲۲۶۶
۴۷۷ حرام کاروباری شخص کے بیٹے کی امامت	۲۲۶۷
۴۷۸ انگریزی بال رکھنے والے کی امامت	۲۲۶۸
۴۷۹ ٹخنہ سے نیچے پاجامہ پہننے والے کی امامت	۲۲۶۹
۴۸۰ داڑھی کی شرعی حیثیت اور مخلوق اللہ کی امامت	۲۲۷۰
۴۸۲ داڑھی کٹانے والے کی امامت اور داڑھی کی شرعی حد	۲۲۷۱
۴۸۳ داڑھی منڈے امام کی امامت	۲۲۷۲
۴۸۴ داڑھی تراشنے والے کی امامت	۲۲۷۳
۴۸۵ یکمشت سے کم داڑھی والے کی امامت	۲۲۷۴
۴۸۶ خش خش داڑھی والے کی امامت	۲۲۷۵
۴۸۷ خش خش داڑھی رکھنے والے کی امامت	۲۲۷۶
۴۸۹ داڑھی کٹانے والے نیز مسائل سے ناواقف کی امامت	۲۲۷۷
۴۹۰ داڑھی کٹانے والے کی امامت	۲۲۷۸
۴۹۱ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے پڑھی گئی نماز کا حکم	۲۲۷۹
۴۹۳ ایک اونچ داڑھی رکھنے والے کی امامت	۲۲۸۰

۲۲۸۱	مجود داڑھی کٹنے کی امامت.....	۴۹۴
۲۲۸۲	مخلوق اللہیہ کی امامت.....	۴۹۵
۲۲۸۳	داڑھی کٹانے والے کی امامت اور نمازِ جمعہ کے بعد لمبی دعائیں کرنے کا حکم.....	۴۹۶
۲۲۸۴	داڑھی منڈے حافظ کی امامت.....	۴۹۸
۲۲۸۵	مخلوق اللہیہ کی فرائض اور تراویح کی امامت کا حکم.....	۴۹۹
۲۲۸۶	امام اور مقتدی دونوں کا مخلوق اللہیہ ہونا.....	۵۰۰
۲۲۸۷	داڑھی کٹانے سے توبہ کرنے والے کی امامت.....	۵۰۲
۲۲۸۸	داڑھی کٹانے سے توبہ کرنے والے کی امامت.....	۵۰۳
۲۲۸۹	مدرسۃ البنات میں پڑھانے والے شخص کی امامت.....	۵۰۴
۲۲۹۰	تعویذ کی وجہ سے نامحرم عورتوں سے بے پردہ بات کرنے والے کی امامت.....	۵۰۶
۲۲۹۱	بے پردہ نامحرم عورتوں کو تعویذ دینے والے کی امامت.....	۵۰۸
۲۲۹۲	تعویذ کے بہانے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے اور چھونے والے کی امامت.....	۵۰۹
۲۲۹۳	بے حجابانہ باتیں اور تعویذ گنڈے کرنے والے کی امامت.....	۵۱۱
۲۲۹۴	نامحرم عورتوں سے بے پردہ بات کرنے والے کی امامت.....	۵۱۲
۲۲۹۵	مسجد میں تعویذ گنڈے اور نامحرم عورتوں سے بے پردہ گفتگو کرنے والے کی امامت.....	۵۱۴
۲۲۹۶	مرد کا اجنبی عورتوں کی امامت کرنا.....	۵۱۵
۲۲۹۷	اپنی بیوی کو بدکار کہنے والے کی امامت.....	۵۱۷
۲۲۹۸	بیوی سے جھگڑا کرنے والے کی امامت.....	۵۱۸
۲۲۹۹	نوجوان لڑکیوں کو بایں پردہ فن ادب پڑھانے والے کی امامت.....	۵۱۹

۲۳۰۰	جس کی بیوی بے پردہ سفر کرتی ہو اس کی امامت کا حکم.....	۵۲۱
۲۳۰۱	نامحرم عورت کو بہن یا بھائی بنا کر رکھنے والے کی امامت.....	۵۲۲
۲۳۰۲	مطلقہ ثلاثہ کو ساتھ رکھنے والے کی امامت.....	۵۲۳
۲۳۰۳	منکوحہ الغیر کا نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۲۴
۲۳۰۴	دوران عدت نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۲۸
۲۳۰۵	مہتمم صاحب کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۳۱
۲۳۰۶	مطلقہ سمجھ کر نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۳۳
۲۳۰۷	منکوحہ یا معتدہ کا نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۳۵
۲۳۰۸	شخص واحد سے دو بہنوں کا نکاح پڑھانے والے کی امامت.....	۵۳۶
۲۳۰۹	نرودہ استعمال کرنے والے کی امامت.....	۵۳۷
۲۳۱۰	بلا عذر شرعی حمل ساقط کرانے والے کی امامت.....	۵۳۸
۲۳۱۱	مفتی اور فتویٰ کی تحقیر کرنے والے کی امامت.....	۵۳۹
۲۳۱۲	ہجرت کی امامت اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم.....	۵۴۰
۲۳۱۳	سرکاری امداد لینے والے کی امامت.....	۵۴۲
۲۳۱۴	غیر مسلم میت پر قرآن خوانی کرنے والے کی امامت.....	۵۴۳
۲۳۱۵	امام صاحب کا غیر مسلموں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا.....	۵۴۴
۲۳۱۶	بی بی پارٹی کی حمایت کرنے والے کی امامت.....	۵۴۶
۲۳۱۷	بی بی کوٹ دینے والے کی امامت.....	۵۴۸
۲۳۱۸	داڑھی منڈے کے بجائے تنج شریعت امام ہو.....	۵۵۰
۲۳۱۹	فاسق امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازوں کے اعادہ کا حکم.....	۵۵۱
۲۳۲۰	فاسق کی امامت بعد التوبہ درست ہے.....	۵۵۳
۲۳۲۱	گناہوں سے توبہ کرنے والے کی امامت.....	۵۵۴

۵۵۵ گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے والے کی امامت	۲۳۲۲
۵۵۷ گناہ سے توبہ کے بعد امامت کا حکم	۲۳۲۳
۵۵۹ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی امامت	۲۳۲۴
۵۶۰ تائب کی امامت بلا کراہت درست ہے	۲۳۲۵

□ ۶ / الفصل: فی اقتداء الحنفی بغیرہ

	کس مسلک و فرقہ کے امام کے پیچھے نماز جائز ہے اور کس	۲۳۲۶
۵۶۲ کے پیچھے ناجائز؟	
۵۶۳ حنفی شخص کا شافعی مسلک کے مطابق امامت کرنا	۲۳۲۷
۵۶۵ اہل حق امام کو چھوڑ کر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۲۸
۵۶۶ جس امام کا عقیدہ معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۲۹
۵۶۶ غلط عقیدہ والے کی امامت	۲۳۳۰
۵۶۸ حضرت تھانوی کو کافر کہنے والے کی امامت	۲۳۳۱
۵۶۹ حرم مکی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے کی امامت	۲۳۳۲
۵۷۰ مذہب بدل کر نماز پڑھانا	۲۳۳۳
۵۷۲ دیوبندی عالم کو بریلوی کہنے والے کی امامت	۲۳۳۴
۵۷۲ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۳۵
۵۷۴ غیر مقلد کی اقتداء	۲۳۳۶
۵۷۴ حنفی شخص کا غیر مقلدین کی اقتداء کرنا	۲۳۳۷
۵۷۵ منکر تقلید کی امامت	۲۳۳۸
۵۷۷ جو امام سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملاتا ہو اس کی اقتداء کرنا	۲۳۳۹
۵۷۸ شیعوں کے بچوں کو تعلیم دینے اور تعویذ گنڈے کرنے والے کی امامت	۲۳۴۰

۵۷۹	فرقہ مودودی کے لوگوں کی امامت	۲۳۴۱
۵۸۰	فرقہ مودودی کے کارکن کی امامت	۲۳۴۲
۵۸۱	فرقہ مودودی سے تعلق رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم	۲۳۴۳
۵۸۳	مودودی امام کے پیچھے نماز کا حکم	۲۳۴۴
۵۸۴	بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۴۵
۵۸۵	بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے یا تہا پڑھنا	۲۳۴۶
۵۸۶	فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۴۷
۵۸۸	میلا دالنبی میں قیام نہ کرنے والے کی امامت	۲۳۴۸
۵۸۸	میلا د پڑھنے والے اور تعزیہ بنانے والے کی امامت	۲۳۴۹
۵۹۰	تیجہ، دسواں، بارہ وفات کا چندہ کرنے والے کی امامت	۲۳۵۰
۵۹۱	بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۵۱
۵۹۲	گیارہویں منانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا	۲۳۵۲
۵۹۳	بریلوی امام کے پیچھے نماز	۲۳۵۳
۵۹۴	بریلوی امام کی اقتدا کرنا	۲۳۵۴
۵۹۵	بریلوی شخص کی امامت	۲۳۵۵
۵۹۶	بریلوی خیالات والے شخص کے پیچھے نماز کا حکم	۲۳۵۶
۵۹۸	رافضیوں کی رسموں میں شرکت کرنے والے کی امامت	۲۳۵۷
۵۹۹	الف: ۲۳۵۸ محرم کا تعزیہ بنانے والے امام کی امامت	۲۳۵۸

۷ فصل: غلط خواں کی امامت



۶۰۱	ب: ۲۳۵۸ غلط خواں کی امامت	۲۳۵۸
۶۰۲	غلط خواں کے پیچھے صحیح خواں کی نماز	۲۳۶۹

۶۰۴ غلط خواں کے پیچھے صحیح خواں کی نماز	۲۳۶۰
۶۰۵ باشرع جاہل کی امامت کیسی؟	۲۳۶۱
۶۰۶ نماز میں السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہنے والے کی امامت	۲۳۶۲
۶۰۷ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکدر کہنے والے کی امامت	۲۳۶۳
۶۰۸ ولا الضالین کی جگہ ولا الدالین پڑھنے والے کی امامت	۲۳۶۴
۶۰۹ ولا الضالین کی ادائے گی پر قدرت نہ رکھنے والے کی امامت	۲۳۶۵
۶۱۰ آلمین اور دوالین پڑھنے والے کی امامت	۲۳۶۶
۶۱۱ الف اور عین میں فرق نہ کر پانے والے کی امامت	۲۳۶۷
۶۱۲ ذال کی جگہ جیم پڑھنے والے کی امامت	۲۳۶۸
۶۱۳ ق کوک، س کوص اور ح کوہ پڑھنے والے کی امامت	۲۳۶۹
۶۱۵ ق کوک، اور سین کوص پڑھنے والے کی امامت	۲۳۷۰
۶۱۶ لفظ عین ادا نہ کر پانے والے کی امامت	۲۳۷۱
۶۱۸ حروف کاٹ کر پڑھنے والے کی امامت	۲۳۷۲
۶۱۹ بہت تیز قرآن پڑھنے والے کی امامت	۲۳۷۳
۶۲۰ مجہول پڑھنے والے کی امامت	۲۳۷۴
۶۲۱ لحن جلی کرنے والے کی امامت	۲۳۷۵
۶۲۲ لحن جلی کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا	۲۳۷۶
۶۲۳ لحن جلی و خفی کے مرتکب کی امامت	۲۳۷۷
۶۲۵ غیر مجود کی امامت کا حکم	۲۳۷۸
۶۲۶ لکنت سے نماز پڑھنے والے کی امامت	۲۳۷۹
۶۲۷ غلط قرآن پڑھنے والے کے پیچھے صحیح خواں کی نماز	۲۳۸۰
۶۲۸ حروف کی صحیح ادائیگی نہ کرنے والے کی نماز	۲۳۸۱

۶۲۹ جو امام حہص س طت میں فرق نہ کرتا ہو اس کی امامت	۲۳۸۲
۶۳۰ غیر المغضوب کی جگہ غیر المغضوبی کہنے والے کی امامت	۲۳۸۳
۶۳۲ گناہوں سے تائب شخص کی امامت	۲۳۸۴

۸ / فصل : في إمامة المعذور

۶۳۴ معذور شخص کا امام بننا	۲۳۸۵
۶۳۵ معذور و مشکوک شخص کے لئے امامت کرنا	۲۳۸۶
۶۳۸ سجدہ کی حالت میں پیشاب کا قطرہ آجانے والے کی امامت	۲۳۸۷
۶۳۹ جس کو پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہو اس کی امامت	۲۳۸۸
۶۴۰ سلسل البول کے مریض کی امامت	۲۳۸۹
۶۴۱ سلسل بول میں مبتلا امام کے پیچھے پڑھی گئی نماز کا حکم	۲۳۹۰
۶۴۲ تقاطر کی بیماری میں نماز پڑھانے کا حکم	۲۳۹۱
۶۴۴ سلسل البول کے مریض کی امامت	۲۳۹۲
۶۴۵ امام کی عدم موجودگی میں نابینا محتاج حافظ کو امام بنانا	۲۳۹۳
۶۴۷ باسند عالم کی موجودگی میں نابینا حافظ کو امام بنانا	۲۳۹۴
۶۴۸ نابینا کا امام کی عدم موجودگی میں نماز پڑھانا	۲۳۹۵
۶۴۹ نابینا شخص کا جمعہ کی امامت کرنا	۲۳۹۶
۶۵۰ نابینا کی امامت	۲۳۹۷
۶۵۱ نابینا کی امامت کا حکم	۲۳۹۸
۶۵۲ اعمیٰ کی امامت کی کراہت کی علت	۲۳۹۹
۶۵۳ نابینا عالم حافظ قاری کی امامت	۲۴۰۰
۶۵۴ محتاط نابینا کی امامت	۲۴۰۱

۲۵۶ غیر محتاط نابینا کی امامت	۲۴۰۲
۲۵۷ کیا نابینا کی امامت مکروہ ہے؟	۲۴۰۳
۲۵۷ لنگڑے کی امامت	۲۴۰۴
۲۵۸ لنگڑے شخص کی امامت	۲۴۰۵
۲۶۰ پیروں سے معذور کی امامت	۲۴۰۶
۲۶۱ صرع کے مریض کی امامت	۲۴۰۷
۲۶۱ برص کے مریض کی امامت	۲۴۰۸
۲۶۲ مقطوع الہید کی امامت	۲۴۰۹
۲۶۳ مجبوب اور خنثی مشکل کی امامت	۲۴۱۰
۲۶۵ جو شخص تشہد میں مسنونہ حالت پر نہ بیٹھ سکتا ہو اس کی امامت	۲۴۱۱
۲۶۶ جو شخص رکوع و سجدے پر قادر نہ ہو اس کی امامت	۲۴۱۲
۲۶۷ فالج زدہ شخص کی امامت	۲۴۱۳

۹ / فصل : في عزل الإمام وتحقيره

۲۶۹ مقتدیوں سے بغض و کینہ رکھنے والے کی امامت	۲۴۱۴
۲۷۰ مقتدی کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے والے کی امامت	۲۴۱۵
۲۷۲ فتنہ کو دبانے کے لئے جھوٹ بولنے والے کی امامت	۲۴۱۶
۲۷۳ امامت کو حاضری کے لئے مانع بتانے والے کی امامت	۲۴۱۷
۲۷۴ اعزاء کی بیماری کی وجہ سے دیر سے آنے والے کی امامت	۲۴۱۸
۲۷۵ گروپ بندی کر کے مقتدیوں کو بھڑکانے والے کی امامت	۲۴۱۹
۲۷۷ بدکار آدمی کی حمایت کرنے والے کی امامت	۲۴۲۰
۲۷۸ منصب امامت کے خلاف عمل کرنے والے کی امامت	۲۴۲۱

۶۷۹ شرعی قباحت کی وجہ سے متنفذ شخص کی امامت	۲۴۲۲
۶۸۱ افعال شنیعہ کے مرتکب کا ناراض مقتدیوں کی امامت کا حکم	۲۴۲۳
۶۸۲ کچھ مقتدیوں کی ناراضگی کی صورت میں امامت	۲۴۲۴
	بلا اجازت مسجد کا بلب، پانی اور پنکھا وغیرہ استعمال	۲۴۲۵
۶۸۵ کرنے والے کی امامت	
۶۸۶ محلہ کے گھرانوں میں آنے جانے والے کی امامت	۲۴۲۶
۶۸۸ دیرات تک ٹھہرنے اور دوستوں سے ملاقات کرنے والے کی امامت	۲۴۲۷
۶۹۰ امام کے اندر شرعی قباحت نہ ہونے کی صورت میں نماز کا حکم	۲۴۲۸
۶۹۱ اکثر مقتدی خوش ہوں تو امامت بلا کراہت جائز ہے	۲۴۲۹
۶۹۳ نائب امام کے ساتھ گھناؤنی سازش کرنے والے امام کی امامت	۲۴۳۰
	امامت کے حصول کی خاطر موجود امام کے خلاف لوگوں	۲۴۳۱
۶۹۵ کو اکسانے والے کی امامت	
۶۹۶ جس سے لوگ ناراض ہوں اس کی امامت	۲۴۳۲
۶۹۸ گشت نہ کرانے کی وجہ سے کسی مقتدی کا امام سے ناراض ہو جانا	۲۴۳۳
۷۰۰ اکثر نمازیوں کی رضا مندی کے باوجود متولی کا امام کو معزول کرنا	۲۴۳۴
۷۰۱ نہی عن المنکر کی وجہ سے مقتدی کا امام سے ناراض ہونا	۲۴۳۵
۷۰۲ مقتدی کو تکبیر کرنے پر کیا امام پرتاوان لازم ہے؟	۲۴۳۶
۷۰۴ امام کو جھاڑ دینے پر مجبور کرنے والے کی نماز	۲۴۳۷
۷۰۵ امام مسجد کا مسجد کے اندر جھاڑ دینا	۲۴۳۸
۷۰۶ فتنہ و فساد کی بنا پر امام کو مسجد سے ہٹا دینا	۲۴۳۹
۷۰۸ کسی ایک شخص کے کہنے پر بلا عذر شرعی امام کو ہٹانا	۲۴۴۰
۷۰۹ امام صاحب پر جھوٹا الزام لگانے والوں کی نماز	۲۴۴۱

۷۱۳ دنیوی غرض کی وجہ سے امام صاحب سے ناراض ہونا.....	۲۴۴۲
۷۱۴ امام کی مخالفت کرنے والے کی نماز کا حکم.....	۲۴۴۳
۷۱۵ ناپسندیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا.....	۲۴۴۴
۷۱۶ امام کو منافق کہنے والے کی نماز کا حکم.....	۲۴۴۵
۶۱۸ امام صاحب کی بے عزتی کرنے والوں کی نماز کا حکم.....	۲۴۴۶
۶۱۹ امام سے ناراض ہو کر الگ نماز پڑھنا.....	۲۴۴۷
۷۲۱ ذاتی اختلاف کی وجہ سے جماعت ثانیہ اور غلط قرآن پڑھنا.....	۲۴۴۸
۷۲۳ ناراض امام کے پیچھے بڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرنا.....	۲۴۴۹
۷۲۴ قطع تعلق کرنے والے امام کی اقتدا کرنا.....	۲۴۵۰
۷۲۵ بلاعذر شرعی امام سے ناراض ہو کر اقتدا ترک کرنا.....	۲۴۵۱
۷۲۶ مقتدیوں کو منافق کہنے والے کے پیچھے نماز کا حکم.....	۲۴۵۲
۷۲۷ غیر مقلدین اور بریلوی امام کی اقتداء.....	۲۴۵۳
۷۲۸ حنفی کا وتر میں ائمہ حرم کی اقتدا کا حکم.....	۲۴۵۴
۷۳۰ حنفی کا قرآن دیکھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتدا کا حکم.....	۲۴۵۵
۷۳۱ امام صاحب کی عدم موجودگی میں دوسرے شخص کا نماز پڑھانا.....	۲۴۵۶
۷۳۵ حنفی مقتدی کی شافی امام کے پیچھے نماز وتر کا حکم.....	۲۴۵۷



فہرست مضامین

۹ / بقية كتاب الصلاة

□	۱۰ / باب تسوية الصفوف	□
صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۳ نماز میں صف سیدھی کرنا واجب ہے	۲۴۵۸
۳۴ حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ کا صف سیدھی کرنے کا اہتمام	۲۴۵۹
۳۵ تکبیر ختم ہونے پر تسویہ صفوف کا اعلان کرنا	۲۴۶۰
۳۶ امام اقامت سے قبل صفیں سیدھی کرائے یا اقامت کے بعد	۲۴۶۱
۳۸ امام کا نماز سے قبل صفیں درست کروانا	۲۴۶۲
۳۹ کیا صفوں کو سیدھا کرنا امام کی ذمہ داری ہے؟	۲۴۶۳
۴۱ کیا صفوں کو سیدھا کرنا امام پر لازم ہے؟	۲۴۶۴
۴۳ صفوں کی درستگی کا ذمہ دار کون ہے، امام صاحب یا مقتدی حضرات؟	۲۴۶۵
۴۴ امام کے علاوہ دوسرے شخص کا صفوں کو سیدھا کرنا	۲۴۶۶
۴۷ امام کا صفیں درست کرائے بغیر نماز شروع کرنا	۲۴۶۷
۴۸ تکبیر اولیٰ میں امام صاحب کا مصلے پر بیٹھنا	۲۴۶۸
۴۹ صحابہ کرام مؤذن کے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے	۲۴۶۹
۵۰ فقہاء نے ”حي على الصلاة“ پر کھڑے ہونے کو کیوں کہا؟	۲۴۷۰

- ۲۴۷۱ صف کب سیدھی کریں؟ ۵۲
- ۲۴۷۲ مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں؟ ۵۴
- ۲۴۷۳ صفوں کی ترتیب کا مسنون طریقہ ۵۵
- ۲۴۷۴ صفوں کو سیدھا کرنے سے متعلق چند سوالات ۵۹
- ۲۴۷۵ امام کے پیچھے کون کھڑا ہو؟ ۶۳
- ۲۴۷۶ جماعت کے لئے کس وقت کھڑے ہوں؟ ۶۴
- ۲۴۷۷ نماز کے لئے کس وقت کھڑا ہونا چاہئے؟ ۶۵
- ۲۴۷۸ نماز میں قیام کا صحیح طریقہ ۶۸
- ۲۴۷۹ نماز میں ٹانگیں چیر کر کھڑا ہونا ۶۹
- ۲۴۷۹ دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کے فاصلہ کی شرعی حیثیت ۷۰
- ۲۴۸۰ صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟ ۷۲
- ۲۴۸۱ صحت اقتداء کے لئے اتصال صفوف شرط ہے؟ ۷۳
- ۲۴۸۲ نماز باجماعت میں ٹخنوں سے ٹخنے ملانا ۷۴
- ۲۴۸۳ کیا دروں کے موٹے پردے صحت اقتداء کے لئے مانع ہیں؟ ۷۶
- ۲۴۸۴ مقتدی کا وسط صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ۷۷
- ۲۴۸۵ معذور شخص کا پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ۷۹
- ۲۴۸۶ پہلی صف مکمل ہونے سے قبل دوسری صف بنانا ۸۰
- ۲۴۸۷ کیا ستون کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ۸۱
- ۲۴۸۸ ایک صف چھوڑ کر دوسری میں نماز پڑھنا ۸۲

- ۲۴۸۹ دائیں بائیں جانب جگہ چھوڑ کر صرف بیچ میں صف بچھانا ۸۳
- ۲۴۹۰ بارش کی بناء پر دو تین صفوں کا خلا کرنا ۸۵
- ۲۴۹۱ تین صفوں کے بقدر راستے مانع اتصال ہیں ۸۷
- ۲۴۹۲ صفوں کے درمیان میں وضو کی نالی کا فاصلہ ۸۹
- ۲۴۹۳ حرم شریف میں جماعت سے نماز پڑھنے کے متعلق چند سوالات ۹۰
- ۲۴۹۴ جو پہلے آ کر بیٹھ جائے وہی اس جگہ کا حقدار ہے ۹۲
- ۲۴۹۵ صف میں رومال رکھ کر وضو کے لئے جانا ۹۳
- ۲۴۹۶ صف اول میں رومال رکھ کر جگہ گھیرنا ۹۴
- ۲۴۹۷ پہلی صف میں جگہ متعین کرنا ۹۵
- ۲۴۹۸ مصلیٰ کا اپنے لئے جگہ مخصوص کرنا ۹۷
- ۲۴۹۹ امام کی دونوں جانب قرآن سیکھنے والے طلبہ کا کھڑا ہونا ۱۰۰
- ۲۵۰۰ ۱۴/۱۳ رسالہ لڑکے کا صف اول میں کھڑا ہونا ۱۰۲
- ۲۵۰۱ بڑوں کی صف میں بچے کا کھڑا ہونا ۱۰۳
- ۲۵۰۲ ۹/۸ رسالہ بچہ کا مردوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا ۱۰۵
- ۲۵۰۳ کتنی عمر کا بچہ صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ۱۰۶
- ۲۵۰۴ مسجد سے متصل گھر میں عورت امام کی اقتداء کر سکتی ہے؟ ۱۰۷
- ۲۵۰۵ عورت کا شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ۱۰۸
- ۲۵۰۶ ایک مرد و عورت جماعت کریں تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی؟ ۱۰۹
- ۲۵۰۷ امام کا محراب سے باہر کھڑا ہونا ۱۱۰

- ۲۵۰۸ امام کا مقتدیوں کی صف سے کچھ آگے کھڑا ہونا ۱۱۱
- ۲۵۰۹ امام کا مقتدیوں کی صف میں کچھ آگے کھڑا ہونا ۱۱۲
- ۲۵۱۰ امام کا ایک بالشت او نچائی پر کھڑے ہونے کا حکم ۱۱۴
- ۲۵۱۱ مقتدی امام کے مقابلے ایک بالشت او پر کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟ ۱۱۵
- ۲۵۱۲ امام صاحب کا مصلیٰ دو اونچ او نچا بنانا ۱۱۶
- ۲۵۱۳ امام کتنی او نچائی پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ ۱۱۷
- ۲۵۱۴ دو اونچ او نچے فرش پر امام کے کھڑے ہونے کا جواز ۱۱۸
- ۲۵۱۵ دریا محراب میں امام کا قدم باہر ہونا ۱۱۹
- ۲۵۱۶ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کے بیچ میں ایڑی کے برابر آگے کھڑا ہونا ۱۲۱
- ۲۵۱۷ گرمی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہونا ۱۲۲
- ۲۵۱۸ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑے ہونا ۱۲۳
- ۲۵۱۹ جگہ کی تنگی کے باعث امام و مقتدی کا ایک صف میں کھڑے ہونا ۱۲۴

□	۱۱ / باب مدرک، مسبوق، لاحق	□
---	----------------------------	---

- ۲۵۲۰ امام کی تکبیر سے قبل تکبیر کہنے والے مقتدی کی نماز درست نہیں ۱۲۶
- ۲۵۲۱ مسبوق کا تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ۱۲۷
- ۲۵۲۲ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ تکبیر اور انتقال رکن کرے ۱۲۸
- ۲۵۲۳ درمیان صلوٰۃ مکبر کا زور سے تکبیر کہنا ۱۲۹
- ۲۵۲۴ امام کے قرأت شروع کر دینے کے بعد مقتدی کا ثناء پڑھنا ۱۳۰
- ۲۵۲۵ نماز کے فرائض و سنن و نوافل میں امام کی متابعت ۱۳۱

- ۲۵۲۶ کیا امام کی اتباع سنن و مستحبات میں ضروری ہے؟ ۱۳۳
- ۲۵۲۷ ارکان فعلی و قوی میں امام کی اتباع کا حکم ۱۳۴
- ۲۵۲۸ تکبیرات انتقالیہ میں مقتدی کا امام سے سبقت کر جانا ۱۳۵
- ۲۵۲۹ امام کی تکبیر کے مکمل ہونے سے قبل مقتدیوں کا انتقال رکن کرنا ۱۳۷
- ۲۵۳۰ رکوع میں آنے والے مسبوق کو بغیر ہاتھ اٹھائے و باندھے امام کے ساتھ شریک ہو جانا ۱۳۸
- ۲۵۳۱ مقتدی کے رکوع میں جاتے ہی امام نے سر اٹھالیا ۱۳۹
- ۲۵۳۲ مقتدی کا امام سے قبل سجدہ کرنا ۱۴۰
- ۲۵۳۳ امام کے سلام مکمل کرنے سے پہلے مقتدی کا سلام پورا کر لینا ۱۴۱
- ۲۵۳۴ امام کے سلام پورا ہونے سے قبل مقتدی کا سلام پورا ہونا ۱۴۲
- ۲۵۳۵ مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ۱۴۳
- ۲۵۳۶ خوف حدیث وغیرہ کی بناء پر امام سے پہلے سلام پھیرنا ۱۴۵
- ۲۵۳۷ مسبوق کا قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد خاموش رہنا ۱۴۶
- ۲۵۳۸ مسبوق کے اہتیا میں بیٹھے ہی امام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مسبوق کیا کرے؟ ۱۴۷
- ۲۵۳۹ قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہی امام کھڑا ہو جائے ۱۴۸
- ۲۵۴۰ قعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں مسبوق کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے امام کا کھڑا ہو جانا ۱۴۹
- ۲۵۴۱ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بیٹھنے سے قبل امام سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۱۵۲
- ۲۵۴۲ مسبوق نے حالت تشہد میں نماز میں شرکت کی اور امام تیسری کیلئے کھڑا ہو گیا ۱۵۳
- ۲۵۴۳ مسبوق امام کے سلام پھیرنے کی صورت میں تشہد مکمل کرے گا یا نہیں؟ ۱۵۵
- ۲۵۴۴ قعدہ اولیٰ میں شریک ہونے والا اہتیا پوری کرے یا تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو؟ ۱۵۷
- ۲۵۴۵ مسبوق تشہد مکمل کرے یا امام کی متابعت میں کھڑا ہو جائے؟ ۱۵۹

- ۲۵۴۶ مسبوق قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ کیا پڑھے ۱۶۰
- ۲۵۴۷ مسبوق اپنی بقیہ رکعت میں سے کس میں سورۃ ملائے گا ۱۶۲
- ۲۵۴۸ مسبوق چھوٹی ہوئی رکعت میں کونسی سورت پڑھے؟ ۱۶۳
- ۲۵۴۹ مقتدی کا بھول سے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت میں شریک نہ ہونا ۱۶۴
- ۲۵۵۰ دوران صلوٰۃ مقتدی کا سوچانا ۱۶۵
- ۲۵۵۱ جلوس کے شوکی وجہ سے مقتدی سجدہ ہی میں رہ گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو کیا کریں؟ ۱۶۶
- ۲۵۵۲ مدرک امام کے سلام پر اپنے کو مسبوق سمجھتے ہوئے کھڑا ہو جائے پھر لوٹ آئے تو کیا حکم ہے؟ ۱۶۸
- ۲۵۵۳ مسبوق نے صرف ایک رکعت پائی تو باقی نماز کس طرح پڑھے گا؟ ۱۶۹
- ۲۵۵۴ مغرب کی ایک رکعت پانے والا دوسری رکعت میں قعدہ کرے گا؟ ۱۷۰
- ۲۵۵۵ رباعی نماز میں مسبوق اپنی بقیہ تین رکعت کس طرح پوری کرے؟ ۱۷۱
- ۲۵۵۶ مسبوق پر دعاء قنوت کون سی رکعت میں واجب ہے؟ ۱۷۲
- ۲۵۵۷ امام کا نقص مقتدی مسبوق کا نقص ہے ۱۷۳
- ۲۵۵۸ مسبوق مقتدی سجدہ سہو میں شریک ہوگا یا نہیں؟ ۱۷۵
- ۲۵۵۹ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کے متنبہ کرنے پر دوسری منزل والوں کا سلام پھیرنا ۱۷۶
- ۲۵۶۰ دوران نماز تک خارج ہو جائے تو وضو کے بعد باقی نماز کس طرح ادا کریں؟ ۱۷۷

□	۱۲ / باب القراءۃ	□
---	------------------	---

- ۲۵۶۱ مغرب، عشاء، فجر میں جہر اور ظہر و عصر میں سر کی عقلی و نقلی دلیل ۱۷۹
- ۲۵۶۲ رات کی نمازیں جہری اور دن کی سری کیوں ہیں؟ ۱۸۲
- ۲۵۶۳ نماز عشاء، فجر و مغرب میں قرأت بالجہر ہے تو ظہر عصر میں کیوں نہیں؟ ۱۸۴

- ۲۵۶۴ ظہر اور عصر میں سری قرأت کی حکمت ۱۸۵
- ۲۵۶۵ جمعہ میں جہراً اور ظہر میں سرّاً قرأت کرنے کی وجہ؟ ۱۸۶
- ۲۵۶۶ ایک رکعت میں مختلف روایتوں میں قرأت کرنا ۱۸۷
- ۲۵۶۷ فرض نماز میں قرأت سبچہ کرنا ۱۸۸
- ۲۵۶۸ فرض کی دو بھری اور خالی رکعتوں کا مطلب ۱۹۰
- ۲۵۶۹ فرض کی دوسری رکعت میں سورۃ ملانے کے بجائے تیسری میں ملانا ۱۹۱
- ۲۵۷۰ فرض کی پہلی ۲ رکعت اور نفل کی چاروں میں سورۃ ملانا ۱۹۲
- ۲۵۷۱ بوقت جماعت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کتنی تیز رکھیں؟ ۱۹۴
- ۲۵۷۲ امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا اور قرأت کرنا ۱۹۵
- ۲۵۷۳ ایک آیت کو ٹکڑے کرنے اور ترمیم سے قرأت کرنے کا حکم ۱۹۶
- ۲۵۷۴ قرأت سری تعریف ۱۹۷
- ۲۵۷۵ کیا فرض نماز میں لقمہ نہیں دے سکتے؟ ۱۹۸
- ۲۵۷۶ امام کو لقمہ دینے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ۱۹۹
- ۲۵۷۷ امام کو سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے لقمہ دینا ۲۰۱
- ۲۵۷۸ امام کو غلط لقمہ دینا ۲۰۲
- ۲۵۷۹ اگر امام کو یقین ہو تو مقتدیوں کے قول کا اعتبار نہیں ۲۰۴
- ۲۵۸۰ مقتدی کا غلط لقمہ دینا ۲۰۵
- ۲۵۸۱ غلط لقمہ قبول کرنے سے نماز کا حکم ۲۰۷
- ۲۵۸۲ نماز کے دوران بچے کے کہنے پر کسی مقتدی کا زور سے تکبیر کہنا ۲۰۸
- ۲۵۸۳ لقمہ دینے پر تکبیر کہنے والے کی نماز کا حکم ۲۰۹

- ۲۵۸۴ بغل میں نماز پڑھنے والا کوئی رکن چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ ۲۱۲
- ۲۵۸۵ تین رکعت پر سلام پھیرنے والے کو برابر والے کا لقمہ دینا ۲۱۳
- ۲۵۸۶ تین آیات کے بعد پڑھنے کے بعد مقتدی کا لقمہ دینا ۲۱۴
- ۲۵۸۷ عصر میں جہر سورہ فاتحہ پڑھنے پر مقتدی کا اردو میں لقمہ دینا ۲۱۵
- ۲۵۸۸ قرآن میں دیکھ کر لقمہ دینے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ۲۱۶
- ۲۵۸۹ نماز میں سورہ فاتحہ کی آیت پر وقف کرنا اولیٰ ہے یا وصل کرنا ۲۱۷
- ۲۵۹۰ نماز کی مسنون سورتیں ۲۱۸
- ۲۵۹۱ ظہر میں اوساط مفصل اور عشاء میں طوال مفصل پڑھنا ۲۲۰
- ۲۵۹۲ نماز میں ترتیب وار قرآن پڑھنا ۲۲۲
- ۲۵۹۳ خلاف ترتیب قراءت کرنا ۲۲۳
- ۲۵۹۴ کیا قرأت میں تو اترا آیات شرط ہے؟ ۲۲۴
- ۲۵۹۵ درمیانی سورت میں ایک آیت چھوڑ کر پڑھنے کا حکم ۲۲۵
- ۲۵۹۶ کیا نماز پنجگانہ تراویح اور سنن و نوافل میں ترتیل لازم ہے؟ ۲۲۶
- ۲۵۹۷ فجر کی پہلی رکعت دوسری سے کتنی لمبی ہونی چاہئے؟ ۲۲۸
- ۲۵۹۸ ایک رکعت میں مکمل سورہ پڑھنا اولیٰ ہے ۲۳۰
- ۲۵۹۹ پہلی رکعت میں سورہ زلزال دوسری میں عادیات کے درمیان افلا یعلم سے پڑھنا ۲۳۲
- ۲۶۰۰ پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری میں والعدیات پڑھنا ۲۳۳
- ۲۶۰۱ پہلی رکعت میں سورہ ہر وج کی آخری تین آیتیں دوسری میں سورہ قریش پڑھنا ۲۳۵
- ۲۶۰۲ نماز جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی قرأت پر ایک اعتراض کا جواب ۲۳۶
- ۲۶۰۳ وتر میں کسی سورہ کو متعین کرنا ۲۳۹

- ۲۶۰۴ وتر کی پہلی رکعت میں والضحیٰ دوسری میں الم نشرح تیسری میں والتین پڑھنا ۲۴۰
- ۲۶۰۵ پہلی رکعت میں سورۃ کا ابتدائی حصہ اور دوسری میں آخری حصہ پڑھنا یا اس کے برعکس کرنا ۲۴۲
- ۲۶۰۶ تہجد میں قل هو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھی جائے؟ ۲۴۳
- ۲۶۰۷ نماز میں سورۃ فاتحہ میں رب العلمینہ ولا الضالینہ پڑھنا ۲۴۴
- ۲۶۰۸ سورہٴ فاتحہ کی آیتوں کے آخر میں ہ پڑھنا ۲۴۵
- ۲۶۰۹ سورۃ نازعات کے بعد والی سورۃ چھوڑ کر اگلی سورۃ پڑھنا ۲۴۶
- ۲۶۱۰ تین آیات کی مقدار پڑھنے کے بعد ایک آیت چھوٹ جانے کا حکم ۲۴۷
- ۲۶۱۱ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت چھوڑنے کا حکم ۲۴۸
- ۲۶۱۲ سورت کے درمیان آیت چھوٹ جانا ۲۴۹
- ۲۶۱۳ بھولنے کی وجہ سے چند آیتیں چھوڑ کر آگے سے پڑھنا ۲۵۰
- ۲۶۱۴ نستعین کی جگہ نستاعین پڑھنے کا حکم ۲۵۱
- ۲۶۱۵ ولا الضالین کے مد کو چھ سات الف کی مقدار کھینچنا ۲۵۲
- ۲۶۱۶ اِخْتِفاء کی جگہ اِذْغَام اور اِذْاَل کی جگہ ظاہر پڑھنا ۲۵۳
- ۲۶۱۷ لفظی یا اعرابی غلطی کا حکم ۲۵۴
- ۲۶۱۸ صَدَقْنَا کے بجائے صَدَقْنَا پڑھنا ۲۵۶
- ۲۶۱۹ وقف تام کی صورت میں معنی بدلنے سے نماز کا حکم ۲۵۷
- ۲۶۲۰ لایتکلمون الا عذابا پڑھنے سے نماز کا حکم ۲۵۹
- ۲۶۲۱ سینین کی جگہ سینا پڑھنا ۲۶۰
- ۲۶۲۲ الجحیم کی جگہ الجنة پڑھنا ۲۶۱
- ۲۶۲۳ و نمارق مصفوفۃ بالضم اور ولا انتم کی جگہ ولنتم پڑھنا ۲۶۲

- ۲۶۲۳ نماز میں یذرون کے بجائے تذرون پڑھ دینا ۲۶۲۳
- ۲۶۲۴ مِمَّا يَعْلَمُونَ کی جگہ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پڑھنا ۲۶۲۴
- ۲۶۲۶ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ چھوٹ جانے سے نماز درست ۲۶۲۶
- ۲۶۲۷ لَا يَعْلَمُونَ کی جگہ يَشْعُرُونَ پڑھنا ۲۶۲۷
- ۲۶۲۸ جِزَاءً وَفَاقَا کے بجائے جِزَاءً مِنْ رَبِّكَ پڑھنا ۲۶۲۸
- ۲۶۲۹ بِالصَّوْمِ کی جگہ بِالْحَقِّ پڑھنا ۲۶۲۹
- ۲۶۳۰ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا میں وَالْأَرْضِ چھوٹ گیا ۲۶۳۰
- ۲۶۳۱ وَأَمَّا الْيَتِيمَ کی جگہ وَأَمَّا الْإِنْسَانَ پڑھنا ۲۶۳۱
- ۲۶۳۲ وَمَا يَخْفَىٰ کی جگہ وَمَا يَغْفَىٰ پڑھنا ۲۶۳۲
- ۲۶۳۳ نَاعِمَةً کی جگہ نَاصِبَةً پڑھنے سے نماز فاسد ۲۶۳۳
- ۲۶۳۴ حَبْلٍ مِنْ مَسَدٍ کی جگہ حَبْلٍ مَسَدٍ پڑھنے کا حکم ۲۶۳۴
- ۲۶۳۵ فُحْشٍ غَلْطِي ہونے کے بعد دوبارہ صحیح کر کے پڑھنے کا حکم ۲۶۳۵
- ۲۶۳۶ قُرْآتٍ میں فُحْشٍ غَلْطِي کا معیار ۲۶۳۶
- ۲۶۳۷ قرآن بھول جانے والا نماز کس طرح ادا کرے؟ ۲۶۳۷
- ۲۶۳۸ متشابہ کی وجہ سے دوسری جگہ سے پڑھنا پھر لوٹ آنا ۲۶۳۸

□	۱۳ / باب الجمع بين الصلوتين	□
---	-----------------------------	---

- ۲۶۳۹ ہلکی بارش پر جمع بین الصلوٰۃ کا حکم ۲۶۳۹
- ۲۶۴۰ معمولی بارش کی وجہ سے جمع بین الصلوٰتین کرنا ۲۶۴۰
- ۲۶۴۱ ایک ہی وقت میں متعدد وقتیہ نمازیں پڑھنا ۲۶۴۱

□	۱۴ / باب صلوة النساء	□
---	----------------------	---

۲۸۶ کیا مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے؟	۲۶۴۲
۲۸۷ عورتوں و مردوں کی نماز میں فرق سے متعلق احادیث	۲۶۴۳
۲۸۹ مستورات حرم کی میں نماز پڑھیں یا گھر میں؟	۲۶۴۴
۲۹۱ عورت قیام میں پاؤں کو ملانے یا درمیان میں فاصلہ رکھے؟	۲۶۴۵
۲۹۱ کیا عورتوں کے لئے قیام میں ٹخنے ملانا مسنون ہے؟	۲۶۴۶
۲۹۳ عورت سینہ بند نہ پہنے تو کیا نماز ہو جائے گی؟	۲۶۴۷
۲۹۴ عورتوں کی ہتھیلیوں کو نماز میں کھلا رکھنے کا حکم	۲۶۴۸
۲۹۵ عورت و مرد کے رکوع میں فرق	۲۶۴۹
۲۹۶ عورت کا سجدہ میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ	۲۶۵۰
۲۹۷ پیشانی کو اوڑھنی سے ڈھانک کر اس پر سجدہ کرنا	۲۶۵۱
۲۹۸ عورتوں کا حرم میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا	۲۶۵۲
۲۹۹ سجدہ میں پیر کی انگلیوں کا رخ	۲۶۵۳
۳۰۰ سجدے میں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا واجب ہے یا سنت؟	۲۶۵۴
۳۰۱ عورت کا دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا	۲۶۵۵
۳۰۲ بازوؤں کو پہلو سے ملائیں یا کہنیوں کو زمین پر بچھائیں؟	۲۶۵۶
۳۰۳ سجدہ میں عورتوں کا تورک کرنا	۲۶۵۷
۳۰۵ عورتوں کا نماز و دیگر عبادت کے لئے مسجد جانا	۲۶۵۸
۳۰۶ عورتوں کی جماعت کا حکم	۲۶۵۹

- ۲۶۶۰ تنہا عورتوں کی جماعت کا حکم ۳۰۷
- ۲۶۶۱ تنہا عورتوں کا جماعت کرنا ۳۰۸
- ۲۶۶۲ عورتوں کا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ۳۱۱
- ۲۶۶۳ حافظہ عورت کا تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا ۳۱۲
- ۲۶۶۴ عورتوں کا رمضان میں نماز تراویح پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا ۳۱۳
- ۲۶۶۵ عورت کا نماز پنجگانہ اور تراویح کی امامت کرنا ۳۱۴
- ۲۶۶۶ مستورات کا مسجد میں نماز پڑھنا ۳۱۵
- ۲۶۶۷ عورتوں کا بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا ۳۱۷
- ۲۶۶۸ عورت کا جینس پہن کر نماز پڑھنا ۳۱۸
- ۲۶۶۹ عورت کا ساڑھی پہن کر نماز پڑھنا ۳۱۹
- ۲۶۷۰ عورت کا چست لباس پہن کر نماز پڑھنا ۳۲۰
- ۲۶۷۱ نماز کی حالت میں عورت کی کلائی کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ ۳۲۱
- ۲۶۷۲ کھلے ہوئے یا جوڑا بنائے ہوئے بالوں پر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھنا ۳۲۲
- ۲۶۷۳ ہاف آستین والے کپڑوں میں عورتوں کی نماز ۳۲۳
- ۲۶۷۴ لپ اسٹک لگا کر نماز و روزہ کا حکم ۳۲۴
- ۲۶۷۵ عورتیں قضاء نماز کس طرح پڑھیں؟ ۳۲۵

□	۱۵/ باب ما یکرہ فی الصلاة وما لایکرہ	□
---	--------------------------------------	---

- ۲۶۷۶ مسجد کے دروں میں نماز پڑھنا ۳۲۷
- ۲۶۷۷ مسجد کے دروازہ پر امام صاحب کا کھڑا ہونا ۳۲۸

- ۲۶۷۸ امام صاحب کی ایڑی کا محراب سے باہر نہ ہونا ۳۲۹
- ۲۶۷۹ محراب کے مقابل صف کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ۳۳۱
- ۲۶۸۰ امام صاحب کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر امامت کرنا ۳۳۲
- ۲۶۸۱ امام صاحب کا محراب کے اندر نماز پڑھانا کیوں مکروہ ہے؟ ۳۳۳
- ۲۶۸۲ درمیں نماز پڑھنے یا پڑھانے کا حکم ۳۳۴
- ۲۶۸۳ امام صاحب کا محراب میں کھڑا ہونا ۳۳۶
- ۲۶۸۴ مقتدی کی رعایت میں امام صاحب کا رکوع کو لمبا کرنا ۳۳۷
- ۲۶۸۵ مقتدی کا امام صاحب کے رکوع و سجدہ کے بعد رکوع و سجدہ کرنا ۳۳۹
- ۲۶۸۶ مقتدی کا امام کی تکبیر مکمل ہونے سے قبل انتقال رکن کرنا ۳۴۰
- ۲۶۸۷ امام صاحب کا اوپر کی منزل پر نماز پڑھانا ۳۴۱
- ۲۶۸۸ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کے لئے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۲
- ۲۶۸۹ امام کے سلام ثانی سے قبل مقتدی کا نماز مکمل کر لینا ۳۴۳
- ۲۶۹۰ مقتدی امام سے قبل سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۴
- ۲۶۹۱ بحالت مجبوری تعدہ اخیرہ میں صرف شہد اور رکوع و سجود میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا ۳۴۵
- ۲۶۹۲ چھپلی صف میں تنہا نماز پڑھنا ۳۴۶
- ۲۶۹۳ ایک سانس میں دونوں طرف سلام پھیرنا ۳۴۷
- ۲۶۹۴ نماز یا غیر نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا ۳۴۸
- ۲۶۹۵ مانگ پر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ ۳۵۰
- ۲۶۹۶ لاؤڈ اسپیکر پر فرائض پنج گانہ کی ادائے گی کا حکم ۳۵۱
- ۲۶۹۷ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ۳۵۱

۲۶۹۸	کثیر مجمع میں مانگ سے نماز پڑھانا	۳۵۳
۲۶۹۹	نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا	۳۵۳
۲۷۰۰	نماز میں سر پر ٹوپی رکھنا مسنون ہے یا مستحب	۳۵۶
۲۷۰۱	ننگے سر نماز پڑھنا	۳۵۷
۲۷۰۲	بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا	۳۵۸
۲۷۰۳	بغیر ٹوپی کے مستقل نماز پڑھنا	۳۵۹
۲۷۰۴	ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟	۳۶۰
۲۷۰۵	مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپوں کا استعمال کرنا	۳۶۱
۲۷۰۶	چٹائی، پلاسٹک اور بینت کی ٹوپی میں نماز	۳۶۳
۲۷۰۷	رومال سر پر باندھ کر نماز پڑھنا	۳۶۴
۲۷۰۸	بغیر ٹوپی کے یا چٹائی وغیرہ کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا	۳۶۵
۲۷۰۹	چٹائی کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا	۳۶۶
۲۷۱۰	داڑھی و رخسار چھپا کر نماز پڑھانا	۳۶۷
۲۷۱۱	پیشانی ڈھک کر نماز پڑھنا	۳۶۸
۲۷۱۲	ٹوپی، چادر، یا دوپٹے سے پیشانی پر سجدہ کرنا	۳۶۹
۲۷۱۳	دوران نماز کپڑوں کو ہاتھوں سے جھاڑنا	۳۷۱
۲۷۱۴	رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دامن صحیح کرنا	۳۷۲
۲۷۱۵	رکوع سے اٹھتے یا سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے دامن سمیٹنا	۳۷۳
۲۷۱۶	رکوع سے اٹھتے اور سجدے میں جاتے وقت دامن سیدھا کرنا	۳۷۵
۲۷۱۷	دوران صلوٰۃ دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کرنا	۳۷۶

- ۲۷۱۸ جیب میں روپے رکھ کر نماز پڑھنا ۳۷۷
- ۲۷۱۹ روپیہ اور کرنسی جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا ۳۷۸
- ۲۷۲۰ جیب میں تصویر والا آئی کارڈ رکھ کر نماز پڑھنا ۳۷۹
- ۲۷۲۱ جیب میں تصویر رکھ کر نماز پڑھنا ۳۸۱
- ۲۷۲۲ چاند، ستارے، اور درخت کی تصویروں والے جانماز کا حکم ۳۸۲
- ۲۷۲۳ خانہ کعبہ اور مسجد نبوری کے منقش مصلے پر نماز ۳۸۳
- ۲۷۲۴ خانہ کعبہ کے تصویر دار مصلے پر نماز ۳۸۴
- ۲۷۲۵ منقش مصلے پر نماز ۳۸۶
- ۲۷۲۶ منقش مصلے پر نماز کا شرعی حکم ۳۸۷
- ۲۷۲۷ اشتہال صماء کی کون سی ہیئت ممنوع ہے؟ ۳۸۸
- ۲۷۲۸ انگریزی فیشن والے کپڑے میں نماز ۳۹۰
- ۲۷۲۹ باریک کپڑے میں نماز ۳۹۱
- ۲۷۳۰ چست لباس میں نماز پڑھنا ۳۹۲
- ۲۷۳۱ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا ۳۹۳
- ۲۷۳۲ چست لباس پہن کر نماز پڑھنا ۳۹۴
- ۲۷۳۳ امام صاحب کا کڑھائی والا کرتا پہن کر نماز پڑھنا ۳۹۵
- ۲۷۳۴ چوری کے کپڑوں میں نماز پڑھنا ۳۹۷
- ۲۷۳۵ سینٹ رگا کر نماز پڑھنے کا حکم ۳۹۷
- ۲۷۳۶ سینٹ رگا کر نماز پڑھنے کا حکم ۳۹۹
- ۲۷۳۷ کیا داڑھی منڈانے کا گناہ نماز کے اندر بھی ہوتا ہے؟ ۴۴۰

- ۲۷۳۸ سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا ۴۰۱
- ۲۷۳۹ تصویروں کی آمدنی سے گزارہ کرنے والے کی نماز کا حکم ۴۰۲
- ۲۷۴۰ سودی رقم کے ذریعہ لگائے ہوئے نفل سے وضو کر کے نماز پڑھنا ۴۰۲
- ۲۷۴۱ چوری کے کپڑوں میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم ۴۰۴
- ۲۷۴۲ نماز میں کھانسنے کا حکم ۴۰۵
- ۲۷۴۳ دوران نماز بلغم آجائے تو کیا کریں؟ ۴۰۶
- ۲۷۴۴ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم ۴۰۷
- ۲۷۴۵ جنازہ سامنے ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھنا ۴۰۸
- ۲۷۴۶ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا ۴۰۹
- ۲۷۴۷ جلتے چراغ کے سامنے نماز پڑھنا ۴۰۹
- ۲۷۴۸ امام صاحب کا سجدہ سے مقتدیوں کے بعد کھڑا ہونا ۴۱۰
- ۲۷۴۹ دوران نماز پا عجامہ کا ٹخنے سے نیچے رہنا ۴۱۲
- ۲۷۵۰ نماز میں ٹخنہ سے نیچے پتلون کو موڑ لینا ۴۱۳
- ۲۷۵۱ ٹخنہ سے نیچے لٹکنے والی پینٹ کو موڑ کر نماز ادا کرنا ۴۱۴
- ۲۷۵۲ ٹخنوں سے نیچے پا عجامہ یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا ۴۱۵
- ۲۷۵۳ ٹخنوں سے نیچے پا عجامہ یا پتلون ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا ۴۱۶
- ۲۷۵۴ ٹخنے سے نیچے والے پا عجامہ کو اوپر چڑھا کر نماز پڑھنا ۴۱۷
- ۲۷۵۵ بٹن کھول کر آستین موڑ کر، چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۴۱۸
- ۲۷۵۶ آستین اور گر بیان کا بٹن کھلا رکھ کر نماز پڑھنا ۴۱۹
- ۲۷۵۷ آستین چڑھا کر گر بیان کھول کر اور پا عجامہ موڑ کر نماز پڑھنا ۴۲۱

- ۲۷۵۸ کیا آستین کی کف پلٹنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ۲۲۳
- ۲۷۵۹ نیکر پہن کر نماز پڑھنا ۲۲۴
- ۲۷۶۰ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۲۲۵
- ۲۷۶۱ مرد عورت کا چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۲۲۶
- ۲۷۶۲ گھڑی پہن کر نماز پڑھنا ۲۲۶
- ۲۷۶۳ تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا ۲۲۷
- ۲۷۶۴ عورت کا جاندار کی تصویر والا ہار پہن کر نماز پڑھنا ۲۲۸
- ۲۷۶۵ زنجیر والے بٹن لگا کر نماز پڑھنا ۲۲۹
- ۲۷۶۶ دوران نماز سلوگن پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے ۲۲۹
- ۲۷۶۷ دوران نماز مسجد میں لٹکی ہوئی تسبیح پر نگاہ کا پڑنا ۲۳۰
- ۲۷۶۸ پان کا ٹکڑا منہ میں لے کر نماز پڑھنا ۲۳۱
- ۲۷۶۹ منہ میں گولی رکھ کر نماز پڑھنا ۲۳۳
- ۲۷۷۰ نئے جوتے پہن کر نماز پڑھنا ۲۳۴
- ۲۷۷۱ کیا پلاسٹک کی چٹائی پر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ۲۳۴
- ۲۷۷۲ گھڑی دیکھ کر رکعت کا تعین کرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ۲۳۶
- ۲۷۷۳ کپڑے پر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہو تو نماز کا حکم ۲۳۶
- ۲۷۷۴ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا ۲۳۷
- ۲۷۷۵ کیا وضو کے بعد بیڑی پینے سے نماز میں کراہت آتی ہے؟ ۲۳۸
- ۲۷۷۶ شیعہ کی اذان سے پڑھی گئی نماز کا حکم ۲۳۹

□	۱۶ / باب ما یفسد الصلاة وما لا یفسد	□
---	-------------------------------------	---

۲۷۷۶	عمل کثیر کی مقدار و تعریف	۲۴۱
۲۷۷۷	عمل کثیر کی تعریف	۲۴۲
۲۷۷۸	نماز میں دونوں ہاتھوں کے استعمال یا ایک ہاتھ کے ۳ مرتبہ سے زائد استعمال کا حکم	۲۴۳
۲۷۷۹	اللہ اکبر، اور اکبر کے معنی	۲۴۵
۲۷۸۰	تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ کو سراً کہنا	۲۴۵
۲۷۸۱	کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بلا تکبیر رکوع میں چلے جانا	۲۴۶
۲۷۸۲	امام کے دعائیہ آیت میں سکتے کرنے پر مقتدیوں کا آمین کہنا	۲۴۷
۲۷۸۳	کسی کے کہنے پر مقتدی کا زور سے تکبیر کہنے کا حکم	۲۴۸
۲۷۸۴	خارج صلوة شخص کے کہنے پر مقتدی کا تکبیر کہنا	۲۵۰
۲۷۸۵	نماز میں خارجی شخص کا لقمہ قبول کرنا	۲۵۱
۲۷۸۶	اشارہ سے لقمہ دینے والے کی نماز کا حکم	۲۵۲
۲۷۸۷	مانک کی خرابی سے اوپری منزل والوں کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلنا	۲۵۳
۲۷۸۸	امام کے سلام سے قبل مقتدی کا سلام پھیرنا	۲۵۴
۲۷۸۹	عصر کی نماز کی ایک رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا	۲۵۶
۲۷۹۰	نماز میں اردو زبان میں دعا مانگنا	۲۵۷
۲۷۹۱	بھول سے جیب میں رکھی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم	۲۵۸
۲۷۹۲	قنوت نازلہ میں وعدہ اور وعید کے الفاظ کی تبدیلی کا حکم	۲۵۹
۲۷۹۳	دوران نماز بیوی کا بوسہ لینا	۲۶۰
۲۷۹۴	دوران نماز تارچ جلانا	۲۶۱

- ۲۷۹۵ نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو کیا کریں؟ ۴۶۲
- ۲۷۹۶ دوران نماز موبائل کی گھنٹی بند کرنا ۴۶۳
- ۲۷۹۷ جیب سے موبائل نکال کر آنکھوں سے دیکھ کر بند کرنا ۴۶۴
- ۲۷۹۸ ایک ہاتھ سے بجلی کا بٹن دبانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۴۶۵
- ۲۷۹۹ دوران نماز موبائل بند کرنا ۴۶۷
- ۲۸۰۰ امام صاحب نے سجدہ سے اٹھتے ہوئے نپکھے کا بٹن دبا دیا ۴۶۸
- ۲۸۰۱ رومال اور انگوچھا سامنے رکھ کر نماز پڑھنا ۴۶۹
- ۲۸۰۲ رومال سے اعضاء وضو پوچھ کر سجدہ کی جگہ رکھنا ۴۷۱
- ۲۸۰۳ مسجد کی چٹائی پر اپنا تولیہ وغیرہ بچھا کر نماز پڑھنا ۴۷۲
- ۲۸۰۴ سجدہ میں زمین پر بالکل قدم نہ رکھنا یا رکھنے کے بعد اٹھالینا ۴۷۳
- ۲۸۰۵ عورت کے صف میں کھڑے ہونے سے کس کس کی نماز فاسد ہوگی؟ ۴۷۴
- ۲۸۰۶ مسجد حرام میں مردوں و عورتوں کا مخلوط نماز پڑھنا ۴۷۵
- ۲۸۰۷ کیا مسجد حرام میں محاذات میں سہولت کی کوئی شکل ہے؟ ۴۷۶
- ۲۸۰۸ مسجد نبوی میں عورت کی محاذات کا حکم ۴۷۷
- ۲۸۰۹ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا تو کیا حکم؟ ۴۷۸
- ۲۸۱۰ اگلی صف میں فرجہ دیکھ کر آگے چل کر فرجہ میں داخل ہونا ۴۷۹
- ۲۸۱۱ ناپینا و بہرے شخص کو ہر رکن میں قریب والے نمازی کا اشارہ کرنا ۴۸۰
- ۲۸۱۲ ناپینا رکوع نہ کرے گا تو نماز فاسد ہوگی ۴۸۱
- ۲۸۱۳ بچے کے پستان چوسنے سے دودھ نکل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ۴۸۲
- ۲۸۱۴ نماز کی حالت میں ماں سے بچے نے دودھ پی لیا تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ ۴۸۳

- ۲۸۱۵ نماز کی حالت میں لکھنے کا حکم ۲۸۱۴
- ۲۸۱۶ نماز میں پینٹ شرٹ کے پیچھے کا حصہ کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ ۲۸۱۵
- ۲۸۱۷ سجدہ میں دونوں پیروں کا ایک رکن کے بقدر اٹھے رہنا ۲۸۱۶
- ۲۸۱۸ نماز میں داہنپاؤں ایک جگہ جمائے رکھنا ۲۸۱۷
- ۲۸۱۹ رکوع و سجدہ میں انگوٹھے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ۲۸۱۸
- ۲۸۲۰ داہنے پیر کا انگوٹھا ہلنے سے نماز کا حکم ۲۸۱۹
- ۲۸۲۱ دوران نماز امام کا انگوٹھا اور قرأت کے وقت گردن ہلنا ۲۹۰
- ۲۸۲۲ نماز میں پیر کا انگوٹھا ہلنا ۲۹۱
- ۲۸۲۳ نماز میں پاؤں کو آگے پیچھے کرنا ۲۹۲
- ۲۸۲۴ بلا عذر ایک رکن میں دو بار کھجلا نا ۲۹۳
- ۲۸۲۵ ایک رکن میں عذر یا بلا عذر متعدد بار کھجلا نا ۲۹۵
- ۲۸۲۶ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجلا نا ۲۹۶
- ۲۸۲۷ ایک رکن میں چار مرتبہ کھجلا نا ۲۹۸
- ۲۸۲۸ ایک رکن میں پانچ دفعہ کھجلا نا مفسد صلاۃ ہے ۲۹۹

□	۱۷۶ باب قضاء الفوائت	□
---	----------------------	---

- ۲۸۲۹ صاحب ترتیب کون ہے؟ ۵۰۱
- ۲۸۳۰ محض توبہ اور ندامت سے آدمی صاحب ترتیب نہیں بنتا ۵۰۲
- ۲۸۳۱ فوت شدہ نمازوں کی قضاء کر کے صاحب ترتیب بنا جاسکتا ہے ۵۰۳
- ۲۸۳۲ چھ سے زائد نماز چھوٹ جائیں تو پھر صاحب ترتیب کب بنے گا؟ ۵۰۴
- ۲۸۳۳ کیا قضاء نماز ادا کرنے سے ترتیب لوٹ آئے گی؟ ۵۰۵

- ۲۸۳۴ صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یا دآنے کا حکم ۵۰۶
- ۲۸۳۵ تراویح کی نماز فوت ہونے سے ترتیب باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ ۵۰۸
- ۲۸۳۶ فوت شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو قضاء کا طریقہ ۵۰۸
- ۲۸۳۷ عیسوی سن کے حساب سے قضاء نمازوں کی ادائے گی کا حکم ۵۰۹
- ۲۸۳۸ سنتوں کی قضا ۵۱۱
- ۲۸۳۹ فوت شدہ نمازوں کی قضاء برسر عام نہ کی جائے ۵۱۲
- ۲۸۴۰ جمعہ کی صحت اسی دن کی نماز فجر پر موقوف نہیں ۵۱۳
- ۲۸۴۱ قضائے عمری کا آسان طریقہ ۵۱۴
- ۲۸۴۲ قضائے عمری کا طریقہ اور عصر و فجر کے بعد اس کی ادائے گی کا حکم ۵۱۵
- ۲۸۴۳ بعد نماز عصر و فجر قضائے عمری پڑھنا ۵۱۶
- ۲۸۴۴ نوافل کے وقت قضائے عمری پڑھنے سے نوافل کا ثواب ۵۱۷
- ۲۸۴۵ سنن مؤکدہ کی جگہ قضائے عمری ادا کرنا ۵۱۸
- ۲۸۴۶ نماز عصر کے بعد قضائے عمری اور نماز فجر کی اذان کے بعد تہجد کا حکم ۵۱۹
- ۲۸۴۷ بعد نماز فجر یا عصر قضاء نمازوں کی ادائیگی کا حکم ۵۲۰
- ۲۸۴۸ نماز عصر کے بعد فرائض کی قضاء ۵۲۱
- ۲۸۴۹ طلوع شمس سے قبل سنت فجر کی قضاء ۵۲۲
- ۲۸۵۰ طلوع شمس کے کتنی دیر بعد نماز فجر کی قضاء کریں ۵۲۳
- ۲۸۵۱ کیا ناپاک پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نوافل کا اعادہ لازم ہے؟ ۵۲۴
- ۲۸۵۲ ناپاک پانی سے وضو کرنے والے کے پیچھے پاک پانی سے وضو کرنے والوں کی نماز اور سنن بعدیہ و وتر کا حکم ۵۲۵

- ۲۸۵۳ چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ۵۲۶
- ۲۸۵۴ فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کا شرعی حکم ۵۲۷
- ۲۸۵۵ کیا نماز اور روزہ کا فدیہ ہوتا ہے؟ ۵۲۸
- ۲۸۵۶ زندگی میں نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ۵۲۹
- ۲۸۵۷ پوری زندگی کبھی نماز نہ پڑھنے والے کا فدیہ ۵۳۱
- ۲۸۵۸ کیا شوہر اپنی کمائی سے بیوی کی نماز کا فدیہ دے سکتا ہے؟ ۵۳۳
- ۲۸۵۹ بیماری کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ۵۳۴
- ۲۸۶۰ مریض کے لئے نماز اور روزہ کا فدیہ دینا ۵۳۵
- ۲۸۶۱ بیماری کے کن ایام کا فدیہ دینا ضروری ہے ۵۳۶
- ۲۸۶۲ بیماری میں بالغ ہونے اور انتقال کر جانے والی لڑکی کی نمازوں کے فدیہ کا حکم ۵۳۸
- ۲۸۶۳ کس قسم کے نمازی پر نمازوں کا فدیہ لازم ۵۳۹
- ۲۸۶۴ بغیر وصیت کے نمازوں کا فدیہ دینا ۵۴۰
- ۲۸۶۵ وراثت میں بالغ اور نابالغ اولاد ہوں تو مرحوم کی نمازوں کے فدیہ کا حکم ۵۴۱
- ۲۸۶۶ ایک فقیر کو متعدد نمازوں کا فدیہ دینا ۵۴۲
- ۲۸۶۷ دو ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۵۴۳
- ۲۸۶۸ تین ماہ کی نمازوں اور ایک ماہ کے روزہ کے فدیہ کی مقدار ۵۴۴
- ۲۸۶۹ ایک سال کی نمازوں کا کفارہ اور اس کا مصرف ۴۴۵
- ۲۸۷۰ ایک فقیر کو ایک دن میں کتنی نمازوں کا فدیہ دیا جائے؟ ۵۴۶
- ۲۸۷۱ کم پیسے سے نماز اور روزہ کا فدیہ کیسے ادا کریں؟ ۵۴۸
- ۲۸۷۲ صلوة المعادة ۵۴۹
- ۲۸۷۳ ترک واجب کی بنا پر صلوة معادہ کا تفصیلی جواب ۵۵۱

۲۸۷۴	ترک واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادہ کی شرعی حیثیت	۵۵۴
۲۸۷۵	صلوٰۃ المعادہ میں نئے نمازیوں کی شرکت	۵۵۶
۲۸۷۶	صلوٰۃ المعادہ میں شرکت کرنے والے کا حکم	۵۵۷
۲۸۷۷	صلوٰۃ المعادہ میں نووارد کی شرکت کا حکم	۵۵۸
۲۸۷۸	تاخیر واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادہ میں مسبوق اور نووارد کی شرکت	۵۶۱
۲۸۷۹	ترک واجب کی بنا پر صلوٰۃ معادہ کی اقتداء	۵۶۲
۲۸۸۰	صلوٰۃ المعادہ میں نئے شریک ہونے والے مقتدیوں کی نماز کا حکم	۵۶۳

	۱۸ / باب الحدث في الصلاة	
--	---------------------------------	--

۲۸۸۱	دوران نماز حدث کا لاحق ہونا	۵۶۵
۲۸۸۲	جمعہ کی نماز کے دوران حدث کا لاحق ہونا	۵۶۶
۲۸۸۳	پہلی صف میں موجود مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟	۵۶۷
۲۸۸۴	حدث لاحق ہونے کی وجہ سے نمازیوں کے سامنے سے گذرنا	۵۶۸
۲۸۸۵	حدث لاحق ہونے پر مقتدی کو امام بنانا اور اس کا اپنی جگہ پر نماز پوری کرنا	۵۶۹

	۱۹ / باب سجود السهو	
--	----------------------------	--

۲۸۸۶	کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہے	۵۷۱
۲۸۸۷	تیسری رکعت پر تین تسبیح پڑھنے سے کم مقدار بیٹھنا	۵۷۲
۲۸۸۸	عصر کی تیسری رکعت میں دو تسبیح کے بقدر بیٹھ گیا	۵۷۳
۲۸۸۹	محض گمان پر سجدہ سہو کرنا	۵۷۴

- ۲۸۹۰ سورہ فاتحہ کی دو تین آیت پڑھ کر دوبارہ مکمل پڑھنا ۵۷۶
- ۲۸۹۱ کیا تشہد کے کسی جزو کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہے؟ ۵۷۷
- ۲۸۹۲ سورہ فاتحہ کو ”اہدنا الصراط“ تک پڑھنے کے بعد دوبارہ از سر نو پڑھنا ۵۷۸
- ۲۸۹۳ ثناء کے بعد سورہ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھنا ۵۷۹
- ۲۸۹۴ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل تشہد پڑھنا ۵۸۰
- ۲۸۹۵ ثناء سے قبل تشہد پڑھنے کے سلسلے میں احسن الفتاویٰ میں تسامح ۵۸۱
- ۲۸۹۶ نفل نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار موجب سجدہ سہو نہیں ۵۸۲
- ۲۸۹۷ سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھنے کا حکم ۵۸۳
- ۲۸۹۸ سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ کے بجائے التحیات پڑھ لی ۵۸۴
- ۲۸۹۹ سجدہ سہو کی وجہ سے التحیات تین مرتبہ پڑھنا ۵۸۵
- ۲۹۰۰ وتر کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم ۵۸۶
- ۲۹۰۱ سجدہ سہو کے بعد التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی ۵۸۸
- ۲۹۰۲ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ۵۸۹
- ۲۹۰۳ قعدہ اخیرہ میں تکرار تشہد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ۵۹۱
- ۲۹۰۴ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں ملائی تو کیا حکم ہے؟ ۵۹۳
- ۲۹۰۵ فرض کی تیسری رکعت میں ضم سورۃ سے عدم سجدہ سہو کی علت ۵۹۳
- ۲۹۰۶ فرض کی آخری رکعت میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہو ۵۹۴
- ۲۹۰۷ سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کیا کریں؟ ۵۹۶
- ۲۹۰۸ ظہر کی چار سنتوں کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ ۵۹۷
- ۲۹۰۹ ظہر کی سنن قبلہ کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کا حکم ۵۹۸

- ۲۹۱۰ قعدہ میں تشہد کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی ۶۰۰
- ۲۹۱۱ ظہر کی سنن قبلہ میں دو رکعت پر قعدہ بھول گیا تو سجدہ سہو ۶۰۱
- ۲۹۱۲ اقرب الی القیام اور اقرب الی القعود کی تشریح ۶۰۲
- ۲۹۱۳ قیام سے تشہد کی طرف لوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۶۰۴
- ۲۹۱۴ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد قعدہ اولی طرف لوٹ آنا ۶۰۶
- ۲۹۱۵ قعدہ اخیرہ میں دو رکعت سجدہ کر تیسری کے لئے کھڑا ہونا ۶۰۷
- ۲۹۱۶ مغرب میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر سجدہ سہو کا وجوب ۶۰۸
- ۲۹۱۷ رباعی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیرنے پر مقتدیوں کے ٹوکنے سے نماز کا حکم ۶۱۰
- ۲۹۱۸ رباعی نماز میں ۲ رکعت پر سلام پھیرنا ۶۱۱
- ۲۹۱۹ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہونا بھول جائے پھر لقمہ دینے پر کھڑا ہوا تو کیا حکم ہے؟ ۶۱۳
- ۲۹۲۰ امام قعدہ اولیٰ کئے بغیر کھڑا ہو گیا ۶۱۴
- ۲۹۲۱ رباعی نماز میں قعدہ آخرہ کے بعد پانچویں رکعت پوری کر لینا ۶۱۵
- ۲۹۲۲ قعدہ اخیرہ فرض ہے ۶۱۷
- ۲۹۲۳ ایک سجدہ یا رکوع چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ ۶۱۸
- ۲۹۲۴ تراویح کی دوسری رکعت میں قعدہ کو مؤخر کر دینا ۶۲۰
- ۲۹۲۵ ایک سجدہ بھول جائے تو کب ادا کرے؟ ۶۲۱
- ۲۹۲۶ وتر میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا ۶۲۳
- ۲۹۲۷ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ ۶۲۴
- ۲۹۲۸ وتر کی تیسری رکعت میں دو رکوع کرنے سے سجدہ سہو کا وجوب ۶۲۵
- ۲۹۲۹ دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ۶۲۷

- ۲۹۳۰ دعاء قنوت بھول کر رکوع میں چلے جانا ۶۲۷
- ۲۹۳۱ عیدین و جمعہ میں سجدہ سہو معاف ہونے کی علت ۶۲۸
- ۲۹۳۲ جمعہ و عیدین میں سجدہ سہو کا حکم ۶۳۰
- ۲۹۳۳ کیا مسبوق پر امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے سجدہ سہو واجب ہے؟ ۶۳۱
- ۲۹۳۴ مسبوق کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا ۶۳۲
- ۲۹۳۵ مدرک نے امام کے سلام کے بعد بھول کر پانچویں رکعت پڑھ لی ۶۳۳
- ۲۹۳۶ مدرک نے امام کے سلام پر کھڑے ہو کر دو رکعت اور پڑھ لی ۶۳۵
- ۲۹۳۷ امام کے سلام کے بعد مدرک نے پانچویں رکعت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ ۵۳۶
- ۲۹۳۸ لاحق پر سجدہ سہو واجب نہیں ۵۳۷
- ۲۹۳۹ سجدہ سہو کے بعد امام کی اقتداء کرنا ۶۳۸
- ۲۹۴۰ مقتدی محل سہو کے بعد نماز میں شامل ہوا تو اس پر سجدہ سہو کا حکم ۶۳۹
- ۲۹۴۱ کیا سجدہ سہو بھولنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے؟ ۵۴۱
- ۲۹۴۲ دونوں طرف سلام کے بعد مفسد صلوٰۃ عمل سے قبل سجدہ سہو کرنا ۶۴۲
- ۲۹۴۳ سہو کے بعد امام کو حدیث لاحق ہوا اور خلیفہ نے سجدہ سہو نہیں کیا ۶۴۳
- ۲۹۴۴ دوران نماز کھانسی کی بناء پر ایک آیت پیچھے سے لوٹانا ۶۴۴
- ۲۹۴۵ مغرب کی رکعت کی تعداد بھولنے پر سجدہ سہو کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ ۶۴۵
- ۲۹۴۶ مغرب کی دوسری رکعت پر سلام پھیرنا موجب سہو ہے ۶۴۶
- ۲۹۴۷ صلوٰۃ الاستخارہ میں کسی آیت کا بار بار تکرار موجب سہو نہیں ۶۴۷
- ۲۹۴۸ دعاء ماثورہ پڑھ کر سجدہ سہو کرنا ۶۴۹
- ۲۹۴۹ ایک سجدہ تلاوت کی جگہ دو سجدہ کرنا موجب سہو ہے ۶۵۰

□	۲۰ باب سجود التلاوة	□
---	---------------------	---

۲۹۵۰	حنابلہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟	۲۵۲
۲۹۵۱	کیا تمام سجدہ تلاوت واجب ہیں؟	۲۵۳
۲۹۵۲	سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے؟	۲۵۴
۲۹۵۳	فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا	۲۵۵
۲۹۵۴	ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ کا تکرار	۲۵۶
۲۹۵۵	آیت سجدہ لکھنے سے سجدہ لازم ہے یا نہیں؟	۲۵۷
۲۹۵۶	ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننا	۲۵۸
۲۹۵۷	ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سننے کا حکم	۲۵۹
۲۹۵۸	امام رکوع میں سجدہ کی نیت کرے اور مقتدی نہ کریں	۲۶۰
۲۹۵۹	رکوع میں سجدہ تلاوت کی ادائے گی میں دوسورتوں کی تخصیص	۲۶۲
۲۹۶۰	صبح صادق کے بعد نماز فجر سے قبل سجدہ تلاوت کا حکم	۲۶۳
۲۹۶۱	اوقات مکروہہ میں سجدہ تلاوت کرنا	۲۶۴
۲۹۶۲	عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرنا	۲۶۵
۲۹۶۳	اوقات ممنوعہ میں سجدہ تلاوت کرنا	۲۶۶
۲۹۶۴	ایضاح المسائل کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۲۶۷





فہرست مضامین

۹/ بقية كتاب الصلاة

صفحہ نمبر	۲۱/ باب الدعاء والذکر بعد الصلوة	□	مسئلہ نمبر
۲۹ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے تسبیح پڑھنا		۲۹۶۵
۳۰ فجر و عصر کے بعد امام کس طرف رخ کر کے بیٹھے؟		۲۹۶۶
۳۱ عصر و فجر کے بعد دائیں یا بائیں رخ کر کے بیٹھنے کی حکمت		۲۹۶۷
۳۳ امام صاحب کا بعد نماز عصر ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنا		۲۹۶۸
۳۴ امام صاحب کا مکمل طور پر مقتدیوں کی طرف گھوم جانا		۲۹۶۹
۳۵ امام کا بعد نماز فجر و عصر کس طرح بیٹھنا افضل ہے؟		۲۹۷۰
۳۶ نماز کے بعد اذکار کی فضیلت		۲۹۷۱
۳۸ نماز کے بعد دعا		۲۹۷۲
۴۰ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا		۲۹۷۳
۴۱ (الف) فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت		۲۹۷۴
۴۴ (ب) کیا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا میں امام کی اقتدا ضروری ہے؟		۲۹۷۴
۴۶ فرائض پنج گانہ کے بعد دعا مانگنے کا شرعی حکم		۲۹۷۵
۴۷ فرائض کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ		۲۹۷۶
۴۹ دعا کی ابتدا ”بِسْمِ اللّٰهِ“ سے کرنا		۲۹۷۷

۵۱	دعا کے شروع میں تمہید اور اختتام ”برحمتک“ بلند آواز سے کہنا	۲۹۷۸
۵۲	امام صاحب کا دعا کے شروع و آخر میں جہر کرنا	۲۹۷۹
۵۳	(الف) فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟	۲۹۸۰
۵۴	(ب) نماز کے بعد دعا نماز کا جزو نہیں	۲۹۸۰
۵۵	فرائض کے بعد اجتماعی دعا	۲۹۸۱
۵۸	کیا اجتماعی دعائیں قبولیت کا درجہ زیادہ رکھتی ہیں؟	۲۹۸۲
۵۹	فرض نماز کے بعد مداومت کے ساتھ اجتماعی دعا	۲۹۸۳
۶۰	نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کیفیت	۲۹۸۴
۶۲	نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۲۹۸۵
۶۳	پہلو تہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا	۲۹۸۶
۶۵	نماز کے بعد لمبی دعا کرنا کیسا ہے؟	۲۹۸۷
۶۶	نماز مختصر اور دعا لمبی کرانا	۲۹۸۸
۶۷	نماز، تسبیحات اور تلاوت کو مختصر کر کے لمبی دعا کرنا	۲۹۸۹
۶۸	فرض کے بعد دعا بالجہر کو لازم سمجھنا	۲۹۹۰
۷۰	نمازوں کے بعد سر آیا جہر ادا کرنا	۲۹۹۱
۷۴	بعد نماز امام جہر ادا کرے یا سر ادا؟	۲۹۹۲
۷۵	نماز کے بعد جہر ادا مانگیں یا سر ادا؟	۲۹۹۳
۷۷	نماز میں سری و جہری دعا کرنا کیسا ہے؟	۲۹۹۴
۷۸	نماز کے بعد آواز بلند دعا کرنا	۲۹۹۵
۷۹	سجدہ میں سر رکھ کر دعا مانگنا	۲۹۹۶
۸۱	فرض نماز کے بعد فوراً سجدہ کرنا	۲۹۹۷
۸۲	فرائض کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ”یا قوی“ پڑھنا	۲۹۹۸

۲۹۹۹	بعد نماز عصر و فجر سر پر ہاتھ رکھ کر ”یا قوی“ پڑھنا	۸۳
۳۰۰۰	دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا	۸۴
۳۰۰۱	فجر کے بعد دعا سے قبل امام صاحب کا ”بیسین“ پڑھ کر سنانا	۸۵
۳۰۰۲	ہر روز فجر کے بعد امام صاحب کا سورہ ”بیسین“ پڑھنا اور مقتدی کا سننا	۸۶
۳۰۰۳	نماز کے بعد ”جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو“ پڑھنا	۸۷
۳۰۰۴	نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا	۸۹
۳۰۰۵	سنن و نوافل کے بعد اجتماعی طور پر جہراً دعا کرنا	۹۰
۳۰۰۶	نماز عصر کے بعد ”پانچ منٹ کا مدرسہ“ مانک میں پڑھنا	۹۱
۳۰۰۷	تعلیم دعا سے قبل ہو یا بعد میں	۹۲
۳۰۰۸	دعا سے قبل تعلیم کرنا	۹۳
۳۰۰۹	فرائض اور نوافل کے درمیان دعاؤں کے ذریعہ فصل کرنا	۹۴
۳۰۱۰	فرائض و سنن میں فصل کرتے ہوئے اور ادو نائف پڑھنا	۹۶
۳۰۱۱	فرض کے بعد سنتوں سے قبل حدیث سنانا	۱۰۰
۳۰۱۲	نماز کے بعد طویل دعا یا وعظ و حدیث کے ذریعہ سنتوں میں فصل کرنا	۱۰۵
۳۰۱۳	دینی امور کے لئے سنن و فرائض میں فصل کرنا	۱۰۸
۳۰۱۴	دعا سے قبل مسجد یا دینی ضرورت کے لئے چندہ کرنا	۱۰۹
۳۰۱۵	بعد نماز جمعہ دعا سے قبل چندہ کا ڈبہ پھرانا	۱۱۰

۱۱۱	۲۲ / باب الوتر	□
-----	----------------	---

الفصل الأول: فی الوتر

۳۰۱۶	ایک رکعت وتر	۱۱۱
۳۰۱۷	ایک رات میں دو مرتبہ وتر پڑھنا	۱۱۲
۳۰۱۸	شافعی امام کی اقتداء میں حنفی کی نماز وتر کا حکم	۱۱۳

- ۳۰۱۹ شافعی المسلمک کے پیچھے حنفی کا وتر نماز پڑھنا ۱۱۵
- ۳۰۲۰ قنہ کے اندیشہ کے وقت دو سلام سے وتر پڑھنا ۱۱۸
- ۳۰۲۱ وتر کی نماز ایک سلام سے پڑھنے سے متعلق احادیث ۱۲۰
- ۳۰۲۲ تین رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ ۱۲۲
- ۳۰۲۳ دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا ۱۲۴
- ۳۰۲۴ وتر کے قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ۱۲۵
- ۳۰۲۵ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے ۱۲۶
- ۳۰۲۶ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ ۱۲۷
- ۳۰۲۷ طلوع صبح صادق کے بعد نماز وتر کی قضاء ۱۲۸
- ۳۰۲۸ وٹروں کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا ۱۲۹
- ۳۰۲۹ وتر کے بعد کی دو رکعت میٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ ۱۳۰
- ۳۰۳۰ کیا فرائض اور وتر کے درمیان ترتیب واجب ہے؟ ۱۳۲
- ۳۰۳۱ عشاء اور وتر کے مابین ترتیب کا حکم بعض شرائط کے ساتھ مقید ۱۳۴
- ۳۰۳۲ عشاء امام صاحب کے پیچھے اور وتر مقتدی کے پیچھے پڑھنا ۱۳۷
- ۳۰۳۳ تراویح نہ پڑھنے والے کا وتر کی جماعت میں شریک ہونا ۱۳۸
- ۳۰۳۴ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا نہ کی ہو وہ وتر کی جماعت میں شرکت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ۱۳۹
- ۳۰۳۵ اکیلے عشاء پڑھنے والے کا وتر کی جماعت میں شریک ہونا ۱۴۰
- ۳۰۳۶ نماز عشاء کی جماعت چھوٹے والے کا وتر کی نماز باجماعت پڑھنا .. ۱۴۱
- ایک سلام کے ساتھ تین رکعت وتر کا تحقیقی جائزہ ۱۴۲
- ایک سلام کے ساتھ تین رکعت وتر کی گیارہ (۱۱) روایات ۱۴۳
- روایات کا تحقیقی جائزہ ۱۴۷
- بوقت قنوت وتر رفع یدین کا ثبوت ۱۴۹

۱۵۰	الفصل الثانی: فی القنوت النازلۃ	□
-----	---------------------------------	---

۱۵۰	قنوت نازلہ کا حدیث سے ثبوت	۳۰۳۷
۱۵۲	قنوت نازلہ	۳۰۳۸
۱۵۳	مسلمانوں پر ظلم و ستم کے وقت قنوت نازلہ پڑھنا	۳۰۳۹
۱۵۵	فاسق و فاجر مسلمانوں کے لئے قنوت نازلہ پڑھنا	۳۰۴۰
۱۵۷	سخت مصیبت کے وقت فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا	۳۰۴۱
۱۵۸	قنوت نازلہ میں ملکوں کے ناموں کا اضافہ کرنا	۳۰۴۲
۱۵۹	قنوت نازلہ میں مقتدی حضرات کا آمین کہنا	۳۰۴۳
۱۶۰	قنوت نازلہ میں آمین کے جہر اور ارسال و وضع ید کی شرعی حیثیت	۳۰۴۴
۱۶۲	نماز مغرب میں قنوت نازلہ	۳۰۴۵
۱۶۳	ظہر، عصر، مغرب کی قنوت نازلہ میں حکمرانوں پر لعنت کرنا	۳۰۴۶
۱۶۴	جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کی شرعی حیثیت	۳۰۴۷
۱۶۵	مغرب، عشاء اور ظہر میں قنوت نازلہ پڑھی جانے والی احادیث منسوخ ہیں	۳۰۴۸

۱۶۶	باب إدراک الفریضة / ۲۳	□
-----	------------------------	---

۱۶۶	جماعت کھڑی ہونے کے وقت سنن و نوافل کا حکم	۳۰۴۹
۱۶۷	فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت فجر پڑھنے کی شرعی حیثیت	۳۰۵۰
۱۷۲	فجر کی جماعت کے وقت سنت پڑھنا	۳۰۵۱
۱۷۳	جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنت کب تک پڑھی جائے؟	۳۰۵۲
۱۷۵	دوران جماعت فجر کی سنت کا حکم	۳۰۵۳
۱۷۶	فجر کی سنت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟	۳۰۵۴
۱۷۸	دوران نماز فجر کی سنت کہاں پڑھی جائے؟	۳۰۵۵

۱۸۰ فجر کی سنتیں کہاں اور کب تک پڑھی جاسکتی ہے؟	۳۰۵۶
۱۸۱ جس ہال میں نماز فجر ہو رہی ہو اس میں سنت پڑھنا	۳۰۵۷
۱۸۲ جماعت کو حاصل کرنے کے لئے صرف تشہد پر سلام پھیرنا	۳۰۵۸
۱۸۳ فجر کی سنتیں نماز کے فوراً بعد پڑھنا	۳۰۵۹

۱۸۵	باب السنن والنوافل / ۲۴	□
-----	-------------------------	---

۱۸۵ سنت کی نیت کا طریقہ	۳۰۶۰
۱۸۶ سننِ قبلہ وبعدیہ سب از قبیل نوافل	۳۰۶۱
۱۸۷ نوافل و سنن گھر پر پڑھنا	۳۰۶۲
۱۸۸ سنن و نوافل گھر میں پڑھیں یا مسجد میں؟	۳۰۶۳
۱۸۹ فرائض کے بعد سنن و نوافل کے لئے جگہ بدلنا مسنون ہے	۳۰۶۴
۱۹۱ فرائض کے بعد نوافل پڑھنے کے لئے جگہ تبدیل کرنا	۳۰۶۵
۱۹۲ سننِ قبلہ چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟	۳۰۶۶
۱۹۳ طلباء کو نماز سکھانے کے لئے نفل کی جماعت کرنا	۳۰۶۷
۱۹۵ نماز میں ضم سورہ سے قبل ”بسم اللہ“ پڑھنا	۳۰۶۸
۱۹۶ نماز میں ضم سورت سے قبل ”بسم اللہ“ پڑھنا	۳۰۶۹
۱۹۷ سجدوں کے درمیان دعا کس نماز میں پڑھی جائے؟	۳۰۷۰
۱۹۸ رباعیات مندوبہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود اور تیسری رکعت میں ثناء کا حکم	۳۰۷۱
۱۹۹ رباعی سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت کی ابتداء میں ثناء پڑھنا	۳۰۷۲
۲۰۰ قومہ اور بین السجدتین منقول تسبیح	۳۰۷۳
۲۰۲ اذان سے قبل سنتیں پڑھ لینا کیسا ہے؟	۳۰۷۴
۲۰۳ صبح صادق کے بعد سنت فجر کے علاوہ نفل پڑھنا	۳۰۷۵

- ۳۰۷۶ صبح صادق کے بعد تہجد کی نیت سے پڑھی گئی نماز سنت فجر کے قائم مقام ہے .. ۲۰۴
- ۳۰۷۷ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے قبل سنت فجر پڑھنا ۲۰۵
- ۳۰۷۸ فجر کی سنت امام سے آگے پڑھنا ۲۰۶
- ۳۰۷۹ فجر کی سنت فرض کے بعد پڑھنا ۲۰۷
- ۳۰۸۰ فجر کی سنت دو کی جگہ چار پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ ۲۰۹
- ۳۰۸۱ فجر کی سنت دو کے بجائے بھول سے چار رکعت پڑھنا ۲۱۰
- ۳۰۸۲ صبح صادق کے بعد قبل الاذان یا بعدہ تحیۃ المسجد پڑھنا ۲۱۱
- ۳۰۸۳ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ۲۱۱
- ۳۰۸۴ فجر کی سنت چھوٹ جائے تو قضاء کا کیا حکم؟ ۲۱۲
- ۳۰۸۵ ظہر کے بعد قبلہ چار رکعت کو مقدم کرے یا بعد یہ دو رکعت کو؟ ۲۱۳
- ۳۰۸۶ ظہر کی سنت چھوٹ جائیں تو نماز کے بعد کیا ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ ۲۱۵
- ۳۰۸۷ عصر و عشاء کی سنتیں مستحب ہیں ۲۱۶
- ۳۰۸۸ نماز عصر سے قبل نوافل ۲۱۷
- ۳۰۸۹ عصر سے قبل تحیۃ الوضوء پڑھنا ۲۱۸
- جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ ۲۱۹
- جمعہ سے قبل چار رکعت سنت کا تحقیقی جائزہ ۲۱۹
- جمعہ سے پہلے چار سنتوں کی روایات ۲۲۰
- روایات کا تحقیقی جائزہ ۲۲۳
- حضرت ابن مسعودؓ کے اثر کو مستدل کیوں بنایا گیا؟ ۲۲۴
- نماز جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں؟ ۲۲۷
- جمعہ کے بعد کی چار رکعت ظہر بالشبہ نہیں ہیں ۲۲۸
- جمعہ پڑھا کر دوسری جگہ جمعہ میں بنیت نفل شرکت کرنا ۲۲۹

۳۰۹۰	تہجد کی کتنی رکعات ہیں؟	۲۳۰
۳۰۹۱	بغیر سوئے نصف رات کے بعد تہجد پڑھنا	۲۳۱
۳۰۹۲	تہجد میں بیدار ہونے کے لئے ”الارم والی گھڑی“ رکھنا	۲۳۲
۳۰۹۳	تہجد کی جماعت	۲۳۳
۳۰۹۴	تہجد کی نماز باجماعت ادا کرنا	۲۳۵
۳۰۹۵	ماہ رمضان میں تہجد و اوایین کو باجماعت ادا کرنا	۲۳۶
۳۰۹۶	رمضان میں تہجد اور صلاۃ التبیح کی جماعت کا حکم	۲۳۸
۳۰۹۷	تہجد کی نماز باجماعت پڑھنا جس میں تین سے زائد مقتدی ہوں کیسا ہے؟	۲۴۲
۳۰۹۸	نماز اشراق	۲۴۳
۳۰۹۹	نماز اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟	۲۴۴
۳۱۰۰	نماز اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے؟	۲۴۵
۳۱۰۱	چاشت کے وقت چاشت کی نماز پڑھنا افضل ہے یا قرآن کی تلاوت؟	۲۴۶
۳۱۰۲	صلاۃ التبیح اور صلاۃ الاستخارہ کا طریقہ	۲۴۸
۳۱۰۳	نماز میں تسبیح و آیات کس طرح شمار کی جائیں؟	۲۵۰
۳۱۰۴	علاج کرانے کے لئے استخارہ کرنا	۲۵۱
۳۱۰۵	کسی کام کو کرنے سے پہلے استخارہ	۲۵۲
۳۱۰۶	طلب بارش کا نوکھا اور ناجائز طریقہ	۲۵۳
۳۱۰۷	سورج گرہن کی نماز	۲۵۴
۳۱۰۸	سورج گرہن، چاند گرہن سے متعلق ہندو روایات معتبر نہیں	۲۵۶
۳۱۰۹	نماز کسوف کا طریقہ	۲۵۷

- ۳۱۱۰ گرمی کی وجہ سے صرف تراویح کی جماعت مسجد کی چھت پر کرنا ۲۶۱
- ۳۱۱۱ فرم میں نماز عشاء اور تراویح پڑھنا..... ۲۶۲
- ۳۱۱۲ کھلے میدان میں تراویح کی نماز..... ۲۶۳
- ۳۱۱۳ گھر میں تراویح پڑھنے والے فرض نماز کہاں پڑھیں؟ ۲۶۴
- ۳۱۱۴ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم سے تعمیر شدہ مدرسہ میں نماز تراویح کا حکم ۲۶۶
- ۳۱۱۵ مسجد سے متصل مدرسہ میں ”الم تر کیف“ سے تراویح پڑھنا ۲۶۷
- ۳۱۱۶ ایک مسجد میں ایک ساتھ الگ الگ دو تراویح کی کراہت ۲۶۸
- ۳۱۱۷ ایک مسجد میں بیک وقت دو تین جگہ تراویح ۲۶۹
- ۳۱۱۸ مسجد میں اوپر نیچے تراویح کی جماعت کا حکم ۲۷۰
- ۳۱۱۹ دو منزلہ مسجد میں دو نماز تراویح کی پڑھنا ۲۷۱
- ۳۱۲۰ ایک ہی مسجد میں اوپر نیچے تراویح کی نماز ادا کرنا..... ۲۷۲
- ۳۱۲۱ تراویح پڑھانے کا زیادہ حقدار کون؟ ۲۷۳
- ۳۱۲۲ مستقل امام تراویح کا زیادہ حقدار ہے یا مقامی حافظ؟ ۲۷۵
- ۳۱۲۳ محلہ کی مسجد میں تراویح پڑھانے کا حقدار کون ہے امام مسجد یا اہل محلہ؟ ۲۷۶
- ۳۱۲۴ مسجد میں تراویح پڑھانے کا امام حقدار ہے یا مقامی حافظ؟ ۲۷۷
- ۳۱۲۵ تراویح میں قرآن کریم امام کی اجازت کے بغیر پڑھنا مکروہ ہے؟ .. ۲۷۸
- ۳۱۲۶ امام صاحب کا دوسری جگہ تراویح سنانے جانا ۲۷۹
- ۳۱۲۷ دو حافظوں کا مل کر تراویح پڑھانا ۲۸۲
- ۳۱۲۸ ایک ہی شخص کا دو جگہ نماز تراویح پڑھانا ۲۸۲
- ۳۱۲۹ دس دن میں ایک جگہ اور دس دن دوسری جگہ قرآن سنانا کیسا ہے؟ .. ۲۸۴
- ۳۱۳۰ بلوغ کی علامات کیا کیا ہیں؟ اور نابالغ کی تراویح کی امامت کا حکم . ۲۸۵
- ۳۱۳۱ تراویح میں نابالغ کی امامت ۲۸۶

۲۹۴ ساڑھے تیرہ سالہ عمر کے لڑکا کا تراویح میں قرآن سنانا	۳۱۳۲
۲۹۵ ۱۴ سال ۸ ماہ کا لڑکا تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟	۳۱۳۳
۲۹۶ پندرہ سال سے کم عمر والے حافظ کی تراویح کا مسئلہ	۳۱۳۴
۲۹۸ پندرہ سالہ بے ریش لڑکے کے پیچھے تراویح	۳۱۳۵
۲۹۹ بے ریش پندرہ سالہ حافظ کی تراویح	۳۱۳۶
۳۰۰ قمری اعتبار سے پندرہ سالہ حافظ کی تراویح	۳۱۳۷
۳۰۱ پندرہ سالہ حافظ کی تراویح	۳۱۳۸
۳۰۲ پندرہ سالہ لڑکے کی تراویح	۳۱۳۹
۳۰۴ کیا پندرہ سال کا لڑکا تراویح پڑھا سکتا ہے؟	۳۱۴۰
۳۰۵ بلا ریش ساڑھے سولہ سالہ حافظ کی تراویح	۳۱۴۱
۳۰۶ سولہ سال کے لڑکے کے پیچھے نماز تراویح	۳۱۴۲
۳۰۷ کیا سترہ سال کا لڑکا تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟	۳۱۴۳
۳۰۹ سترہ سال کے لڑکے کا تراویح میں امامت کرنا	۳۱۴۴
۳۱۰ اٹھارہ سالہ بے ریش لڑکے کے پیچھے تراویح	۳۱۴۵
۳۱۱ کیا ۱۸ سال ۱۰ ماہ کا لڑکا تراویح میں قرآن سن سکتا ہے؟	۳۱۴۶
۳۱۳ داڑھی کٹانے والے کا نماز تراویح پڑھانا	۳۱۴۷
۳۱۴ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز تراویح	۳۱۴۸
۳۱۵ داڑھی کٹانے والے حافظ کے پیچھے تراویح	۳۱۴۹
۳۱۶ داڑھی مندے حافظ کے پیچھے نماز تراویح	۳۱۵۰
۳۱۷ داڑھی کترنے والے حافظ کے پیچھے نماز تراویح	۳۱۵۱
۳۱۸ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز تراویح	۳۱۵۲
۳۱۹ فاسق امام کے پیچھے نماز تراویح کا حکم	۳۱۵۳

- ۳۱۵۴ کیا حضور ﷺ نے پورے رمضان تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے؟ ... ۳۲۰
- ۳۱۵۵ پورے رمضان میں مروج تراویح کا آپ ﷺ سے ثبوت ۳۲۲
- ۳۱۵۶ کیا آٹھ رکعت تراویح ثابت ہیں؟ ۳۲۴
- ۳۱۵۷ آٹھ رکعت تراویح سلف سے ثابت نہیں ۳۲۵
- ۳۱۵۸ تراویح ۲۰ رکعت یا آٹھ رکعت ۳۲۷
- ۳۱۵۹ بیس رکعت تراویح کا ثبوت ۳۲۸
- ۳۱۶۰ بیس رکعت تراویح کا ثبوت ۳۲۹
- ۳۱۶۱ ۲۰ رکعت تراویح کا مسئلہ ۳۳۰
- ۳۱۶۲ تراویح سے متعلق سوالات و جوابات ۳۳۱
- ۳۱۶۳ قرآن سنانے کے لئے سفر کرنا ۳۳۳
- ۳۱۶۴ تراویح کی صحت کے لئے سامع کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ۳۳۴
- ۳۱۶۵ تراویح کی ہر دو رکعت کے لئے نیت کرنا ۳۳۴
- ۳۱۶۶ تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کرنا ۳۳۵
- ۳۱۶۷ دوران تراویح آیت سجدہ کا اعلان کرنا ۳۳۶
- ۳۱۶۸ سجدہ تلاوت کے بعد بغیر کچھ پڑھے رکوع میں جانا ۳۳۷
- ۳۱۶۹ تراویح میں مقتدیوں کی رعایت کی جائے یا امام کی ضعف عمری کی؟ ۳۳۸
- ۳۱۷۰ روزانہ تراویح میں کتنے پارے پڑھے جائیں؟ ۳۴۰
- ۳۱۷۱ روزمرہ تراویح میں پارہ کی مقدار ۳۴۱
- ۳۱۷۲ کم از کم کتنی مدت میں تراویح میں قرآن ختم کرنا مسنون ہے؟ ۳۴۳
- ۳۱۷۳ نماز تراویح میں ہر سورت کے شروع میں جہراً ”بسم اللہ“ پڑھنا ۳۴۵
- ۳۱۷۴ ہر سورت کے شروع میں ”بسم اللہ“ جہراً پڑھنے سے متعلق تحقیقی فتویٰ ۳۴۷
- ۳۱۷۵ ہر سورت کے شروع میں ”بسم اللہ“ جہراً پڑھی جائے یا سراً؟ ۳۵۰

- ۳۱۷۶ تراویح میں ہر سورۃ کے شروع میں ”بسم اللہ“ جہراً پڑھنا ۳۵۱
- ۳۱۷۷ تراویح میں سورت ملانے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا؟ ۳۵۳
- ۳۱۷۸ تراویح میں ایک سورت کا تکرار ۳۵۴
- ۳۱۷۹ نماز تراویح میں سورتیں مکرر پڑھنا ۳۵۵
- ۳۱۸۰ تراویح میں دو تین آیات چھوٹ جائیں تو کس طرح اعادہ کریں؟ ۳۵۶
- ۳۱۸۱ ترویجہ کی مقدار ۳۵۷
- ۳۱۸۲ ترویجہ کتنی دیر کا ہونا چاہئے؟ ۳۵۸
- ۳۱۸۳ ترویجہ میں ”سبحان ذی العزۃ“ پڑھنا ۳۵۹
- ۳۱۸۴ تراویح میں دو رکعت پر ”سبحان اللہ“ پڑھنا اور چار رکعت پر ۳۶۰
- ۳۱۸۵ تراویح میں ہر دو رکعت کے بعد ”فضل من اللہ“ پڑھنا ۳۶۱
- ۳۱۸۶ تراویح کے ہر ترویجہ میں جہراً تسبیح پڑھنا ۳۶۲
- ۳۱۸۷ تنہا عشاء پڑھنے والے شخص کا تراویح اور وتر باجماعت پڑھنا ۳۶۳
- ۳۱۸۸ وتر باجماعت پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھنا ۳۶۴
- ۳۱۸۹ عشاء کی نماز فاسد ہونے کی صورت میں تراویح اور وتر کے اعادہ کا حکم ۳۶۵
- ۳۱۹۰ حافظ کی موجودگی میں غیر حافظ کا ”الم ترکیف“ سے تراویح پڑھانا .. ۳۶۶
- ۳۱۹۱ نماز تراویح میں مکمل قرآن نہ سنا کر اس کو عشاء فجر اور تہجد میں تقسیم کرنا ۳۶۷
- ۳۱۹۲ کیا پہلے عشرہ میں قرآن سن کر بقیہ ایام کی تراویح ساقط ہو جاتی ہیں؟ ۳۶۹
- ۳۱۹۳ ختم کے بعد تراویح ”الم ترکیف“ سے پڑھی جائے؟ ۳۷۰
- ۳۱۹۴ نماز تراویح میں امام کا قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا ۳۷۲
- ۳۱۹۵ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا ۳۷۳
- ۳۱۹۶ قرآن کریم دیکھ کر امامت کرنا ۳۷۵
- ۳۱۹۷ تراویح کی نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھی جائے یا غیر مقلدین کی؟ ۳۷۷

- ۳۱۹۸ چھوٹی ہوئی تراویح وتر کے بعد پڑھنا ۳۷۸
- ۳۱۹۹ تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعت وتر سے قبل ادا کریں یا بعد میں؟ ۳۷۹
- ۳۲۰۰ تراویح میں ایک رکعت پر سلام پھیرنا ۳۸۰
- ۳۲۰۱ دو رکعت پر قعدہ کئے بغیر چار رکعت پڑھادیں تو بعد کی دو رکعت معتبر ہوں گی .. ۳۸۱
- ۳۲۰۲ تراویح میں دو رکعت پر قعدہ بھول گیا ۳۸۲
- ۳۲۰۳ ایک سلام سے پڑھی گئی تراویح کی چار رکعت میں دو رکعت صحیح ہونے کی وجہ ۳۸۳
- ۳۲۰۴ چار رکعت نماز تراویح کی نیت باندھی پھر قعدہ اخیرہ بھول گیا ۳۸۴
- ۳۲۰۵ ختم تراویح کا مسنون طریقہ ۳۸۶
- ۳۲۰۶ تراویح میں دو رکعت کے قعدہ کے بعد کھڑے ہو کر مزید دو رکعت پڑھنا ۳۸۷
- ۳۲۰۷ ختم قرآن کے موقع پر ”سورہ اخلاص“ کو تین مرتبہ پڑھنا ۳۸۸
- ۳۲۰۸ ختم قرآن کے موقع پر آخر میں دعائیہ آیتوں کا پڑھنا کیسا؟ ۳۸۹
- ۳۲۰۹ تراویح کی قضاء ۳۹۰
- ۳۲۱۰ ختم کے دن مسجد اور اس کے درختوں کو لائٹوں سے سجانا ۳۹۱
- ۳۲۱۱ تراویح میں ختم قرآن کے بعد امام صاحب سے پھونک مروانا ۳۹۲
- ۳۲۱۲ دوران تراویح اور ختم کے دن شیرینی تقسیم کرنا ۳۹۳
- ۳۲۱۳ تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنا ۳۹۴
- ۳۲۱۴ ختم تراویح کے دن حافظ صاحب سے دم کروانے کی شرعی حیثیت .. ۳۹۵
- ۳۲۱۵ شبینہ ۳۹۷
- ۳۲۱۶ ایک رات یا تین رات میں قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ ۳۹۸
- ۳۲۱۷ تین روزہ شبینہ پڑھنا ۳۹۹
- ۳۲۱۸ لاؤڈ اسپیکر میں شبینہ کا حکم ۴۰۰
- ۳۲۱۹ رمضان یا غیر رمضان میں نفلوں کے اندر شبینہ پڑھنا ۴۰۱

۴۰۲	شبینہ متعارفہ کا حکم	۳۲۲۰
۴۰۴	مروجہ شبینہ کا حکم	۳۲۲۱
۴۰۶	مروجہ شبینہ کا شرعی حکم	۳۲۲۲
۴۰۷	عورتوں کے لئے تراویح کی نماز	۳۲۲۳
۴۰۸	عورتوں کا تراویح میں قرآن سنانا	۳۲۲۴
۴۱۰	عورت کا نماز تراویح پڑھانا	۳۲۲۵
۴۱۱	عورتوں کا تراویح پڑھنے کے لئے جانا	۳۲۲۶
۴۱۳	بالغ لڑکے کا تراویح میں عورتوں کی امامت کرنا	۳۲۲۷
۴۱۵	عورتوں کا تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا	۳۲۲۸
۴۱۶	عورتوں کی تراویح کی جماعت کا حکم	۳۲۲۹
۴۱۷	تراویح میں سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں پڑھنا	۳۲۲۹
۴۱۹	دس پندرہ روز میں قرآن ختم کر کے الم ترکیف سے تراویح پڑھنا ...	۳۲۲۹
۴۲۰	جودعا ہر چار رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت؟	۳۲۲۹

۴۲۲	الفصل الثانی: فی أجرۃ التراويح	□
-----	---------------------------------------	---

۴۲۲	تراویح کی اجرت سے متعلق چند سوالات کے جواب	۳۲۳۰
۴۲۶	تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کا شرعی حکم	۳۲۳۱
۴۳۴	تراویح کی اجرت کے جواز کے پمفلٹ کا تحقیقی جواب	۳۲۳۲
۴۳۵	اجرت ختم قرآن سے متعلق ایک اہم فتویٰ	۳۲۳۳
۴۶۱	اجرت علی التراويح کے حیلہ کی مختلف شکلوں کا حکم	۳۲۳۴
۴۶۴	امیر شریعت کے جواز اجرت تراویح کی دلیل کا جائزہ	۳۲۳۵
۴۶۷	تراویح کی اجرت کے جواز سے متعلق مولگیبر کے فتویٰ کی شرعی حیثیت	۳۲۳۶
۴۶۸	تفسیر، امامت وغیرہ کرنے والے کے لئے نذرانہ تراویح کا حکم ...	۳۲۳۷

- ۳۲۳۸ اجرت تراویح کے لئے امامت کے حیلہ کی حقیقت ۴۷۰
- ۳۲۳۹ حافظ صاحب کے نذرانہ سے متعلق کس فتویٰ پر عمل کیا جائے؟ ۴۷۲
- ۳۲۴۰ تراویح میں حافظ صاحب کو اجرت دینے سے متعلق سوالات کے جوابات ۴۷۵
- ۳۲۴۱ اجرت لے کر تراویح پڑھانے والے کے پیچھے نماز کا حکم ۴۷۹
- ۳۲۴۲ قرآن سننے اور سنانے کی اجرت کا شرعی حکم ۴۸۱
- ۳۲۴۳ تراویح کا نذرانہ ۴۸۴
- ۳۲۴۴ تراویح میں قرآن پاک سنانے کی اجرت ایک متفقہ اور شرعی فیصلہ ۴۸۹
- ۳۲۴۵ ایک مہینے کے لئے حافظ قرآن کو امامت کے لئے مقرر کر کے روپیہ دینا ۴۹۲
- ۳۲۴۶ حیلہ بنا کر تراویح کی اجرت لینا ۴۹۳
- ۳۲۴۷ قرآن سنانے کی اجرت کسی بھی حال میں جائز نہیں ۴۹۴
- ۳۲۴۸ حافظ کے ذمہ تراویح کے ساتھ ایک دو وقت کی نماز کر کے نذرانہ دینا ۴۹۵
- ۳۲۴۹ چند نمازوں کی امامت کے ساتھ تراویح پڑھانے والے کا نذرانہ قبول کرنا .. ۴۹۶
- ۳۲۵۰ ختم قرآن کے موقع پر حافظ کو کسی بھی حیلہ سے ہدیہ کرنا جائز نہیں ... ۴۹۷
- ۳۲۵۱ تراویح کی اجرت کی چند صورتیں ۴۹۹
- ۳۲۵۲ تراویح کی اجرت سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۵۰۱
- ۳۲۵۳ ماہ رمضان میں حافظ کو نذرانہ دینے کی چند شکلیں ۵۰۳
- ۳۲۵۴ اجرت تراویح سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۵۰۵
- ۳۲۵۵ تراویح سنانے والے کو بلا شرط ہدیہ دینا ۵۰۸
- ۳۲۵۶ تراویح میں بخوشی روپے اور کپڑے دینے کا حکم ۵۰۸
- ۳۲۵۷ تراویح میں ختم قرآن پر حافظ صاحب کو جوڑا دینا ۵۱۰
- ۳۲۵۸ حافظ تراویح کو عطر، شہد اور مٹھائی ہدیہ میں دینا ۵۱۲
- ۳۲۵۹ حصول علم کی خاطر نادر طالب علم کا تراویح کی اجرت لینا ۵۱۳

۵۱۴	نا دارطالب علم کے لئے تراویح پر اجرت لینا	۳۲۶۰
۵۱۴	حافظ طالب علم کو تراویح کی اجرت دینا	۳۲۶۱
۵۱۵	تراویح میں قراءت قرآن اور سماعت قرآن پر اجرت لینا	۳۲۶۲
۵۱۷	حافظ و سامع کو روپیہ یا جوڑا دینے کے لئے چندہ کرنا	۳۲۶۳
۵۱۸	نا جائز کمائی کی رقم ہدیہ کے نام سے تراویح سنانے والے کو دینا	۳۲۶۴
۵۱۹	تراویح کے نذرانہ کا شرعی حکم	۳۲۶۵
۵۲۰	ختم قرآن کے موقع پر حافظ یا امام کو ہدیہ دینا	۳۲۶۶
۵۲۲	قرآن کریم کے سننے سنانے پر اجرت لینا	۳۲۶۷
۵۲۴	تراویح پڑھانے والے کو نذرانہ دینا	۳۲۶۸
۵۲۵	تراویح کے نذرانہ کی شرعی حیثیت	۳۲۶۹
۵۲۷	اجرت تراویح کے لئے چندہ کرنا	۳۲۷۰
۵۲۸	چندہ کر کے قاری و سامع کی خدمت کرنا اور ختم پر شیرینی تقسیم کرنا	۳۲۷۱
۵۲۹	تراویح میں حافظ و سامع کو اجرت دینا	۳۲۷۲
۵۳۱	قاری اور سامع کو اجرت دینا	۳۲۷۳
۵۳۲	تراویح میں قرآن سننے والے کا اجرت لینا	۳۲۷۴
۵۳۳	تراویح کی اجرت	۳۲۷۵
۵۳۳	اجرت لے کر قرآن سنانے والے کے پیچھے تراویح پڑھنا	۳۲۷۶
۵۳۴	اجرت علی التراویح کی شرعی حیثیت	۳۲۷۷
۵۳۵	تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو نذرانہ دینا	۳۲۷۸
۵۳۷	ختم تراویح پر نذرانہ اور مٹھائی تقسیم کرنا	۳۲۷۹
۵۳۸	تراویح میں ختم قرآن پر اجرت لینا	۳۲۸۰
۵۳۹	تراویح پڑھانے والے حافظ کو ہدیہ دینا	۳۲۸۱

۳۲۸۲	تراویح میں قرآن سنا کر اجرت لینا	۵۴۰
۳۲۸۳	حافظ صاحب کا اجرت لے کر قرآن سنانا اور مقتدیوں کا سننا کیسا ہے؟	۵۴۱
۳۲۸۴	اجرت لے کر تراویح پڑھانے والے کے پیچھے نماز تراویح	۵۴۳
۳۲۸۵	تراویح میں ختم قرآن پر اجرت لینا	۵۴۳
۳۲۸۶	حافظوں کے لئے تراویح کا پیسہ لینا کیسا ہے؟	۵۴۵
۳۲۸۷	سامع کی اجرت	۵۴۶
۳۲۸۸	سامع وقاری کی اجرت کا حکم	۵۴۷
۳۲۸۹	قاری و سامع کی اجرت کے لئے چندہ کرنا	۵۴۷
۳۲۹۰	سامع کا آمدورفت کا کرایہ وصول کرنا	۵۴۸
۳۲۹۱	سامع کا اجرت طے کرنا	۵۴۹
۳۲۹۲	سامع کی اجرت کا شرعی حکم	۵۵۰
۳۲۹۳	حافظ قرآن کو مسجد کے فنڈ سے آمدورفت کا کرایہ دینا	۵۵۲
۳۲۹۴	”الم تر کیف“ سے تراویح پر اجرت لینا	۵۵۲
۳۲۹۵	سورہ نبیل سے تراویح پڑھانے پر اجرت لینے کا حکم	۵۵۳
۳۲۹۶	تراویح میں ملی ہوئی رقم کو کیا کریں؟	۵۵۴
۳۲۹۷	تراویح میں موصول اجرت کا مصرف	۵۵۵
۳۲۹۸	تراویح میں ملی ہوئی اجرت کس طرح واپس کی جائے؟	۵۵۷
۳۲۹۹	تراویح میں ملے ہوئے روپیوں کو مسجد میں دینا	۵۵۸
۳۳۰۰	کوئی حافظ بلا اجرت تراویح پڑھانے کے لئے تیار نہ ہو تو کیا کریں؟	۵۵۸
۳۳۰۱	کوئی حافظ بلا اجرت تراویح پڑھانے کے لئے تیار نہیں	۵۶۰
۳۳۰۲	جس مسجد میں نذرانہ لینے دینے کا معاملہ نہ ہو اس میں انفرادی طور پر کچھ دینا	۵۶۱
۳۳۰۳	حافظ صاحب کو رکشہ کرایہ دینا کیسا ہے؟	۵۶۲

۵۶۳ ختم قرآن کے موقع پر مستقل امام کو روپیہ پارچہ دینا	۳۳۰۴
۵۶۴ مستقل امام کو رمضان میں زائد ملنے والی تنخواہ تراویح کی اجرت نہیں	۳۳۰۵
۵۶۶ تراویح میں امام صاحب کا قرآن پڑھا کر پیسہ لینا	۳۳۰۶
۵۶۷ مستقل امام صاحب کو ختم تراویح کے موقع پر ہدیہ دینا	۳۳۰۷
۵۶۸ مسجد کے مستقل امام کو تراویح میں نذرانہ دینا	۳۳۰۸
۵۶۹ امام صاحب کا رمضان میں تنخواہ سے زائد اجرت لینا	۳۳۰۹
۵۷۰ رمضان میں امام صاحب کو مقتدی حضرات کا تحفہ تحائف دینا	۳۳۱۰
۵۷۱ ختم تراویح کے موقع پر حافظ صاحب کے علاوہ امام و مؤذن کو تنخواہ بڑھا کر دینا	۳۳۱۱
۵۷۳ رمضان میں تراویح سنانے والے مستقل امام کو تنخواہ بڑھا کر دینا	۳۳۱۲
۵۷۳ مستقل امام کو ختم تراویح کے موقع پر ڈبل تنخواہ دینا	۳۳۱۳
۵۷۴ رمضان میں امام کا ڈبل تنخواہ لینا	۳۳۱۴
۵۷۵ مستقل امام کو ملنے والے تراویح کے نذرانہ کی شرعی حیثیت	۳۳۱۵
۵۷۷ تنخواہ میں اضافہ کر کے اجرت علی التراویح کا حیلہ	۳۳۱۶

۵۷۸

باب ۲۶ / صلاة المسافر



۵۷۸ کسی کی اقتداء میں نماز کے لئے سفر کی ممانعت اور حصول علم	۳۳۱۷
۵۷۹ دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کے لئے سفر کی ممانعت	۳۳۱۸
۵۸۰ محض ارادہ سے آدمی مسافر نہیں ہوتا	۳۳۱۹
۵۸۱ محض نیت سفر کی وجہ سے وطن اقامت باطل ہوگا یا نہیں؟	۳۳۲۰
۵۸۳ معصیت کے ارادہ سے سفر کرنا بھی موجب تخفیف ہے	۳۳۲۱
۵۸۴ یکبارگی مسافت سفر کا ارادہ کرنا قصر کے لئے لازم	۳۳۲۲
۵۸۵ مسافر و مقیم شرعاً کب ہوتے ہیں؟	۳۳۲۳
۵۸۶ مسافت شرعی کی مقدار	۳۳۲۴

۵۸۷ مسافت سفر میں ۲۵ یا ۲۸ میل شرعی کا اعتبار	۳۳۲۵
۵۹۰ شرعی مسافت سفر کی تعیین سے متعلق ایک تحقیقی جائزہ	۳۳۲۶
۵۹۲ ۲۸ میل کتنا کلو میٹر ہے؟	۳۳۲۷
۵۹۴ مسافت سفر سے متعلق ”ایضاح المسائل“ کے مسئلہ پر اعتراض کا جواب	۳۳۲۸
۶۰۰ مسافت شرعی کی مقدار پر تحقیقی فتویٰ	۳۳۲۹
۶۰۵ مسافت سفر کی تحقیق	۳۳۳۰
۶۰۷ ۷۰ کلو میٹر مسافت سفر نہیں ہے	۳۳۳۱
۶۰۹ وطن اصلی و وطن اقامت کی تعریف	۳۳۳۲
۶۱۱ وطن اقامت اور وطن اصلی	۳۳۳۳
۶۱۳ وطن اقامت سے اپنے آبائی وطن آئے تو نماز میں قصر و تمام کا کیا حکم ہے؟	۳۳۳۴
۶۱۴ ”ایضاح المسائل“ کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۳۳۳۵
۶۱۶ وطن اقامت کس طرح کے سفر سے باطل ہوتا ہے؟	۳۳۳۶
۶۱۹ ”شرح وقایہ“ کی عبارت: ”ویبطل الوطن الأصلي“ کی وضاحت	۳۳۳۷
۶۲۲ وطن اصلی تبدیل کرنے کی صورت میں نماز کا حکم	۳۳۳۸
۶۲۳ وطن اقامت سفر شرعی سے باطل ہو جاتا ہے	۳۳۳۹
۶۲۵ مسافت سفر کی ابتداء و انتہاء کا حکم	۳۳۴۰
۶۲۶ مسافت سفر کے ارادہ سے سفر شروع کرنے کے بعد درمیان میں ...	۳۳۴۱
۶۲۸ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد سفر کرنے والا اتمام کرے گا یا قصر؟	۳۳۴۲
۶۲۹ نیت اقامت میں ایام سفر معتبر نہیں	۳۳۴۳
۶۳۰ شہر کے فناء متصل سے نکلنے کے بعد قصر کرنا	۳۳۴۴
۶۳۲ مسافر شرعی کس مقام سے قصر کرے گا؟	۳۳۴۵
۶۳۳ قصر کے لئے اپنے مقام سے سفر شرعی کا ارادہ کرنا لازم ہے	۳۳۴۶

۶۳۴	قصر کے لئے مسافت سفر کا ہونا لازم ہے	۳۳۴۷
۶۳۵	ساڑھے ۸۲ کلومیٹر سے کم مسافت میں قصر نہ کرنا چاہئے	۳۳۴۸
۶۳۷	اتمام کے لئے پندرہ دن کا شمار کب سے؟	۳۳۴۹
۶۳۹	مسافت سفر کا شمار کہاں سے ہوگا؟	۳۳۵۰
۶۴۱	مسافر کہاں سے نمازوں میں قصر شروع کرے گا؟	۳۳۵۱
۶۴۲	مسافت سفر سے کم سفر کی صورت میں آدمی مقیم ہے	۳۳۵۲
۶۴۳	پندرہ دن سے کم قیام کی صورت میں آدمی مقیم نہیں ہوتا	۳۳۵۳
۶۴۴	کلکتہ سے فجر پڑھ کر بذریعہ ہوائی جہاز دہلی پہنچا تو فجر کے وقت کے بیس منٹ باقی ہیں	۳۳۵۴
۶۴۵	مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز	۳۳۵۵
۶۴۶	جس شہر کی مسافت شرعی مسافت سے بڑی ہو، اس میں شرعی مسافت کہاں سے بنے گی؟	۳۳۵۶
۶۴۷	ایک شہر میں ۱۸ دن ٹھہرنے کی نیت کی پھر دوسرے میں تین دن گزارے	۳۳۵۷
۶۴۹	نوح سے دہلی آنے والا مسافر نہیں ہے	۳۳۵۸
۶۵۰	”ایضاح المسائل“ کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۳۳۵۹
۶۵۱	بریلی اور ہردوئی آمد و رفت کرنے والے کا مسئلہ	۳۳۶۰
۶۵۳	ایک جگہ ۱۵ دن قیام کا ارادہ مگر دن میں دیگر مقامات کا دورہ	۳۳۶۱
۶۵۵	ہر تھلا اور پاکبڑھ مراد آباد میں شامل ہو کر مقام واحد	۳۳۶۲
۶۵۷	دوالگ الگ مقاموں کے بلد واحد ہونے کا مدار اتصال پر ہے	۳۳۶۳
۶۵۷	شہر سے متصل باہر کی طرف پھیلی ہوئی آبادی بھی شہر کے حکم میں	۳۳۶۴
۶۵۹	شہر سے متصل ہو جانے والے گاؤں کا حکم	۳۳۶۵
۶۶۰	ایک ماہ کے قیام کا ارادہ تھا مگر تین دن کے بعد واپسی کا ارادہ ہو گیا تو کیا کرے؟	۳۳۶۶
۶۶۱	کسی جگہ پندرہ دن کی نیت کے بغیر ۲۸ دن گزار دے تو قصر ہی کرتا رہے گا؟	۳۳۶۷
۶۶۳	ویز ختم ہونے کے بعد خفیہ طور پر ۳ ماہ رہنے کا ارادہ ہو تو قصر کرے یا تمام؟	۳۳۶۸

۶۶۴	دور استوں میں سے مقدار مسافت سفر والے میں قصر اور کم والے میں اتمام۔	۳۳۶۹
۶۶۶	بڑے شہروں کا کس طرح اعتبار کیا جائے؟	۳۳۷۰
۶۶۸	وطن اقامت اور وطن اصلی کا ایک مسئلہ	۳۳۷۱
۶۷۰	جائے ملازمت وطن اصلی ہے یا وطن اقامت	۳۳۷۲
۶۷۱	جائے ملازمت وطن اصلی کے حکم میں ہے	۳۳۷۳
۶۷۲	کیا وطن اقامت و ملازمت وطن اصلی کے حکم میں ہیں؟	۳۳۷۴
۶۷۳	جائے ملازمت وطن اصلی کے حکم میں کب ہے؟	۳۳۷۵
۶۷۴	مدارس کے طلبہ اور سرکاری ملازمین مدرسہ اور جائے ملازمت پر مقیم یا مسافر۔	۳۳۷۶
۶۷۶	کیا وطن اصلی سے ۲۰ کلومیٹر کی دوری کی جائے ملازمت وطن اصلی سے ملحق ہے۔	۳۳۷۷
۶۷۷	وطن اقامت سے بیس کلومیٹر دوری پر جائے ملازمت پر جانا	۳۳۷۸
۶۷۸	وطن اقامت اور جائے ملازمت میں قصر کرے یا اتمام؟	۳۳۷۹
۶۷۹	صرف بیٹے کے قیام پر وطن تامل کا حکم	۳۳۸۰
۶۸۰	تبلیغی جماعت مسافت سفر جانے کے بعد مختلف دیہاتوں کا دورہ کرے تو؟	۳۳۸۱
۶۸۳	جائے ملازمت میں اتمام یا قصر؟	۳۳۸۳
۶۹۱	بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو کیا حکم؟	○
۶۹۶	شکل ۱: جائے ملازمت میں مع اہل و عیال قیام	○
۶۹۸	شکل ۲: جائے ملازمت یا جائے کاروبار میں تجرد کے ساتھ رہائش	○
۷۰۱	چند شبہات کا ازالہ	○
۷۰۶	(۶) مسئلہ قصر و اتمام میں شبہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم؟	○
۷۰۸	فیملی کے ساتھ رہنے والے ملازم مقیم ہیں یا مسافر؟	۳۳۸۴
۷۰۹	جائے تجارت میں اتمام یا قصر؟	۳۳۸۵
۷۱۰	جائے ملازمت کا حکم	۳۳۸۶

۳۳۸۷	جائے ملازمت میں اتمام یا قصر؟	۷۱۷
۳۳۸۸	جائے ملازمت میں جب بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو قصر جائز نہیں	۷۱۹
۳۳۸۹	جائے ملازمت کتنی دوری پر ہو تو قصر لازم ہے؟	۷۲۰
۳۳۹۰	ڈرائیو سفر میں نماز پوری پڑھے یا قصر کرے؟	۷۲۲
۳۳۹۱	امام یا ملازم باپ کے پاس تعلیم کے لئے باہر گئے بیٹے مقیم ہوں گے یا مسافر؟	۷۲۳
۳۳۹۲	دو چار دن جائے ملازمت میں قیام کی صورت میں قصر کریں یا اتمام؟	۷۲۴
۳۳۹۳	جس ہستی میں آئندہ رہنے کا ارادہ ہو اس میں قصر و اتمام کا حکم	۷۲۵
۳۳۹۴	وطن تامل میں قصر و اتمام کا حکم	۷۲۶
۳۳۹۵	سسرال کو وطن اصلی میں شامل کرنے کی تخصیص	۷۳۰
۳۳۹۶	وطن تامل جاتے ہی اتمام کرے گا	۷۳۱
۳۳۹۷	متعدد شہروں میں شادی کر رکھی ہو تو ہر بیوی کے یہاں اتمام لازم	۷۳۲
۳۳۹۸	سنگاپور، امریکہ وغیرہ کی ہر بیوی کے پاس اتمام	۷۳۴
۳۳۹۹	داماد سسرال میں قصر کرے گا یا اتمام؟	۷۳۵
۳۴۰۰	بیوی میکے میں قصر کرے گی یا اتمام؟	۷۳۶
۳۴۰۱	لڑکی میکے میں قصر کرے گی یا اتمام؟	۷۳۷
۳۴۰۲	دلہن پہلی رات سسرال میں قصر کرے گی یا اتمام	۷۳۷
۳۴۰۳	شوہر سسرال میں اتمام کرے گا یا قصر؟	۷۳۹
۳۴۰۴	مسافر کے لئے جمعہ کی امامت	۷۴۰
۳۴۰۵	مسافر کا جمعہ کی امامت کرنا	۷۴۱
۳۴۰۶	مسافر کے چار رکعت والی نماز پڑھانے کا حکم	۷۴۲
۳۴۰۷	مسافر امام نے مقیم مقتدیوں کو چار رکعت پڑھادی	۷۴۴
۳۴۰۸	مسافر امام نے چار رکعت پڑھادی	۷۴۶

۳۴۰۹	مسافر امام کا مقیم مقتدیوں کو رباعی نمازیں پڑھانا	۷۴۸
۳۴۱۰	مسافر کا مقیمین کو نماز عشاء چار رکعت پڑھانے کا حکم	۷۴۹
۳۴۱۱	مسافر کا ظہر چار رکعت ادا کرنا	۷۵۰
۳۴۱۲	دوران سفر نماز عصر چار رکعت ادا کرنا	۷۵۱
۳۴۱۳	مسافر شخص نے عشاء کی نماز میں مقیم حضرات کی امامت کی تو کیا حکم ہے؟	۷۵۳
۳۴۱۴	جب مسافر امام رباعی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دے تو مقتدی	
۷۵۵	لوگ بقیہ دو رکعت کس طرح پوری کریں؟	۷۵۵
۳۴۱۵	مقیم کا مسافر کی اقتداء کرنا	۷۵۵
۳۴۱۶	مسافر مقیمین کو رباعی نماز پڑھا دے	۷۵۶
۳۴۱۷	مقیم مقتدی کی رباعی نماز مسافر کے پیچھے پڑھی گئی کب تک اعادہ کی گنجائش ہے؟	۷۵۸
۳۴۱۸	امام کے پیچھے پڑھی گئی عصر کی فاسد نماز دوسرے دن صاحب ترتیب	
۷۵۹	اور مسافر کس طرح قضا کریں؟	۷۵۹
۳۴۱۹	ٹرین پر کس طرح نماز پڑھیں؟	۷۶۱
۳۴۲۰	ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنا	۷۶۲
۳۴۲۱	ٹرین میں مجبوری کے وقت فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا	۷۶۳
۳۴۲۲	دوران سفر بس یا ریل میں نماز کا حکم	۷۶۴
۳۴۲۳	بس پر نماز کا طریقہ اور قصر کہاں سے کرنا درست ہے؟	۷۶۶



فہرست مضامین

۹/بقیۃ کتاب الصلاة

□	۲۷/باب صلاة المريض	□
۳۲ پیشاب کے قطرے نکلنے رہیں تو نماز کیسے پڑھے	۳۴۲۴
۳۴ اشارہ سے نماز پڑھانے والوں کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والوں کا نماز پڑھنا	۳۴۲۵
۳۵ قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا	۳۴۲۶
۳۷ تھوڑی دیر قیام پر قدرت رکھنے والے کا ہر رکعت میں تھوڑی دیر کے لئے قیام کرنا	۳۴۲۷
۳۸ سجدہ پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھنا	۳۴۲۸
۳۹ عمر رسیدہ سانس کا مریض جو طہارت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو، کس طرح نماز پڑھے؟	۳۴۲۹
۴۰ غیر کی مدد سے وضو پر قادر شخص کا تیمم سے نماز پڑھنا	۳۴۳۰
۴۱ آپریشن شدہ آنکھ والا شخص وضو کر کے نماز پڑھے یا تیمم کر کے؟	۳۴۳۱
۴۲ ریاحی مریض کے لئے ایک وضو سے نماز کا حکم	۳۴۳۲
۴۴ جس کو پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے وہ کس طرح نماز پڑھے؟	۳۴۳۳
۴۵ آل حضرت ﷺ نے بیماری کے زمانہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھائی؟	۳۴۳۴
۴۶ بلا عذر شدید کرسی پر نماز پڑھنا	۳۴۳۵
۴۷ کیا حضور ﷺ اور صحابہ ﷺ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے؟	۳۴۳۶
۴۸ کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنا اولیٰ ہے یا بیٹھ کر؟	۳۴۳۷

۵۳ کیا کھڑے ہو کر اشارہ سے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا برابر ہے؟	۳۲۳۸
۵۶ کرسی پر نماز کے متعلق ایک جامع فتویٰ	۳۲۳۹
۶۰ کرسی پر نماز کا حکم	۳۲۴۰
۶۷ معذور کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا	۳۲۴۱
۶۸ گھر سے پیدل چل کر آنے والے کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا	۳۲۴۲
۶۹ کمر کی تکلیف میں مبتلا شخص کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا	۳۲۴۳

□	۲۸ / باب الجمعة	□
---	-----------------	---

(۱) فصل في الفضائل و وقتها

۷۲ جمعہ کی فضیلت	۳۲۴۴
۷۳ جمعہ کے دن جلد از جلد مسجد پہنچنے کی فضیلت	۳۲۴۵
۷۵ ساعتِ اجابت کب ہے؟	۳۲۴۶
۷۷ جمعہ کے دن مرنے والے کی فضیلت	۳۲۴۷
۸۰ محلہ کی مسجد چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لئے جامع مسجد جانا	۳۲۴۸
۸۱ مسلسل تین جمعہ چھوڑنے والے کا حکم	۳۲۴۹
۸۲ عرفہ کا دن افضل ہے یا جمعہ کا دن؟	۳۲۵۰
۸۳ جمعہ و جمعرات کی درمیانی شب میں سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت	۳۲۵۱
۸۴ جمعۃ المبارک کہنا کیسا ہے؟	۳۲۵۲
۸۶ زوالِ شمس سے قبل نماز جمعہ کی ادائیگی	۳۲۵۳

□	۲ / فصل في شرائط الجمعة	□
۸۹ نماز جمعہ کا وجوب اور شرائط	۳۲۵۴
۹۰ اقامت جمعہ وعیدین کے شرائط	۳۲۵۵
۹۱ قیام جمعہ کے لئے شہر یا قریہ کبیرہ کا ہونا لازم ہے	۳۲۵۶
۹۳ جمعہ کی نماز کس جگہ جائز ہے؟	۳۲۵۷
۹۴ کتنی بڑی آبادی میں جمعہ کا قیام جائز ہے؟	۳۲۵۸
۹۶ قیام جمعہ کے لئے کتنی آبادی شرط ہے؟	۳۲۵۹
۹۹ جمعہ کے قیام کے لئے کتنی آبادی ضروری ہے؟	۳۲۶۰
۱۰۰ چند لوگوں کا مسجد کے باہر خطبہ و جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا	۳۲۶۱
۱۰۲ جمعہ کی شرائط مفقود ہونے والے گاؤں میں رہنے والے علماء و مفتیان کی ذمہ داری	۳۲۶۲
۱۰۴ دیہات میں جمعہ کے جواز کی شرائط	۳۲۶۳
۱۰۶ دیہات میں جمعہ سے متعلق چند سوالات و جوابات	۳۲۶۴
۱۱۱ گاؤں میں نماز جمعہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۳۲۶۵
۱۱۳ گاؤں میں نماز جمعہ ہو تو علماء شرکت کریں یا نہ کریں؟	۳۲۶۶
۱۱۷ جمعہ نہ پڑھنے پر گاؤں میں انتشار کا خدشہ ہو تو کیا کریں؟	۳۲۶۷
۱۱۹ شرائط جمعہ مفقود ہونے والی جگہ میں مقتدی حضرات کی ذمہ داری	۳۲۶۸
۱۲۱ جہاں جمعہ صحیح نہیں وہاں صرف ظہر کی نماز پڑھنا لازم ہے	۳۲۶۹
۱۲۱ دیہات میں نماز جمعہ ادا کرنے سے ظہر ساقط نہیں ہوگی	۳۲۷۰
۱۲۲ قریہ صغیرہ میں ظہر کی جگہ جمعہ پڑھنا	۳۲۷۱

- ۳۲۷۲ جن دیہاتوں میں پہلے سے جمعہ ہوتا آرہا ہے ان کا حکم ۱۲۳
- ۳۲۷۳ دیہات میں جمعہ جائز ہے یا نہیں؟ ۱۲۴
- ۳۲۷۴ گاؤں میں جمعہ پڑھنا ۱۲۵
- ۳۲۷۵ چھوٹے گاؤں میں جمعہ کا حکم ۱۲۷
- ۳۲۷۶ قریہ صغیرہ میں جمعہ کی نماز کا حکم ۱۲۸
- ۳۲۷۷ گاؤں میں نماز جمعہ و عیدین کا فرق ۱۲۹
- ۳۲۷۸ قریہ صغیرہ میں جمعہ و عیدین کی نماز پڑھنا ۱۳۱
- ۳۲۷۹ دیہات میں نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم ۱۳۲
- ۳۲۸۰ گاؤں میں نماز جمعہ ۱۳۳
- ۳۲۸۱ قریہ صغیرہ میں نماز جمعہ ۱۳۴
- ۳۲۸۲ چھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ جائز نہیں ۱۳۶
- ۳۲۸۳ قریہ صغیرہ میں نماز جمعہ کا حکم ۱۳۷
- ۳۲۸۴ گاؤں کے پروا میں جمعہ کی نماز صحیح نہیں ۱۳۸
- ۳۲۸۵ چھوٹے پورہ میں نماز جمعہ ۱۳۹
- ۳۲۸۶ دس گھروں کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا ۱۴۱
- ۳۲۸۷ چالیس مکان کی آبادی والے گاؤں میں نماز جمعہ ۱۴۲
- ۳۲۸۸ دوسو کی آبادی پر مشتمل گاؤں میں نماز جمعہ ۱۴۳
- ۳۲۸۹ چار سو کی آبادی میں جمعہ ۱۴۵
- ۳۲۹۰ پانچ سو کی آبادی میں نماز جمعہ قائم رکھیں یا بند کر دیں؟ ۱۴۶
- ۳۲۹۱ چھ سو افراد پر مشتمل آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۴۷
- ۳۲۹۲ ایک ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ ۱۴۸

- ۳۴۹۳ ایک ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ، نیز امام کی امامت اور مسجد میں تالا لگانا ۱۴۹
- ۳۴۹۴ تیرہ سو افراد کی آبادی والے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنا جائز نہیں ۱۵۲
- ۳۴۹۵ تقریباً پندرہ سو کی آبادی میں نماز جمعہ کا قیام ۱۵۳
- ۳۴۹۶ پندرہ سو کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۵۴
- ۳۴۹۷ ڈیڑھ ہزار کی آبادی میں جمعہ اور جامع مسجد کا اطلاق ۱۵۶
- ۳۴۹۸ ڈیڑھ ہزار کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کی نماز ۱۵۷
- ۳۴۹۹ اٹھارہ سو کی آبادی پر مشتمل قصبہ میں نماز جمعہ ۱۵۸
- ۳۵۰۰ دو ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ ۱۵۹
- ۳۵۰۱ دو ہزار کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا قیام ۱۶۱
- ۳۵۰۲ دو ہزار کی آبادی والے کس طرح کے گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہے؟ ۱۶۳
- ۳۵۰۳ اکیس سو کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۶۴
- ۳۵۰۴ دو ہزار سے زائد آبادی جس میں ضرورت کے سامان ملتے ہوں قریہ کبیرہ کے حکم میں ہے ۱۶۵
- ۳۵۰۵ ڈھائی ہزار کی آبادی میں جمعہ قائم کرنا جائز ہے؟ ۱۶۷
- ۳۵۰۶ ڈھائی ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۶۸
- ۳۵۰۷ پچیس سو کی آبادی میں نماز جمعہ پڑھنا ۱۶۹
- ۳۵۰۸ ڈھائی تین ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۷۱
- ۳۵۰۹ دو، تین ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ کا قیام ۱۷۳
- ۳۵۱۰ ۲۷۰۰ آبادی والے گاؤں میں نماز جمعہ کا قیام ۱۷۴
- ۳۵۱۱ دو ہزار نو سو ساٹھ افراد کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم ۱۷۷
- ۳۵۱۲ غیر مسلموں کی آبادی میں مزدوروں کا نماز جمعہ ادا کرنا ۱۷۹
- ۳۵۱۳ تقریباً تین ہزار آبادی میں نماز جمعہ کا جواز ۱۸۰

۱۸۱	تین ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ	۳۵۱۴
۱۸۳	کیا تین ہزار کی آبادی میں قیام جمعہ جائز ہے؟	۳۵۱۵
۱۸۴	تین ہزار کی آبادی پر مشتمل گاؤں میں نماز جمعہ	۳۵۱۶
۱۸۶	تین ہزار والی آبادی میں جمعہ جائز ہے	۳۵۱۷
۱۸۷	تین ہزار کی آبادی والا گاؤں قریہ کبیرہ ہے	۳۵۱۸
۱۸۸	تین ہزار سے زائد کی آبادی میں جمعہ جائز ہے	۳۵۱۹
۱۸۹	3150 کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۲۰
۱۹۰	تین ہزار سے زائد آبادی والی ہستی میں نماز جمعہ	۳۵۲۱
۱۹۱	تین ساڑھے تین ہزار کی آبادی میں جمعہ	۳۵۲۲
۱۹۲	چار ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۲۳
۱۹۳	چار پانچ ہزار کی آبادی والے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا	۳۵۲۴
۱۹۴	تقریباً پانچ ہزار کی آبادی میں جمعہ کا حکم	۳۵۲۵
۱۹۵	پانچ ہزار سے زائد آبادی میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۲۶
۱۹۶	تقریباً ساڑھے چھ ہزار کی آبادی میں جمعہ کا قیام	۳۵۲۷
۱۹۸	سات ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ	۳۵۲۸
۱۹۹	سات ہزار آبادی والے گاؤں قریہ کبیرہ کے حکم میں ہیں	۳۵۲۹
۲۰۱	آٹھ ہزار کی آبادی میں نماز جمعہ	۳۵۳۰
۲۰۳	قصبہ میں نماز جمعہ ادا کرنا	۳۵۳۱
۲۰۴	قریہ کبیرہ میں مسجد کی جگہ بیٹھک میں نماز جمعہ ادا کرنا	۳۵۳۲
۲۰۵	قریہ کبیرہ میں نماز جمعہ	۳۵۳۳
۲۰۶	بڑے گاؤں میں نماز جمعہ	۳۵۳۴

۲۰۷ بڑی آبادی میں نماز جمعہ	۳۵۳۵
۲۰۹ قریہ کبیرہ میں نماز جمعہ کا قیام	۳۵۳۶
۲۱۱ قریہ کبیرہ میں جمعہ کے بجائے ظہر پڑھنا	۳۵۳۷
۲۱۲ بڑے گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہے	۳۵۳۸
۲۱۳ قصبہ سے دو میل دور آبادی میں جمعہ جائز نہیں	۳۵۳۹
۲۱۶ ملے ہوئے دو گاؤں کو ایک شمار کر کے جمعہ قائم کرنا	۳۵۴۰
۲۱۷ دو متصل آبادیوں میں جمعہ قائم کرنا	۳۵۴۱
۲۱۸ تین چار بستیوں کا ایک جگہ مل کر جمعہ قائم کرنا	۳۵۴۲
۲۱۹ متصل چار گاؤں میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۴۳
۲۲۰ متصل دو آبادی میں جمعہ کی نماز کا حکم	۳۵۴۴
۲۲۲ مختلف گاؤں کو ایک مان کر ان میں جمعہ ہو سکتا ہے؟	۳۵۴۵
۲۲۴ شہر سے متصل ہونے والی آبادی میں نماز جمعہ وعیدین	۳۵۴۶
۲۲۶ درمیان میں دو تین کلومیٹر کے فاصلے والی دو بستیوں کو ایک شمار کر کے جمعہ قائم کرنا	۳۵۴۷
۲۲۷ شہر سے ڈیڑھ کلومیٹر دوری پر واقع مدرسہ کی مسجد میں نماز جمعہ	۳۵۴۸
۲۲۸ جنگل میں واقع مدرسہ میں جمعہ کا قیام	۳۵۴۹
۲۲۹ فرم میں جہاں اذن عام نہ ہو نماز جمعہ کا حکم	۳۵۵۰
۲۳۰ فناء شہر میں قیام جمعہ درست ہے	۳۵۵۱
۲۳۱ فناء شہر میں نماز جمعہ	۳۵۵۲
۲۳۲ جیل میں نماز جمعہ	۳۵۵۳
۲۳۴ کیا جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے؟	۳۵۵۴
۲۳۵ جیل میں جمعہ	۳۵۵۵

۲۳۸	جیل میں نماز جمعہ وعیدین کے قیام کا حکم	۳۵۵۶
۲۳۹	فرم کے اندر بنائی گئی مسجد میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۵۷
۲۴۰	فرم میں نماز جمعہ	۳۵۵۸
۲۴۲	فرم اور مکانوں میں نماز جمعہ سے متعلق سوالات	۳۵۵۹
۲۴۵	شہر سے خارج فیکٹری میں جمعہ کی نماز کا حکم	۳۵۶۰
۲۴۶	پرانی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز بند کر کے نئی مسجد میں پڑھنا	۳۵۶۱
۲۴۸	مسجد سے متصل پارک میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۶۲
۲۴۹	کبھی کبھار جماعت ہونے والی مسجد میں نماز جمعہ کا حکم	۳۵۶۳
۲۵۰	ہندو کی کمپنی کی تعمیر کے دوران عبادت خانہ بنا کر نماز جمعہ ادا کرنا	۳۵۶۴
۲۵۲	چندہ کی وجہ سے عید گاہ میں جمعہ پڑھنا	۳۵۶۵
۲۵۳	تعمیر مسجد کے دوران حدود مسجد سے باہر جمعہ ادا کرنا	۳۵۶۶
۲۵۴	مستقل امام اور کبھی کبھار جماعت نہ ہونے والی مسجد میں نماز جمعہ	۳۵۶۷
۲۵۵	مدرسہ میں نماز جمعہ پڑھنا	۳۵۶۸
۲۵۶	شہر کی بڑی مسجد خالی رہنے کے باوجود چھوٹی مسجد میں جمعہ	۳۵۶۹
۲۵۷	میدان میں جمعہ کی نماز ادا کرنا	۳۵۷۰
۲۵۹	کثرت کی وجہ سے دیوار حائل مکانات پر نماز جمعہ پڑھنا	۳۵۷۱
۲۶۰	قریہ کبیرہ میں متعدد مساجد میں جمعہ کا حکم	۳۵۷۲
۲۶۱	قصبہ کی تینوں مسجدوں میں جمعہ کی نماز کا حکم	۳۵۷۳
۲۶۲	ایک محلہ کی دو مسجد میں نماز جمعہ	۳۵۷۴
۲۶۳	ایک شہر میں متعدد مساجد میں نماز جمعہ	۳۵۷۵

۲۶۴	شہر کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ	۳۵۷۶
۲۶۵	شہر کی چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ قائم کرنا	۳۵۷۷
۲۶۶	محلہ کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ قائم کرنا	۳۵۷۸
۲۶۷	ایک شہر میں متعدد مساجد میں جمعہ قائم کرنا	۳۵۷۹
۲۶۸	چھ ہزار کی آبادی میں متعدد مقامات پر نماز جمعہ قائم کرنا	۳۵۸۰
۲۶۹	ایک شہر میں متعدد جگہوں پر جمعہ کا جواز	۳۵۸۱
۲۷۱	برابری دو مسجدوں میں جمعہ کا قیام	۳۵۸۲
۲۷۲	ایک مسجد میں دو مرتبہ جمعہ پڑھنا	۳۵۸۳
۲۷۲	کیا ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نماز جمعہ جائز ہے؟	۳۵۸۴
۲۷۴	ایک ہی مسجد میں مقتدیوں کی کثرت کی بناء پر دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنا	۳۵۸۵
۲۷۵	جمعہ کے دن چار رکعت احتیاط الظہر پڑھنا	۳۵۸۶
۲۷۶	احتیاط الظہر	۳۵۸۷
۲۷۷	جمعہ کے بعد احتیاط الظہر پڑھنا	۳۵۸۸
۲۷۸	بڑی آبادی میں جمعہ کے بعد کچھ لوگوں کا جماعت سے ظہر کی نماز پڑھنا	۳۵۸۹
۲۷۹	نماز جمعہ کے بعد ظہر کی جماعت	۳۵۹۰
۲۸۱	احتیاط الظہر کا ثبوت اور شرائط	۳۵۹۱

	۳ / فصل في أذان الجمعة	
--	-------------------------------	--

۲۸۲	جمعہ کی اذان اول کا وقت زوال کے فوراً بعد	۳۵۹۲
۲۸۳	جمعہ کی اذان اول کے متعلق ایک استفتاء اور اس کا جواب	۳۵۹۳
		جمعہ کی اذان اول کے بعد بیع و شراء وغیرہ ممنوع کاموں کے ارتکاب	۳۵۹۴

- ۲۸۹ سے لوگوں کو پچانے کے لئے کیا اذان اول کو مؤخر کرنا جائز ہے؟
- ۳۵۹۵ جمعہ کی اذان اول 'اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ' کا مصداق کیسے؟
- ۳۵۹۶ جمعہ کی اذان اول کا مسنون وقت اور اذان ثانی کے درمیان کتنا فاصلہ
- ۳۵۹۷ کیا جمعہ کی اذان اول کے بعد کھانا کھانا حرام ہے؟
- ۳۵۹۸ مسجد کی کون سی اذان پر دوکان بند کی جائے؟
- ۳۶۰۰ جمعہ کی اذان اول پر خرید و فروخت کی ممانعت
- ۳۶۰۱ جمعہ کی اذان اول کے جواب کا شرعی حکم
- ۳۶۰۲ جمعہ کی اذان ثانی کا جواب اور اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا
- ۳۶۰۳ اذان ثانی کا جواب اور دوران خطبہ آپ ﷺ کے نام پر درود پڑھنا
- ۳۶۰۴ جمعہ میں خطبہ کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟
- ۳۶۰۵ خطبہ کی اذان میں کلمہ شہادت پر درود پڑھنا
- ۳۶۰۶ دو ربوت میں اذان جمعہ کہاں دی جاتی تھی؟
- ۳۶۰۷ خطبہ سے قبل اذان کہاں دی جائے؟
- ۳۶۰۸ اذان ثانی کہاں دی جائے؟
- ۳۶۰۹ اذان ثانی کا محل کیا ہے؟
- ۳۶۱۰ جمعہ کی اذان ثانی کہاں پر ہو؟
- ۳۶۱۱ جمعہ کی اذان ثانی امام اور منبر کے سامنے دینا
- ۳۶۱۲ جمعہ کی اذان ثانی کہاں دی جائے؟
- ۳۶۱۲ کیا جمعہ کی اذان ثانی منبر کے سامنے دی جائے؟
- ۳۶۱۳ جمعہ کی اذان ثانی کا محل
- ۳۶۱۴ ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کے بعد دوسری مسجد میں جمعہ کی اذان واقامت کہنا

- ۳۶۱۵ اذان ثانی سے قبل مؤذن کا "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ" وغیرہ پڑھنا ۳۶۲۲
- ۳۶۱۶ کیا اذان اول پر عورتوں کے لئے ظہر کی تیاری لازم ہے؟ ۳۶۲۳
- ۳۶۱۷ جمعہ کے خطبات عورتوں کو جمع کر کے سنانا ۳۶۲۴
- ۳۶۱۸ کیا عورتوں پر جمعہ وعیدین کی نماز واجب ہے؟ ۳۶۲۶
- ۳۶۱۹ جمعہ سے قبل چار رکعت سنت مؤکدہ ۳۶۲۷
- ۳۶۲۰ نماز جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں؟ ۳۶۲۸
- ۳۶۲۱ جمعہ کے بعد کی چار رکعت ظہر یا شبہ نہیں ہیں ۳۶۲۹
- ۳۶۲۲ جمعہ پڑھا کر دوسری جگہ جمعہ میں بنیت نفل شرکت کرنا ۳۵۱
- ۳۶۲۳ جمعہ کی سنن قبلہ اور سنن بعدیہ کل ملا کر ۱۴ رکعت ہیں یا بارہ رکعت؟ ۳۵۲

□	۴ / فصل في الخطبة	□
---	--------------------------	---

- ۳۶۲۴ منبر میں کتنی سیڑھی ہونا افضل ہے؟ ۳۶۱
- ۳۶۲۵ خطبہ جمعہ منبر کے کس زینہ سے دیا جائے؟ ۳۶۲
- ۳۶۲۶ خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں کو سلام کرنے سے متعلق روایت تحقیقی جائزہ ۳۶۳
- ۳۶۲۷ خطبہ جمعہ میں عصا ہاتھ میں لینا ۳۶۷
- ۳۶۲۸ ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا ۳۶۸
- ۳۶۲۹ کیا حضور ﷺ سے عصا لے کر خطبہ دینا ثابت ہے؟ ۳۶۹
- ۳۶۳۰ عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا ۳۷۱
- ۳۶۳۱ کیا حضور ﷺ نے عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا ہے؟ ۳۷۳
- ۳۶۳۲ عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا ۳۷۴
- ۳۶۳۳ خطبہ جمعہ کی مقدار ۳۷۵

- ۳۶۳۴ عذر کی وجہ سے چوکی یا زمین پر خطبہ دینا ۳۷۶
- ۳۶۳۵ جمعہ کے دنوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے؟ ۳۷۷
- ۳۶۳۶ خطبہ کے بعد حضور ﷺ مصلے پر بیٹھتے تھے یا جماعت شروع فرماتے تھے؟ ۳۷۸
- ۳۶۳۷ خطبہ میں امام کا خلفاء راشدین و دیگر صحابہ کا نام نہ لینا ۳۷۹
- ۳۶۳۸ دوران خطبہ دشمنان اسلام پر لعنت بھیجنا ۳۸۰
- ۳۶۳۹ دوران خطبہ ”السلطان ظل اللہ“ کے الفاظ کہنا ۳۸۱
- ۳۶۴۰ خطبہ میں ”والسلطان ظل اللہ الخ“ پڑھنا ۳۸۲
- ۳۶۴۱ خطبہ میں ”السلطان ظل اللہ“ پڑھنے کے عدم جواز کے فتویٰ سے رجوع ۳۸۳
- ۳۶۴۲ محراب کے اندر منبر پر خطبہ دینا ۳۸۵
- ۳۶۴۳ خطبہ ہاتھ باندھ کر دے یا کھول کر؟ ۳۸۶
- ۳۶۴۴ خطبہ اولیٰ میں سامعین کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ۳۸۷
- ۳۶۴۵ خطبہ جمعہ میں لقمہ دینا ۳۸۸
- ۳۶۴۶ خطبہ دینے میں موروثی دعویٰ کی شرعی حیثیت ۳۸۹
- ۳۶۴۷ خطبہ جمعہ اور نماز الگ الگ شخصوں کا پڑھانا ۳۹۱
- ۳۶۴۸ ایک شخص نماز جمعہ پڑھائے اور دوسرا خطبہ دے ۳۹۲
- ۳۶۴۹ خطبہ جمعہ زبانی دینا بہتر ہے یا کتابوں کو دیکھ کر؟ ۳۹۳
- ۳۶۵۰ دوران خطبہ متولی کا امام صاحب کو پگڑی باندھنا ۳۹۴
- ۳۶۵۱ ناپاک پانی سے غسل کر کے جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھادی ۳۹۵
- ۳۶۵۲ مقامی زبان میں منظوم خطبہ دینا ۳۹۶
- ۳۶۵۳ خطبہ کے درمیان اردو میں تقریر کرنا ۳۹۸
- ۳۶۵۴ دوران خطبہ آیات و احادیث کا ترجمہ کرنا ۳۹۹

- ۳۶۵۵ اردو زبان میں جمعہ کا خطبہ ۴۰۰
- ۳۶۵۶ اردو میں خطبہ دینا یا اردو میں ترجمہ کرنا ۴۰۲
- ۳۶۵۷ اردو زبان میں جمعہ کا خطبہ ۴۰۴
- ۳۶۵۸ مخلوط خطبہ دینا ۴۰۵
- ۳۶۵۹ جمعہ وعیدین کے دنوں خطبوں کے درمیان اردو میں تقریر کرنا ۴۰۵
- ۳۶۶۰ جمعہ کے دن مسجد میں مانگ کے ذریعے سے تقریر کرنا ۴۰۷
- ۳۶۶۱ جمعہ کی دونوں اذانوں کے درمیان وعظ و نصیحت ۴۰۸
- ۳۶۶۲ خطبہ جمعہ سے قبل یا نماز جمعہ کے بعد وعظ و نصیحت کرنا ۴۱۰
- ۳۶۶۳ جمعہ سے قبل منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا ۴۱۱
- ۳۶۶۴ خطبہ جمعہ سے قبل وعظ کرنا ۴۱۳
- ۳۶۶۵ خطبہ جمعہ سے قبل اردو زبان میں منبر پر وعظ کہنا ۴۱۴
- ۳۶۶۶ جمعہ کی اذان اول و ثانی کے درمیان وعظ کا شرعی حکم ۴۱۵
- ۳۶۶۷ درمیان خطبہ مقتدیوں کو ضروری ہدایت کرنا ۴۱۶
- ۳۶۶۸ خطبہ کی اذان کے بعد خطبہ کے مسائل و آداب بتانا ۴۱۸
- ۳۶۶۹ تقریر اور خطبہ کے دوران سنت پڑھنے کا متعین شدہ وقت نہ دینے کا حکم ۴۱۹
- ۳۶۷۰ نماز جمعہ کے بعد دعا سے قبل چندہ کو لکھنا ۴۲۰
- ۳۶۷۱ خطبہ سے قبل چندہ کرنا ۴۲۲
- ۳۶۷۲ دوران خطبہ مسجد کا چندہ کرنا ۴۲۴
- ۳۶۷۳ خطبہ کے دوران چندہ کرنا ۴۲۴
- ۳۶۷۴ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے یا اسلام پھیرتے ہی چندہ کرنا ۴۲۶
- ۳۶۷۵ خطبہ الوداع ۴۲۷

- ۳۶۷۶ خطبۃ الوداع کا ثبوت، اور نہ پڑھنے پر امام کو ذلیل کرنا ۴۲۸
- ۳۶۷۷ جمعۃ الوداع اور اس کے مخصوص خطبہ کا حکم ۴۲۹
- ۳۶۷۸ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں خطبۃ الوداع پڑھنا ۴۳۰
- ۳۶۷۹ جمعۃ الوداع کو بطور عید منانے کی شرعی حیثیت ۴۳۲

□	۱ / فصل في الإمامة والقضاء وغيرها	□
---	-----------------------------------	---

- ۳۶۸۰ عیدین کی امامت کا مستحق کون ہے؟ ۴۳۴
- ۳۶۸۱ کیا عید کے دن فجر نماز چھوڑنے والا عید کی امامت کر سکتا ہے؟ ۴۳۵
- ۳۶۸۲ عیدین میں دو شخصوں کا مل کر امامت کرنا ۴۳۵
- ۳۶۸۳ حنفی امام کا بارہ تکبیریں کہنے اور عورتوں کی امامت کا حکم ۵۳۷
- ۳۶۸۴ نماز عید میں مقتدی کے لقمہ دینے پر تکبیرات زوائد کہنے کا حکم ۵۳۸
- ۳۶۸۵ جن لوگوں کی نماز فاسد ہوگئی امام کا ان کی نماز پڑھانا ۵۳۹
- ۳۶۸۶ عید کی نماز میں سجدہ کرنے میں تاخیر ہونا ۴۴۰
- ۳۶۸۷ نماز عید سے قبل سنن و مستحبات ۴۴۱
- ۳۶۸۸ ایک صوبہ میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے صوبہ میں پڑھنا ۴۴۲
- ۳۶۸۹ عذر کی وجہ سے بھی دوسرے دن نماز عید قضاء ہی ہوتی ہے ۴۴۳
- ۳۶۹۰ نماز عید دوسرے دن قضاء ہوتی ہے ادا نہیں ۴۴۴
- ۳۶۹۱ عید کی نماز کے بعد قبرستان جانا کیسا ہے؟ ۴۴۵
- ۳۶۹۲ عید کی نماز کے وقت جنازہ آجائے تو پہلے کون سی نماز پڑھیں؟ ۴۴۶
- ۳۶۹۳ عید کے موقع پر گھروں سے چندہ کر کے گلیوں کو کاغذات اور لائٹ سے مزین کرنا ... ۴۴۷
- ۳۶۹۴ ۱۴۰۸ھ کو دس ذی الحجہ کس دن تھی؟ ۴۴۸

- ۳۶۹۵ عید گاہ کو مزین کرنا اور راستوں میں جھنڈے لگانا ۴۴۹
- ۳۶۹۶ عید گاہ ایک راستہ سے جانا اور دوسرے سے آنا ۴۵۰

□	۲ / فصل في صلاة العیدین	□
---	--------------------------------	---

- ۳۶۹۷ عیدین کی نماز کا مسنون طریقہ ۴۵۱
- ۳۶۹۸ نماز عید میں تکبیرات زوائد چھ ہیں یا بارہ؟ ۴۵۲
- ۳۶۹۹ عید کی نماز میں تکبیرات زوائد بھول جائے تو؟ ۴۵۶
- ۳۷۰۰ عید کی نماز کی پہلی رکعت کی تکبیرات زوائد بھول جائے تو؟ ۴۵۷
- ۳۷۰۱ عیدین میں خطبوں کی مسنون مقدار اور تعداد ۴۵۹
- ۳۷۰۲ کیا نماز عیدین کے خطبہ میں تکبیرات تشریق والا خطبہ ضروری ہے؟ ۴۶۰
- ۳۷۰۳ عیدین کے خطبہ میں تکبیر تشریق کی تعداد اور طریقہ ۴۶۲
- ۳۷۰۴ اردو میں عیدین کا خطبہ مکروہ ۴۶۴
- ۳۷۰۵ عیدین کی نماز کے بعد خطبہ سے قبل اردو زبان میں بیان کرنا ۴۶۵
- ۳۷۰۶ عیدین کے خطبوں کے درمیان تقریر کرنا ۴۶۶
- ۳۷۰۷ عیدین کے خطبہ میں امام کے سر پر چھتری پکڑنے کا حکم ۴۶۷

□	۳ / فصل في صلاة العید في المسجد	□
---	--	---

- ۳۷۰۸ مسنون عید گاہ ۴۶۸
- ۳۷۰۹ نماز عید کون سی عید گاہ میں ادا کی جائے؟ ۴۶۹
- ۳۷۱۰ عید کی نماز مساجد میں ادا کی جائے یا عید گاہ میں؟ ۴۷۱

- ۳۷۱۱ بلاعذر عید گاہ چھوڑ کر مسجد میں نماز عید ۴۷۳
- ۳۷۱۲ عید گاہ میں نہ جا کر مسجد میں بلاعذر نماز عید ادا کرنا ۴۷۴
- ۳۷۱۳ شہر کی جامع مسجد میں عیدین کی نماز ادا کرنا ۴۷۵
- ۳۷۱۴ عیدین کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے عید گاہ کا ثواب ۴۷۷
- ۳۷۱۵ فتنہ سے بچنے کے لئے کچھ لوگوں کا محلہ کی مسجد میں نماز عید ادا کرنا ۴۷۹
- ۳۷۱۶ مساجد میں عید کی نماز پڑھنا ۴۸۲
- ۳۷۱۷ عید گاہ سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا ۴۸۳
- ۳۷۱۸ عید گاہ سے پہلے مساجد میں نماز عید ۴۸۴
- ۳۷۱۹ قبلہ رخ قبریں ہو تو عید گاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ۴۸۵
- ۳۷۲۰ جو لوگ عید کی نماز میں پیچھے رہ گئے وہ کیا کریں؟ ۴۸۶
- ۳۷۲۱ ہر جگہ نماز عید ہونے کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں ان کا الگ سے نماز عید پڑھنا ۴۸۷
- ۳۷۲۲ ایک عید گاہ میں دو بار عید کی نماز پڑھنا ۴۸۸
- ۳۷۲۳ ایک ہی عید گاہ میں دوسری جماعت قائم کرنا ۴۸۹
- ۳۷۲۴ بارش کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نماز عید ادا کرنا ۴۹۰
- ۳۷۲۵ عذر کی وجہ سے ایک مسجد میں دو مرتبہ نماز عید ادا کرنا ۴۹۱
- ۳۷۲۶ جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں عید کی نماز کا حکم ۴۹۲
- ۳۷۲۷ جہاں جمعہ جائز نہیں وہاں مفتی کا نماز عید پڑھنا ۴۹۳
- ۳۷۲۸ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں اشراق کا حکم ۴۹۵



- ۳۷۲۹ ایام تشریق میں تکبیر تشریق کا وجوب ۴۹۶
- ۳۷۳۰ عید کی نماز کے بعد تکبیر تشریق ہے یا نہیں؟ ۴۹۷
- ۳۷۳۱ عیدین کی نماز میں تکبیر تشریق مشروع ہے یا نہیں؟ ۴۹۸
- ۳۷۳۲ تین مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا کیسا ہے؟ ۴۹۹
- ۳۷۳۳ تکبیرات تشریق تین مرتبہ پڑھنا افضل ہے یا ایک مرتبہ؟ ۵۰۱
- ۳۷۳۴ تکبیر تشریق کن لوگوں پر واجب ہے ۵۰۲
- ۳۷۳۵ تکبیرات تشریق سے متعلق چند سوالات و جوابات ۵۰۴
- ۳۷۳۵ ایک مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کے بعد دیگر مخلوں میں قربانی کا کیا حکم ہے... ۵۰۵
- ۳۷۳۵ سات شرکاء میں سے ایک نے پہلے نماز پڑھ کر قربانی کر دی دیگر شرکاء نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے ۵۰۸

□	۵ / فصل في من يجب عليه صلاة العيد	□
---	-----------------------------------	---

- ۳۷۳۶ کیا عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے؟ ۵۱۰
- ۳۷۳۷ کیا عورتوں پر نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ واجب ہے؟ ۵۱۱
- ۳۷۳۸ عورتوں کا عیدین کی نماز پڑھنا ۵۱۲
- ۳۷۳۹ عورتوں کا تنہا عیدین کی نماز باجماعت ادا کرنا ۵۱۳
- ۳۷۴۰ عورتیں عیدین کے دن کون سی نماز پڑھیں؟ ۵۱۴
- ۳۷۴۱ عورتوں کا گھروں میں عید کی نماز باجماعت سے پڑھنا ۵۱۵

□	۶ / فصل في الدعاء، والمصافحة	□
---	------------------------------	---

۵۱۸	۳۷۴۲	عمیدین کے بعد دعائے کب مانگی جائے؟
۵۲۰	۳۷۴۳	کیا عید کی نماز کے بعد دعاء کرنا حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے؟
۵۲۱	۳۷۴۴	عمیدین کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا
۵۲۲	۳۷۴۵	نماز عید اور خطبہ دونوں کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟
۵۲۳	۳۷۴۶	عمیدین کے خطبہ کے بعد دعاء کرنا کیسا ہے؟
۵۲۴	۳۷۴۷	نماز عید کے بعد دعا
۵۲۵	۳۷۴۸	عمید کی نماز کے بعد دعاء
۵۲۷	۳۷۴۹	دعا عید کی نماز کے بعد ہو یا خطبہ کے بعد؟
۵۲۸	۳۷۵۰	نماز عید کے بعد دعا کے سلسلے میں اکابر دیوبند کا معمول
۵۲۹	۳۷۵۱	عمیدین کی نماز میں دعائے کب کی جائے خطبہ سے پہلے یا بعد میں؟
۵۳۱	۳۷۵۲	نماز عیدین کے بعد مصافحہ سے متعلق جامع فتویٰ
۵۳۹	۳۷۵۳	عید کی مبارک باد پیش کرنا
۵۴۰	۳۷۵۴	عید کے دن معانقہ کی شرعی حیثیت
۵۴۲	۳۷۵۵	عام نماز و عیدین کے بعد مصافحہ کی حیثیت
۵۴۵	۳۷۵۶	عید کے دن معانقہ کا التزام
۵۴۶	۳۷۵۷	نماز عیدین کے بعد مصافحہ کا جواز

۱۰ / کتاب الجنائز

□	۱ / باب الجنائز و متعلقاتها	□
---	-----------------------------	---

- ۳۷۵۸ انتقال کے وقت کے مسنون اعمال ۵۴۸
- ۳۷۵۹ جاں کنی کے وقت کس طرح لٹایا جائے ۵۵۰
- ۳۷۶۰ میت سے مکھی اڑانے کے لئے نیم کی ٹہنی استعمال کرنا ۵۵۱
- ۳۷۶۱ میت کا نماز جنازہ سے قبل چہرہ دیکھنا ۵۵۲
- ۳۷۶۲ کفن پہنانے کے بعد جنازہ سے قبل چہرہ دکھانا ۵۵۳
- ۳۷۶۳ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا ۵۵۴
- ۳۷۶۴ کن لوگوں کے لئے نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ ۵۵۶
- ۳۷۶۵ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنے کا اعلان کرنا ۵۵۷
- ۳۷۶۶ صفوں کی درستگی کے بعد میت کا چہرہ دکھانا اور عورتوں کا اکٹھا ہونا ۵۵۹
- ۳۷۶۷ قبر میں اتارنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا ۵۶۰
- ۳۷۶۸ میت کا چہرہ دیکھنا ۵۶۱
- ۳۷۶۹ مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں ۵۶۳
- ۳۷۷۰ کیا شوہر اپنی متوفی بیوی کے قریب جاسکتا ہے؟ ۵۶۴
- ۳۷۷۱ شوہر کا اپنی متوفی بیوی کا چہرہ دیکھنا ۵۶۵
- ۳۷۷۲ شوہر کا بیوی کی وفات کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا ۵۶۵
- ۳۷۷۳ کیا ناپاک عورت بھی اپنے متوفی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ ۵۶۶
- ۳۷۷۴ والد صاحب کا بیٹے کو اپنے جنازہ میں شرکت سے روکنا ۵۶۷

□	۱۲ / باب غسل الميت	□
---	--------------------	---

- ۳۷۷۵ انسانی اعضاء کے ٹکڑوں کو جمع کر کے غسل دینا ۵۶۹

- ۳۷۷۶ آپریشن کی وجہ سے میت پر ٹیپ لگے ہونے کی حالت میں غسل کا حکم ۵۷۰
- ۳۷۷۷ کیا جلے ہوئے شخص کو غسل دینا لازم ہے؟ ۵۷۱
- ۳۷۷۸ شوہر کا بیوی کو انتقال کے بعد چھونا اور غسل دینا ۵۷۱
- ۳۷۷۹ کیا میت کو شروع سے آخر تک دستا نہ پہن کر غسل دینا چاہئے؟ ۵۷۲
- ۳۷۸۰ بوقت غسل میت کا پیر کس جانب ہو؟ ۵۷۳
- ۳۷۸۱ میت کو غسل دینے کے بعد لٹانے کا طریقہ ۵۷۴
- ۳۷۸۲ میت کو کافور لگانے کا ثبوت ۵۷۵
- ۳۷۸۳ میت کے بدن پر صابن لگانا ۵۷۶
- ۳۷۸۴ کیا میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا ضروری ہے؟ ۵۷۸
- ۳۷۸۵ میت کے غسل کا کیا کریں؟ ۵۷۹
- ۳۷۸۶ حضرت فاطمہؑ کے غسل کا واقعہ ۵۸۰

□	۳ / باب تکفین المیت	□
---	----------------------------	---

- ۳۷۸۷ آب زمزم سے کفن کا کپڑا تر کرنا ۵۸۳
- ۳۷۸۸ آب زمزم سے کفن دھونا ۵۸۴
- ۳۷۸۹ غلاف کعبہ کا ٹکڑا کفن میں دینا ۵۸۵
- ۳۷۹۰ جس کپڑے میں انتقال ہوا ہے اس کو نکالنا ۵۸۷
- ۳۷۹۱ کفن کس کپڑے کا ہو؟ ۵۸۷
- ۳۷۹۲ مرد میت کے لیے کتنے کپڑے مسنون ہیں؟ ۵۸۸
- ۳۷۹۳ عورت اور مرد کے کفن مسنون کے کپڑوں کی تعداد ۵۸۹

۵۹۰	مرد عورت کے کفن میں مسنون کپڑوں کی مقدار	۳۷۹۴
۵۹۱	کفن میں آیات یادِ عالکھ کر قبر میں دفن کرنا	۳۷۹۵
۵۹۳	جنازہ کے اوپر کلمہ طیبہ لکھی چادر ڈالنا	۳۷۹۶
۵۹۴	جنازہ پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا	۳۷۹۷
۵۹۵	آیات قرآنیہ لکھی ہوئی چادر میت پر ڈالنا	۳۷۹۸
۵۹۶	عورت کے کفن پر لال چادر ڈالنا	۳۷۹۹
۵۹۶	تجہیز و تکفین کے بعد میت کی پیشانی پر تسمیہ لکھنا	۳۸۰۰
۵۹۷	میت کی پیشانی پر بسم اللہ لکھنا	۳۸۰۱
۵۹۸	کیا بیوی کی تجہیز و تکفین و تدفین کی ذمہ داری شوہر پر ہے	۳۸۰۲

□	۴ / باب فضل صلوٰۃ الجنازۃ وغیرہا	□
---	----------------------------------	---

۶۰۱	نماز جنازہ کی ابتداء کب ہوئی؟	۳۸۰۳
۶۰۲	جنازہ نبی ﷺ تجہیز و تکفین کی کیفیت اور آپ کی نماز جنازہ	۳۸۰۴
۶۰۴	حضرت فاطمہؓ کو غسل کس نے دیا، نماز کس نے پڑھائی؟	۳۸۰۵
۶۰۵	ہجرت سے قبل فوت ہونے والوں کی اور حضرت خدیجہؓ کی نماز جنازہ	۳۸۰۶
۶۰۷	نابالغ بچوں کے فوت ہو جانے پر ماں باپ کے صبر کی فضیلت	۳۸۰۷
۶۰۸	پیر کے دن مرنے کی کیا فضیلت ہے؟	۳۸۰۸
۶۱۰	جنازہ کو چالیس قدم تک کندھا دینے کی فضیلت	۳۸۰۹
۶۱۱	جنازہ کو کندھا دینے کی فضیلت	۳۸۱۰
۶۱۱	نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑا ہونا کیوں افضل ہے؟	۳۸۱۱
۶۱۲	نماز جنازہ پڑھنے کے فضائل	۳۸۱۲

۶۱۳ جنازہ کے ساتھ پیدل جانے کے فضائل	۳۸۱۳
۶۱۴ زندگی میں کفن و دفن کا انتظام کرنا	۳۸۱۴
۶۱۵ مشترک جنازوں کا الگ الگ ثواب	۳۸۱۵
۶۱۷ نماز جنازہ کی صفوف میں طاق عدد کا حکم	۳۸۱۶
۶۱۸ میت کے استعمالی کپڑے غیر مسلم کو خیرات میں دینا	۳۸۱۷

<input type="checkbox"/>	۱۵ باب تعجیل الصلاة الجنازة وتأخیرها	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---	--------------------------

۶۱۹ نماز عید کے وقت جنازہ آجائے تو کیا کریں؟	۳۸۱۸
۶۲۰ فرض نمازوں کے بعد سنن پڑھنا افضل ہے یا نماز جنازہ؟	۳۸۱۹
۶۲۱ نماز جنازہ سنن و نوافل سے قبل پڑھی جائے یا بعد میں؟	۳۸۲۰
۶۲۳ پہلے نمازہ جنازہ ادا کی جائے یا نماز تراویح؟	۳۸۲۱
۶۲۴ بوقت زوال آفتاب نماز جنازہ	۳۸۲۲
۶۲۵ اوقات مکروہہ میں نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۲۳
۶۲۷ عین زوال اور قبر پر نماز جنازہ کا حکم	۳۸۲۴
۶۲۹ رشتہ داروں کے انتظار میں تجہیز و تکفین میں تاخیر کرنا	۳۸۲۵
۶۳۱ رشتہ دار کے لئے میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر	۳۸۲۶
۶۳۲ لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا	۳۸۲۷
۶۳۳ میت کی منتقلی سے متعلق ایک تحقیقی فتویٰ	۳۸۲۸

<input type="checkbox"/>	۱۶ باب الصلاة الجنازة في المسجد	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--	--------------------------

۶۳۴ مسجد حرام کے اندر جنازہ رکھ کر نماز پڑھنا	۳۸۲۹
-----	---	------

۶۲۵	مسجد میں نماز جنازہ	۳۸۳۰
۶۲۶	کیا مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے؟	۳۸۳۱
۶۲۷	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۳۲
۶۲۸	مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے سے ادا ہوگی یا نہیں؟	۳۸۳۳
۶۵۰	احاطہ مسجد میں جنازہ کی چار پائی رکھنے کی شرعی حیثیت	۳۸۳۴
۶۵۱	مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھنا	۳۸۳۵
۶۵۲	مسجد کے حصہ میں نماز جنازہ	۳۸۳۶
۶۵۳	خارج مسجد صحن میں نماز جنازہ ادا کرنا	۳۸۳۷
۶۵۴	مسجد میں ہونے والی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کا حکم	۳۸۳۸
۶۵۵	مسجد کی توسیع کے وقت جنازہ گاہ کو مسجد کے اندر داخل کرنا	۳۸۳۹
۶۵۸	امام اور کچھ مقتدی مسجد سے باہر اور ما بقیہ مسجد میں، تو کیا حکم ہے؟	۳۸۴۰
۶۵۸	اعتراض بر جواب مذکور	۳۸۴۱
۶۶۴	نماز جنازہ میں کچھ مقتدیوں کا اندرون مسجد کھڑا ہونا	۳۸۴۲
۶۶۵	مسجد میں نماز جنازہ جبکہ امام اور کچھ مقتدی خارج مسجد ہوں	۳۸۴۳
۶۶۷	جنازہ مسجد سے باہر ہو اور امام و مقتدی سب اندر ہوں تو کیا حکم ہے؟	۳۸۴۴
۶۶۸	نماز جنازہ میں امام کے ساتھ کچھ مقتدی مسجد سے باہر اور کچھ اندر ہوں	۳۸۴۵
۶۶۹	عید گاہ میں نماز جنازہ	۳۸۴۶
۶۷۰	عید گاہ میں نماز جنازہ اور چپل پہن کر چلنے کا حکم	۳۸۴۷
۶۷۱	قبرستان میں نماز جنازہ	۳۸۴۸
۶۷۲	قبرستان کی خالی جگہ میں نماز جنازہ	۳۸۴۹

۶۷۳	قبرستان کی خالی جگہ پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم	۳۸۵۰
۶۷۴	قبرستان میں دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۵۱
۶۷۵	عید گاہ یا صحن مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۵۲
۶۷۶	جو تے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۵۳
۶۷۸	سرٹک پر نماز جنازہ	۳۸۵۴
۶۷۹	سرٹکوں پر نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۵۵

□	۷/ باب من يستحق بالصلاة على الميت	□
---	-----------------------------------	---

۶۸۱	نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟	۳۸۵۶
۶۸۲	اولاً نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون؟	۳۸۵۷
۶۸۳	باشرع حافظ قرآن ولی کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہوگا؟	۳۸۵۸
۶۸۴	نماز جنازہ ولی سے اجازت لے کر پڑھائی جائے	۳۸۵۹
۶۸۵	ولی کی طرف سے اجازت شدہ شخص کے علاوہ دوسرے کا نماز جنازہ پڑھانا	۳۸۶۰
۶۸۷	ولی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے یا محلہ کی مسجد کا امام؟	۳۸۶۱
۶۸۸	نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے امام جامع مسجد یا امام جی؟	۳۸۶۲
۶۹۱	عورت کی نماز جنازہ کے لئے امام کس سے اجازت لے گا؟	۳۸۶۳
۶۹۲	بیوی کی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار شوہر یا والد؟	۳۸۶۴
۶۹۳	دیوبندی امام کے پیچھے بریلوی کی نماز جنازہ	۳۸۶۵
۶۹۵	شیعہ اور حنفیہ مل کر نماز جنازہ ادا کریں تو کیا حکم ہے؟	۳۸۶۶

□	۸/ باب من يصلي عليه ومن لا يصلي عليه	□
---	--------------------------------------	---

۲۹۶	فاسق شخص کی نماز جنازہ کا حکم	۳۸۶۷
۲۹۷	بے نمازی کی نماز جنازہ کا حکم	۳۸۶۸
۲۹۸	مردہ بچے کی نماز جنازہ سے متعلق تحقیقی فتویٰ	۳۸۶۹
۷۰۷	شکم مادر سے مردہ پیدا ہونے والے بچہ پر نماز جنازہ نہیں	۳۸۷۰
۷۰۸	مراہوا بچہ پیدا ہو تو کیا اس کا نام رکھا جائے گا؟	۳۸۷۱
۷۰۹	بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جائے تو کیا حکم ہے؟	۳۸۷۲
۷۰۹	بچہ مردہ پیدا ہو تو نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟	۳۸۷۳
۷۱۰	ڈکیت اور چور کی نماز جنازہ	۳۸۷۴
۷۱۱	ڈاکو کی نماز جنازہ اور غسل کا حکم	۳۸۷۵
۷۱۲	ڈاکہ زنی اور چوری کے دوران مقتول شخص کی نماز جنازہ	۳۸۷۶
۷۱۳	ڈاکو کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟	۳۸۷۷
۷۱۶	کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟	۳۸۷۸
۷۱۷	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۷۹
۷۱۸	خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم	۳۸۸۰
۷۱۹	سیلاب میں بہہ کر آئی عورت کی نماز جنازہ کا حکم	۳۸۸۱
۷۲۰	غیر مسلم کے نومولود بچے کی تجہیز و تکفین	۳۸۸۲
۷۲۲	غیر مسلم کی اسلامی طریقہ پر تدفین کرنا	۳۸۸۳
۷۲۳	مرد کے نابالغ بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم	۳۸۸۴
		مسلم لڑکی جس نے ہندو سے شادی کی اور غیر مسلم لڑکی جو مسلمان کے	۳۸۸۵
۷۲۵	پاس ہے ان کے کفن و دفن کا حکم	
۷۲۷	مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم	۳۸۸۶

۳۸۸۷ کفریہ عقائد رکھنے والوں کی نماز جنازہ کا حکم ۷۲۸

□	۹ / باب حمل الجنازة	□
---	---------------------	---

۳۸۸۸ جنازہ گھر سے نکالنے سے قبل میت کے لئے دعاء مغفرت کرنا ۷۳۱

۳۸۸۹ جنازہ لے جاتے وقت کیا پڑھیں؟ ۷۳۲

۳۸۹۰ قبرستان دور ہونے کی وجہ سے جنازہ کو راستہ میں رکھنا پھر لے جانا ۷۳۳

۳۸۹۱ اپنی متوفیہ عورت کو شوہر کا کندھا دینا ۷۳۴

۳۸۹۲ کافر کا مسلم اور مسلم کا کافر کے جنازہ میں شرکت کرنا ۷۳۵

۳۸۹۳ جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا ۷۳۶





فہرست مضامین

۱۰/بقیۃ کتاب الجنائز

صفحہ نمبر	۶/باب صلاة الجنائز	مسئلہ نمبر:
۳۴ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ	۳۸۹۴
۳۶ نماز جنازہ کی نیت کس طرح کی جائے	۳۸۹۵
۳۸ نماز جنازہ کا طریقہ	۳۸۹۶
۳۹ کیا جنازہ میں مقتدی کے لئے دعاء پڑھنا لازم ہے؟	۳۸۹۷
۴۰ متعدد میتوں پر ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھنا	۳۸۹۸
۴۲ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا	۳۸۹۹
۴۳ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم	۳۹۰۰
۴۵ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بنیت قرآۃ حنفیہ کے یہاں کیوں ممنوع ہے؟	۳۹۰۱
۴۷ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ	۳۹۰۲
۴۸ نماز جنازہ میں ہر تکبیر پر ہاتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟	۳۹۰۳
۵۰ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ	۳۹۰۴
۵۰ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا	۳۹۰۵

- ۳۹۰۶ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے کا مسئلہ اور بارش میں
جوتے پہن کر نماز پڑھنا.....
- ۳۹۰۷ نماز جنازہ میں امام صاحب دعا بھول جائیں تو؟.....
- ۳۹۰۸ الف نابالغ بچے یا بچی کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جائے؟
- ۳۹۰۸ ب نابالغ لڑکے اور لڑکی کی نماز جنازہ کی دعائیں کونسی ضمیر پڑھیں
- ۳۹۰۹ جس بچے کے زندہ یا مردہ نیز مذکورہ مؤنث ہونے کا پتہ نہ چلے
تو اس کی نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جائے.....
- ۳۹۱۰ نماز جنازہ میں تین تکبیر پر سلام پھیر دینا.....
- ۳۹۱۱ نماز جنازہ میں تین یا پانچ تکبیر کہنے کا حکم.....
- ۳۹۱۲ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کہنا.....
- ۳۹۱۳ جس شخص سے نماز جنازہ میں کئی تکبیریں چھوٹ جائیں تو وہ
کس طرح پڑھے؟.....
- ۳۹۱۴ نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کرنے کا حکم.....
- ۳۹۱۵ الف عورت و مرد کے جنازے ایک ساتھ آجائیں تو چار پائیوں
کی ترتیب کی ترتیب.....
- ۳۹۱۵ ب متعدد نابالغ بچوں کی نماز جنازہ میں کونسی دعا پڑھیں؟.....
- ۳۹۱۶ بڑوں کے ساتھ نابالغ بچوں کے جنازہ رکھنے کی ترتیب.....
- ۳۹۱۷ نماز جنازہ کی صفوں میں جگہ چھوڑنا.....
- ۳۹۱۸ نماز جنازہ کی صفوں میں کتنا فصل ہو؟.....
- ۳۹۱۹ مسلمان اور کافر کی لاش مخلوط ہو جائیں تو نماز جنازہ کا طریقہ
- ۳۹۲۰ غائبانہ نماز جنازہ کا حکم.....

۷۰ غائبانہ نماز جنازہ	۳۹۲۱
۷۱ ولی کی اجازت سے پڑھائی گئی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا	۳۹۲۲
۷۳ ولی کی اجازت یا عدم اجازت سے پڑھی گئی نماز جنازہ کا تکرار	۳۹۲۳
۷۴ نماز جنازہ میں قہقہہ مار کر ہنسنا	۳۹۲۴
۷۴ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۳۹۲۵
۷۵ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۳۹۲۶

۱۱ / باب القبور

۷۷ ایک ہی قبر میں چند مردوں کو دفن کرنا	۳۹۲۷
۷۸ صندوق یا بکس میں دفن کرنا	۳۹۲۸
۷۹ مسجد یا مدرسہ کے ذمہ دار کا احاطہ مسجد یا مدرسہ میں دفن ہونا کیسا ہے؟	۳۹۲۹
۸۰ میت کو قبر میں رکھنے والوں کا جوتے چل پہنے رکھنا	۳۹۳۰
۸۱ دوران تدفین قبرستان میں جوتا چل پہن کر چلنا	۳۹۳۱
۸۲ قبر کس کیفیت کی ہونی چاہئے؟	۳۹۳۲
۸۳ قبر کی گہرائی کتنی ہو؟	۳۹۳۳
۸۳ قبر میں اوپر کے حصے کی گہرائی کتنی ہو؟	۳۹۳۴
۸۶ قبر کے اندرونی حصے کی مٹی سے لپائی کرنا	۳۹۳۵
۸۷ ڈھائی ہوئی قبر کو ہموار کرنا	۳۹۳۶
۸۸ قبر میں ملنے والی ہڈیوں کا کیا کریں	۳۹۳۷
۸۸ مصنوعی دانتوں کو قبر میں رکھنا	۳۹۳۸
۸۹ دفن کرنے کے بعد ایک قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا	۳۹۳۹

- ۳۹۴۰ شک کی بنیاد پر دفن کے بعد میت کو قبر سے نکالنا..... ۹۰
- ۳۹۴۱ الف معائنہ کی غرض سے دفن شدہ نعش کو نکالنا..... ۹۱
- ۳۹۴۱ ب چوبیس گھنٹہ پہلے اپنی قبر تیار کر کے رکھنا..... ۹۳
- ۳۹۴۱ ج زندگی میں اپنی قبر تیار کر کے اس میں دفن کی وصیت کرنا..... ۹۴

۱۲ / باب التدفین

- ۳۹۴۲ میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟..... ۹۶
- ۳۹۴۳ میت کو قبر میں دائیں کروٹ قبلہ رخ لٹانا..... ۹۷
- ۳۹۴۴ قبر پر تختہ کس طرح سے بچھانا بہتر ہے؟..... ۹۸
- ۳۹۴۵ تدفین کی دعاء منہا خلقنکم کا ثبوت..... ۹۹
- ۳۹۴۶ قبر میں مٹی بیٹھ کر ڈالیں یا کھڑے ہو کر..... ۱۰۰
- ۳۹۴۷ قبر میں مٹی ڈالنے کا صحیح طریقہ..... ۱۰۰
- ۳۹۴۸ دفن کے کئی دن بعد آنے والے کا قبر پر مٹی ڈالنا..... ۱۰۱
- ۳۹۴۹ تختہ وغیرہ کے بغیر میت پر مٹی ڈالنا..... ۱۰۲
- ۳۹۵۰ قبر میں رکھنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا..... ۱۰۳
- ۳۹۵۱ عورت کو دفن کرتے وقت پردہ کرنا..... ۱۰۴
- ۳۹۵۲ پاٹن کس طرح سے بچھائے جائیں..... ۱۰۵
- ۳۹۵۳ میت کو پوسٹ مارٹم کے لئے قبر سے نکالنا..... ۱۰۶
- ۳۹۵۴ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت..... ۱۰۷
- ۳۹۵۵ میت کا پوسٹ مارٹم کرنا..... ۱۰۸
- ۳۹۵۶ ایکسیڈنٹ میں ملنے والے معاوضہ کا حکم..... ۱۰۹
- ۳۹۵۷ ایکسیڈنٹ یا حادثہ میں مرنے والوں کا معاوضہ..... ۱۱۰

۱۱۱ سونا نلگنے والے کا پیٹ چاک کرنا	۳۹۵۸
	۱۳ / باب الدعاء بعد الدفن و غیرہ	□
۱۱۳	دفن میں مدد کرنے والوں سے میت کی طرف سے معافی مانگنا	۳۹۵۹
۱۱۴	تدفین کے بعد پسماندگان سے مصافحہ و معانقہ کرنا	۳۹۶۰
۱۱۶	میت کو دفنانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا	۳۹۶۱
۱۱۷	دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۳۹۶۲
۱۱۸	دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا حکم	۳۹۶۳
۱۱۹	قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا	۳۹۶۴
۱۲۲	دفن کرنے کے بعد اجتماعی طور پر جہری دعا کرنا	۳۹۶۵
۱۲۳	دفن کے بعد کے اعمال	۳۹۶۶
۱۲۶	بعد دفن اجتماعی طور پر دعا کرنا	۳۹۶۷
۱۲۷	دفنانے کے بعد قبر کی طرف متوجہ ہو کر سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا	۳۹۶۸
۱۲۹	دفن کے بعد فاتحہ خوانی کرنا	۳۹۶۹
۱۳۰	قبر پر سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ	۳۹۷۰
۱۳۱	بعد دفن جنازہ میں شریک ہونے والوں کیلئے کھانے کا اہتمام	۳۹۷۱
۱۳۲	تدفین کے بعد کھانا کھانے کے لئے اعلان کرنا	۳۹۷۲
	۱۴ / باب إلقاء الأشجار و العطور	□
۱۳۴	قبر میں بیری کی شاخ رکھنا	۳۹۷۳
۱۳۵	دفناتے وقت تختوں پر بیری کی ٹہنی ڈالنا	۳۹۷۴
۱۳۵	قبر کی نشاندہی کے لئے قبر پر پودا لگانا	۳۹۷۵

۱۳۷	قبر پر شاخ گاڑنا.....	۳۹۷۶
۱۴۰	قبر پر شاخ گاڑنا.....	۳۹۷۷
۱۴۲	قبر پر پھول یا ہری پتی گھاس وغیرہ ڈالنا.....	۳۹۷۸
۱۴۳	قبر پر کتنی شاخیں گاڑیں.....	۳۹۷۹
۱۴۴	قبر پر درخت لگانا.....	۳۹۸۰
۱۴۵	کیا علمائے دیوبند قبروں پر شاخ گاڑنے کو منع کرتے ہیں؟	۳۹۸۱
۱۴۶	بعد دفن قبر پر اگر بتی جلانا گلاب کا پھول چھڑکنا.....	۳۹۸۲

۱۵ / باب البناء علی القبور

۱۴۸	کن لوگوں کی قبروں پر کتبہ لگانے کی گنجائش ہے؟	۳۹۸۳
۱۴۹	قبر پر کتبہ لگانا کیسا ہے؟	۳۹۸۴
۱۵۰	قبروں پر نام و تاریخ و وفات کا کتبہ لگانا.....	۳۹۸۵
۱۵۱	قبر کی چاروں جانب پختہ عمارت تعمیر کرنا.....	۳۹۸۶
۱۵۲	قبر پر عمارت بنانا.....	۳۹۸۷
۱۵۳	قبروں پر کتبہ وغیرہ لگانا.....	۳۹۸۸

۱۶ / باب التعزیه و الحداد (سوگ منانا)

۱۵۴	موت ہو جانے کی وجہ سے کھانا نہ پکانا.....	۳۹۸۹
۱۵۵	کیا تین دن تک سوگ منانا ضروری ہے؟	۳۹۹۰
	میت کے اہل خانہ کا تین دن تک کھانا نہ پکانا اور دوسروں	۳۹۹۱
۱۵۶	کا کھانا بھیجنا.....	
۱۵۸	نوحہ کرنا حرام ہے.....	۳۹۹۲

۱۵۸	تعزیتی جلسہ	۳۹۹۳
۱۶۰	تعزیتی جلسہ کرنا	۳۹۹۴
۱۶۴	تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟	۳۹۹۵

۱۷ / باب زیارة القبور



۱۶۶	مزار کی شرعی حیثیت	۳۹۹۶
		کن کن لوگوں کی قبروں کی زیارت کے لئے مسافت سفر	۳۹۹۷
۱۶۹	طے کرنا جائز ہے؟	
۱۷۱	زیارت قبور اور ایصال ثواب کا مستحب طریقہ	۳۹۹۸
۱۷۲	کیا اہل قبور سلام سن کر اس کا جواب دیتے ہیں؟	۳۹۹۹
۱۷۳	راستہ گزرتے ہوئے مزارات کو سلام کرنا	۴۰۰۰
۱۷۶	قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا	۴۰۰۱
۱۷۷	قبر بوسی کا مسئلہ	۴۰۰۲
۱۷۸	روزانہ فجر کے بعد زیارت قبور کے لئے جانا	۴۰۰۳
۱۷۹	زیارت قبور کے لئے عورت کا قبرستان جانا	۴۰۰۴
۱۸۰	عورتوں کا مزارات پر جانا اور چادر چڑھانا	۴۰۰۵
۱۸۱	عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت کا حکم	۴۰۰۶
۱۸۳	عورتوں کے لئے زیارت قبور	۴۰۰۷
۱۸۴	عورتوں کا اولیاء کی قبروں پر جانا	۴۰۰۸
۱۸۵	قبروں پر چادر چڑھانا	۴۰۰۹
۱۸۶	حاجت روائی کی خاطر چراغاں کرنا	۴۰۱۰

۱۸ / باب ایصال الثواب للمیت

- ۲۰۱۱ کیا مؤمن اپنی قبر میں ثواب کا محتاج ہے؟ ۱۸۸
- ۲۰۱۲ ایصال ثواب زندہ مردوں دونوں کو کیا جاسکتا ہے؟ ۱۸۹
- ۲۰۱۳ ایصال ثواب سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا راحت میں
۱۸۹ اضافہ ہوتا ہے!
- ۲۰۱۴ مرنے کے بعد بعض جائز و ناجائز اعمال ۱۹۱
- ۲۰۱۵ کیا میت کو ثواب پہنچتا ہے؟ ۱۹۲
- ۲۰۱۶ کیا ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے؟ ۱۹۳
- ۲۰۱۷ قرآن خوانی، میلاد، خیرات اور نوافل کے ثواب کی مقدار ۱۹۴
- ۲۰۱۸ کیا مردہ ایصال ثواب کرنے والے کو پہنچاتا ہے؟ ۱۹۵
- ۲۰۱۹ ایصال و ثواب کا بہتر طریقہ ۱۹۷
- ۲۰۲۰ غریبوں کو کھانا کھلائیں یا مسجد و مدرسہ کی تعمیر کرائیں ۱۹۸
- ۲۰۲۱ مالی صدقات کا ثواب مرحومین کو پہنچانا کس حدیث
۱۹۹ سے ثابت ہے؟
- ۲۰۲۲ کیا عبادات بدنیہ کا ثواب پہنچانا بھی حدیث سے ثابت ہے؟ ۲۰۰
- ۲۰۲۳ کیا قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا ۲۰۱
- ۲۰۲۴ قرآن پڑھ کر متعدد اموات کو ثواب پہنچانا ۲۰۳
- ۲۰۲۵ نابالغ بچہ کا ایصال ثواب کرنا ۲۰۵
- ۲۰۲۶ نابالغ کو ایصال ثواب اور دودھ بخشنا ۲۰۵
- ۲۰۲۷ قبر کے پاس قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا ۲۰۶

- ۲۰۲۸ قبر پر بیٹھ کر قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ ۲۰۷
- ۲۰۲۹ قبر پر قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ ۲۰۹
- ۲۰۳۰ ایصالِ ثواب کے لئے تیجہ اور سوالات کلمہ طیبہ پڑھنا۔ ۲۱۰
- ۲۰۳۱ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنا۔ ۲۱۱
- ۲۰۳۲ نماز، روزہ اور مالی صدقہ کا ثواب مرحومین کو بخشنا۔ ۲۱۲
- ۲۰۳۳ تراویح میں پڑھے گئے قرآن شریف کا ثواب بخشنا۔ ۲۱۳
- ۲۰۳۴ چنے پڑھوا کر ایصالِ ثواب۔ ۲۱۳
- ۲۰۳۵ درود شریف پڑھ کر ایصالِ ثواب۔ ۲۱۵
- ۲۰۳۶ ایصالِ ثواب کی نیت سے مسجد میں صفیں خرید کر دینا۔ ۲۱۵
- ۲۰۳۷ بلا وضو کئے ایصالِ ثواب کرنا۔ ۲۱۶
- ۲۰۳۸ نماز جنازہ کے بعد ایصالِ ثواب کے لئے اعلان کرنا۔ ۲۱۷
- ۲۰۳۹ کسی دوسرے مقام پر ایصالِ ثواب اور کھانا۔ ۲۱۸
- ۲۰۴۰ ایصالِ ثواب کے لئے دن کی تعیین کرنا۔ ۲۱۹
- ۲۰۴۱ مروجہ اجتماعی قرآن خوانی سے متعلق چند سوالات۔ ۲۲۰
- ۲۰۴۲ قرآن خوانی کے لئے اعلان اور لوگوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ ۲۲۳
- ۲۰۴۳ قرآن خوانی کے لئے اعلان کر کے بلانا۔ ۲۲۶
- ۲۰۴۴ ایصالِ ثواب کے لئے اجتماعی قرآن خوانی کا حکم۔ ۲۲۷
- ۲۰۴۵ قرآن خوانی میں تلاوت کے بعد کچھ سورتیں پڑھ کر دعا کرنا۔ ۲۲۸
- ۲۰۴۶ گھر بلا کر قرآن خوانی کرانا۔ ۲۲۹
- ۲۰۴۷ مدرسہ کے طلبہ سے ایصالِ ثواب کرانا۔ ۲۳۰
- ۲۰۴۸ مدرسہ کے اوقات میں طلبہ سے قرآن خوانی کرانا۔ ۲۳۱

۲۳۲ طلبہ کا قرآن خوانی کے بعد کھانا پینا	۴۰۴۹
 اکٹھے ہو کر بآواز بلند قرآن خوانی اور اس کے بعد کچھ	۴۰۵۰
۲۳۳ انعام لینا یا کھانا پینا	
۲۳۴ قرآن خوانی کے بعد کچھ کھانا پینا یا ہدیہ پیش کرنے کا حکم	۴۰۵۱
۲۳۶ فاتحہ کی حقیقت	۴۰۵۲
۲۳۷ مروجہ فاتحہ خوانی کے بعد کھانا کیسا ہے؟	۴۰۵۳
۲۳۸ کھانے پینے کی چیزوں پر فاتحہ پڑھنا	۴۰۵۴
۲۳۹ کھانے پر فاتحہ خوانی کا حکم	۴۰۵۵
 میت کے ورثاء اور مالداروں کے لئے ایصال ثواب	۴۰۵۶
۲۴۰ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟	
۲۴۱ خودکشی کرنے والے کو ایصال ثواب کرنا	۴۰۵۷
۲۴۲ رقم لے کر ایصال ثواب کرنا	۴۰۵۸

۱۹ / باب الشہید

۲۴۳ شہید حقیقی کی تدفین کیسے کی جائے	۴۰۵۹
۲۴۴ کیا فسادات میں مقتول مسلمان شہید ہوں گے؟	۴۰۶۰
۲۴۵ کیا ہندو مسلم لڑائی میں قتل ہونے والے شہید ہیں؟	۴۰۶۱
۲۴۶ ہندو پاک کے درمیان لڑنے والے مسلمان شہید ہیں، یا نہیں؟	۴۰۶۲
۲۴۸ ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید ہے یا نہیں؟	۴۰۶۳
۲۴۹ ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہونے والے شہید حکمی	۴۰۶۴
۲۵۰ مال کی حفاظت میں مقتول شہید ہے یا نہیں	۴۰۶۵

۲۵۱	کیا اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا شہید ہے؟	۴۰۶۶
۲۵۳	کیا بندوق سے ظلماً مارا ہوا شخص شہید ہے.....	۴۰۶۷
۲۵۴	حاملہ عورت کا ولادت کے دردزہ میں انتقال.....	۴۰۶۸
۲۵۵	حاملہ عورت ولادت میں فوت ہو جائے تو پیٹ چیر کر بچہ نکالنا	۴۰۶۹

۱۱ / کتاب الزکوٰۃ

۱ / باب الزکوٰۃ و متعلقاتہا

۲۵۷ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب	۴۰۷۰
۲۵۸ بیت المال قائم کرنا	۴۰۷۱
۲۵۹ بیت المال سے قرض دینا	۴۰۷۲
۲۶۰ زکوٰۃ وصول کرنے کی کمیٹی بنانا	۴۰۷۳
۲۶۱ زکوٰۃ و فطرہ کا پیسہ بیت المال کی شکل میں جمع کرنا	۴۰۷۴
۲۶۲ غریب علماء کے نام ٹرسٹ قائم کرنا	۴۰۷۵
۲۶۳ فقیر زکوٰۃ کی رقم کہاں خرچ کرے؟	۴۰۷۶
 محلہ کی کمیٹی کا زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے برادری کے فقراء	۴۰۷۷
۲۶۴ وغرباء پر خرچ کرنا	
۲۶۶ اپنی برادری کو زکوٰۃ دینے کے لئے زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے رکھنا	۴۰۷۸
۲۶۷ زکوٰۃ کا ثواب مرحومین کو پہنچانا اور ان کی رسید دوسروں	۴۰۷۹
 کے نام سے کٹوانا	
۲۶۸ غیر صاحب نصاب کے لئے سوال کرنا کیسا ہے؟	۴۰۸۰
۲۶۹ جس شخص کو زکوٰۃ دی اس کے یہاں کھانا کھانا	۴۰۸۱

۴۰۸۲ ولی کا یتیم کے زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں ملانا ۲۷۰

۲/باب وجوب الزکاة

۴۰۸۳ نمونہ کی تعریف اور وجوب زکوٰۃ کی شرط ۲۷۲

۴۰۸۴ حوائجِ اصلیہ کی شرط ۲۷۳

۴۰۸۵ غیر استعمالی گھریلو سامان پر زکوٰۃ کا حکم ۲۷۶

۴۰۸۶ زائد برتن و شوکیس وغیرہ میں زکوٰۃ کا حکم ۲۷۸

۴۰۸۷ دیکھی برتن وغیرہ حوائجِ اصلیہ میں داخل ہیں ۲۷۹

۴۰۸۸ ملک تام کی تعریف ۲۸۰

۴۰۸۹ حوالانِ حول کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ۲۸۱

۴۰۹۰ سال کی ابتدا و انتہا میں نصاب مکمل ہونے پر وجوب زکوٰۃ ۲۸۲

۴۰۹۱ وجوب زکوٰۃ کے لئے سال گذرنا شرط ہے ۲۸۳

۴۰۹۲ پہلے عشرہ میں زکوٰۃ نکالنے والے کا دوسرے عشرہ میں جمع

کر دہ رقم کی زکوٰۃ ۲۸۵

۴۰۹۳ حوالانِ حول کے بعد زکوٰۃ صحیح مال پر ۲۸۵

۴۰۹۴ کیا ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال دینے کے بعد دوبارہ اس مال پر زکوٰۃ

نہیں ہے؟ ۲۸۶

۴۰۹۵ نصاب زکوٰۃ کی مقدار ۲۸۷

۴۰۹۶ موجودہ اوزان کے اعتبار سے زکوٰۃ کا نصاب ۲۸۸

۴۰۹۷ سونے، چاندی کا نصاب شرعی موجودہ اوزان کے اعتبار سے

جیب میں رکھے ہوئے خرچ کے پیسے بھی نصاب میں شامل ہیں ۲۹۰

۲۹۱	موجودہ دور کے تولہ کے حساب سے سونے کا نصاب آٹھ تولہ سات گرام ۲۸۰ ملی گرام ہے.....	۴۰۹۹
۲۹۳	کیا دور حاضر میں سونے کے نصاب کو نفع للمفقراء قرار دیا جاسکتا ہے؟.....	۴۱۰۰
۲۹۷	درمیان سال میں لائے ہوئے مال تجارت پر زکوٰۃ.....	۴۱۰۱
۲۹۸	سال کے درمیان اضافہ شدہ پر بھی زکوٰۃ لازم.....	۴۱۰۲
۲۹۹	ضم نصاب کی صورت میں مزکی کا سونے چاندی یا ان کی رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا.....	۴۱۰۳
۳۰۰	مال نصاب پر گذشتہ برسوں کی زکاۃ.....	۴۱۰۴
۳۰۲	گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے یا نہیں؟.....	۴۱۰۵
۳۰۲	حج کے لئے رکھے ہوئے روپیوں پر زکوٰۃ.....	۴۱۰۶
۳۰۳	حج کی منظوری پر جو رقم جمع نہیں ہوئی اس کی زکوٰۃ.....	۴۱۰۷
۳۰۴	حج کمیٹی میں دی گئی رقم پر زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۰۸
۳۰۶	حج کے لئے بھیجی گئی رقم پر زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۰۹
۳۰۷	پرائیویٹ ٹور کو حج کے لئے دی گئی رقم پر زکوٰۃ.....	۴۱۱۰
۳۱۰	گروپ لیڈر کے پاس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ.....	۴۱۱۱
۳۱۱	حج کمیٹی کی واپس کردہ رقم کی زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۱۲
۳۱۲	مال حرام پر زکوٰۃ اور حج کا حکم.....	۴۱۱۳
۳۱۴	مال حرام کی زکوٰۃ.....	۴۱۱۴
۳۱۵	مال حرام میں زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۱۵
۳۱۷	رشوت اور مال حرام کی زکوٰۃ.....	۴۱۱۶

- ۴۱۱۷ مال حرام کی زکوٰۃ کے بجائے پورا مال صدقہ کر دینا لازم ہے؟ ۳۲۰
- ۴۱۱۸ مخلوط مال میں حرام مال واپس کرنے کے بعد ما بقیہ پر زکوٰۃ ۳۲۱
- ۴۱۱۹ بقدر حلال پر زکوٰۃ، اور بقدر حرام واجب التصدق ۳۲۲
- ۴۱۲۰ حرام و حلال برابر ہو تو زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ ۳۲۳
- ۴۱۲۱ حلال کو حرام سے الگ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ۳۲۵
- ۴۱۲۲ حلال مال، حرام کے مقابلہ میں مغلوب ہو اور بقدر نصاب ہو تو زکوٰۃ کیسے؟ ۳۲۶
- ۴۱۲۳ مالِ مغضوب کی زکاۃ کس پر واجب ہے ۳۲۷
- ۴۱۲۴ وقف شدہ مقبول فنڈ کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ۳۲۸
- ۴۱۲۵ مدارس، مساجد، قومی و رفاہی فنڈ کے مال پر زکوٰۃ کا حکم ۳۲۹
- ۴۱۲۶ صاحب نصاب طالب علم پر زکوٰۃ کا وجوب ۳۳۰
- ۴۱۲۷ پرائیویٹ یونٹ فنڈ پر زکوٰۃ کا حکم ۳۳۱
- ۴۱۲۸ GPF پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ۳۳۴
- ۴۱۲۹ زکوٰۃ کے مسائل ۳۳۵
- ۴۱۳۰ والد کی فیملی میں رہنے والی اولاد صاحب نصاب ہو تو دونوں پر زکوٰۃ قریبانی واجب ہے ۳۳۶
- ۴۱۳۱ ایک ہزار روپیہ پر سال گزرنے سے زکوٰۃ کا حکم ۳۳۸
- ۴۱۳۲ چوبیس ہزار روپیہ پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ ۳۳۹
- ۴۱۳۳ ۷۵ ہزار کی مالیت پر زکوٰۃ جبکہ ۲ ہزار کا مقروض ہو ۳۴۰
- ۴۱۳۴ ڈیڑھ لاکھ روپیہ پر حوالان حول کی صورت میں زکوٰۃ کا وجوب ۳۴۲
- ۴۱۳۵ مالک مکان کو یکمشت دی گئی رقم کی زکوٰۃ کس کے ذمہ لازم ہے؟ ۳۴۲

۳۴۴	بائع کو دی گئی ایڈوانس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا کس پر لازم ہے؟	۴۱۳۶
۳۴۴	کرایہ کی پیشگی ادا شدہ رقم اور پگڑی کی زکوٰۃ.....	۴۱۳۷
۳۴۸	ڈپوزٹ کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟.....	۴۱۳۸
۳۴۹	امانت کی زکوٰۃ کی ادائے گی کس پر لازم ہے؟.....	۴۱۳۹
۳۵۰	ذاتی مکان میں زکوٰۃ واجب نہیں.....	۴۱۴۰
۳۵۱	ناقص مکان اور زمین پر زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۴۱
۳۵۲	فروخت شدہ مکان کی قیمت پر زکوٰۃ.....	۴۱۴۲
۳۵۳	تصویروں کو فروخت کر کے اس کی آمدنی سے زکوٰۃ دینا.....	۴۱۴۳
۳۵۴	کیا NSC پر زکوٰۃ واجب ہے؟.....	۴۱۴۴
۳۵۵	مالدارتاجر پر زکوٰۃ اور ادائیگی کا طریقہ.....	۴۱۴۵
۳۵۶	پیتل کی بنائی گئی تصویروں کی آمدنی پر زکوٰۃ.....	۴۱۴۶
۳۵۷	شادی کے لئے جمع شدہ مال میں زکوٰۃ کا حکم.....	۴۱۴۷
۳۵۷	مکان و شادی کے لئے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ.....	۴۱۴۸
۳۵۸	ضرورت کے لئے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ.....	۴۱۴۹
۳۵۹	بینک میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ.....	۴۱۵۰
۳۶۱	حولان حول کے بعد بینک یا ڈاکخانہ میں جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ کا حکم	۴۱۵۱
۳۶۲	قرض کی زکوٰۃ کی ادائے گی کا حکم.....	۴۱۵۲
۳۶۳	قرض کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟.....	۴۱۵۳
۳۶۴	مدیون پر زکوٰۃ.....	۴۱۵۴
۳۶۶	قرض کے علاوہ ما بقیہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی.....	۴۱۵۵
۳۶۷	قرض کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا.....	۴۱۵۶

۳۶۸ دین اور قرض کی زکوٰۃ کس پر لازم	۴۱۵۷
۳۷۲ قرض وصول ہونے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں	۴۱۵۸
۳۷۳ قرض وصول ہونے پر اس کی زکوٰۃ کا حکم	۴۱۵۹
۳۷۴ مال غیر مقبوض پر قبضہ سے پہلے زکوٰۃ کا حکم	۴۱۶۰
۳۷۵ قرض کی وصولیابی کے بعد گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ	۴۱۶۱
۳۷۷ طویل الأجل قرض اور کونسا دین مانع زکوٰۃ	۴۱۶۲
۳۷۹ قسطوں میں وصول ہونے والی رقم پر زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟	۴۱۶۳
۳۸۰ بونڈس اور حکومت کو بطور قرض دی گئی رقم کی زکوٰۃ	۴۱۶۴

۳/باب زکاة الذهب و الفضة والحلي

۳۸۲ سونے چاندی کی زکوٰۃ	۴۱۶۵
۳۸۳ موجودہ اوزان کے اعتبار سے سونے چاندی کا نصاب زکوٰۃ	۴۱۶۶
۳۸۴ صرف چھ تولہ سونا ہوا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں	۴۱۶۷
۳۸۵ سوتولہ چاندی سے زائد مقدار پر زکوٰۃ کا وجوب	۴۱۶۸
۳۸۶ ایک ہزار روپیہ کے سونے پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟	۴۱۶۹
۳۸۸ سامان تجارت اور تھوڑے سونے پر زکوٰۃ	۴۱۷۰
۳۸۹ سونا چاندی علیحدہ طور پر بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ کس طرح نکالے	۴۱۷۱
۳۹۰ سونا چاندی الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچے تو؟	۴۱۷۲
۳۹۱ سو اکلو چاندی اور ۴ تولہ سونے کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائیگی؟	۴۱۷۳
۳۹۳ پانچ تولہ سونا اور تین تولہ سونے کے بقدر روپیہ پر زکوٰۃ	۴۱۷۴
۳۹۴ چار تولہ سونا اور دو تولہ چاندی سے وجوب زکوٰۃ	۴۱۷۵

۳۹۵ سونے چاندی کی زکوٰۃ کس قیمت سے ادا کریں؟	۴۱۷۶
۳۹۷ زیورات پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی	۴۱۷۷
۳۹۸ سونے چاندی کی زکوٰۃ کس قیمت سے ادا کی جائے؟	۴۱۷۸
۳۹۹ زیورات کی زکوٰۃ کس قیمت سے ادا کی جائے؟	۴۱۷۹
۴۰۰ رشتہ دار کے پاس رکھی چاندی پر زکوٰۃ کا حکم	۴۱۸۰
۴۰۱ گروی رکھے ہوئے زیور پر زکوٰۃ کا حکم	۴۱۸۱
۴۰۲ مسلم فنڈ میں رکھے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟	۴۱۸۲
۴۰۳ گزشتہ سالوں کی ادائے گی کا طریقہ	۴۱۸۳
۴۰۴ سالوں سے مدفون زیورات کی زکوٰۃ کی ادائے گی کا طریقہ	۴۱۸۴
۴۰۶ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا شوہر پر واجب ہے یا بیوی پر	۴۱۸۵
۴۰۹ بیوی کے زیورات میں شوہر پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی	۴۱۸۶
۴۱۰ بیوی کے زیورات یا مال کی زکوٰۃ شوہر کا ادا کرنا	۴۱۸۷
 شادی کے لئے رکھے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ ماں باپ پر ہے یا لڑکی پر؟	۴۱۸۸
۴۱۰ سسرال سے ملے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ کس پر	۴۱۸۹
۴۱۳ شادی میں ملے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ	۴۱۹۰
۴۱۴ ایضاح المسائل کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۴۱۹۱
۴۱۵ ہیرے جواہرات کی زکوٰۃ	۴۱۹۲

۴/باب أموال التجارة

۴۱۹ مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائے گی کا طریقہ	۴۱۹۳
-----	--	------

- ۴۱۹۴ مال تجارت میں زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟
- ۴۱۹۵ تجارت کے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی؟
- ۴۱۹۶ مشترکہ کاروبار میں زکوٰۃ کی ادائے کیسے ہو؟
- ۴۱۹۷ کمپنی اور مشترکہ کاروبار کے حصہ داروں کی زکوٰۃ
- ۴۱۹۸ استعمالی مشینوں پر زکوٰۃ
- ۴۱۹۹ سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ
- ۴۲۰۰ تجارت کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم
- ۴۲۰۱ پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم
- ۴۲۰۲ تجارتی زمین پر زکوٰۃ واجب ہے
- ۴۲۰۳ فروخت کرنے کے لئے خریدی گئی زمین پر زکوٰۃ
- ۴۲۰۴ تجارتی زمین پر زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ
- ۴۲۰۵ بلڈر کے مکان و زمین پر زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ
- ۴۲۰۶ فلیٹ اور بلڈنگ کے خریداروں کی پیشگی رقم پر زکوٰۃ
- ۴۲۰۷ تجارتی پلاٹ اور اموال تجارت میں کس طرح زکوٰۃ
- ۴۲۰۸ تجارتی پلاٹ کی زکوٰۃ کس وقت کی قیمت کا اعتبار سے ہوگی؟
- ۴۲۰۹ پیٹروں کی زکوٰۃ خمس کی شرعی حیثیت
- ۴۲۱۰ تجارتی زمین کی زکوٰۃ
- ۴۲۱۱ پیشگی رقم پر زکوٰۃ کا حکم
- ۴۲۱۲ بیعانہ کی رقم ادا کرنے کے بعد باقیہ رقم پر زکوٰۃ
- ۴۲۱۳ تجارتی زمین پر ہر سال ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی قیمت معتبر ہے
- ۴۲۱۴ وکیل بالشراء کے پاس پھنسے ہوئے روپیوں پر زکوٰۃ

- ۴۲۱۵ جس مال تجارت کی قیمت ادا کر کے قبضہ نہیں کیا اس کی زکوٰۃ
- ۴۲۱۶ غیر مقبوض مال کی زکوٰۃ.....
- ۴۲۱۷ ناقص اور نامکمل مکان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ.....
- ۴۲۱۸ استعمال کے لئے خریدے گئے پلاٹ کی رقم پر زکوٰۃ.....
- ۴۲۱۹ مکان بنانے کے ارادے سے خریدی گئی زمین میں
- ۴۲۲۰ تجارت کی نیت کرنا.....
- ۴۲۲۰ مکان بنانے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ پر فروختگی
- ۴۲۲۱ سے قبل زکوٰۃ نہیں.....
- ۴۲۲۱ تجارت کی نیت سے خریدنے کے بعد پلاٹ پر مکان بنانے
- ۴۲۲۳ کے ارادہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی؟.....
- ۴۲۲۲ تجارت کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ میں رہائشی مکان بنانا
- ۴۲۲۳ استعمالی عمارت یا دوکان کی آمدنی پر زکوٰۃ.....
- ۴۲۲۴ فلیٹ اور بلڈنگ بنا کر فروخت کرنے پر زکوٰۃ کا حکم.....
- ۴۲۲۵ رہائش کے لئے خریدی گئی زمین پر فلیٹ تعمیر کر کے فروخت
- ۴۲۶۸ کرنے پر زکوٰۃ کا حکم؟.....
- ۴۲۲۶ کرایہ پر دی گئی جائیداد کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے.....
- ۴۲۲۷ ٹینٹ ہاؤس کے سامانوں کی زکوٰۃ کا حکم.....
- ۴۲۲۸ دوکان اور اسکول کی آمدنی پر زکوٰۃ.....
- ۴۲۲۹ کپڑوں کے تھانوں کی زکوٰۃ تخمینہ سے ادا کرنا.....
- ۴۲۳۰ تجارتی مرغیوں پر زکوٰۃ انڈے اور بچے پیدا کرنے والی پر نہیں
- ۴۲۳۱ کمپنی کی عمارتوں میں رہائش پذیر ملازموں پر بلڈنگ کی
- ۴۲۴۴ زکوٰۃ واجب ہے یا کمپنی پر.....

۴۷۵	۴۲۳۲
۴۷۷	۴۲۳۳
۴۷۸	۴۲۳۴
۴۷۹	۴۲۳۵
۴۸۰	۴۲۳۶
۴۸۲	۴۲۳۷

۵/باب أداء الزکوٰۃ



۴۸۴	۴۲۳۸
۴۸۴	۴۲۳۹
۴۸۵	۴۲۴۰
۴۸۷	۴۲۴۱
۴۸۸	۴۲۴۲
۴۸۹	۴۲۴۳
۴۹۰	۴۲۴۴
۴۹۱	۴۲۴۵
۴۹۲	۴۲۴۶
۴۹۳	۴۲۴۷
۴۹۴	۴۲۴۸
۴۹۴	۴۲۴۹
۴۹۵	۴۲۵۰

- ۴۲۵۰ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی قیمت معتبر ہے۔ ۴۹۶
- ۴۲۵۱ زکوٰۃ میں یوم الاِداء کی قیمت کا اعتبار ہے۔ ۴۹۷
- ۴۲۵۲ بہن کے کھاتے یا موبائل وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم ڈالنا۔ ۴۹۸
- ۴۲۵۳ زکوٰۃ میں گھٹیا چیز دینے سے متعلق ایک مفصل فتویٰ۔ ۴۹۹
- ۴۲۵۴ مستحق زکوٰۃ کو تحفہ یا ہدیہ کہہ کر زکوٰۃ دینا۔ ۵۰۴
- ۴۲۵۵ بالغ اولاد کی طرف سے والدین کا زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنا۔ ۵۰۵
- ۴۲۵۶ قرض بتا کر دینے سے ادائیگی زکوٰۃ کا حکم۔ ۵۰۶
- ۴۲۵۷ مقروض کو مالک بنائے بغیر صرف زبان سے کہہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ ۵۰۸
- ۴۲۵۸ فقیر کو نصاب سے زیادہ زکوٰۃ کی رقم دینا۔ ۵۰۹
- ۴۲۵۹ بقدر نصاب زکوٰۃ کی رقم کسی کو دینا۔ ۵۱۰
- ۴۲۶۰ اداء زکوٰۃ میں ضم نصاب کا حکم۔ ۵۱۱
- ۴۲۶۱ مستحق کے نام سے زکوٰۃ لے کر اپنے اوپر خرچ کرنا۔ ۵۱۲
- ۴۲۶۲ گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائے گی کا طریقہ اور اس کے استعمال کا حکم۔ ۵۱۴
- ۴۲۶۳ مال تجارت کی زکوٰۃ کی ادائے گی کا طریقہ۔ ۵۱۵
- ۴۲۶۴ مستحق زکوٰۃ ملازم کو دی ہوئی چیز واپس لے کر دوسرے کو دینا۔ ۵۱۷
- ۴۲۶۵ چھوٹے بھانجے کو اسکول خرچ میں زکوٰۃ دینا۔ ۵۱۸
- ۴۲۶۶ نئے سلعے ہوئے کپڑے زکوٰۃ میں دینا۔ ۵۱۹
- ۴۲۶۷ استعمال شدہ کپڑا زکوٰۃ میں دینا۔ ۵۲۰
- ۴۲۶۸ مستعمل کپڑے زکوٰۃ میں دینا۔ ۵۲۱

۵۲۲	زکوٰۃ میں بری کا استعمالی کپڑا دینا	۴۲۶۹
۵۲۳	استعمال شدہ کپڑے اور برتن زکوٰۃ میں دینا	۴۲۷۰
۵۲۴	زکوٰۃ میں رقم کے بجائے کپڑا، برتن وغیرہ دینا	۴۲۷۱
۵۲۵	زکوٰۃ کی رقم سے غریب بچوں کو کپڑے اور کتابیں دینا	۴۲۷۲
۵۲۶	بعد التملیک زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغی حضرات کے لئے لحاف سلوانا	۴۲۷۳
۵۲۷	زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے مسلمانوں کی حفاظت کی غرض سے اسلحہ خریدنا	۴۲۷۴
۵۲۸	زکوٰۃ کی رقم سے غریب شخص کو سامان خرید کر دینا	۴۲۷۵
۵۲۹	زکوٰۃ کی رقم سے غریب کوچ کرانا	۴۲۷۶
۵۳۰	زکوٰۃ کی رقم سے قرآن کریم اور دینی کتابیں خرید کر تقسیم کرنا	۴۲۷۷
۵۳۱	زکوٰۃ کی رقم سے فیس ادا کرنا	۴۲۷۸
۵۳۲	زکوٰۃ کے روپے سے ہنر سیکھنے کے لئے ماسٹر رکھنا	۴۲۷۹
۵۳۳	مد زکوٰۃ سے سید کا قرض ادا کرنا	۴۲۸۰
۵۳۴	شادی کے لئے زکوٰۃ کی رقم لینا	۴۲۸۱
۵۳۵	زکوٰۃ کی رقم غریب کی شادی میں دینا	۴۲۸۲
۵۳۶	زکوٰۃ کے پیسے سے شادی کرانا	۴۲۸۳
۵۳۷	غریب بچی کی شادی میں بقدر نصاب زکوٰۃ دینا	۴۲۸۴
۵۳۸	بذریعہ چیک زکوٰۃ کی رقم دینا	۴۲۸۵
۵۳۹	چیک کے ذریعہ دی گئی رقم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تفصیل	۴۲۸۶
۵۴۰	زکوٰۃ کی رقم مریض کی دوا یا تعمیر میں لگانا	۴۲۸۷
۵۴۱	زکوٰۃ کی رقم سے اسپتال میں غرباء کا علاج کرانا	۴۲۸۸

۴۲۸۹	زکوٰۃ کی رقم سے پتھری کی دوا منگا کر تقسیم کرنا.....	۵۴۵
۴۲۹۰	غریب کا قرض اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا.....	۵۴۷
۴۲۹۱	قرض دار سے زکوٰۃ کی رقم لے کر قرضہ کی ادائے گی.....	۵۴۸
۴۲۹۲	مقروض کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ.....	۵۴۹
۴۲۹۳	زکوٰۃ کی رقم سے مقروض کے قرض کی ادائیگی اور زکوٰۃ کا حکم	۵۵۰
۴۲۹۴	اپنے مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس سے قرضہ وصول کرنا	۵۵۲
۴۲۹۵	زکوٰۃ کی رقم مدیون کے قبضہ میں دے کر واپس لینے سے	
	زکوٰۃ و قرض کی ادائیگی.....	۵۵۳
۴۲۹۶	ادائیگی زکوٰۃ کے لئے قرض دار کا مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دینا	۵۵۴
۴۲۹۷	مقروض فقیر شخص کا زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنانا.....	۵۵۵
۴۲۹۸	فقیر کو زکوٰۃ کی رقم سے مکان خرید کر دینا.....	۵۵۶
۴۲۹۹	زکوٰۃ کی رقم سے کمرے بنوانا.....	۵۵۷
۴۳۰۰	مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر دینا.....	۵۵۸
۴۳۰۱	زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر مستحق کو دینا.....	۵۵۹
۴۳۰۲	مال زکوٰۃ سے مکان تعمیر کر کے فقیر کو مالک بنانا.....	۵۶۱
۴۳۰۳	زکوٰۃ کی رقم سے غریب کو کرایہ پر مکان دلوانا.....	۵۶۳
۴۳۰۴	پگڑی میں زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائیگی یا نہیں؟	۵۶۴
۴۳۰۵	کیا پگڑی پر فقیر کو مکان لے کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائیگی؟	۵۶۵
۴۳۰۶	سودی قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنا.....	۵۶۶
۴۳۰۷	سودی قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم دینا.....	۵۶۷
۴۳۰۸	زکوٰۃ کا پیسہ سودی قرض میں دینا.....	۵۶۸
۴۳۰۹	زکوٰۃ کی رقم سے سودی قرض ادا کرنے یا منہا کرنے کا حکم.....	۵۶۹

۶/باب المصرف



- ۴۳۱۰ صاحب نصاب کون ہے؟ ۵۷۲
- ۴۳۱۱ صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کے مستحق کون؟ ۵۷۲
- ۴۳۱۲ فقیر و مسکین کسے کہتے ہیں؟ ۵۷۳
- ۴۳۱۳ فی سبیل اللہ کا مصداق ۵۷۴
- ۴۳۱۴ بدائع کی عبارت سے غلط فہمی ۵۸۰
- ۴۳۱۵ کیا فی سبیل اللہ کے مصداق، مدارس، مساجد اور اکیڈمیاں
ہو سکتی ہیں؟ ۵۸۲
- ۴۳۱۶ زکوٰۃ و صدقہ فطر کا بہترین مصرف ۵۸۳
- ۴۳۱۷ زکوٰۃ کس کو دیں طلبہ کو یا غریب لوگوں کو؟ ۵۷۴
- ۴۳۱۸ غیر مالک نصاب غریب کو زکوٰۃ لینا ۵۸۵
- ۴۳۱۹ غریب شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے ۵۸۶
- ۴۳۲۰ سخت مجبوری میں زکوٰۃ کاروپہ لینا ۵۸۷
- ۴۳۲۱ کیا رکشہ چلانے والا صاحب نصاب ہے ۵۸۸
- ۴۳۲۲ جس شخص پر صدقہ الفطر واجب ہو اس کو زکوٰۃ دینا ۵۸۹
- ۴۳۲۳ صدقہ فطر کے نصاب کا مالک مستحق زکوٰۃ نہیں ۵۹۰
- ۴۳۲۴ کسی کو زبردستی زکوٰۃ دینا ۵۹۲
- ۴۳۲۵ استحقاق زکوٰۃ سے متعلق سوالات و جوابات ۵۹۳
- ۴۳۲۶ صدقات واجبہ کے مصارف ۶۰۰
- ۴۳۲۷ رشتہ داروں اور طلباء مدارس کو زکوٰۃ دینا ۶۰۴

- ۶۰۵ صاحب نصاب اقرباء کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۲۸
- ۶۰۶ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟..... ۴۳۲۹
- ۶۰۷ زکوٰۃ کا طریقہ اور رشتہ داروں یا کنبہ کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۰
- ۶۰۸ زکوٰۃ کی رقم سے بیٹے کا قرض ادا کرنا..... ۴۳۳۱
- ۶۰۹ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۲
- ۶۱۰ بیٹی کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۳
- ۶۱۱ بیٹے کا باپ کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۴
- ۶۱۲ فقیر خسر کو داماد زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟..... ۴۳۳۵
- ۶۱۳ مالدار والد کی غریب اولاد کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۶
- ۶۱۴ دولت مند شخص کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا..... ۴۳۳۷
- ۴۳۳۸ نافرمان و شرابی اولاد کو زکوٰۃ اور امداد دینے یا وراثت سے محروم کر دینے کا حکم..... ۶۱۵
- ۴۳۳۹ کیا بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟..... ۶۱۷
- ۴۳۴۰ تجارت کو فروغ دینے کے لئے بھائی کو زکوٰۃ دینا..... ۶۱۸
- ۴۳۴۱ بھائی کا اپنی بہن یا بھائی کو زکوٰۃ دینا..... ۶۱۹
- ۴۳۴۲ کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟..... ۶۲۰
- ۴۳۴۳ حقیقی بہن کو زکوٰۃ دینا..... ۶۲۱
- ۴۳۴۴ بالغ غیر شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دینا..... ۶۲۲
- ۴۳۴۵ بہن کا بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۲۳
- ۴۳۴۶ بہن کا بھائی کو بطور قرض زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۲۴
- ۴۳۴۷ بہن بھائی بہنوی سالی وغیرہ کو زکوٰۃ دینے کا حکم..... ۶۲۵

۶۲۶	بھائی بھتیجہ، بہن بھانجی، پھوپھی کوز کوٹہ دینا	۴۳۴۸
۶۲۷	ساتھ میں رہنے والی بھابھی کوز کوٹہ دینا	۴۳۴۹
۶۲۸	نابالغ کوز کوٹہ دینا	۴۳۵۰
۶۲۹	سید کوز کوٹہ	۴۳۵۱
۶۳۰	سیداور بنی ہاشم کوز کوٹہ دینا	۴۳۵۲
۶۳۳	سیدہ بیوہ عورت کوز کوٹہ دینا	۴۳۵۳
۶۳۴	کیا آل ہاشم کو بھی صدقات واجبہ دینا جائز نہیں؟	۴۳۵۴
۶۳۵	صاحب نصاب لڑکی کی شادی کے لئے زکوٰۃ دینا	۴۳۵۵
۶۳۶	زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھال کس کو دی جائے؟	۴۳۵۶
۶۳۷	ایک فقیر کو بیک وقت مکمل نصاب کا مالک بنانا	۴۳۵۷
۶۳۸	غریب کو مال زکوٰۃ دے کر صاحب نصاب بنانا	۴۳۵۸
۶۳۹	زکوٰۃ کی رقم سے جنگی ہتھیار خریدنا یا تنخواہ میں دینا	۴۳۵۹
۶۴۱	وکیل کا زکوٰۃ کی رقم مؤکل کی بیوہ اولاد کو دینا	۴۳۶۰
۶۴۲	تنخواہ نہ کافی ہونے والے ملازم کا زکوٰۃ لینا	۴۳۶۱
۶۴۳	تجارت اور اچھی مزدوری کرنے والے کا زکوٰۃ لینا	۴۳۶۲
۶۴۴	۳۰۲۵، بیگزین کے مالک کا ادائے قرض کے لئے زکوٰۃ وصول کرنا	۴۳۶۳
۶۴۵	غیر صاحب نصاب جائیداد کے مالک کوز کوٹہ دینا	۴۳۶۴
۶۴۶	مالداروں کے گھر رہنے والی غریب لڑکی کوز کوٹہ دینا	۴۳۶۵
۶۴۷	حج کے لئے زکوٰۃ کا سوال کرنا	۴۳۶۶
۶۴۸	ناہینا حاجی کی مدد کے لئے مینا کوز کوٹہ کی رقم سے بھیجنا	۴۳۶۷
۶۴۹	تبلیغ والوں کو مد زکوٰۃ سے کھانا کھلانا	۴۳۶۸

- ۲۳۶۹ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے زکوٰۃ و صدقہ دینا..... ۶۵۰
- ۲۳۷۰ صاحب نصاب کو علاج کے لئے زکوٰۃ دینا..... ۶۵۱
- ۲۳۷۱ غریب مریض کے علاج و معالجہ کے لئے زکوٰۃ دینا..... ۶۵۲
- ۲۳۷۲ صدقات و زکوٰۃ ہسپتال میں صرف کرنا..... ۶۵۳
- ۲۳۷۳ زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے لئے تیار شدہ ہو سہولت میں لگانا..... ۶۵۴
- ۲۳۷۴ صاحب نصاب فقیر برادری کے افراد کو زکوٰۃ دینا..... ۶۵۶
- ۲۳۷۵ سودیا زکوٰۃ کی رقم سے موٹر لگوانا..... ۶۵۷
- ۲۳۷۶ زکوٰۃ کی رقم تجھیز و تکفین میں خرچ کرنا..... ۶۵۸
- ۲۳۷۷ ڈپوزٹ میں دینے کے لئے زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۵۹
- ۲۳۷۸ زکوٰۃ کی رقم کمیٹی کی رجسٹری وغیرہ میں صرف کرنا..... ۶۶۰
- ۲۳۷۹ صدقات واجبہ کی رقم سے بیت المال کی رسید چھپوانا..... ۶۶۲
- ۲۳۸۰ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ کی رقم سے مسافر خانہ تعمیر کرنا..... ۶۶۲
- ۲۳۸۱ زکوٰۃ کی رقم سے تعمیری قرض کی ادائیگی..... ۶۶۳
- ۲۳۸۲ کیا مقروض مستحق زکوٰۃ ہے؟..... ۶۶۵
- ۲۳۸۳ کیا مقروض مستحق زکوٰۃ ہے؟..... ۶۶۷
- ۲۳۸۴ مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۶۸
- ۲۳۸۵ مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۶۹
- ۲۳۸۶ مقروض شخص کی زکوٰۃ سے امداد کرنا..... ۶۷۰
- ۲۳۸۷ قرضدار کو زکوٰۃ دینے کا حکم..... ۶۷۱
- ۲۳۸۸ مقروض کو قرض سے زائد زکوٰۃ دینا..... ۶۷۲
- ۲۳۸۹ غریب مقروض کو مالدار قرضخواہ کا زکوٰۃ کی رقم دینا..... ۶۷۳

۶۷۴	زکوٰۃ کی رقم سے قرض کی ادائیگی	۴۳۹۰
۶۷۵	مالدار مقروض کو زکوٰۃ دینا	۴۳۹۱
۶۷۶	مالدار کا اپنا قرض ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ لینا	۴۳۹۲
۶۷۹	غیر مستحق کا زکوٰۃ لے کر تجارت کرنا	۴۳۹۳
۶۸۰	کاروبار شروع کرنے کے لئے مد زکوٰۃ سے کتنی رقم دے سکتے ہیں؟	۴۳۹۴
۶۸۰	تجارت کو فروغ دینے کے لئے زکوٰۃ حاصل کرنا	۴۳۹۵
۶۸۲	کاروباری مقروض فقیر کو زکوٰۃ دینا	۴۳۹۶
۶۸۳	تجارتی مقروض کو زکوٰۃ دینے کا شرعی حکم	۴۳۹۷
۶۸۴	تجارتی مقروض مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں؟	۴۳۹۸
۶۸۶	سودی قرض ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ دینا	۴۳۹۹
۶۸۸	غریب قائل کو زکوٰۃ دینا	۴۴۰۰
۶۸۹	شیعہ کو زکوٰۃ دینا	۴۴۰۱
۶۹۰	کیا شیعہ کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟	۴۴۰۲
۶۹۱	غریب غیر مسلم کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا	۴۴۰۳
۶۹۲	زکوٰۃ و صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دینا	۴۴۰۴





۱۱/ بقیة کتاب الزکوٰۃ

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر:	باب: مدارس میں زکوٰۃ صرف کرنے کا بیان
۳۱	۴۴۰۵	کس طرح کے مدارس کے لئے چندہ وصول کرنا جائز ہے؟.....
۳۳	۴۴۰۶	کیا مدرسے سے زکوٰۃ کا مصرف نہیں؟.....
۳۴	۴۴۰۷	مدرسہ میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا.....
۳۶	۴۴۰۸	کس طرح کے مدارس میں زکوٰۃ جائز ہے؟.....
۳۷	۴۴۰۹	مدرسوں کے لئے ضرورت سے زائد زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم؟.....
۳۷	۴۴۱۰	محض چند طالبات کو وظیفہ دینے کے لئے زکوٰۃ کی وصولیابی کا حکم
۳۹	۴۴۱۱	زکوٰۃ کی رقم مدرسہ کی کن مدت میں صرف کر سکتے ہیں؟.....
۳۹	۴۴۱۲	مدرسہ کی زکوٰۃ کا مصرف اور تملیک کا طریقہ.....
۴۰	۴۴۱۳	چندہ کی رقم مدرسہ کی کن ضروریات میں خرچ کی جاسکتی ہے؟.....
۴۲	۴۴۱۴	زکوٰۃ کے دو اہم مصرف میں سے کسی کو دینا زیادہ افضل ہے؟.....
۴۳	۴۴۱۵	امداد نہ آنے والے مدرسہ میں زکوٰۃ صرف کرنا.....
۴۴	۴۴۱۶	مہتمم صاحب کا دوسرے مدرسہ کے طالب علم کو زکوٰۃ کی رقم دینا
۴۵	۴۴۱۷	دارالافتاء، دارالمطالعہ وغیرہ کے لئے زکوٰۃ کی رقم سے کتا میں خریدنا
۴۶	۴۴۱۸	مقروض مدرس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے.....
۴۷	۴۴۱۹	امام صاحب کے لئے صدقات واجبہ کی رقم وصول کرنا.....

- ۴۸ ڈرائفٹ کا خرچہ مد زکوٰۃ سے ادا کرنا۔ ۴۴۲۰
- ۴۹ ذمہ دار حضرات زکوٰۃ مصرف میں نہ خرچ کریں تو گناہ کس پر ہے؟ ۴۴۲۱
- ۴۹ نامعلوم سفراء کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ۔ ۴۴۲۲
- ۵۰ مدرسہ کے آٹاپائی کی اجرت زکوٰۃ کی رقم سے دینا۔ ۴۴۲۳
- ۵۱ زکوٰۃ کی رقم سے ماہانہ فیس ادا کرنا۔ ۴۴۲۴
- ۵۳ محفل قرأت کے اخراجات زکوٰۃ کی رقم سے پورے کرنا۔ ۴۴۲۵
- زکوٰۃ، صدقات اور چرم قربانی کی رقم سے انجمن اور مدرسہ کی ۴۴۲۶
- کتابیں خریدنا کیسا ہے؟ ۴۴۲۷
- زکوٰۃ کی رقم اور غلہ بلا تملیک مطبخ میں استعمال کرنا۔ ۴۴۲۸
- مدرسہ کے مطبخ کا قرض زکوٰۃ سے ادا کرنا۔ ۴۴۲۹
- زکوٰۃ کی رقم سے بلا تملیک قرض ادا کرنا۔ ۴۴۳۰
- زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ کا قرض ادا کرنا۔ ۴۴۳۱
- مستحق زکوٰۃ سفیر کو زکوٰۃ دینا۔ ۴۴۳۲
- کیا مالدار طلباء مصرف زکوٰۃ ہیں؟ ۴۴۳۳
- زکوٰۃ کی رقم طالب علم کے لئے حلال ہے۔ ۴۴۳۴
- مالدار طالب علم کو زکوٰۃ کی رقم دینا۔ ۴۴۳۵
- غنی طالب علم کے لئے زکوٰۃ لینا نیز مدرسہ کا کھانا کھانا۔ ۴۴۳۶
- مستطیع طلباء کے لئے مدرسہ سے کھانا۔ ۴۴۳۷
- مستطیع طالب علم کے لئے مدرسہ سے امداد لینا۔ ۴۴۳۸
- غنی طالب علم کا مدرسہ سے وظیفہ لینا۔ ۴۴۳۹

- ۶۸ غنی اور سید طالب علم پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا ۴۴۳۹
- ۶۹ زکوٰۃ کی رقم سے طلبہ کو بٹھا کر کھانا کھلانا ۴۴۴۰
- ۷۰ مالدار و مستحقین زکوٰۃ طلبہ کا ایک ساتھ کھانا پکانا ۴۴۴۱
- ۷۲ زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے بنے ہوئے کھانے کو غیر امدادی طلبہ کا کھانا ۴۴۴۲
- ۷۳ مدرسہ میں زکوٰۃ کی رقم سے بننے والے کھانے کا اساتذہ یا مہمان کا استعمال کرنا ۴۴۴۳
- ۷۴ کیا طالب علم مدرسہ کے کھانے کو بیچ سکتا ہے؟ ۴۴۴۴
- ۷۸ مدارس میں مال زکوٰۃ کا استعمال کیسے ہو؟ (ایک تحقیقی جائزہ) ۴۴۴۵
- ۷۸ کس قسم کے مدارس کیلئے زکوٰۃ وصول کرنا جائز ہے؟ ۴۴۴۶
- ۷۹ ضرورت مند علماء کو زکوٰۃ دینا ۴۴۴۷
- ۸۰ مالدار طالب علم کے لئے زکوٰۃ ۴۴۴۸
- ۸۱ حیلہ ہتملیک کیسے ہو؟ ۴۴۴۹
- ۸۴ فقیر کا قرض لے کر مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کرنا ۴۴۵۰
- ۸۵ کیا عمارت کی تعمیر کے قرض کو مد زکوٰۃ سے ادا کیا جاسکتا ہے؟ ۴۴۵۱
- ۸۵ زکوٰۃ کے پیسے سے مطبخ کا قرض ادا کرنا ۴۴۵۲
- ۸۷ تمملیک کی بہترین شکل ۴۴۵۳
- ۸۸ مد زکوٰۃ سے سفراء کی تنخواہ ۴۴۵۴
- ۸۹ کیا مہتمم امیر المؤمنین کے حکم میں ہو سکتا ہے؟ ۴۴۵۵
- ۹۰ مہتمم معظمین و طلبہ دونوں کا وکیل ۴۴۵۶
- ۹۲ خلاصہ ۴۴۵۷
- ۹۳ وکالت نامہ پر دستخط کافی کیوں نہیں ۴۴۵۸

۸/باب: حیلہ تملیک



۹۵ حیلہ تملیک	۴۴۴۵
۹۶ تملیک و حیلہ تملیک میں فرق	۴۴۴۶
۹۷ کیا حیلہ تملیک سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟	۴۴۴۷
۹۸ بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے	۴۴۴۸
۱۰۰ کیا حیلہ تملیک من گھڑت ہے؟	۴۴۴۹
۱۰۰ تملیک کا صحیح طریقہ	۴۴۵۰
۱۰۱ دینی ضروریات کے لئے حیلہ تملیک	۴۴۵۱
۱۰۲ صدقات واجبہ کی چیز کھا کر اندازے سے تملیک کرنا	۴۴۵۲
۱۰۳ تملیک کے لئے پیسہ لیکر واپس نہ کرنے پر زبردستی کرنا	۴۴۵۳
۱۰۴ صاحب نصاب معذور سے یا کسی کو انعام دے کر تملیک کرانا	۴۴۵۴
۱۰۴ کیا بذریعہ چیک حیلہ تملیک کی شکل ہو سکتی ہے؟	۴۴۵۵
۱۰۷ فدیہ کی رقم کی تملیک کیسے ہو؟	۴۴۵۶
۱۰۹ عشر اور صدقہ کے تملیک کی صورت	۴۴۵۷
۱۱۰ حیلہ تملیک کی بہتر شکل کیا ہے؟	۴۴۵۸
۱۱۱ تملیک کی بہترین شکل	۴۴۵۹
۱۱۴ تملیک کی بہترین شکل	۴۴۶۰
۱۱۶ زکوٰۃ کی تملیک کی آسان شکل	۴۴۶۱
۱۱۷ تملیک کے لئے کیا فارم داخلہ کی وکالت کافی ہے؟	۴۴۶۲
۱۱۹ کیا فارم میں مد زکوٰۃ کے خانہ میں امداد لکھنا جائز ہے؟	۴۴۶۳

- ۲۴۶۴ تملیک میں فقیر نے آدھا روپیہ رکھ لیا تو اس کا ضمان ۱۲۱
- ۲۴۶۵ حیلہ تملیک کن مدارس میں کیا جاسکتا ہے؟ ۱۲۲
- ۲۴۶۶ زکوٰۃ کی رقم دینی ضروریات میں صرف کرنے کیلئے حیلہ تملیک کرنا ۱۲۳
- ۲۴۶۷ مقروض کے قرض کو زکوٰۃ میں بدلنے کا حیلہ ۱۲۴
- ۲۴۶۸ حیلہ تملیک کی ناجائز شکلیں ۱۲۵
- ۲۴۶۹ وجوب زکوٰۃ سے بچنے کیلئے حیلہ کرنا ۱۲۷
- ۲۴۷۰ تعمیر کیلئے حیلہ تملیک کرنا ۱۲۸
- ۹/باب: مد زکوٰۃ تنخواہ یا تعمیر میں صرف کرنے کا حکم
- ۲۴۷۱ حیلہ تملیک ۱۳۰
- ۲۴۷۲ حیلہ تملیک کی اجازت کہاں ہے؟ ۱۳۰
- ۲۴۷۳ مد زکوٰۃ سے طلبہ کی فیس ادا کرنا ۱۳۲
- ۲۴۷۴ زکوٰۃ کی رقم میں تنخواہوں کیلئے تملیک کرانا ۱۳۴
- ۲۴۷۵ صدقات واجبہ کی رقم سے مدرسین کو تنخواہ یا بچوں کو سپارہ دلانا ۱۳۵
- ۲۴۷۶ صدقات واجبہ کی رقم تنخواہوں یا دیگر ضروریات مدرسہ میں صرف کرنا ۱۳۷
- ۲۴۷۷ مد زکوٰۃ سے مدرسین کی تنخواہ دینا ۱۳۸
- ۲۴۷۸ زکوٰۃ کی رقم سے مدرسین یا امام کو تنخواہ دینا ۱۴۰
- ۲۴۷۹ مد زکوٰۃ سے سفراء کی تنخواہ ۱۴۱
- ۲۴۸۰ ٹیوشن پڑھانے والے کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دینا ۱۴۲
- ۲۴۸۱ زکوٰۃ، فطرہ اور چرم قربانی کا پیسہ تنخواہ میں دینا ۱۴۴
- ۲۴۸۲ مد زکوٰۃ کی تملیک کے بعد مدرسین کے مشاہرات یا تعمیر میں صرف کرنا ۱۴۴

- ۴۴۸۳ زکوٰۃ کی رقم تنخواہ یا تعمیر میں صرف کرنے کی شرعی حیثیت..... ۱۴۵
- ۴۴۸۴ صدقات واجبہ کی رقم تنخواہوں اور تعمیرات میں صرف کرنا..... ۱۴۶
- ۴۴۸۵ مدارس کی تعمیر اور مدرس کی تنخواہ میں حیلہ تملیک سے مال زکوٰۃ دینا ۱۴۸
- ۴۴۸۶ زکوٰۃ کی رقم حیلہ کے بعد اساتذہ کی تنخواہ اور تعمیر میں لگانا..... ۱۵۰
- ۴۴۸۷ زکوٰۃ، صدقہ، چرم قربانی کی رقم تنخواہ و تعمیر میں لگانے کی ممانعت ۱۵۳
- ۴۴۸۸ مدرسہ کے مد زکوٰۃ کی رقم بطور قرض لے کر مسجد کی تعمیر میں لگالیا تو کیا کریں ۱۵۴
- ۴۴۸۹ زکوٰۃ، صدقات، فطرہ اور چرم قربانی کی رقم مسجد میں استعمال کرنا ۱۵۶
- ۴۴۹۰ زکوٰۃ کی رقم مسجد کی دکانوں میں لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ۱۵۷
- ۴۴۹۱ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ کی رقم سے مسافر خانہ تعمیر کرنا..... ۱۵۷
- ۴۴۹۲ مد زکوٰۃ سے فقراء کیلئے، مکانات، ہسپتال اور مدرسوں کی تعمیر..... ۱۵۸
- ۴۴۹۳ تملیک کے بعد مسجد و مدرسہ کی عمارت میں صرف کرنے والے کو ۱۵۹
- زکوٰۃ کی رقم دینا.....
- ۴۴۹۴ زکوٰۃ کی تملیک کرا کے عمارت میں لگانا..... ۱۶۰
- ۴۴۹۵ بلا حیلہ تملیک رقم زکوٰۃ تعمیر میں لگانا..... ۱۶۱
- ۴۴۹۶ کیا زکوٰۃ کی رقم تعمیر میں صرف کرنا جائز ہے؟..... ۱۶۲
- ۴۴۹۷ تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کا حکم..... ۱۶۳
- ۴۴۹۸ مدرسہ کی عمارت میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کا حکم..... ۱۶۴
- ۴۴۹۹ زکوٰۃ کی رقم مدرسہ کی عمارت میں لگانا..... ۱۶۵
- ۴۵۰۰ بلا ضرورت تعمیر کیلئے تملیک جائز نہیں..... ۱۶۶
- ۴۵۰۱ اراضی مدرسہ کی خریداری اور تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم لگانا..... ۱۶۷

۱۶۸	زکوٰۃ کی رقم مدرسہ کی تعمیر یا مدرسہ کی تنخواہ میں استعمال کرنا.....	۲۵۰۲
۱۶۹	زکوٰۃ کی رقم بعد تملیک مدرسہ میں صرف کرنا.....	۲۵۰۳
۱۷۰	تملیک کے بعد زکوٰۃ کی رقم تعمیر میں صرف کرنا.....	۲۵۰۴
۱۷۱	تملیک کے بعد زکوٰۃ کی رقم مسجد میں صرف کرنا.....	۲۵۰۵
۳۷۲	تملیک کے بعد زکوٰۃ کی رقم تعمیر میں لگانا جائز ہے.....	۲۵۰۶
۱۷۳	بغیر تملیک کے زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ بنانا اور اسکول کیلئے کرایہ دینا.....	۲۵۰۷
۱۷۴	زکوٰۃ فطرہ کی رقم مدرسہ کی عمارت میں صرف کرنا.....	۲۵۰۸
۱۷۵	زکوٰۃ وچرم قربانی کی رقم سے مدرسہ کی زمین خریدنا اور تعمیر کرنا.....	۲۵۰۹
۱۷۶	زکوٰۃ، صدقات یا چرم قربانی کا روپیہ تعمیر مدرسہ میں لگانا.....	۲۵۱۰

۱۰/ باب: سفراء کے احکام

۱۷۹	سفراء مدارس اور عالمین کے درمیان فرق ہے.....	۲۵۱۱
۱۸۲	کیا سفراء عالمین کے حکم میں ہیں؟.....	۲۵۱۲
۱۸۲	مہتمم معطین و طلبہ دونوں کا وکیل.....	۲۵۱۳
۱۸۵	مہتمم و سفراء طلبہ و معطین دونوں کے وکیل.....	۲۵۱۴
۱۸۵	چندہ کے لئے مدرسہ کی تصویر لینا.....	۲۵۱۵
۱۸۶	چندہ دہندگان کو اختیار ہے جس کو چاہیں دیں.....	۲۵۱۶
۱۸۸	کیا چندہ دہندگان کی آمدنی کی تحقیق لازم ہے؟.....	۲۵۱۷
۱۸۹	حلال و حرام کاروباری شخص سے چندہ لینا.....	۲۵۱۸
۱۹۱	خنزیر کے بالوں سے برش بنانے والوں کا چندہ لینا.....	۲۵۱۹
۱۹۲	برادری، بدعتی اور ریڈیو والے کا مدرسہ میں چندہ دینا کیسا ہے؟.....	۲۵۲۰

۱۹۴	سفر کی شرعی حیثیت	۲۵۲۱
۱۹۵	وصولی کے ایام کے اخراجات کی رقم تنخواہ سے وضع کرنا	۲۵۲۲
۱۹۶	کیا پورے دن وصولی کرنا لازم ہے؟	۲۵۲۳
۱۹۶	سفراء حضرات کا تحائف قبول کرنا	۲۵۲۴
۱۹۸	سفر کو زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے میں کلی اختیار دینا	۲۵۲۵
۱۹۸	سفر کا بوقت ضرورت مدرسہ کی رقم استعمال کرنا	۲۵۲۶
۲۰۰	سفر کا فضول خرچی کرنا جائز نہیں	۲۵۲۷
۲۰۰	کیا سفیر دوران سفر اعلیٰ کھانا کھا سکتا ہے؟	۲۵۲۸
۲۰۱	سفر اء کا زکوٰۃ کی رقم سفر و طعام میں خرچ کرنا	۲۵۲۹
۲۰۲	سفر کا سائیکل کی مرمت مدرسہ کی رقم سے کروانا	۲۵۳۰
۲۰۳	سفر کا دوران سفر رشتہ داروں کے یہاں کھانا کھا کر سفر خرچ میں لکھنا	۲۵۳۱
۲۰۳	کیا لفٹ ملنے والے سفیر کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے؟	۲۵۳۲
۲۰۶	مدرسہ کا چندہ سفیر کے پاس امانت ہوتا ہے	۲۵۳۳
		محصلین کا واجب التملیک اور غیر واجب التملیک رقم کو	۲۵۳۴
۲۰۷	ایک ہی جیب میں رکھنا	۲۵۳۵
۲۰۸	سفر کا چندہ کی رقم ذاتی استعمال میں لانا	۲۵۳۶
۲۰۹	محصلین کا بطور قرض چندہ کی رقم لینا	۲۵۳۷
۲۱۰	چندہ کرنے والے مدارس کا اسی رقم سے سفر خرچ اور تنخواہ لینا	۲۵۳۸
۲۱۱	وکیل کا زکوٰۃ کی رقم اپنے خرچ میں لانا اور مدرسہ کا رجسٹر اپنے نام کرنا	۲۵۳۹
۲۱۳	وکیل کے پاس رقم آتے ہی موکل کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے	

۲۱۴	بلا تملیک چندہ کی رقم ذاتی استعمال میں لانا	۲۵۴۰
۲۱۵	مدرسہ کے فنڈ میں جمع کئے بغیر تنخواہ وصول کرنا	۲۵۴۱
۲۱۶	مکتب کے استاذ کا چندہ وصول کر کے اپنی تنخواہ لینا	۲۵۴۲
۲۱۷	مدرسین کا چندہ کی رقم بلا تملیک تنخواہ کے طور پر رکھنا	۲۵۴۳
۲۱۸	تملیک سے قبل مدرس سفیر کا اپنی تنخواہ وصول کرنا	۲۵۴۴
۲۱۹	بغیر تملیک کے مدرس کا زکوٰۃ کی رقم اپنی تنخواہ میں وضع کرنا	۲۵۴۵
۲۲۰	سفراء مدارس کا اپنی تنخواہ خود تملیک کر کے لینا	۲۵۴۶
۲۲۱	سفیر کا زکوٰۃ کی رقم میں تبدیلی کرنا	۲۵۴۷
۲۲۲	چندہ کی رقم ذاتی رقم سے مخلوط ہو جائے تو کس طرح علیحدہ کریں؟	۲۵۴۸
۲۲۳	موکل کا زکوٰۃ کی رقم ذاتی استعمال میں لا کر دوبارہ غریب کو دینا	۲۵۴۹
۲۲۴	وکیل کا زکوٰۃ کی رقم اپنی ضروریات میں خرچ کر کے	۲۵۵۰
۲۲۵	دوسرے روپیوں سے ادا کرنا	۲۵۵۱
۲۲۶	مدرسہ سے چور کے پیسہ چھین کر فرار ہونے کی صورت میں رمضان کا حکم	۲۵۵۲
۲۲۷	محصلین سے زکوٰۃ کی رقم چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۲۵۵۳
۲۲۹	چندہ کی رقم کھو جائے تو رمضان کا حکم	۲۵۵۴
۲۳۰	سفیر سے زکوٰۃ کی رقم چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۲۵۵۵
۲۳۱	چندہ کرتے وقت زکوٰۃ کی رقم چوری ہو جانے کا حکم	۲۵۵۶
۲۳۳	باہر جا کر قرآن سنانے والے مدرس کو رمضان کی تنخواہ نہ دینے کا فیصلہ	۲۵۵۷
۲۳۴	چندہ کرنے والے مدرس کو تنخواہ سے زائد رقم دینا	۲۵۵۸
۲۳۶	مدرس کو حسن کارکردگی پر انعام دینا	۲۵۵۹

۲۳۷	تنخواہ دارمحصلین کو فیصد کے حساب سے رقم دینا	۲۵۵۹
۲۳۸	مدرسین کو چندہ کا معاوضہ دینا	۲۵۶۰
۲۳۸	تنخواہ دار ملازم کو حسن کارکردگی کی بناء پر فیصدی انعام	۲۵۶۱
۲۴۰	حسن کارکردگی کے عوض فی صدی انعام	۲۵۶۲
۲۴۱	سفر اور ملازمین کو حسن کارکردگی پر فیصدی انعام	۲۵۶۳
۲۴۲	مدرسین کو رمضان المبارک میں چندہ کرنے پر انعام یا ڈبل تنخواہ دینا	۲۵۶۴
۲۴۳	چندہ کرنے والے مدرسین کو انعام دینا	۲۵۶۵
۲۴۴	چندہ وصول کنندہ کو تنخواہ سے زائد رقم دینا	۲۵۶۶
۲۴۵	مدرس سفیر کو ڈبل تنخواہ دینا	۲۵۶۷
۲۴۶	کمیشن پر چندہ کرنے سے متعلق چند سوالات	۲۵۶۸
۲۵۰	کمیشن پر چندہ	۲۵۶۹
۲۵۲	کمیشن لینے کے باوجود منکر کی امامت کا حکم	۲۵۷۰
۲۵۳	کمیشن پر چندہ کی دو صورتیں	۲۵۷۱
۲۵۵	تنخواہ دار ملازم کو فیصدی انعام دینا	۲۵۷۲
۲۵۶	زکوٰۃ کے پیسہ سے انعام کا لینا	۲۵۷۳
۲۵۷	اجرت پر چندہ کرنا	۲۵۷۴
۲۵۸	غیر ملازم کا نصف انصافی کمیشن پر چندہ کرنا	۲۵۷۵
۲۶۰	پریسٹنٹ پر چندہ کرنا	۲۵۷۶
۲۶۰	غیر تنخواہ دار ملازم کا کمیشن پر چندہ کرنا	۲۵۷۷
۲۶۱	رسید کاٹنے والا انعام کا مستحق ہے	۲۵۷۸

۲۶۲ پچاس فیصد کمیشن پر چندہ کرانے کا حکم	۲۵۷۹
۲۶۳ کمیشن یا انعام پر چندہ کرانے کا حکم	۲۵۸۰
۲۶۵	سال میں پچاس ہزار روپے کے وصولیابی کی شرط پر سفیر کی تنخواہ مقرر کرنا	۲۵۸۱
۲۶۶ آدھا آدھا چندہ تقسیم کرنے کی شرط پر چندہ کرانا	۲۵۸۲
۲۶۷ چندہ کرنے والوں کو کمیشن دینا	۲۵۸۳
۲۶۸ کمیشن پر چندہ کرنے سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۲۵۸۴
۲۶۹ زکوٰۃ کی رقم بنام انعام سفیر کو دینا	۲۵۸۵
۲۷۱ کیا چندہ پر کمیشن لینا از روئے شرع درست ہے؟	۲۵۸۶
۲۷۲ کمیشن پر چندہ اور فیصدی انعام	۲۵۸۷
۲۷۳ رمضان سفیر کا پورے سال کی تنخواہ لینا	۲۵۸۸
۲۷۴ فیصد کے اعتبار سے چندہ کرنے پر انعام	۲۵۸۹
۲۷۵ کمیشن پر چندہ اور سفراء کا تملیک سے قبل اپنی تنخواہ نکال لینا	۲۵۹۰
۲۷۶ چندے کی رقم سے تنخواہ کیساتھ ۲۵/۲۰ فیصد رقم لینا	۲۵۹۱
۲۷۶ کیا تنخواہ دار مدرس کا چندہ پر فیصدی انعام لینا درست ہے؟	۲۵۹۲
	۱۱/ باب: مکاتب میں زکوٰۃ صرف کرنے کا حکم	
۲۸۰ مکتب میں زکوٰۃ	۲۵۹۳
۲۸۱ مکاتب میں زکوٰۃ دینا	۲۵۹۴
۲۸۳ مکتب زکوٰۃ و صدقات کا مصرف نہیں	۲۵۹۵
۲۸۴ کیا مکتب کے اخراجات کیلئے زکوٰۃ کی وصولیابی درست ہے؟	۲۵۹۶
۲۸۷ محض مقامی طلبہ والے مدرسہ کے ذمہ داروں کا زکوٰۃ وصول کرنا	۲۵۹۷

- ۲۵۹۸ کس وقت مکتب کے لئے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا جائز ہے؟.....
- ۲۵۹۹ مکتب میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز نہیں.....
- ۲۶۰۰ غیر مستحق غریب مکتب والوں کا زکوٰۃ وصول کرنا.....
- ۲۶۰۱ مقامی مدارس زکوٰۃ کے مستحق نہیں؟.....
- ۲۶۰۲ کیا مقامی حفظ قرآن کے مدرسے زکوٰۃ کے مصرف ہیں.....
- ۲۶۰۳ غیر اقامتی مدارس و مکاتب میں صدقات واجبہ کی رقم دینا.....
- ۲۶۰۴ غیر اقامتی مدارس میں زکوٰۃ فطرہ صدقہ کی رقم دینا.....
- ۲۶۰۵ پرائمری درجات کے مدارس میں زکوٰۃ و صدقات دینا.....
- ۲۶۰۶ مقامی یتیم بچوں والے مدرسے میں زکوٰۃ کا حکم.....
- ۲۶۰۷ اپنے گھر میں جاری کردہ مدرسہ کیلئے صدقات واجبہ لینا.....
- ۲۶۰۸ مکتب میں زکوٰۃ کی رقم لگانا.....
- ۲۶۰۹ مقامی مکتب میں زکوٰۃ دینا.....
- ۲۶۱۰ بچیوں سے فیس وصول کرنے والے مکتب میں زکوٰۃ دینے کا حکم.....
- ۲۶۱۱ مکتب میں بچوں سے فیس اور زکوٰۃ لینا.....
- ۲۶۱۲ مکتب میں حیلہ تملیک کا حکم.....
- ۲۶۱۳ جس مکتب میں مستحق زکوٰۃ طلبہ نہ ہوں وہاں تملیک کا حکم.....
- ۲۶۱۴ مکتب کے مصلین کو زکوٰۃ دینا.....
- ۲۶۱۵ مکتب کی تعمیر کیلئے حیلہ تملیک کرنے کی اجازت نہیں.....
- ۲۶۱۶ مکتب کے بچوں کی کتاب و کاپی خریدنے کیلئے تملیک کی اجازت نہیں.....
- ۲۶۱۷ مکتب میں بعد تملیک زکوٰۃ و صدقہ کی رقم صرف کرنا.....

۳۱۶	مکتب میں زکوٰۃ کی رقم تملیک یا بلا تملیک استعمال کرنے کا حکم	۳۶۱۸
۳۱۷	مکتب کے استاذ کو تملیک کے بعد زکوٰۃ کی رقم دینا.....	۳۶۱۹
	□ ۱۲/باب: اسکول میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنے کا حکم	
۳۱۹ اسکول میں زکوٰۃ کی رقم لگانا.	
۳۱۹ جو نیئر ہائی اسکول میں زکوٰۃ کی رقم	۳۶۲۱
۳۲۰ جو نیئر اسکول میں حیلہ سے مال زکوٰۃ صرف کرنا	۳۶۲۲
۳۲۲ کمیٹی کا مکتب میں زکوٰۃ کاروپہ دینا.	۳۶۲۳
۳۲۳ مخلوط تعلیم والے مدرسہ میں زکوٰۃ	۳۶۲۴
۳۲۳ مدرسہ کے نام پر چلنے والے اسکول میں زکوٰۃ دینا	۳۶۲۵
۳۲۵ کیا زکوٰۃ کی رقم مشترکہ مدرسہ و اسکول میں دینے سے ادا ہو جائے گی	۳۶۲۶
۳۲۶ زکوٰۃ کی رقم اسپتال و اسکول میں لگانا.	۳۶۲۷
۳۲۷ غیر سرکاری ہاسپٹل میں زکوٰۃ	۳۶۲۸
۳۲۸ زکوٰۃ اور چرم قربانی کی رقم حیلہ تملیک کے بعد اسکول میں صرف کرنا	۳۶۲۹
۳۲۹ کسی کمیٹی کا انجمن کو زکاۃ کی رقم سے چلانا	۳۶۳۰
۳۳۰ زکوٰۃ کی رقم اسکول کی ماہانہ فیس وغیرہ میں صرف کرنا	۳۶۳۱
۳۳۲ زکوٰۃ کی رقم سے اسکولی غریب بچوں کی فیس جمع کرنا	۳۶۳۲
۳۳۳ اسکول کے اساتذہ کی تنخواہ مد زکوٰۃ سے دینا	۳۶۳۳
۳۳۴ زکوٰۃ کی رقم ہائی اسکول اور ماسٹروں کی تنخواہ میں دینا	۳۶۳۴
 حیلہ تملیک کے بعد دینی مدرسہ کے پرائمری درجات کے	۳۶۳۵
۳۳۵ ماسٹروں کو تنخواہ دینا	

۱۳ / باب العشر والخراج



۳۳۷ عشر زکوٰۃ ہے یا امداد و صدقہ	۴۶۳۶
۳۳۷ گنے کی قیمت پر زکوٰۃ کا حکم	۴۶۳۷
۳۳۸ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کا حکم	۴۶۳۸
۳۳۹ گنے کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ	۴۶۳۹
۳۳۹ زرعی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں	۴۶۴۰
۳۴۰ آسام کی زمین عشری ہے یا خراجی	۴۶۴۱
۳۴۱ ہندوستان کی کونسی زمین میں عشر واجب ہے؟	۴۶۴۲
۳۴۲ ہندوستانی زمینیں عشری ہیں یا نہیں؟	۴۶۴۳
۳۴۲ موجودہ ہندوستانی زمین عشری ہے یا نہیں؟	۴۶۴۴
۳۴۲ کیا موجودہ ہندوستانی زمینیں عشری ہیں؟	۴۶۴۵
۳۴۲ ہندوستان کی زمین عشری ہے یا خراجی	۴۶۴۶
۳۴۶ ہندوستانی زمینوں کی عشری حیثیت	۴۶۴۷
۳۴۸ ہندوستانی زمین کی پیداوار کا حکم	۴۶۴۸
۳۴۹ مؤونت الخراج میں کب عشر اور کب نصف عشر واجب ہے؟	۴۶۴۹
۳۵۳ ہندوستانی زمین کی پیداوار سے عشر نکالے بغیر فروخت کرنا	۴۶۵۰
۳۵۳ مال عشر سے مکتب کے اساتذہ کو تنخواہ دینا	۴۶۵۱
۳۵۴ صدقہ اور عشر کے غلہ سے مدرسین کا کھانا کھانا	۴۶۵۲
۳۵۵ عشر کی رقم سے ہتھیار خریدنا، محلہ یا عید گاہ کی سڑک بنانا یا کتابیں خریدنا	۴۶۵۳

(۱۲) کتاب الصدقات

۳۵۶	صدقہ نافلہ و واجبہ کی تعریف	۴۶۵۴
۳۵۷	صدقہ واجبہ اور نافلہ کا مصرف	۴۶۵۵
۳۵۸	ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کا ثواب ستر گنا ملتا ہے	۴۶۵۶
۳۶۲	روزانہ صدقہ ضروری ہے یا اکٹھے کئی دنوں کا صدقہ کر سکتے ہیں؟	۴۶۵۷
۳۶۲	اہل قرابت کو بغیر بتائے صدقہ خیرات کا حکم	۴۶۵۸
۳۶۳	آمدنی کا چالیسواں حصہ اللہ کے نام پر نکالنے کی نیت کی اس کا مصرف	۴۶۵۹
۳۶۴	اصول و فروع کو کون سا صدقہ دے سکتے ہیں؟	۴۶۶۰
۳۶۵	ضرورت مند سید کو نقلی صدقہ دینا	۴۶۶۱
۳۶۶	امام کی تنخواہ کیلئے چندہ	۴۶۶۲
۳۶۷	پرانے کپڑوں کا مصرف	۴۶۶۳
۳۶۷	نقلی صدقات کی رقم سے وکیل عالم دین کا کتابیں خریدنا	۴۶۶۴
۳۶۸	چندہ کرنے والوں کا صدقہ کی رقم سے تیار کردہ کھانا خود کھانا کیسا ہے؟	۴۶۶۵
۳۶۹	ہندو کو صدقہ و خیرات دینا	۴۶۶۶
۳۷۰	کافر کو کون سا صدقہ دے سکتے ہیں؟	۴۶۶۷
۳۷۰	فساد زدگان کیلئے جمع شدہ رقم کو دوسرے مد میں صرف کرنا	۴۶۶۸
۳۷۱	کسی شخص کا اللہ کے نام پر سوال کرنا	۴۶۶۹
۳۷۲	پیشہ و فقیر کا ایک دن کا رزق ہونے کے باوجود سوال کرنا	۴۶۷۰
۳۷۴	طلبہ علوم دینیہ پر خرچ کرنا صدقہ ہے جس سے رجوع جائز نہیں	۴۶۷۱
۳۷۵	نذر وغیرہ صدقات کے گوشت کو خریدنا	۴۶۷۲
۳۷۵	کیا مسجد کیلئے استیحاء خانہ بنانا صدقہ جاریہ ہے؟	۴۶۷۳

۳۷۶ منظر میں کے لئے جمع شدہ رقم مسجد و مدرسہ میں دینا؟	۳۶۷۴
۳۷۷ نفلی حج بدل سے بہتر تعمیر مدرسہ	۳۶۷۵
۳۷۹ مرحوم والد کے نام سے صدقہ کرنے کی بہتر صورت	۳۶۷۶
۳۷۹ اولاد والدہ کا حج بدل کروائے یا اتنی رقم صدقات جاریہ میں لگا دے؟	۳۶۷۷
۳۸۱ منظوری نہ ملنے کے سبب حج بدل کی رقم کو صدقہ جاریہ میں لگانا	۳۶۷۸
۳۸۲ جان کے بدلے جان کی نیت سے جانور ذبح کرنا	۳۶۷۹
۳۸۴ دفع مرض کیلئے صدقہ کرنا	۳۶۸۰
۳۸۵ گوشت خریدنا کیسا ہے؟	۳۶۸۱
۳۸۶ کیا بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے؟	۳۶۸۲
۳۸۷ جان کے بدلے جان سمجھ کر مریض کی طرف سے بکرا ذبح کرنا	۳۶۸۳
۳۸۸ عمارت کی بنیاد میں خون ڈالنے کیلئے بکرا ذبح کرنا	۳۶۸۴

۱۳/ کتاب الصوم

۱/ باب الصوم و متعلقہ

۳۹۰ رمضان کے روزہ کی فرضیت کب ہوئی؟	۳۶۸۵
۳۹۱ روزہ کی نیت میں لفظ غد پر اشکال و جواب	۳۶۸۶
۳۹۲ بصوم غد نویت الخ کا ثبوت کس حدیث سے ہے؟	۳۶۸۷
۳۹۳ اف: ۳۶۸۸: مرض کے بڑھنے کے اندیشے کی وجہ سے افطار کرنا	۳۶۸۸
۳۹۴ ب: ۳۶۸۸: کیا اسقاط حمل کے بعد خون نہ آئے تو نماز روزہ واجب ہے؟	۳۶۸۹
۳۹۴ حالت نفاس میں روزہ کا حکم	۳۶۸۹

۲/باب رؤیة الهلال



- ۳۶۹۰ کیا رویت ہلال کے شرعی ضوابط پر عمل کرنا لازم ہے۔ ۳۶۹۶
- ۳۶۹۱ رؤیة الهلال کے شرعی اعلان پر عمل کرنا۔ ۳۶۹۷
- ۳۶۹۲ کیا مستند علماء کا فیصلہ رویت ہلال کے بارے میں واجب العمل ہے؟ ۳۶۹۸
- ۳۶۹۳ کیا ہلال کمیٹی کا اعلان معتبر ہے؟ ۳۶۹۹
- ۳۶۹۴ دارالعلوم کی خبر پر روزہ توڑنا۔ ۴۰۰
- ۳۶۹۵ رویت ہلال کے مسئلہ میں کس کی خبر معتبر ہے؟ ۴۰۰
- ۳۶۹۶ کتاب القاضی رالی القاضی کے تحت رویت ہلال کا فیصلہ۔ ۴۰۲
- ۳۶۹۷ امامت اور کتاب القاضی رالی القاضی کے شرائط۔ ۴۰۴
- ۳۶۹۸ ایک جگہ کی رویت کا کتنی مسافت تک اعتبار ہوگا؟ ۴۰۶
- ۳۶۹۹ کیا ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کی رویت کیلئے کافی ہے؟ ۴۰۸
- ۴۷۰۰ اختلاف مطالع۔ ۴۱۱
- ۴۷۰۱ کہاں تک کی رویت کا اعتبار ہوگا اور اختلاف مطالع سے کیا مراد ہے؟ ۴۱۴
- ۴۷۰۲ رمضان میں سعودیہ سے ہندوستان آنے والا شخص روزہ کب تک رکھے؟ ۴۱۶
- ۴۷۰۳ اختلاف مطالع کی وجہ سے ۳۲ روزے کی فرضیت کی ایک صورت ۴۱۶
- ۴۷۰۴ شرعی ثبوت کے بعد اختلاف کی وجہ سے عیدین کو مؤخر کرنا۔ ۴۱۸
- ۴۷۰۵ رمضان المبارک کی تاریخ میں اختلاف۔ ۴۲۰
- ۴۷۰۶ سوال بر جواب۔ ۴۲۱
- ۴۷۰۷ عید الفطر کی تاریخ میں اختلاف۔ ۴۲۱
- ۴۷۰۸ ہلال کمیٹی غلط اعلان کر دے تو کیا حکم ہے؟ ۴۲۲
- ۴۷۰۹ شرعی شہادت کے باوجود سابقہ اجتماعی غلط فیصلہ برقرار رکھنا۔ ۴۲۳
- ۴۷۱۰ شرعی شہادت کے باوجود بلا عذر عید الاضحیٰ کو ایک دن مؤخر کرنا۔ ۴۲۵

۴۲۹ سعودیہ عربیہ کی رویت ہلال کا فیصلہ معتبر ہے یا غیر معتبر.....	۴۷۱۱
۴۳۲ (الف) سعودیہ کی رویت ہندوستان کیلئے معتبر نہیں.....	۴۷۱۲
۴۳۲ (ب) کیا مکہ کی رویت ہندوستان کیلئے معتبر ہے؟.....	۴۷۱۲
۴۴۰ نینی تال کے پہاڑوں کے اوپر سے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار.....	۴۷۱۳
۴۴۱ ہیلی کا پٹر اور ہوائی جہاز سے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار.....	۴۷۱۴
۴۴۲ چشمہ لگا کر چاند دیکھنا.....	۴۷۱۵
۴۴۳ دور بین و خوردین کی رویت کا حکم.....	۴۷۱۶
۴۴۳ پاکستانی رویت ہلال کے شرعی اعلان پر ہندوستان میں عمل.....	۴۷۱۷
۴۴۴ ریڈیو کے ذریعے رویت ہلال کی خبر کا شرعی حکم.....	۴۷۱۸
۴۴۵ ریڈیو میں دلی سے اعلان.....	۴۷۱۹
۴۴۷ ریڈیو اسٹیشن کے اعلان پر اعلان کرنا.....	۴۷۲۰
۴۴۸ ریڈیو کی خبر کا اعتبار ہے یا نہیں.....	۴۷۲۱
۴۴۹ تارہ بلیٹون اور ریڈیو کی خبر کا حکم.....	۴۷۲۲
۴۵۱ آبزرویٹی کی پیشن گوئی سے رویت ہلال کے ثبوت کا حکم.....	۴۷۲۳

۳/ باب السحور و الإفطار



۴۵۵ منتہائے سحر اور صبح صادق سے قبل اذان فجر دینا.....	۴۷۲۴
۴۵۶ سحری کا وقت.....	۴۷۲۵
 سحری کا آخری وقت اور حدیث ابو داؤد میں اذان کے	۴۷۲۶
۴۵۷ وقت پانی پینے کا مطلب.....	
۴۵۹ دوران سحری اذان ہونے پر کھانا کھائے یا رک جائے.....	۴۷۲۷
۴۶۰ انتہائے سحر سے متعلق امداد الفتاویٰ کی عبارت کی توضیح.....	۴۷۲۸
۴۶۱ سحری سے قبل مسجدوں میں اٹھنے کا اعلان کرنا.....	۴۷۲۹

۴۶۲	سحری کیلئے لوگوں کو بیدار کرنا اور وقت بتانا.....	۴۷۳۰
۴۶۳	سحری کیلئے بیدار کرنے کی غرض سے وقفہ وقفہ سے اعلان کرنا.....	۴۷۳۱
۴۶۴	سحری و افطار کیلئے نثارہ بجانا.....	۴۷۳۲
۴۶۶	سحری اور افطار کی دعاء کا ثبوت.....	۴۷۳۳
۴۶۷	لاؤ ڈاؤ اسپیکر پر ختم سحری و طلوع آفتاب کا اعلان.....	۴۷۳۴
۴۶۸	حالت جنابت میں سحری کھانا.....	۴۷۳۵
۴۶۹	افطار کے وقت اذان دینا سنت ہے یا اعلان کرنا.....	۴۷۳۶
۴۷۰	سائرن اور اذان میں وقفہ ہو یا اذان اور جماعت میں؟.....	۴۷۳۷
۴۷۱	حرام کمائی کرنے والے کی افطار کا حکم.....	۴۷۳۸
۴۷۲	ہندوؤں کے یہاں افطار کرنے کا حکم.....	۴۷۳۹
۴۷۴	غیر مسلموں کے یہاں روزہ افطار کرنے کا حکم.....	۴۷۴۰
۴۷۴	ہندو کی افطاری سے افطار کرنا.....	۴۷۴۱
۴۷۵	غیر مسلم کے یہاں افطاری کرنے والے کے روزہ کا حکم.....	۴۷۴۲

۴/ باب ما یفسد الصوم و ما لا یفسد



۴۷۶	پائریا کے مریض کا خون پیٹ میں جانا.....	۴۷۴۳
۴۷۷	روزہ میں تمباکو پاؤ ڈر سے تیار شدہ توٹھ پیسٹ کا استعمال.....	۴۷۴۴
۴۷۸	روزہ میں گل منجن کرنا.....	۴۷۴۵
۴۷۹	روزے میں انجکشن، گلوکوز اور خون چڑھانا.....	۴۷۴۶
۴۸۰	روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانا اور گلوکوز چڑھوانا.....	۴۷۴۷
۴۸۱	روزہ دار کا انجکشن لگوانا یا خون نکلوانا.....	۴۷۴۸
۴۸۲	گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.....	۴۷۴۹
۴۸۳	بحالت صوم آنکھوں میں دوا ڈالنا.....	۴۷۵۰

۴۸۴ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا۔	۴۷۵۱
۴۸۵ کیا کان میں دوا ڈالنا مفسد صوم ہے؟	۴۷۵۲
۴۸۶ روزہ کی حالت میں خون دینا۔	۴۷۵۳
۴۸۷ روزہ کی حالت میں بدن میں خون یا گلوکوز چڑھوانا۔	۴۷۵۴
۴۸۸ روزہ کی حالت میں انجکشن لگا کر ڈاڑھ نکالنا۔	۴۷۵۵
۴۸۹ روزے کی حالت میں آپریشن کرانا۔	۴۷۵۶
۴۹۰ حالت صوم میں ڈائیلیسس کرانا۔	۴۷۵۷
۴۹۱ بحالت صوم پتہ کا آپریشن۔	۴۷۵۸
۴۹۲ حالت صوم میں پھیپھڑے سے پانی نکالنا۔	۴۷۵۹
۴۹۳ روزہ کی حالت میں انہیلر کا استعمال۔	۴۷۶۰
۴۹۷ بحالت صوم دمہ کے مریض کا انہیلر استعمال کرنا۔	۴۷۶۱
۴۹۸ کیا زبان کے نیچے دوا رکھنا مفسد صوم ہے؟	۴۷۶۲
۵۰۱ کیا کالج کو اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائیگا؟	۴۷۶۳
۵۰۲ بحالت صوم بوا سیری مسے کو اندر داخل کرنا۔	۴۷۶۴
۵۰۴ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم۔	۴۷۶۵
۵۰۵ روزہ کی حالت میں تھوک نگلنا۔	۴۷۶۶
۵۰۵ بحالت روزہ اگر بتی جلانا۔	۴۷۶۷
۵۰۷ حالت صوم میں اگر بتی اور دیگر دھوؤں کا حکم۔	۴۷۶۸
۵۰۸ روزہ کی حالت میں اگر بتی جلانا۔	۴۷۶۹
۵۰۹ بحالت صوم مشمت زنی۔	۴۷۷۰
۵۰۹ حالت صوم میں انزال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۷۷۱
۵۱۰ بحالت صوم امرد کی تقبیل اور معانقہ سے انزال ہونا۔	۴۷۷۲

۵۱۱	حالت صوم میں منہ کی بومض نہیں	۴۷۷۳
۵۱۳	حالت صوم میں بیوی سے بوس و کنار	۴۷۷۴
۵۱۴	بیوی کا تھوک نگلنے سے روزہ کا حکم	۴۷۷۵
۵۱۵	روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا	۴۷۷۶
۵۱۶	حالت صوم میں بیوی کو یاد کرنے سے انزال ہونا	۴۷۷۷
۵۱۷	روزہ دار کا مرتد ہو کر پھر اسلام لے آنا	۴۷۷۸
۵۱۸	غلطی سے وقت سے پہلے افطار کرنے کا حکم	۴۷۷۹

۵ / باب القضاء و الکفارة و الفدیة



۵۲۰	بغیر چاند دیکھے محض ریڈیو کی خبر پر ۳۰ رمضان کو افطار کرنا	۴۷۸۰
۵۲۱	اذان تک سحری کھانا	۴۷۸۱
۵۲۱	جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے کا حکم	۴۷۸۲
۵۲۲	روزہ کا فدیہ ادا کرنے کا شرعی طریقہ	۴۷۸۳
۵۲۳	روزہ کا فدیہ کن صورتوں میں ہے؟	۴۷۸۴
۵۲۴	فدیہ صوم کے مستحق کون؟	۴۷۸۵
۵۲۴	روزہ کا فدیہ کب اور کس کو دیا جائے؟ اور فدیہ کی مقدار	۴۷۸۶
۵۲۶	روزہ و نماز کا کفارہ	۴۷۸۷
۵۲۷	بچوں و جوان و مسکینوں کو کفارہ کا کھانا کھلانا	۴۷۸۸
۵۲۷	بہشتی زیور کتاب الصوم کے ایک مسئلہ کی تشریح	۴۷۸۹
۵۳۰	ماہواری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء یا فدیہ	۴۷۹۰
۵۳۱	شوگر کے مریض کو فدیہ ادا کرنا	۴۷۹۱
۵۳۲	بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ	۴۷۹۲
۵۳۴	بیس سال کے روزوں اور انیس سال کی نمازوں کا فدیہ	۴۷۹۳

۵۳۴ روزہ کافدیہ کا فرکو دینا	۴۷۹۴
۵۳۵ دائمی مرض اور صحت کی ناامیدی میں روزہ کافدیہ	۴۷۹۵
۵۳۶ دل کے مریض والے آدمی کا روزہ، امامت اور فدیہ کا حکم	۴۷۹۶
۵۳۸ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو کیا کرے؟	۴۷۹۷
۵۳۹ مرض کے سبب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں	۴۷۹۸
۵۴۰ رمضان میں سخت بیماری میں مبتلا مریض کیا کرے؟	۴۷۹۹
۵۴۱ ۵۵ سالہ آدمی شیخ فانی نہیں	۴۸۰۰
۵۴۲ سانس کی مریضہ کا روزہ میں مشین استعمال کرنا	۴۸۰۱
۵۴۳ اسہال کی وجہ سے روزہ توڑنا	۴۸۰۲
۵۴۵ مرضہ، حاملہ روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟	۴۸۰۳

۶/ باب الاعتکاف



۵۴۷ اعتکاف سے متعلق چند سوالات	۴۸۰۴
۵۴۹ کس مسجد میں اعتکاف مسنون ہے؟	۴۸۰۵
۵۵۰ غیر شرعی مسجد میں اعتکاف کا حکم	۴۸۰۶
۵۵۱ کیا اعتکاف کیلئے مسجد شرعی شرط ہے؟	۴۸۰۷
۵۵۲ گاؤں کی مسجد چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف	۴۸۰۸
۵۵۳ کیا نفلی اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے؟	۴۸۰۹
۵۵۴ دوران اعتکاف انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۸۱۰
۵۵۵ رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف مسنون ہے؟	۴۸۱۱
۵۵۶ کیا عورت کے اعتکاف میں بیٹھنے سے سنت ادا ہو جائیگی؟	۴۸۱۲
۵۵۷ خانقاہی اعتکاف	۴۸۱۳
۵۵۹ آخری عشرہ میں ایک دو دن یا تین دن کا اعتکاف	۴۸۱۴

۴۸۱۵	اعتکاف میں نیابت.....	۵۶۰
۴۸۱۶	حالت حیض میں اعتکاف.....	۵۶۱
۴۸۱۷	ایام حیض میں اعتکاف کرنا.....	۵۶۲
۴۸۱۸	اعتکاف کی حالت میں قرآن سننے کیلئے دوسری مسجد جانا.....	۵۶۳
۴۸۱۹	جس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟.....	۵۶۴
۴۸۲۰	کیا اعتکاف کی قضاء لازم ہے؟.....	۵۶۵
۴۸۲۱	بلا عذر شرعی اعتکاف کو فسخ کرنا.....	۵۶۶
۴۸۲۲	معتکف کا وضو کرنے کیلئے مسجد سے باہر نکلنا اور بیڑی پینا.....	۵۶۶
۴۸۲۳	حالت اعتکاف میں لیڈی ٹیچر کا اسکول میں حاضری دینا.....	۵۶۷
۴۸۲۴	حالت اعتکاف میں دو اکھا کروڑہ توڑ دینا.....	۵۶۹
۴۸۲۵	خادم کی موجودگی میں پانی لانے کیلئے معتکف کا مسجد سے باہر جانا.....	۵۶۹
۴۸۲۶	غسل تہرید کیلئے مسجد سے باہر نکلنے کا حکم؟.....	۵۷۰
۴۸۲۷	جنبی معتکف غسل کیلئے مسجد سے باہر کیسے نکلے؟.....	۵۷۱
۴۸۲۸	میت کی تجہیز و تکفین کیلئے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا.....	۵۷۲
۴۸۲۹	عشرہ اخیرہ کے اعتکاف میں نماز جنازہ کیلئے مسجد سے باہر نکلنا.....	۵۷۲
۴۸۳۰	وفیہ استحباب الاعتکاف الخ کی وضاحت.....	۵۷۷
۴۸۳۱	اعتکاف واجب اور نفل کے سلسلے میں عمدۃ القاری کی عبارت کی تشریح.....	۵۷۸
۴۸۳۲	قربت مشروعہ و مقصودہ سنت مؤکدہ ہے یا مستحب.....	۵۷۹
۴۸۳۳	عمدۃ القاری کی عبارت ”الاعتکاف مطلقاً“ کی وضاحت.....	۵۸۱
۴۸۳۴	سنت مؤکدہ، مستحب اور قربت مقصودہ.....	۵۸۲
۴۸۳۵	اعتکاف کی قضاء اور وقت.....	۵۸۵

۵۸۷ کیا نفلی روزہ رکھنے کیلئے بیوی کی اجازت ضروری ہے؟	۲۸۳۶
۵۸۸ شبِ برأت کی تعیین	۲۸۳۷
۵۸۸ لیلۃ القدر میں اجتماعی سورہ یا سین پڑھ کر دعا کرنے کا حکم	۲۸۳۸
۵۹۰ شوال کے چھ روزے کی فضیلت	۲۸۳۹
۵۹۱ نصف شعبان کے روزہ کی شرعی حیثیت	۲۸۴۰
۵۹۳ پندرہویں شعبان کو لیکر دیوبندی، بریلوی اور غیر مقلدین میں اختلاف	۲۸۴۱
۵۹۵ پندرہ شعبان کے روزے کا حکم	۲۸۴۲
۵۹۶ کیا صوم عاشوراء مفرداً مکروہ ہے؟	۲۸۴۳
۵۹۸ نویں ذی الحجہ کا روزہ کب رکھا جائے؟	۲۸۴۴
۵۹۹ سنیچر، صرف عاشوراء اور نوز کا روزہ کیوں مکروہ ہے؟	۲۸۴۵
۶۰۰ نفلی روزوں میں رمضان کے قضاء روزوں کی نیت	۲۸۴۶
۶۰۱ یوم الشک میں روزہ رکھنا	۲۸۴۷

۸/ باب صدقة الفطر



۶۰۳ صدقہ فطر سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۲۸۴۸
۶۰۶ کیا غریب شخص پر بھی صدقہ الفطر ادا کرنا لازم ہے؟	۲۸۴۹
۶۰۷ صدقہ فطر	۲۸۵۰
۶۰۷ فطرہ کی مقدار	۲۸۵۱
۶۰۸ صدقہ فطر کی مقدار	۲۸۵۲
۶۰۹ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟	۲۸۵۳
۶۱۰ تعداد صدقہ فطر	۲۸۵۴
۶۱۱ صدقہ الفطر کا وزن	۲۸۵۵

۶۱۳ موجودہ اوزان کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی مقدار	۲۸۵۶
۶۱۴ صدقۃ فطر ایک مسکین کو دیا جائے یا متعدد کو؟	۲۸۵۷
۶۱۵ مقررین صدقۃ فطر میں کھجور کا نصاب کیوں نہیں بیان کرتے؟	۲۸۵۸
۶۱۶ مالدار مسافر پر صدقۃ فطر لازم ہونے میں کہاں کے مال کا اعتبار؟	۲۸۵۹
۶۱۷ وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا جہاں سے صدقۃ فطر ادا کیا جائے	۲۸۶۰
۶۱۸ فطرہ کی رقم کنٹرول ریٹ سے لگائی جائے یا بازار ریٹ سے؟	۲۸۶۱
۶۱۹ صدقۃ فطر میں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟	۲۸۶۲
۶۲۰ صدقۃ الفطر کی ادائے گی میں کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہے	۲۸۶۳
۶۲۱ صدقۃ فطر کن کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟	۲۸۶۴
۶۲۲ صحابہ کرام کا کشمش اور کھجور سے صدقۃ فطر ادا کرنا	۲۸۶۵
۶۲۳ چاول کے ذریعہ سے صدقۃ فطر ادا کرنا	۲۸۶۶
۶۲۳ صدقۃ فطر کے روپیہ سے کپڑا دینا	۲۸۶۷
۶۲۴ صدقۃ فطر کی رقم دوسری جگہ ارسال کرنا	۲۸۶۸
۶۲۵ صدقۃ فطر و چرم قربانی کی رقم مدرسہ کی تعمیر میں لگانا	۲۸۶۹
۶۲۵ کیا فطرہ کی رقم مکتب میں صرف کرنا درست ہے؟	۲۸۷۰
۶۲۶ غیر مالک نصاب شخص کو صدقۃ الفطر و چرم قربانی کی رقم دینا	۲۸۷۱
۶۲۷ صدقۃ فطر کی رقم دوسرے ملک میں بھیجنا	۲۸۷۲
۶۲۸ کیا غیر مالک نصاب ملازم صدقہ کا مصرف ہے؟	۲۸۷۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۱۲ / کتاب الحج

صفحہ نمبر	۱ / باب من يجب عليه الحج	□
۳۲	حج کب فرض ہوا؟ اور کیا حضور ﷺ نے فرضیت سے قبل کوئی حج کیا؟	۲۸۷۴
۳۳	حج فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنے کا گناہ	۲۸۷۵
۳۴	حج فرض ہونے کے بعد ادا نہ کیے میں تاخیر نہ کریں	۲۸۷۶
۳۵	حج کس پر فرض ہوتا ہے؟	۲۸۷۷
۳۷	کیا حاجی پر واپسی تک گھر والوں کا نان و نفقہ لازم ہے؟	۲۸۷۸
۳۸	استطاعت سے پہلے حج کرنا	۲۸۷۹
۳۹	حاجیوں کو مع اپنی محرم عورتوں کے مسائل حج سیکھنے کے لئے جمع کرنا ..	۲۸۸۰
۴۰	کیا نفلی حج کرنے والوں کی وجہ سے حج فرض کرنے والوں کی درخواست منظور نہیں ہوتی	۲۸۸۱
۴۲	کیا ماہ شوال مکہ میں پانے والے پر حج فرض ہے؟	۲۸۸۲
۴۳	رمضان میں عمرہ کرنا بہتر ہے یا نفلی حج؟	۲۸۸۳
۴۴	عورت کے لئے نفلی حج بہتر ہے یا کار خیر میں رقم صرف کرنا	۲۸۸۴
۴۶	منظوری نہ ملنے کی وجہ سے حج کی رقم علاج میں خرچ ہو جانے پر کیا حج نہ کرنے کا گناہ ملے گا؟	۲۸۸۵
۴۸	بو اسیر کے مریض کا حج کرنا	۲۸۸۶

- ۲۸ پہلے حج بدل کی قسم کھانے کا حکم ۲۸۸۷
- ۵۰ مستطیع کے لئے پہلے حج کو جانا لازم ہے یا بیرون ملک جماعت میں؟ ... ۲۸۸۸
- ۵۱ باپ کی فیملی میں رہ کر کمانے والے شخص پر کیا حج فرض ہے؟ ۲۸۸۹
- ۵۲ والدین کا اولاد کے مال سے حج کرنا ۲۸۹۰
- ۵۳ کیا باپ کے حج سے پہلے بیٹے کا حج ہو جائے گا؟ ۲۸۹۱
- ۵۴ غرباء کو حج کرانے کے لئے چندہ جمع کرنا ۲۸۹۲
- ۵۵ رشتہ طے ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے نام سے حج کی درخواست دینا ۲۸۹۳
- ۵۶ اشہر حج آنے سے قبل مستطیع کے روپے تلف ہو گئے ۲۸۹۴
- ۵۷ حج نہ کر کے اس کی رقم دیگر دینی مصارف میں خرچ کرنا ۲۸۹۵
- ۵۸ وعدہ خلافی کر کے حج نہ کرانا ۲۸۹۶
- ۵۹ لوگوں کے حق مار کر حج کو جانا ۲۸۹۷
- ۶۰ بہن کا حصہ نہ دینے والے کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ ۲۸۹۸
- ۶۱ ایضاً ۲۸۹۹
- ۶۲ بھائی کا بہنوں کا حصہ نہ دے کر حج کو جانا ۲۹۰۰
- ۶۳ ضعیف و کمزور والدہ کو حج پر لیجائیں یا اہلیہ کو؟ ۲۹۰۱
- ۶۵ حج پر والدہ کو ساتھ لے جائیں یا بیوی کو؟ ۲۹۰۲
- ۶۵ حج کے لئے بیوی کو ساتھ لے جائیں یا والدہ کو؟ ۲۹۰۳
- ۶۶ چھوٹی بیوی کو حج پر ساتھ لے جانے سے کیا بڑی بیوی کی حق تلفی نہ ہوگی؟ ۲۹۰۴
- ۶۸ کیا زمین کو فروخت کر کے حج پر جانا ضروری ہے؟ ۲۹۰۵
- ۶۹ کیا زیورات کو بیچ کر حج کرنا ضروری ہے؟ ۲۹۰۶
- ۷۰ حج کے لئے جمع شدہ رقم سے حج کرے یا مکان کا کرایہ ادا کرے؟ ... ۲۹۰۷
- ۷۱ تعمیر مکان، بچوں کی شادی اور حج میں سے پہلے کس کو انجام دیں؟ .. ۲۹۰۸

- ۴۹۰۹ جج فرض ہونے کے بعد سارے روپے شادی اور عمارت میں لگانے کا حکم .. ۷۲
- ۴۹۱۰ مستطیع پہلے حج کرے یا اولاد کی شادیوں کا نظم؟ ۷۴
- ۴۹۱۱ لڑکی کی رخصتی کرے یا نقلی حج؟ ۷۵
- ۴۹۱۲ بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا ۷۶
- ۴۹۱۳ لڑکی کی شادی کریں یا حج؟ ۷۸
- ۴۹۱۴ غیر مستطیع کا قرض لے کر حج کو جانا ۷۹
- ۴۹۱۵ فیس دے کر حج کی منظوری کرانا ۸۰
- ۴۹۱۶ تصویروں کی آمدنی سے حج کرنے کا حکم ۸۱
- ۴۹۱۷ حجامت کی آمدنی سے حج کرانے کا حکم ۸۳
- ۴۹۱۸ وکالت کی آمدنی سے حج بیت اللہ کرنے کی شرعی حیثیت ۸۴
- ۴۹۱۹ حج یا عمرہ کے لئے حلال اور پاک مال ضروری ہے ۸۵
- ۴۹۲۰ مال مخلوط میں سے صرف حلال مال سے حج کرنا ۸۶
- ۴۹۲۱ مال حرام سے حج کرنا ۸۷
- ۴۹۲۲ بقدر استطاعت مال حرام ہو تو حج کا حکم ۸۹
- ۴۹۲۳ رشوت دے کر حج کرنا ۹۰
- ۴۹۲۴ حج کی منظوری کرانے کے لئے رشوت دینے کا حکم ۹۱
- ۴۹۲۵ بینک سے لون لے کر حج کرنا ۹۲
- ۴۹۲۶ بینک سے قرض لے کر حج کو جانا ۹۳
- ۴۹۲۷ حج کے لئے بینک سے قرض لینا ۹۴
- ۴۹۲۸ پگڑی کی رقم سے حج کرنے کا حکم ۹۵
- ۴۹۲۹ سرکاری ملازم کا بیماری کی چھٹی لے کر حج کو جانا ۹۶
- ۴۹۳۰ سعودی میں دوران ملازمت حج کرنے کا حکم ۹۷

۹۸ حکومت کے قانون کے خلاف ہر سال حج کرنا	۴۹۳۱
۹۹ دوران حج ایکسیڈنٹ کی بنا پر حج کمیٹی سے رقم لینا	۴۹۳۲
۱۰۰ حکومت ہند سے حاجیوں کو ملنے والی سبسڈی جائز ہے یا نہیں؟	۴۹۳۳
۱۰۱ قرعہ اندازی کے ذریعہ حج ادا کرنے کا حکم	۴۹۳۴
۱۰۳ حج و عمرہ کی مختلف اسکیموں کا حکم	۴۹۳۵
۱۰۴ حج بیسی اور اس کے ذریعہ حج کا حکم	۴۹۳۶
۱۰۶ حج کمیٹی اور ٹور ایجنٹ اجیر ہیں یا وکیل بالآجرہ؟	۴۹۳۷
۱۰۸ دوران حج خارجی اوقات میں تجارت کرنا	۴۹۳۸
۱۰۹ سفید صحن مسجد حرام میں داخل ہے یا نہیں؟	۴۹۳۹
۱۱۰ کیا حاجیوں پر عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے؟	۴۹۴۰

۱۱۲	۲ / باب اشتراط المحرم للمرأة	□
-----	------------------------------	---

۱۱۲ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟	۴۹۴۱
۱۱۳ محرم کا خرچ نہ ہونے کی صورت میں عورت پر حج فرض نہیں	۴۹۴۲
۱۱۴ عورتوں کا بے پردہ حج پر جانا	۴۹۴۳
۱۱۶ شوہر بیوی کو حج کرائے تو کونسا حج ادا ہوگا؟	۴۹۴۴
۱۱۷ عورت کے ساتھ جانے والے محرم کا کونسا حج ادا ہوگا؟	۴۹۴۵
۱۱۸ عورت بلا محرم سفر حج پر نہیں جاسکتی	۴۹۴۶
۱۱۹ مشتبہ عورت کا بلا محرم حج کو جانا	۴۹۴۷
۱۲۰ بلا محرم شرعی عورت کا حج کے لئے جانا	۴۹۴۸
۱۲۱ کیا بیوی بغیر شوہر کے حج کر سکتی ہے؟	۴۹۴۹
۱۲۱ ایئر پورٹ سے ایئر پورٹ تک محرم یا شوہر کے ساتھ اور جہاز میں بلا محرم سفر ..	۴۹۵۰
۱۲۳ مشتبہ عورت کا بغیر محرم کے ۲۸ میل کا سفر کرنا	۴۹۵۱

۱۲۵	عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا	۲۹۵۲
۱۲۶	شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۵۳
۱۲۸	غیر محرم کے ساتھ حج کا سفر کرنا	۲۹۵۴
۱۲۹	شوہر کے مقروض ہونے کی حالت میں بیوی کا حج کرنا	۲۹۵۵
۱۳۰	حج کے لئے غیر محرم عورتوں کو ساتھ لے جانا	۲۹۵۶
۱۳۱	شوہر کی مرضی کے بغیر داماد کے ساتھ حج پر جانا	۲۹۵۷
۱۳۲	داماد کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۵۸
۱۳۳	کیا عورت داماد کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے؟	۲۹۵۹
۱۳۴	اپنی بیوی کے ساتھ پھوپھی زاد بہن کو حج پر لے جانا	۲۹۶۰
۱۳۵	بہو کا اپنی ساس کے ہمراہ غیر محرم کی معیت میں سفر حج کرنا	۲۹۶۱
۱۳۶	سالی کا بہنوئی کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۶۲
۱۳۷	عورت کا بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۶۳
۱۳۸	بیٹے کے ساتھ انتقال شدہ بہن کی طرف سے حج بدل کو جانا	۲۹۶۴
۱۳۹	محرم نہ ہونے کی صورت میں سہیلی کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۶۵
۱۴۰	عورت کا اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۶۶
۱۴۱	بیوہ کا اپنی بہن اور بہنوئی کے ہمراہ حج کو جانا	۲۹۶۷
۱۴۲	عورت اپنے دیور کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے یا نہیں؟	۲۹۶۸
۱۴۳	کیا بھابھ دیور کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے؟	۲۹۶۹
۱۴۴	بنائے ہوئے بھائی کے ساتھ حج پر جانا	۲۹۷۰
۱۴۵	چچی کا بھتیجے کے ساتھ حج کو جانا	۲۹۷۱
۱۴۵	دورانِ عدت حج کا سفر کرنا	۲۹۷۲
۱۴۶	حالتِ عدت میں سفر حج	۲۹۷۳

- ۴۹۷۴ حمل کی وجہ سے حج کو ملتوی کرنا ۱۴۷
- ۴۹۷۵ دوران سفر شوہر کا انتقال ہو گیا ۱۴۸
- ۴۹۷۶ مکہ میں حج سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا ۱۴۹
- ۴۹۷۷ دوران حج شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ ۱۵۰
- ۴۹۷۸ سفر حج کی پرواز سے قبل شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی حج بدل کرے؟ ۱۵۱
- ۴۹۷۹ عورت کا بلا محرم سفر کر کے حج کرنا ۱۵۳
- ۴۹۸۰ بوڑھی عورت کا جوان پوتے کے ساتھ حج کو جانا ۱۵۴
- ۴۹۸۱ بوڑھی عورت کا بلا محرم حج کرنا ۱۵۶
- ۴۹۸۲ عمر دراز عورت کا بلا محرم سفر حج کو جانا ۱۵۶
- ۴۹۸۳ کیا ۵۵ سالہ عورت تہاج حج کو جاسکتی ہے؟ ۱۵۷
- ۴۹۸۴ ۵۷ سالہ عورت کا انٹرنیشنل گروپ سے حج کرنا ۱۵۸
- ۴۹۸۵ ۵۸ سالہ عورت کے لئے غیر محرم کے ساتھ سفر حج کا حکم ۱۵۹
- ۴۹۸۶ ساٹھ سالہ عورت کا قافلہ کے ساتھ حج کو جانا ۱۶۰
- ۴۹۸۷ ۶۵ سالہ عورت کا بلا محرم سفر حج پر جانا ۱۶۱
- ۴۹۸۸ ۶۵ سال کی عورت کا بلا محرم حج کا سفر کرنا ۱۶۲
- ۴۹۸۹ کیا ۶۵-۷۰ سالہ عورت بلا محرم حج پر جاسکتی ہے؟ ۱۶۳
- ۴۹۹۰ ۶۵/۷۰ سال کی عورت کا بلا محرم شرعی سفر حج کے لئے جانا ۱۶۴
- ۴۹۹۱ ۷۰ سال کی عورت کے لئے نا محرم کے ساتھ سفر حج کا حکم ۱۶۵
- ۴۹۹۲ ۷۰ سالہ عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا ۱۶۶
- ۴۹۹۳ ۷۵ سالہ عورت کا بلا محرم سفر حج پر جانا ۱۶۷
- ۴۹۹۴ ۸۰ سالہ عورت کا سمیٹھی سمدھن کے ساتھ حج پر جانا ۱۶۸
- ۴۹۹۵ ۸۰ سالہ عورت کا بلا محرم حج کو جانا ۱۶۸

۴۹۹۶ ۸۵ سالہ عورت کا ۸۵ سالہ پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ حج کو جانا ... ۱۶۹

□	۳/ باب رسومات الحج	۱۷۱
---	--------------------	-----

۴۹۹۷	حج کرام کا حج سے قبل اعزہ واقرباء سے ملاقات کے لئے جانا	۱۷۱
۴۹۹۸	حج کرام کی روانگی کے وقت مسجد میں دعا کا اہتمام کرنا	۱۷۲
۴۹۹۹	حاجی کی رخصتی	۱۷۳
۵۰۰۰	حج کو جاتے وقت دعوت وغیرہ کا التزام	۱۷۵
۵۰۰۱	حج کرام کا روانگی سے قبل دعوت کرنا	۱۷۸
۵۰۰۲	حج کے لئے جانے سے قبل دعوت اور دیگر منکرات کا حکم	۱۷۹
۵۰۰۳	حاجی کے لئے ہدیہ قبول کرنا	۱۸۰
۵۰۰۴	حج سے واپسی میں ضمناً گھریلو سامان لانا	۱۸۲
۵۰۰۵	حج سے واپسی کے بعد عزیز واقارب کی دعوت	۱۸۲

□	۴/ باب المیقات و الإحرام	۱۸۴
---	--------------------------	-----

۵۰۰۶	مکہ کا باشندہ جب کبھی سال چھ مہینے میں ریاض وغیرہ جا کر واپس آئے تو احرام باندھنے کا حکم	۱۸۴
۵۰۰۷	کاروبار و تجارت کی وجہ سے ہر مرتبہ احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہونا لازم نہیں	۱۸۵
۵۰۰۸	ملازم کا بغیر احرام کے مکہ میں جا کر کام کرنا	۱۸۶
۵۰۰۹	اہل حل کا بلا احرام مکہ مکرمہ میں آنا جانا	۱۸۷
۵۰۱۰	کیا جدہ ایئر پورٹ میقات میں داخل ہے؟	۱۸۹
۵۰۱۱	بغیر تلبیہ پڑھے میقات سے گزر جانا	۱۹۱
۵۰۱۱	حدود میقات کے اندر آ کر احرام باندھنا اور عمرہ کرنا	۱۹۲
۵۰۱۲	مدینہ منورہ سے بلا احرام مکہ مکرمہ میں تشریف لانے کا حکم	۱۹۳
۵۰۱۳	عمرہ کے احرام سے حج کرنا	۱۹۶

۱۹۷	حالت احرام میں نیکر پہننا	۵۰۱۴
۱۹۸	حاجی کا غیر مخیط لنگوٹ استعمال کرنا	۵۰۱۵
۱۹۹	حالت احرام میں لنگوٹ اور نیکر پہننا	۵۰۱۶
۲۰۰	احرام میں سلاہوا تہبند پہننا	۵۰۱۷
۲۰۱	حج میں بالوں پر خضاب لگانا	۵۰۱۸
۲۰۲	بوقت سعی سر ڈھکنا	۵۰۱۹
۲۰۳	بحالت احرام عورت کا زیورات استعمال کرنا	۵۰۲۰
۲۰۴	حالت احرام میں پاؤں کی کونسی ہڈی ڈھانکنا ممنوع ہے؟	۵۰۲۱
۲۰۵	قربانی حلق سے قبل سلے ہوئے کپڑے پہننے اور بیوی سے صحبت کرنے کا حکم	۵۰۲۲
۲۰۶	حالت احرام میں بوٹ پہننا	۵۰۲۳
۲۰۷	احرام سے متعلق چند سوالات	۵۰۲۴

۲۱۰	۵ / باب الأفراد و القرآن و التمتع	□
-----	-----------------------------------	---

۲۱۰	اہل مکہ و محل صرف حج افراد کریں گے	۵۰۲۵
۲۱۱	مکی یا حلی کا حج قرآن کرنے کا شرعی حکم	۵۰۲۶
۲۱۲	مکی یا حلی کے لئے حج تمتع کا شرعی حکم	۵۰۲۷
۲۱۳	آفاقی قرآن، تمتع و افراد تینوں کر سکتا ہے جب کہ مکی صرف افراد	۵۰۲۸
۲۱۴	کیا مکہ المکرمہ میں غیر ملکی مقیم کے لئے حج قرآن و تمتع کرنا جائز ہے؟	۵۰۲۹
۲۱۴	مضافات حرم میں مقیم غیر ملکی آفاقی ہیں یا میقاتی؟	۵۰۳۰
۲۱۸	کیا مکہ یا جدہ میں مع اہل و عیال رہنے والے تمتع یا قرآن کر سکتے ہیں؟	۵۰۳۱
۲۲۰	مکہ والوں کے لئے حج تمتع و حج قرآن کا حکم	۵۰۳۲
۲۲۱	حج تمتع کا طریقہ	۵۰۳۳
۲۲۲	کیا تمتع عمرہ کا احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام باندھنے سے قبل عمرہ کر سکتا ہے؟	۵۰۳۴

۲۲۳	متمتع کا عمرہ کے بعد حج سے قبل طواف کرنا	۵۰۳۴
۲۲۴	کیا جدہ والے حج تمتع وقرآن کر سکتے ہیں؟	۵۰۳۵
۲۲۵	متمتع کا بار بار عمرہ کرنا	۵۰۳۶
۲۲۵	عمرہ کا احرام کہاں سے؟ ایک تحقیق	۵۰۳۶
۲۲۷	متمتع کا اشہرج میں بار بار عمرہ کرنا	۵۰۳۷
۲۳۰	عمرہ حلی سے حج تمتع درست نہیں ہوگا	۵۰۳۸
۲۳۲	دور حاضر میں اپنے علاقہ سے ہدی کا جانور لے جانا	۵۰۳۹
۲۳۳	کیا سعی سے قبل نفلی طواف کرنا واجب ہے؟	۵۰۴۰
۲۳۵	قارن و متمتع کی ہدی کا حلق سے پہلے ذبح ہونا معلوم ہو جائے تو دم واجب ہے یا نہیں؟	۵۰۴۱
۲۳۶	عمرہ تمتع میں آٹھویں ذی الحجہ کے بعد عورت کا حیض جاری رہا تو کیا کرے گی؟	۵۰۴۲
۲۳۸	منی روانگی سے قبل عورت کو حیض آ گیا	۵۰۴۳
۲۳۹	متمتعہ کے حیض کی وجہ سے عمرہ چھوڑنے کا حکم	۵۰۴۴
۲۳۹	احرام عمرہ کے بعد یوم الترویہ تک عورت پاک نہ ہو تو اس کا حکم	۵۰۴۴
۲۴۲	طواف زیارت کئے بغیر سعی کرنے کا حکم	۵۰۴۵

۲۴۷	۶/ باب ما يتعلق بالطواف	□
-----	-------------------------	---

۲۴۷	مسجد حرام کی چھت پر طواف کرنا	۵۰۴۶
۲۴۸	کیا طواف پے در پے کرنا لازم ہے؟	۵۰۴۷
۲۵۰	کیا طواف میں ستر عورت واجب ہے؟	۵۰۴۸
۲۵۳	دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا	۵۰۴۹
۲۵۶	طواف عمرہ یا زیارت کا ایک چکر بے وضو کرنا	۵۰۵۰
۲۵۷	طواف کا ایک چکر چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟	۵۰۵۱
۲۶۲	شدید بیماری کی وجہ سے طواف زیارت مؤخر کرنا	۵۰۵۲

- ۵۰۵۳ عذر کی وجہ سے ۱۲/۱۲ ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کرنے کا حکم ۲۶۳
- ۵۰۵۴ گیارہ ذی الحجہ میں حائضہ عورتوں کے طواف زیارت کا حکم ۲۶۵
- ۵۰۵۵ عورت کو ۱۲/۱۲ ذی الحجہ کے بعد بھی دوروز ماہواری جاری رہی تو طواف زیارت کا کیا حکم ہے؟ ۲۶۷
- ۵۰۵۶ عذر کی وجہ سے طواف زیارت حالت حیض میں کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ ۲۶۹
- ۵۰۵۷ ۱۲/۱۲ ذی الحجہ کو غروب کے بعد طواف زیارت کا ایک چکر کیا تو ایک صدقہ لازم ۲۷۱
- ۵۰۵۸ اکثر اشواط غروب کے بعد کئے تو دم واجب ۲۷۲
- ۵۰۵۹ طواف زیارت نہ کرنے والے کا حکم ۲۷۳
- ۵۰۶۰ طواف زیارت کئے بغیر گھر آنے والی عورت شوہر کے لئے حلال نہیں ہے؟ ۲۷۵
- ۵۰۶۱ جو عورت طواف زیارت اور سعی کئے بغیر لوٹ آئے اس کا حکم ۲۷۶
- ۵۰۶۲ طواف وداع کے بعد سعی کا حکم ۲۷۷
- ۵۰۶۳ طواف وداع کے بعد الٹا واپس ہونا ۲۷۸
- ۵۰۶۴ عورت کے دوران سفر حیض آنے سے متعلق چند سوالات ۲۷۹
- ۵۰۶۵ حالت طواف میں پہلی مرتبہ حیض آیا پھر طواف پورا کر لیا تو کیا حکم ہے؟ ۲۸۲
- ۵۰۶۶ حالت حیض میں طواف زیارت کر لیا تو کیا سالم اونٹ ذبح کرنا ضروری ہے؟ ۲۸۳
- ۵۰۶۷ طواف زیارت سے قبل ہمہستری کی صورت میں بدنہ واجب ہے ۲۸۴

۲۸۶	۷/ باب مسائل منیٰ و مزدلفہ و عرفات	□
-----	------------------------------------	---

- ۵۰۶۸ رمی جمار کی حقیقت ۲۸۶
- ۵۰۶۹ شوہر کا بیوی کی طرف سے رمی کرنا ۲۸۷
- ۵۰۷۰ مزدلفہ میں کتنی کنکریاں لیں؟ ۲۸۸
- ۵۰۷۱ حج میں بسبب مرض رمی جمار چھوڑنے کا حکم ۲۸۹

- ۲۹۰ کیا صحت مند کے لئے رمی میں نیابت جائز ہے؟ ۵۰۷۲
- ۲۹۱ رمی، قربانی، حلق میں ترتیب کا وجوب ۵۰۷۳
- مزدلفہ میں داخل ہونے سے قبل راستہ میں مزدلفہ سمجھ کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ جائے تو کیا حکم؟ ۵۰۷۴
- ۲۹۲ ۵۰۷۵
- ۲۹۳ نائب کے رمی جمار نہ کر پانے کا حکم ۵۰۷۶
- ۲۹۴ تیسرے دن کی رمی چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ۵۰۷۷
- ۲۹۵ رمی کے لئے وکیل بنانا ۵۰۷۸
- ۲۹۶ گیارھویں و بارھویں کی رمی زوال سے قبل کرنا ۵۰۷۹
- ۲۹۹ دس ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب فوت ہونے کا حکم ۵۰۸۰
- ۳۰۰ رمی میں نیابت سے دم واجب نہیں ہوتا ۵۰۸۱
- ۳۰۲ سعی سے قبل طواف کرنا ۵۰۸۲
- ۳۰۵ حج کی سعی حج کے مہینوں میں کرنے پر اشکال کی وضاحت ۵۰۸۳
- ۳۰۸ وقوف عرفہ کے معاف ہونے کی شکل ۵۰۸۴
- ۳۱۰ منی میں قیام کرنے کے بجائے دوسری جگہ قیام کرنا ۵۰۸۵
- ۳۱۱ احرام کھولنے کے لئے ایک کا دوسرے کے بال موٹڈنا ۵۰۸۶
- ۳۱۲ کیا چھوٹے بال والی عورت حلق کرائے گی؟ ۵۰۸۷
- ۳۱۴ مزدلفہ میں ایام منی میں جو خیمے لگائے جاتے ہیں ان میں وقوف کا حکم ۵۰۸۸
- مزدلفہ کے راستہ میں مغرب و عشاء کو صبح صادق سے اتنی دیر پہلے تک ۵۰۸۹
- ۳۱۵ مؤخر کرنا جتنی میں دونوں نمازیں پڑھ سکیں ۵۰۹۰
- ۳۱۶ عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلواتین ۵۰۹۱
- ۳۱۹ منیٰ مزدلفہ اور عرفات میں آفاقی کے لئے قصر و اتمام کا مسئلہ ۵۰۹۱
- ۳۱۹ منیٰ و مزدلفہ میں قصر و اتمام کا حکم ۵۰۹۱

- ۵۰۹۲ منی مکہ میں شامل ہے یا نہیں؟ ۳۲۱
- ۵۰۹۳ حج میں حاجی نمازیں پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ ۳۲۳
- ۵۰۹۴ منی مزدلفہ میں قصر و اتمام سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۳۲۴
- ۵۰۹۵ منی مزدلفہ میں قصر و اتمام سے متعلق دارالعلوم کے فتویٰ کا حکم ۳۲۲
- قصر و اتمام کے مسئلہ میں منی و مزدلفہ مکہ مکرمہ شہر کے جزو ہیں ۳۳۴
- فنائے شہر کسے کہتے ہیں؟ ۳۳۵
- کیا فنائے شہر کا شہر سے متصل ہونا لازم ہے؟ ۳۳۶
- شہر کی آبادی سے فنائے مصر کی دوری ۳۳۸
- فنائے شہر کا مصالح شہر کے لئے پورے سال استعمال ہونا لازم ہے یا ایک آدھ دفعہ کافی ہے؟ ۳۴۴
- مکہ مکرمہ اور منی کے درمیان کا فاصلہ ۳۴۶
- مکہ مکرمہ اور مزدلفہ کا فاصلہ ۳۴۹
- مکہ مکرمہ اور عرفات کا فاصلہ ۳۵۰
- جس جگہ سے شہر کا اتصال ہونا ہے، کیا اس میں پہلے سے آبادی شرط ہے؟ ۳۵۳
- مقام واحد بننے کے لئے صرف ایک جانب سے اتصال کافی ہے یا ہر طرف سے؟ ۳۵۶
- کیا شہری اعتبار سے پہاڑ آبادی کے اتصال کو مانع ہے؟ ۳۵۸
- حدود کے توفیقی ہونے کی وجہ سے اتصال کی صورت میں قصر و اتمام میں فرق نہیں .. ۳۶۰
- منی و مزدلفہ کے بارے میں علماء کے اختلاف کا مختصر جائزہ ۳۶۲
- برصغیر کے علماء کا اختلاف ۳۶۳
- معمولی فاصلہ اتصال کو نخل نہیں ۳۶۴
- علمائے عرب کی رائے ۳۶۵
- رئیس شہودن الحرمین شیخ سبیل کا فتویٰ ۳۶۶
- شیخ سبیل کے فتویٰ کے ایک جزو کو تسلیم اور دوسرے پر رد کیسے؟ ۳۶۹

- شیخ سبیل کا مکمل فتویٰ بعینہ ملاحظہ فرمائیے ۳۷۳
- موسم حج میں منی باقاعدہ شہر بن جاتا ہے ۳۷۵
- حکم حاکم رافع اختلاف ۳۷۶
- منی مصالح بلد کے لئے بھی مستعمل ہے ۳۸۱
- منی و مزدلفہ میں قصر و اتمام کا مسئلہ فصل کی علت کے ساتھ معلول ہے یا تو قیفی؟ ۳۸۲
- حدود حرم کے باہر کا حصہ بھی شہر میں داخل ۳۸۳
- ایک شبہ کا ازالہ اور باغات کا حکم ۳۸۵
- شہر کی آبادی سے نکلتے ہی قصر کا حکم کس طرح کے لوگوں کے لئے ہے؟ ۳۸۶
- منی میں جمعہ کیوں جائز ہے؟ ۳۸۹
- موسم حج میں شہر منی و شہر مکہ قطعی طور پر ایک ہو جاتے ہیں ۳۹۱
- ایضاح المناسک میں لکھے ہوئے مسئلہ سے رجوع ۳۹۳
- حدیث ”منی مناخ من سبق“ کا مطلب ۳۹۳
- دو محلوں کے درمیان پہاڑوں کے حائل ہونے کا مسئلہ ۳۹۵
- قصر و اتمام کے مسئلہ میں اتمام افضل ۳۹۷
- مقالہ کا خلاصہ ۳۹۹

۲۰۳	۸ / باب الہدی	□
-----	---------------	---

- ۵۰۹۶ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد بال و ناخن وغیرہ کا ثنا حاجی کے لئے ممنوع نہیں ۲۰۳
- ۵۰۹۷ حاجی پر بقر عید کی قربانی لازم ہے یا نہیں؟ ۲۰۴
- ۵۰۹۸ ایام نحر میں غیر صاحب نصاب حاجی پر مالی قربانی واجب نہیں ۲۰۵
- ۵۰۹۹ مفرد بال حج کے لئے قربانی کی شرعی حیثیت ۲۰۶
- ۵۱۰۰ حاجی کے لئے بینک کے توسط سے قربانی کرانے کا حکم ۲۰۷
- ۵۱۰۱ کیا حاجی پر دونوں جگہ قربانی واجب ہے؟ ۲۰۹

۴۱۰ حج کمیٹی والوں کا جبراً قربانی کا پیسہ وصول کرنا	۵۱۰۲
۴۱۲ حج کمیٹی کا پیشگی طور پر حاجیوں سے قربانی کی رقم وصول کرنے کی شرعی حیثیت	۵۱۰۳
۴۱۴ کیا مکی، حلی، میقاتی کے لئے حج تمتع کی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے؟	۵۱۰۴

۴۱۶	۹ / باب العمرة	<input type="checkbox"/>
-----	----------------	--------------------------

۴۱۶ والدین کا نابالغ اولاد کی طرف سے عمرہ کرنا	۵۱۰۵
۴۱۷ حالت حیض میں عورت ارکان عمرہ ادا کر کے حلال ہوگی تو دم لازم ...	۵۱۰۶
۴۱۸ حج سے پہلے عمرہ کرنا	۵۱۰۷
۴۱۹ اشہر حج میں بار بار عمرہ کرنا	۵۱۰۸
۴۲۰ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج کی فرضیت	۵۱۰۹
۴۲۱ کیا عمرہ کی قضا ضروری نہیں؟	۵۱۱۰

۴۲۴	۱۰ / باب الحج عن الغير	<input type="checkbox"/>
-----	------------------------	--------------------------

۴۲۴ حج بدل کی ادائے گی کا طریقہ	۵۱۱۱
۴۲۵ حج بدل کا آسان طریقہ	۵۱۱۲
۴۲۶ حج بدل کرنے کا حکم	۵۱۱۳
۴۲۷ کیا حج بدل کرنے والے کا اپنا حج ادا ہو جائے گا؟	۵۱۱۴
۴۲۸ حج بدل کس سے کرائیں؟	۵۱۱۵
۴۲۹ کیا حج بدل کرنے والے کے لئے حاجی ہونا شرط ہے؟	۵۱۱۶
۴۳۰ غیر حاجی سے حج بدل کرانا	۵۱۱۷
۴۳۲ حج بدل کے لئے کہاں سے جانا شرط ہے؟	۵۱۱۸
۴۳۳ سعودی میں مقیم شخص سے حج بدل کرانے کی صورت میں سفر خرچ کا حکم	۵۱۱۹
۴۳۴ حج کے لئے بینک میں جمع شدہ روپے کا انتقال کے بعد کیا کیا جائے؟	۵۱۲۰

۵۱۲۱	قرض خواہ کا قرض دار کو حج بدل کے لئے لے جانا	۴۳۶
۵۱۲۲	کیا داماد اپنے پیسوں سے مرحوم سسر کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟	۴۳۷
۵۱۲۳	حج بدل کن لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟	۴۳۷
۵۱۲۴	کیا حاجی زندہ یا مردہ عورت کا حج بدل کر سکتا ہے؟	۴۳۹
۵۱۲۵	مرحوم ماں کی طرف سے بیٹے کا حج فرض ادا کرنا	۴۴۰
۵۱۲۶	پوتے کا دادا کی طرف سے بلا وصیت حج بدل کرنا	۴۴۱
۵۱۲۷	کیا بالغہ بہن کی شادی حج بدل پر مقدم ہے؟	۴۴۳
۵۱۲۸	مرحوم بیٹے کی طرف سے حج کرنا	۴۴۴
۵۱۲۹	کیا بیٹی ماں کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے؟	۴۴۵
۵۱۳۰	دادا، دادی کی طرف سے حج بدل کرنا	۴۴۶
۵۱۳۱	مریض شخص کا حج بدل کرانا	۴۴۷
۵۱۳۲	جس شخص پر حج فرض ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۴۸
۵۱۳۳	حج بدل میں تمتع	۴۵۰
۵۱۳۴	حج بدل میں حج تمتع	۴۵۱
۵۱۳۵	حج بدل میں قربانی کس پر لازم ہے؟	۴۵۱
۵۱۳۶	حج بدل میں تمتع کی قربانی اور اس کا خرچ مامور پر لازم ہے	۴۵۲
۵۱۳۷	حج بدل میں تمتع کی صورت میں قربانی کا حکم	۴۵۳
۵۱۳۸	حج بدل سے متعلق چند سوالات و جوابات	۴۵۵
۵۱۳۹	کیا حج بدل میں جمع کردہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟	۴۵۷
۵۱۴۰	حج بدل کرنے والے روضہ اقدس پر کس کی طرف سے سلام پیش کریں؟	۴۵۹
۵۱۴۱	”ایضاح المناسک“ کے مسئلہ حج بدل میں تمتع کرنے کی وضاحت ..	۴۶۰

۴۶۲	۱۱/ باب الجنایات	□
-----	------------------	---

۴۶۲ دم جنایت کا مصرف	۵۱۴۲
۴۶۲ کیا دم جنایت کے گوشت کا حکم قربانی کے گوشت کی طرح ہے؟	۵۱۴۳
۴۶۳ دم جنایت کہاں ادا کریں؟	۵۱۴۴
۴۶۴ کیا دم احصار حد و حرم میں ادا کرنا لازم ہے؟	۵۱۴۵
۴۶۶ دم جنایت حرم میں کسی دوسرے کے ہاتھ سے بھیجنا	۵۱۴۶
۴۶۶ صدقۃ الفطر کتنے ریال کا ہوتا ہے؟	۵۱۴۷
۴۶۷ حالت جنابت میں طواف کرنا	۵۱۴۸
۴۶۸ حاجی کا منیٰ میں قربانی نہ کرنا	۵۱۴۹
۴۶۹ زوال سے قبل رمی کرنے سے وجوب دم	۵۱۵۰
۴۷۰ رمی سے قبل قربانی کرنے کا حکم	۵۱۵۱
۴۷۱ متمتع کے وکیل نے رمی سے قبل قربانی کر دی تو کیا حکم ہے؟	۵۱۵۲
۴۷۳ کیا رمضان کے بعد عمرہ کرنے والے لکھی پر اس سال حج کرنے سے دم جبر لازم ہے؟	۵۱۵۳
۴۷۴ حلق کرانے سے قبل خوشبو دار صابن استعمال کرنا یا ناخن کاٹنا	۵۱۵۴
۴۷۵ بلا عذر وقوف مزدلفہ ترک ہو گیا تو؟	۵۱۵۵
۴۷۶ جو حج فاسد ہو جائے اس کا اسی سال اعادہ کرنا	۵۱۵۶
۴۸۳ کیا فاسد شدہ حج کی قضاء اس سال ممکن ہے؟	۵۱۵۷

۱۵ / کتاب النکاح

۲۸۵	۱ / باب فضائل النکاح وغیرہا	□
-----	-----------------------------	---

۲۸۵ نکاح کے فضائل	۵۱۵۸
۲۸۸ فوائدِ نکاح	۵۱۵۹
۲۸۹ مستحباتِ نکاح	۵۱۶۰
۲۹۱ شرعی شادی	۵۱۶۱
۲۹۲ شادی بیاہ کا مسنون طریقہ	۵۱۶۲
۲۹۲ نکاح کا مسنون طریقہ	۵۱۶۳
۲۹۳ نکاح کا طریقہ و دعا	۵۱۶۴
۲۹۵ کم خرچ والے نکاح کی فضیلت	۵۱۶۵
۲۹۶ اقسامِ نکاح	۵۱۶۶
۲۹۷ نکاح کی اقسام	۵۱۶۷
۲۹۹ کن حالات میں نکاح جائز نہیں	۵۱۶۸
۵۰۰ کیا شادی نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوگا؟	۵۱۶۹
۵۰۱ غیر شادی شدہ بالغ اولاد کے گناہ میں کیا ماں باپ شریک ہیں؟	۵۱۷۰
۵۰۲ خطبہِ نکاح	۵۱۷۱
۵۰۴ نکاح میں خطبہ کی حیثیت اور مروجہ طریقہ پر نکاح پڑھانے کا ثبوت	۵۱۷۲
۵۰۶ خطبہِ نکاح کس طرح پڑھا جائے؟	۵۱۷۳
۵۰۷ نکاح کا خطبہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنا مسنون ہے	۵۱۷۴
۵۰۹ نکاح کے وقت پیش آنے والے امور کا حکم	۵۱۷۵

۵۱۱ نکاح کے بعد دعا کی حیثیت	۵۱۷۶
۵۱۱ دورانِ حج بیت اللہ میں نکاح کرنا	۵۱۷۷
۵۱۳ مجلسِ نکاح مسجد میں منعقد کرنے پر انتظامی قانون نافذ کرنا	۵۱۷۸
۵۱۶ زیارت میں نکاح پڑھوانا	۵۱۷۹
۵۱۷ سمیلن میں اجتماعی نکاح، مہر، نیز حالت حیض میں اور نابالغ لڑکی کے نکاح کا حکم	۵۱۸۰
۵۲۱ اجتماعی شادی	۵۱۸۱
۵۲۳ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نکاح کے رجسٹریشن کا حکم	۵۱۸۲

۵۲۷	۲ / باب الخطبة	□
-----	----------------	---

۵۲۷ متعلق چند مسائل	۵۱۸۳
۵۲۸ منطوبہ کو دیکھنا مستحب اور افضل	۵۱۸۴
۵۲۹ نکاح سے قبل منگیتر کو دیکھنا	۵۱۸۵
۵۳۱ نکاح سے قبل لڑکی لڑکے کا نوٹو دیکھنا	۵۱۸۶
۵۳۱ نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھنے کا حکم	۵۱۸۷
۵۳۳ منطوبہ عورت کو دیکھنے کا شرعی حکم	۵۱۸۸
۵۳۴ رشتہ طے کرنے میں کھانے کے عوض کا حکم	۵۱۸۹
۵۳۵ منگی ختم ہونے کی صورت میں اس میں دیئے گئے سامان کی واپسی ..	۵۱۹۰

۵۳۷	۳ / باب الإطعام في النكاح	□
-----	---------------------------	---

۵۳۷ بارات کے لغوی و شرعی معنی	۵۱۹۱
۵۳۷ بارات	۵۱۹۲
۵۳۹ بارات کی شرعی حیثیت	۵۱۹۳
۵۴۰ بارات کی شرعی حیثیت	۵۱۹۴

۵۴۲ شادی میں بارات کا حکم	۵۱۹۵
۵۴۳ بارات اور جہیز کا حکم	۵۱۹۶
۵۴۴ کیا لڑکی کو لانے کے لئے چند لوگوں کا جانا بارات ہے؟	۵۱۹۷
۵۴۵ کیا لڑکی کے نکاح پر دعوت کا نظم کرنا ولیمہ ہے؟	۵۱۹۸
۵۴۷ بارات لے جانا اور بارات میں شرکت کرنا	۵۱۹۹
۵۴۸ بارات اور اس کے کھانے کا حکم	۵۲۰۰
۵۵۱ لڑکی والوں کے یہاں دعوت	۵۲۰۱
۵۵۲ لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟	۵۲۰۲
۵۵۳ لڑکی کی شادی میں رشتہ داروں کی دعوت کرنا	۵۲۰۳
۵۵۵ بارات میں کتنے لوگ جاسکتے ہیں؟	۵۲۰۴
۵۵۷ شادی میں باراتیوں کی تعداد متعین کرنا	۵۲۰۵
۵۵۸ باراتیوں کی تعداد اور کھانے کا معیار متعین کرنا	۵۲۰۶
۵۵۹ بارات میں کتنے لوگ جائیں؟	۵۲۰۷
۵۶۱ لڑکی والوں کے یہاں کھانے کا انتظام	۵۲۰۸
۵۶۱ حضرت مفتی صاحب روٹی کی طرف سے یاد دہانی	۵۲۱۰
۵۶۵ شب زفاف کہاں مسنون ہے؟ اور بارات کے کھانے کا حکم	۵۲۱۱
۵۶۷ منڈھے کی دعوت کا حکم	۵۲۱۲
۵۶۸ دعوت ولیمہ و دیگر دعوتوں کے اقسام	۵۲۱۳
۵۶۹ ولیمہ کے معنی اور ولیمہ کا وقت کب ہے؟	۵۲۱۴
۵۷۰ ولیمہ کی علت اور اصولی شرائط	۵۲۱۵
۵۷۱ کیا دوسری شادی میں بھی ولیمہ کرنا مسنون ہے؟	۵۲۱۶
۵۷۲ ولیمہ کا کھانا کتنے لوگوں کو کھلائیں؟	۵۲۱۷

۵۷۳ باراتِ روانگی سے قبل دعوت سے ولیمہ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟	۵۲۱۸
۵۷۴ ہمہستری سے قبل ولیمہ کرنا	۵۲۱۹
۵۷۵ شبِ زفاف سے قبل ولیمہ کرنا	۵۲۲۰
۵۷۶ ہمہستری سے قبل ولیمہ کرنے سے سنت ادا ہوگی یا نہیں؟	۵۲۲۱
۵۷۸ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل ولیمہ	۵۲۲۲
۵۷۸ ولیمہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۵۲۲۳
۵۸۳ ولیمہ تیسرے دن یا بعد میں کیا جائے تو کیا حکم ہے؟	۵۲۲۴
۵۸۴ نکاح میں چھوہارے تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس پر اور ولیمہ کتنے دن بعد تک ہو سکتا ہے؟	۵۲۲۵
۵۸۵ ولیمہ کی دعوت میں لڑکے والوں کا ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟	۵۲۲۶
۵۸۶ شادی میں مدعوین کے ہدیہ تحائف کا حکم	۵۲۲۷
۵۸۷ اسٹینڈنگ (کھڑے ہو کر کھانے) میں شرکت کا حکم	۵۲۲۸
۵۸۹ کس طرح کی دعوت ولیمہ میں شرکت ضروری ہے؟	۵۲۲۹
۵۹۱ خرافات والی شادی میں ولیمہ کی دعوت کھانا	۵۲۳۰
۵۹۲ ولیمہ کے لئے قرض لینا از روئے شرع کیسا ہے؟	۵۲۳۱
۵۹۳ عقیقہ کی نیت سے خریدے گئے جانور سے ولیمہ کرنا اور اس کے برعکس کا حکم	۵۲۳۲

۵۹۵	۴/ باب الجہاز	□
-----	---------------	---

۵۹۵ جہیز کا صحیح معنی	۵۲۳۳
۵۹۷ جہیز میں کتنا سامان دیا جائے؟	۵۲۳۴
۵۹۸ کیا حسب استطاعت جہیز دینا جائز ہے؟	۵۲۳۵
۶۰۰ جہیز دینے کی جائز صورت	۵۲۳۶
۶۰۱ جہیز دینے کا ثبوت ہے یا نہیں؟	۵۲۳۷
۶۰۲ شادی کے موقع پر جہیز دینا	۵۲۳۸

- ۵۲۳۹ جہیز کی مقدار کیا ہے؟ ۶۰۳
- ۵۲۴۰ جہیز کا مطالبہ کرنا ۶۰۴
- ۵۲۴۱ شادی میں بطور مطالبہ یا بلا مطالبہ جہیز کا حکم ۶۰۵
- ۵۲۴۲ لڑکے والوں کے مطالبہ پر لڑکی والوں کا رقم دینا ۶۰۷
- ۵۲۴۳ لڑکی والوں سے سامان یا نقد روپیوں کا مطالبہ کرنا ۶۰۸
- ۵۲۴۴ لڑکے والوں کو مطالبہ جہیز میں سودی رقم دینا ۶۰۹
- ۵۲۴۵ جہیز کی مطلوبہ رقم سود سے ادا کرنے کا حکم ۶۱۱
- ۵۲۴۶ جہیز سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۶۱۲
- ۵۲۴۷ جہیز کے معنی شرعی اور اس کا حکم ۶۱۴
- ۵۲۴۸ جہیز سے متعلق مزید چند سوالات اور جوابات ۶۱۶
- ۵۲۴۹ مفتی اور مقتدی کے لئے جہیز لینا کیسا ہے؟ ۶۱۹
- ۵۲۵۰ شادی میں لین دین کی شرعی حیثیت ۶۲۰
- ۵۲۵۱ بلا مطالبہ شادی سے قبل یا بعد میں لڑکے کو ملنے والی اشیاء کا حکم ۶۲۲
- ۵۲۵۲ کیا جہیز میراث میں شمار ہوگا اور بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے؟ ۶۲۳
- ۵۲۵۳ سسرال والوں کا لڑکی کو جہیز کی وجہ سے پریشان کرنا ۶۲۴
- ۵۲۵۴ نکاح سے قبل مہر اور زیورات وغیرہ کا لین دین کرنا ۶۲۷
- ۵۲۵۵ جہیز میں تالا، فینچی، سروتہ دینا ۶۲۸
- ۵۲۵۶ خسر کا داماد کو نکاح سے پہلے یا بعد میں سائیکل وغیرہ دینا ۶۲۸
- ۵۲۵۷ سسر داماد کو دیا ہوا سامان واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ ۶۳۰
- ۵۲۵۸ لڑکی والوں کا ولیمہ میں دیئے ہوئے روپیوں کو واپس لینا ۶۳۰
- ۵۲۵۹ جہیز میں ملی ہوئی بھینس سے پیدا شدہ بچہ کا مالک کون؟ ۶۳۱
- ۵۲۶۰ جہیز میں آئی گائے کس کی ملک ہوگی ۶۳۲

- ۵۲۶۱ شادی سے قبل بیوی کو دئے گئے سامان کا حکم ۶۳۳
- ۵۲۶۲ عورت کا زیور سسرال میں چوری ہو جائے تو لڑکی والے اس کی قیمت لے سکتے ہیں؟ ۶۳۵
- ۵۲۶۳ سسرال والوں کا لڑکی کے جہیز کو اپنے قبضہ میں رکھنا ۶۳۶
- ۵۲۶۴ شادی کے موقع پر دئے ہوئے پیسے کو لڑکی کے باپ کا اپنے اختیار سے خرچ کرنا ۶۳۷
- ۵۲۶۵ شرعاً مہر اور جہیز کس کی ملک ہیں؟ ۶۳۹
- ۵۲۶۶ جہیز، زیورات اور استعمالی سامان کا مالک کون؟ ۶۴۰
- ۵۲۶۷ شادی کے موقع پر دئے گئے جہیز اور زیورات وغیرہ کس کی ملکیت ہیں؟ ۶۴۱
- ۵۲۶۸ شوہر کی طرف سے دئے گئے زیور اور جہیز کا مالک کون؟ ۶۴۲
- ۵۲۶۹ لڑکی کو میکے کی طرف سے ملنے والے سامان کا مالک کون؟ ۶۴۴
- ۵۲۷۰ شادی کے موقع پر دولہن کو ملنے والے زیورات سامان وغیرہ کا مالک کون؟ ۶۴۵
- ۵۲۷۱ زیور اور جہیز کے سامان پر ملکیت کس کی ہے؟ ۶۴۶
- ۵۲۷۲ مہر، جہیز اور زیورات کا حکم ۶۴۹
- ۵۲۷۳ نکاح کے وقت دئے گئے زیورات وغیرہ کا حکم ۶۵۰
- ۵۲۷۴ دولہن پر چڑھائے جانے والے زیور کا حکم ۶۵۲
- ۵۲۷۵ سسر کی طرف سے بہو کو دئے گئے زیورات کا مالک کون؟ ۶۵۳
- ۵۲۷۶ شادی میں چڑھائے ہوئے زیور کا مالک کون؟ ۶۵۴
- ۵۲۷۷ کیا تھان اور زیورات مہر کا حصہ ہیں؟ ۶۵۵
- ۵۲۷۸ شادی میں عورت کو چڑھائے گئے کپڑوں اور زیورات کا مالک کون؟ ۶۵۶
- ۵۲۷۹ شوہر کی طرف سے دئے گئے زیورات کا حکم ۶۵۷
- ۵۲۸۰ زیورات کا حکم ۶۵۸
- ۵۲۸۱ زیورات کا مالک کون ہے؟ ۶۶۰
- ۵۲۸۳ منہ دکھائی کے زیورات کا مالک کون؟ ۶۶۲

۵۲۸۴	جہیز کی واپسی اور لڑکی پر ظلم کرنے کا حکم	۶۶۲
۵۲۸۵	متوفیہ کے مہر، جہیز میسے میں علاج کا خرچ اور زیورات کا حکم	۶۶۵
۵۲۸۶	لڑکے کے والد کا چڑھایا ہوا سامان طلاق کے بعد کس کا ہوگا؟	۶۶۷
۵۲۸۷	طلاق کے بعد زیورات کی واپسی کا حکم	۶۶۸
۵۲۸۸	طلاق کے بعد جہیز کی واپسی اور نطقہ کا حکم	۶۶۹
۵۲۸۹	لڑکی کا انتقال ہو گیا تو جہیز واپس ہوگا یا ورنہ میں تقسیم ہوگا؟	۶۷۱
۵۲۹۰	استعمال کی وجہ سے ختم شدہ جہیز کے سامان کا حکم	۶۷۱
۵۲۹۱	لڑکی کے والد بارات کا خرچ لے سکتے ہیں یا نہیں؟	۶۷۲
۵۲۹۲	بلا تفریق دوسرا نکاح کرنے کے بعد مہر و سامان جہیز کا حکم	۶۷۳
۵۲۹۳	جہیز اور مہر کے بارے میں شریعت کے خلاف پنچایت کے فیصلہ کا حکم	۶۷۴

	۵ / باب الأجرۃ فی النکاح	□
--	--------------------------	---

۵۲۹۴	اجرت نکاح	۶۷۷
۵۲۹۵	نکاح خوانی کی اجرت کی شرعی حیثیت	۶۷۸
۵۲۹۶	نکاح خوانی کی اجرت کا حکم	۶۷۹
۵۲۹۷	اصل اور نائب امام میں سے اجرت نکاح کا مستحق کون؟	۶۸۰
۵۲۹۸	نکاح خوانی کی اجرت نکاح خواں کو دی جائے یا محلہ کے امام کو؟	۶۸۲
۵۲۹۹	اعتراض پر جواب مذکور	۶۸۳
۵۳۰۰	نکاح خوانی کی اجرت کس کو ملے؟	۶۸۴
۵۳۰۱	نکاح خوانی کی اجرت کا حقدار کون؟	۶۸۵
۵۳۰۲	اجرت نکاح کا حقدار کون؟	۶۸۶
۵۳۰۳	نکاح کے بعد دو لہجے کی طرف سے دی گئی رقم کا حقدار	۶۸۸
۵۳۰۴	نکاح کی اجرت پر کس کا حق ہے؟	۶۸۹

۶۹۱ نکاح خوانی کی اجرت کا کچھ حصہ مسجد کو دینے پر مجبور کرنا	۵۳۰۵
۶۹۲ نکاح خوانی کی اجرت کا مستحق کون قاضی یا مسجد کا امام؟	۵۳۰۶
۶۹۳ نکاح پڑھانے کے لئے حلقہ باٹنے اور اس کی اجرت کا حکم	۵۳۰۷
۶۹۴ گاؤں پنچایت والوں کا نکاح خوانی کی اجرت مقرر کرنا	۵۳۰۸
۶۹۵ نکاح خوانی کی اجرت کی ادائیگی کس کے ذمہ واجب؟	۵۳۰۹
۶۹۷ نکاح کی اجرت سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۵۳۱۰
۷۰۰ نکاح کا رشتہ کرانے پر کمیشن یا دلالی لینا	۵۳۱۱
۷۰۱ نکاح کے وکیل اور گواہوں کا پیسہ لینا	۵۳۱۲
 برادری والوں کا نکاح خواں کی اجرت بانچ سولے کرنے اور امام سے	۵۳۱۳
۷۰۲ متعلق کرنے کا حکم	

۷۰۴	۶/ باب من أحق بالإنکاح	□
-----	------------------------	---

۷۰۴ نکاح پڑھانے کا حق دار کون ہے؟	۵۳۱۴
۷۰۵ کیا نکاح خواں کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے	۵۳۱۵
۷۰۷ دو لہے کا خود اپنا نکاح پڑھانا	۵۳۱۶
۷۰۸ نکاح پڑھانے کا حق کس کو ہے؟	۵۳۱۷
۷۰۹ نکاح پڑھانا کس کا حق ہے؟	۵۳۱۸
۷۱۰ نکاح کس سے پڑھوایا جائے؟	۵۳۱۹
۷۱۱ مخلوق اللہیہ کا اپنی لڑکی کا نکاح پڑھانا	۵۳۲۰
۷۱۳ دیوبندی کا نکاح بدعتی نے پڑھا دیا تو کیا حکم ہے؟	۵۳۲۱
۷۱۴ فاسد العقیدہ کے پڑھائے ہوئے نکاح کا حکم	۵۳۲۲
۷۱۶ مذکورہ مدرسہ سے متعلق ”مدرسہ ضیاء العلوم“ کرپور بجنور کا جواب	
۷۱۷ دارالعلوم دیوبند کا جواب	

- ۵۳۲۳ کیا بوقت عقد دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے؟ ۷۱۸
- ۵۳۲۴ نکاح پڑھاتے وقت سکہ رائج الوقت کہنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ ۷۱۹
- ۵۳۲۵ کیا حاملہ کا نکاح پڑھانے والا اپنے نکاح کی تجدید کرے گا؟ ۷۲۰

□	۷ / باب نکاح الفضولی	۷۲۲
---	----------------------	-----

- ۵۳۲۶ لڑکے کے وکیل و گواہوں نے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد لڑکی کو اطلاع کردی، لڑکی نے اجازت دے دی ۷۲۲
- ۵۳۲۷ فضولی کے پڑھائے ہوئے نکاح کا حکم ۷۲۳
- ۵۳۲۸ فضولی کا نکاح کرانا ۷۲۵

□	۸ / باب تعدد النکاح	۷۲۷
---	---------------------	-----

- ۵۳۲۹ ایک نکاح سے زائد پر پابندی مسلم پرسنل لاء کے خلاف ۷۲۷
- ۵۳۳۰ از روئے شرع ایک شخص کتنی شادی کر سکتا ہے؟ ۷۲۸
- ۵۳۳۱ حق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا ۷۲۹
- ۵۳۳۲ نکاح ثانی ۷۳۱
- ۵۳۳۳ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنا ۷۳۲
- ۵۳۳۴ بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرنا ۷۳۳
- ۵۳۳۵ زوجہ اول کی طلاق کا مسئلہ عدالت میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا ۷۳۵
- ۵۳۳۶ پہلی بیوی کی طلاق کا مقدمہ عدالت میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا حکم ۷۳۶
- ۵۳۳۷ دوسری شادی کرنے پر اعزاء کا طلاق دینے پر مجبور کرنا ۷۳۶
- ۵۳۳۸ پہلی بیوی کے نہ آنے پر دوسری شادی کرنا ۷۳۷
- ۵۳۳۹ دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کا میکہ چلے جانا ۷۳۹
- ۵۳۴۰ دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ ... ۷۴۱

- ۵۳۴۱ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا ۷۴۲
- ۵۳۴۲ مرد کو چار شادیوں کا اختیار ہے، عورت اس میں مخل نہیں ہو سکتی ۷۴۳

۷۴۵	۹/ باب نکاح المکرہ	□
-----	--------------------	---

- ۵۳۴۳ نکاح بالجبر کی ایک صورت ۷۴۵
- ۵۳۴۴ جبراً نکاح کا حکم ۷۴۶
- ۵۳۴۵ کیا جبراً قبول کرانے سے نکاح منعقد ہو جائے گا ۷۴۸
- ۵۳۴۶ زبردستی لڑکی کا نکاح کرنا اور لڑکی کا شوہر کے ساتھ چھ سال رہنا ۷۴۸
- ۵۳۴۷ زبردستی نکاح کرانے سے نکاح کا انعقاد ۷۵۰
- ۵۳۴۸ لڑکی کو نکاح پر مجبور کرنا اور رات گزارنا ۷۵۱



فہرست مضامین

۱۵ / بقیۃ کتاب النکاح

□	۱۰ باب الشہود والتوکیل فی النکاح	□
---	----------------------------------	---

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۸	۵۳۴۹ کراما کا تبین کو گواہ بنا کر نکاح کرنا
۳۹	۵۳۵۰ کیا صحت نکاح کے لئے شرعی نصاب شہادت لازم ہے؟
۴۱	۵۳۵۱ نکاح میں قاضی کے علاوہ دو گواہوں کا ہونا شرط ہے
۴۲	۵۳۵۲ بغیر گواہ کے نکاح کی ایک صورت
۴۳	۵۳۵۳ قاضی و گواہوں کے انتقال کی وجہ سے نکاح کا حکم
۴۴	۵۳۵۴ عاقدین اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا حکم
۴۵	۵۳۵۵ زوجین کا دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا
۴۷	۵۳۵۶ کیا مجلس نکاح میں رجسٹرڈ گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟
۴۸	۵۳۵۷ گواہوں کو متعین کئے بغیر مجمع عام میں نکاح پڑھانا
۴۹	۵۳۵۸ اجازت کے بعد مجمع عام میں رجسٹرڈ گواہوں اور کیلوں کی عدم موجودگی میں نکاح
۵۰	۵۳۵۹ گواہوں کی تعیین کئے بغیر مجمع عام میں نکاح کا حکم
۵۲	۵۳۶۰ زید نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو میری بیوی اور لڑکی نے کہا تو میرا شوہر ہے
۵۳	۵۳۶۱ بغیر گواہ کے نکاح
۵۴	۵۳۶۲ محض ایک عورت کی موجودگی میں عقد نکاح

- ۵۶ نکاح میں دو عورتوں کو گواہ بنانا ۵۳۶۳
- ۵۷ بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح کا حکم ۵۳۶۴
- ۵۸ بلا نکاح فرضی رسید کا حکم ۵۳۶۵
- ۵۹ کیا نکاح کے گواہ باپ اور بھائی بن سکتے ہیں؟ ۵۳۶۶
- ۶۰ زید نکاح کا منکر اور ہندہ مدعیہ تو کس کا قول معتبر؟ ۵۳۶۷
- ۶۱ دو بہن سے اجازت لیتے وقت گواہوں کی موجودگی ۵۳۶۸
- ۶۲ کیا لڑکی سے اجازت لیتے وقت گواہوں کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ ۵۳۶۹
- ۶۳ لڑکی نے کہا ابا جی مالک ہیں تو کیا حکم ہے؟ ۵۳۷۰
- ۶۴ کیا نکاح میں وکیل اور گواہ کو عاقدین کا علم ہونا ضروری ہے؟ ۵۳۷۱
- ۶۵ ولی، گواہ اور نکاح خواں کے بغیر نکاح کرنا ۵۳۷۲
- ۶۶ کیا صحت نکاح کے لئے وکیل اور قاضی کا ہونا لازم ہے؟ ۵۳۷۳
- ۶۷ نکاح میں وکیل اور گواہ ۵۳۷۴
- ۶۸ نکاح میں باپ وکیل سے مراد کون ہیں اور وکیل محرم ہونا ضروری ہے؟ ۵۳۷۵
- ۶۹ قاضی کا انشاء پر دلالت کرنے والے حال کے صیغہ سے نکاح پڑھانا ۵۳۷۶
- ۷۰ حال کے صیغہ سے ایجاب و قبول کا حکم ۵۳۷۷
- ۷۱ قاضی کے پوچھنے پر زوجین کا راضی ہوں کہنا ۵۳۷۸
- ۷۲ نکاح خواں اور اولیاء کی غیر موجودگی میں نکاح کرنا ۵۳۷۹
- ۷۳ قاضی اور مہر کی وضاحت کے بغیر نکاح کا حکم ۵۳۸۰
- ۷۴ والد کے اجازت لینے کی صورت میں وکیل اور گواہ کا حکم ۵۳۸۱
- ۷۵ مجبوری میں دی گئی اجازت کا حکم ۵۳۸۲
- ۷۶ لڑکی سے نکاح کی اجازت کون کون لے سکتا ہے؟ ۵۳۸۳

- ۵۳۸۲ غیر محرم کا وکیل بن کر اجازت لینے کا حکم ۸۰
- ۵۳۸۵ لڑکی کا قبول کرنے کے بعد اس سے انکار کرنا ۸۱
- ۵۳۸۶ اجازت کے وقت بالغ لڑکی کا کھلکھلا کر ہنسنا ۸۲
- ۵۳۸۷ مریضہ کو اجازت دینا یاد ہے تو کیا حکم؟ ۸۳
- ۵۳۸۸ مذاق میں ایجاب و قبول ۸۵
- ۵۳۸۹ لڑکی کا نکاح میں ایجاب و قبول کے بجائے دستخط کرنا ۸۷
- ۵۳۹۰ عورت نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں کسی کو اختیار دیا اور اس نے قبول کر لیا ۸۸
- ۵۳۹۱ بوقت نکاح لڑکی کے نام کی تبدیلی ۸۹
- ۵۳۹۲ نکاح کی رسید میں لڑکی، لڑکے کا نام بدلا ہوا ہو تو کیا حکم؟ ۹۱
- ۵۳۹۳ بیوی کا نام بوقت نکاح شاپین سلطانہ کے بجائے شاپین پروین لینا ۹۲
- ۵۳۹۴ قاضی نے چھوٹی بہن کے بجائے شادی شدہ بڑی بہن کے نام سے نکاح پڑھادیا ۹۴
- ۵۳۹۵ قاضی نے لڑکی کا نام بدل دیا تو نکاح ہوا یا نہیں؟ ۹۵
- ۵۳۹۶ قاضی نے دو بہنوں کے نکاح میں ایک کا نام دوسری کی جگہ لے لیا ... ۹۶
- ۵۳۹۷ دو بہنوں کے نکاح میں قاضی نے نام بدل دیا ۹۹
- ۵۳۹۸ قاضی نے لڑکی کا نام بدل کر نکاح پڑھایا ۱۰۰
- ۵۳۹۹ قاضی نے لڑکی کا نام بدل دیا ۱۰۲
- ۵۴۰۰ عقد نکاح کے وقت ولدیت بدل جائے تو کیا حکم ہے؟ ۱۰۳
- ۵۴۰۱ مجلس نکاح میں نکاح پڑھاتے وقت ولدیت کا بدل جانا ۱۰۴
- ۵۴۰۲ کیا نکاح نامہ میں حقیقی باپ کا نام لکھنا لازم ہے؟ ۱۰۵
- ۵۴۰۳ کیا ولدیت کی جگہ حقیقی باپ کا نام لکھنا لازم ہے؟ ۱۰۶
- ۵۴۰۴ جھوٹے اقرار اور جھوٹی خبر سے انعقاد نکاح کا حکم ۱۰۷

□	۱۱ / فون، انٹرنیٹ اور کورٹ میرج کا نکاح	□
---	---	---

۱۱۲ کورٹ میرج	۵۴۰۴
۱۱۳ کورٹ سے نکاح کرنا	۵۴۰۵
۱۱۴ کورٹ میرج اور عدالتی طلاق کا حکم	۵۴۰۶
۱۱۵ فون پر نکاح	۵۴۰۷
۱۱۶ ٹیلیفون پر نکاح	۵۴۰۸
۱۱۷ کیا ٹیلی فون پر نکاح ہو جائے گا؟	۵۴۰۹
۱۱۸ فون پر نکاح کی شرعی حیثیت	۵۴۱۰
۱۲۰ ٹیلی فون پر لڑکی سے اجازت لینا	۵۴۱۱
۱۲۲ فون پر نکاح کی جائز شکل	۵۴۱۲
۱۲۳ فون اور انٹرنیٹ پر نکاح سے متعلق ایک جامع فتویٰ	۵۴۱۳
۱۲۹ بذریعہ انٹرنیٹ نکاح کا حکم	۵۴۱۴
۱۳۰ انٹرنیٹ و موبائیل کے ذریعے کئے گئے نکاح کا حکم	۵۴۱۵
۱۳۱ انٹرنیٹ اور موبائل کے ویڈیو کانفرنس میں نکاح باطل	۵۴۱۶

□	۱۲ / باب النکاح الصحيح	□
---	------------------------	---

۱۳۳ رسمی نکاح	۵۴۱۷
۱۳۴ نکاح ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا	۵۴۱۸
۱۳۵ کیا عزت نفس کی خاطر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟	۵۴۱۹

- ۵۴۲۰ والد کے انتقال کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو مؤخر کرنا ۱۳۶
- ۵۴۲۱ گاؤں والوں کا بالغین کا نکاح کروانا ۱۳۷
- ۵۴۲۲ دس بیکھ زمین نام کرنے کی شرط پر میکہ سے واپس آنا ۱۳۸
- ۵۴۲۳ نکاح بالکتابہ کی ایک صورت ۱۳۹
- ۵۴۲۴ شادی کا خرچ اولاد کے ذمہ ہے یا والد کے؟ ۱۴۰
- ۵۴۲۵ مرد کا ۲۵ سال کی عمر میں دوسری شادی کرنا ۱۴۲
- ۵۴۲۶ ۲۵ سالہ بیوہ سے نکاح پر لوگوں کا اعتراض ۱۴۳
- ۵۴۲۷ شادی شدہ نہ ہونے کی شرط پر نکاح ۱۴۴
- ۵۴۲۸ طلاق کی نیت سے نکاح ۱۴۵
- ۵۴۲۹ قرناء عورت سے شادی کا حکم ۱۴۶
- ۵۴۳۰ جس لڑکی میں زنا نہ حیثیت مکمل نہیں اس سے نکاح ۱۴۸
- ۵۴۳۱ اندام نہانی بند والی عورت سے نکاح کا حکم ۱۴۹
- ۵۴۳۲ کیا احکام شرعیہ سے ناواقف عورت کا نکاح صحیح نہیں؟ ۱۵۰
- ۵۴۳۳ دھوکہ دے کر بیمار عورت سے نکاح کرا دینا ۱۵۱

□	۱۳/باب من یحل نکاحہ	□
---	---------------------	---

- ۵۴۳۴ سوتیلی ماں کی حقیقی بہن سے نکاح ۱۵۴
- ۵۴۳۵ عورت اور اس کی سوتیلی لڑکی سے نکاح ۱۵۴
- ۵۴۳۶ دو حقیقی بھائیوں کا الگ الگ ماں اور بیٹی سے نکاح کرنا ۱۵۶
- ۵۴۳۷ ماں کی خالہ زاد بہن سے نکاح ۱۵۷

- ۵۴۳۸ پچھری خالہ سے نکاح ۱۵۸
- ۵۴۳۹ ناناکا خالہ زاد بہن کے لڑکے یا پچھری بھائی کے پوتے کی لڑکی سے نکاح ... ۱۵۸
- ۵۴۴۰ خالہ کی سوتن کی لڑکی کی لڑکی سے نکاح ۱۵۹
- ۵۴۴۱ ماں کی حقیقی چچی سے نکاح ۱۶۰
- ۵۴۴۲ ماں کی ماموں زاد بہن سے نکاح ۱۶۱
- ۵۴۴۳ باپ کی چچا زاد بہن سے نکاح ۱۶۱
- ۵۴۴۴ باپ کی ربیبہ سے نکاح ۱۶۲
- ۵۴۴۵ قبل ال دخول طلاق دینے کے بعد بیٹی سے جواز نکاح اور ماں سے عدم جواز ۱۶۳
- ۵۴۴۶ پہلی بیوی کے لڑکوں کا دوسری بیوی کی لڑکیوں سے نکاح ۱۶۵
- ۵۴۴۷ دوسرے شوہر کی اولاد سے نکاح کرنا ۱۶۶
- ۵۴۴۸ خالہ کی نواسی سے نکاح ۱۶۷
- ۵۴۴۹ چچا کے انتقال کے بعد چچی سے نکاح ۱۶۸
- ۵۴۵۰ چچا اور بھتیجی کا آپس میں نکاح ۱۶۹
- ۵۴۵۱ چچا زاد بہن کی لڑکی سے نکاح ۱۷۱
- ۵۴۵۲ چچا زاد پھوپھی سے نکاح ۱۷۲
- ۵۴۵۳ چچا زاد بھائی کے بیٹے سے نکاح ۱۷۲
- ۵۴۵۴ چچا زاد بہن کی لڑکی سے نکاح ۱۷۳
- ۵۴۵۵ چچا زاد بھائی کی لڑکی سے نکاح ۱۷۴
- ۵۴۵۶ عدت مکمل ہونے کے بعد چچا زاد بھائی کی مطلقہ سے نکاح ۱۷۵

- ۵۴۵۷ متوفی چھوٹے بھائی کی بیوی سے نکاح ۱۷۶
- ۵۴۵۸ بھائی کے انتقال کے بعد بھابھی سے نکاح ۱۷۷
- ۵۴۵۹ اپنے بھائی کے سالے کی لڑکی سے نکاح ۱۷۷
- ۵۴۶۰ بیٹے کا نکاح سالی سے کرنا ۱۷۸
- ۵۴۶۱ چچا زاد ماموں سے نکاح کرنے کا حکم ۱۷۹
- ۵۴۶۲ سگے ماموں کی نواسی سے نکاح ۱۸۰
- ۵۴۶۳ دو سگی بہنوں کی اولادوں کے آپس میں نکاح کا شرعی حکم ۱۸۱
- ۵۴۶۴ بھائی کی اولاد سے اپنی اولاد کا نکاح ۱۸۳
- ۵۴۶۵ ایک بھائی کے لڑکے کا دوسرے بھائی کی پوتی سے نکاح ۱۸۴
- ۵۴۶۶ سوتیلے بھائیوں کی اولاد کا باہم نکاح ۱۸۵
- ۵۴۶۷ بھانجی کے لڑکے سے نکاح ۱۸۶
- ۵۴۶۸ پھوپھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح ۱۸۷
- ۵۴۶۹ متوفی بیوی کی بھانجی سے نکاح ۱۸۷
- ۵۴۷۰ سمدھن کے ساتھ نکاح ۱۸۸
- ۵۴۷۱ داماد کی والدہ سے نکاح ۱۸۹
- ۵۴۷۲ استناذ کی بیوی سے نکاح ۱۹۰
- ۵۴۷۳ غیر مختون سے نکاح ۱۹۱
- ۵۴۷۴ اجنبیہ کو بہن کہنے کے بعد اسی سے نکاح ۱۹۲
- ۵۴۷۵ کسی کو سگی بہن یا بھانجی کہنے کے بعد اس سے نکاح ۱۹۲
- ۵۴۷۷ سوتیلی سالی سے نکاح ۱۹۴

□	۱۴ باب نکاح الحاملۃ والمزنیۃ	□
۱۹۸ حاملہ سے نکاح	۵۴۷۸
۱۹۹ حمل والی عورت سے نکاح	۵۴۷۹
۲۰۰ اپنی چھ ماہ کی حاملہ مزنیہ سے نکاح	۵۴۸۰
۲۰۱ جبلی من الزنا سے نکاح	۵۴۸۱
۲۰۲ حالت حمل میں نکاح اور طلاق کا حکم	۵۴۸۲
۲۰۳ زانیہ حاملہ سے نکاح	۵۴۸۳
۲۰۵ حاملہ مزنیہ سے نکاح	۵۴۸۴
۲۰۶ جبلی من الزنا سے نکاح	۵۴۸۵
۲۰۷ دو مہینہ کی حاملہ سے نکاح	۵۴۸۶
۲۰۸ شادی کے دو ماہ کے بعد تین ماہ کی حاملہ	۵۴۸۷
۲۱۰ نکاح کے تین ماہ بعد ولادت ہونے والا نکاح صحیح ہے یا نہیں؟	۵۴۸۸
۲۱۱ لائمی میں تین ماہ کی حاملہ سے نکاح	۵۴۸۹
۲۱۲ مزنیہ حاملہ سے نکاح اور وطی کا حکم	۵۴۹۰
۲۱۳ جبلی من الزنا کا نکاح اور نکاح پڑھانے والے کا حکم	۵۴۹۱
۲۱۵ جبلی من الزنا سے شادی اور اس کا مہر	۵۴۹۲
۲۱۶ جبلی من الزنا سے نکاح اور مہر وغیرہ کا حکم	۵۴۹۳
۲۱۷ کیا سات ماہ کی حاملہ سے نکاح صحیح ہے؟	۵۴۹۴
۲۱۸ مزنیہ سے زانی کا نکاح	۵۴۹۵

- ۲۲۰ اپنی مزنیہ سے نکاح ۵۴۹۶
- ۲۲۱ زانی کا اپنی مزنیہ سے نکاح ۵۴۹۷
- ۲۲۱ اپنی مزنیہ سے حالت حمل میں نکاح ۵۴۹۸
- ۲۲۲ اپنی مزنیہ حاملہ سے نکاح ۵۴۹۹
- ۲۲۳ زانی کا اس کی مزنیہ سے نکاح ۵۵۰۰
- ۲۲۵ اپنی مزنیہ سے نکاح اور وطی ۵۵۰۱
- ۲۲۵ ناجائز تعلقات کے بعد باہم نکاح اور اولاد کا حکم ۵۵۰۲
- ۲۲۷ کیا زانا سے حمل شدہ لڑکی کا نکاح زانی سے درست ہے؟ ۵۵۰۳
- ۲۲۸ ولد الزنا سے نکاح ۵۵۰۴
- ۲۲۸ زانی اور مزنیہ کے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح ۵۵۰۵
- ۲۲۹ زانیہ وزانی کی اولاد کا باہم نکاح ۵۵۰۶
- ۲۳۱ زانی کی اولاد کا مزنیہ کی اولاد سے نکاح ۵۵۰۷
- ۲۳۱ زانی اور مزنیہ کے فروع کا نکاح ۵۵۰۸
- ۲۳۲ کیا زانی مزنیہ کے فروع کا آپس میں نکاح درست ہے؟ ۵۵۰۹
- ۲۳۵ ممسوسہ کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرنا ۵۵۱۰
- ۲۳۶ زانیہ بیوی کو رکھنے اور اس کے حمل و استقاط کا حکم ۵۵۱۱
- ۲۳۷ مزنیہ سالی کی لڑکی سے زانی کے لڑکے کا نکاح ۵۵۱۲
- ۲۳۸ مکرہ علی الزنا سے نکاح ۵۵۱۳
- ۲۳۹ بہنوئی سے حاملہ سالی کا بھائی سے نکاح ۵۵۱۴
- ۲۴۰ حالت حیض میں نکاح ۵۵۱۵

۵۵۱۶ حیض کی حالت میں نکاح ۲۴۰

□	۱۵ باب من لا یحل نکاحہ	□
---	------------------------	---

۵۵۱۷ غیر مقلد کے ساتھ حنفی لڑکی کا نکاح ۲۴۲

۵۵۱۸ غیر مقلد عورت سے نکاح ۲۴۲

۵۵۱۹ حنفی المسلمک کا شیعہ سے نکاح ۲۴۳

۵۵۲۰ سنی لڑکے اور شیعہ لڑکی کا نکاح ۲۴۵

۵۵۲۱ شیعہ لڑکی کو سنی سمجھ کر نکاح کرنا ۲۴۶

۵۵۲۲ سنی لڑکے کا جبر انالی شیعہ کی لڑکی سے نکاح کا حکم ۲۴۷

۵۵۲۳ کیا شیعہ سے سنی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ۲۴۸

۵۵۲۴ شیعہ عورت سے نکاح، اس سے پیدا شدہ بچوں کے نسب اور وراثت کا حکم ۲۵۰

۵۵۲۵ قادیانی کا سنی عورت سے نکاح اور اولاد کا حکم ۲۵۱

۵۵۲۶ اہل قرآن کی لڑکی سے نکاح ۲۵۲

۵۵۲۷ عیسائی رسم و رواج کے مطابق شادی کرنا ۲۵۳

۵۵۲۸ شیعہ سے رشتہ مناکحت قائم کرنا ۲۵۴

۵۵۲۹ نو مسلمہ کا اسلام لانے کے بعد نکاح ۲۵۵

۵۵۳۰ نو مسلمہ شادی کے لئے کتنے حیض گزارے گی؟ ۲۵۶

۵۵۳۱ نو مسلمہ کنواری لڑکی کا نکاح فوری طور پر کرنا ۲۵۸

۵۵۳۲ نو مسلمہ نکاح کے لئے تین حیض گزارے یا چھ حیض؟ ۲۵۹

۵۵۳۳ غیر مسلم بیوہ یا مطلقہ کا اسلام لانے کے بعد مسلمان سے فوراً نکاح ۲۶۱

- ۵۵۳۳ غیر مسلم کے ساتھ رہ کر تین بچے بھی ہو گئے ان کے نسب کا کیا حکم؟ ... ۲۶۲
- ۵۵۳۳ زانیہ کے ساتھ نکاح اور چھ ماہ سے قبل ولادت کا حکم؟ ۲۶۳
- ۵۵۳۳ غیر مسلم شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات اور بچوں کا حکم؟ ۲۶۴
- ۵۵۳۳ غیر مسلم کنواری لڑکی سے ناجائز تعلقات اور چار ماہ کے حمل کی حالت میں نکاح ۲۶۶
- ۵۵۳۳ شادی شدہ غیر مسلم عورت کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے نکاح کے لئے عدت کا حکم ۲۶۷
- ۵۵۳۳ غیر مسلم کنواری لڑگی کے قبول اسلام کے بعد استبراء رحم کے بغیر نکاح . ۲۶۹
- ۵۵۳۳ دور حاضر میں باندی کے ساتھ بیوی جیسا سلوک ۲۷۰
- ۵۵۳۵ باندی سے نکاح کرنے کا حکم ۲۷۱

□	۱۶/ باب استبراء الرحم	□
---	-----------------------	---

- ۵۵۳۶ کنواری باندی سے ہمبستری کے لئے استبراء رحم لازم نہیں؟ ۲۷۲
- ۵۵۳۷ کیا ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر سکتے ہیں؟ ۲۷۳
- ۵۵۳۸ ارتداد کی صورت میں نکاح اور مہر کا حکم ۲۷۴
- ۵۵۳۹ غیر مسلم کے ساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے احکام ۲۷۶
- ۵۵۴۰ کیا غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے والی عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ ۲۷۷
- ۵۵۴۱ غیر مسلم کیساتھ فرار ہونے والی لڑکی کے نکاح کا حکم ۲۷۸
- ۵۵۴۲ مسلمان لڑکے کا ہندو لڑکی سے شادی کرنا ۲۸۱
- ۵۵۴۳ مسلم لڑکے کا کافر لڑکی سے نکاح ۲۸۱
- ۵۵۴۴ مرد کا نکاح کسی سے منعقد نہیں ہوتا ۲۸۳

□	۱۷/ باب المحرمات	□
۲۸۴ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟	۵۵۴۵
۲۸۵ بیٹے کی مطلقہ سے نکاح	۵۵۴۶
۲۸۶ باپ کی منکوحہ سے نکاح	۵۵۴۷
۲۸۸ قبل الدخول طلاق شدہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کا عدم جواز	۵۵۴۸
۲۸۹ باپ کی سوتیلی بہن سے نکاح	۵۵۴۹
۲۹۰ خالہ سے نکاح	۵۵۵۰
۲۹۱ سگی خالہ سے نکاح	۵۵۵۱
۲۹۲ کیا خوشدامن اور خسر کی والدہ محرمات میں سے ہیں؟	۵۵۵۲
۲۹۳ خالو اور پھوپھو محرم ہیں یا غیر محرم؟	۵۵۵۳
۳۹۴ بیوی کی خالہ اور پھوپھی محرم ہیں یا غیر محرم؟	۵۵۵۴
۲۹۵ بھانجی اور چچا زاد بہن سے نکاح	۵۵۵۵
۲۹۶ دور کے ماموں، بھانجی اور خالہ بھانجے کا نکاح	۵۵۵۶
۲۹۷ علاقائی بھائی بہن کا نکاح	۵۵۵۷
۲۹۸ لاعلمی میں اپنی محرم عورت سے نکاح	۵۵۵۸
۲۹۹ لاعلمی میں محرم عورت سے نکاح	۵۵۵۹
۲۹۹ بھانجی سے شادی کرنے والے کی عورت کا پکا یا ہوا کھانا کھانے کا حکم	۵۵۶۰
۳۰۰ بغیر نکاح کے عورت کو ساتھ رکھنا	۵۵۶۱
۳۰۱ دو بہنیں ایک دوسرے سے چسپاں ہیں ان کا نکاح کیسے ہو؟	۵۵۶۱

□	۱۸ / باب المحرمات بالصهرية	□
---	----------------------------	---

۳۰۳ حرمت مصاہرت کے متعلق چند سوالات و جوابات	۵۵۶۲
۳۰۸ کیا حرمت مصاہرت کے ثبوت کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنے کی کوئی شکل ہے؟	۵۵۶۳
۳۱۰ محرمات ابدیہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہونے کا ثمرہ	۵۵۶۴
۳۱۱ اجنبیہ منکوحہ سے حرمت مصاہرت کا کیا فائدہ؟	۵۵۶۵
۳۱۲ کیا شرعی شہادت کے بغیر محض عورت کے دعویٰ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی؟	۵۵۶۶
۳۱۶ کیا تنہا عورت کی گواہی حرمت مصاہرت کے لئے کافی ہے؟	۵۵۶۷
۳۱۷ خسر سے حرمت کے ثبوت کے شرائط	۵۵۶۸
۳۱۹ شرعی گواہ نہ ہونے کی صورت میں زنا کا اقرار کرے یا نہ کرے؟	۵۵۶۹
۳۲۰ کیا محض افواہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی؟	۵۵۷۰
۳۲۱ نابالغ بچی سے زنا کے نتیجے میں حرمت مصاہرت کا حکم	۵۵۷۱
۳۲۲ بحالت نابالغ اپنی لڑکی کو شہوت سے چھونا	۵۵۷۲
۳۲۳ دس گیارہ سال کی بیٹی کو چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں؟	۵۵۷۳
۳۲۴ کیا بارہ سال بعد حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگا؟	۵۵۷۴
۳۲۵ لمس بالید سے حرمت مصاہرت کا حکم	۵۵۷۵
۳۲۶ اپنی لڑکی یا سالی سے زنا کرنے سے کیا بیوی حرام ہو جائے گی؟	۵۵۷۶
۳۲۷ چچی کا بوسہ لینے کا حکم	۵۵۷۷
۳۲۸ کیا مذاق میں بھی مس، تقبیل وغیرہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے؟	۵۵۷۸
۳۳۰ عورت کو شہوت سے ہاتھ لگانے کا حکم	۵۵۷۹
۳۳۱ عورت کے پاس شرعی گواہ ہونے کی صورت میں حرمت مصاہرت	۵۵۸۰

- ۵۵۸۱ بہو سے زنا بالجبر پر کوئی گواہ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ۳۳۲
- ۵۵۸۲ خسر منکرا اور عورت کے پاس شرعی گواہ نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ ۳۳۳
- ۵۵۸۳ عورت کے دعویٰ اور خسر و اہل محلہ کے انکار سے حرمت مصاہرت کا حکم ۳۳۴
- ۵۵۸۴ خسر کا بہو سے بد فعلی کا ارادہ کرنا ۳۳۵
- ۵۵۸۵ شوہر پر بہو سے ہم بستری کرنے کا الزام لگانا ۳۳۷
- ۵۵۸۶ بہو نے خسر پر زنا کا الزام لگایا ۳۳۷
- ۵۵۸۷ بہو کا خسر پر زنا بالجبر کا الزام لگانا ۳۳۸
- ۵۵۸۸ ۷۰ سالہ خسر پر بہو کا زنا کا الزام لگانا ۳۴۰
- ۵۵۸۹ بہو کا خسر پر سینہ پر ہاتھ لگانے کا دعویٰ کرنا ۳۴۱
- ۵۵۹۰ لڑکے کو والد کی طرف سے زنا یا دواعی زنا کا یقین ہے تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۲
- ۵۵۹۱ زوجین خسر سے زنا کے ثبوت کے اقراری ہوں تو کیا حکم ہے؟ ۳۴۴
- ۵۵۹۲ خسر کا شہوت کے ساتھ بہو کا ہاتھ پکڑنا ۳۴۶
- ۵۵۹۳ خسر کا شہوت کے ساتھ بہو کو چھونا ۳۴۷
- ۵۵۹۴ خسر کا بہو سے زنا کرنا ۳۴۹
- ۵۵۹۵ خسر کا بہو کے ساتھ زنا بالجبر کرنے کا حکم ۳۵۰
- ۵۵۹۶ کیا خسر کے بہو سے زنا کرنے سے شوہر پر حرام ہو جائے گی؟ ۳۵۱
- ۵۵۹۷ کیا بیٹی سے جماع کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے؟ ۳۵۲
- ۵۵۹۸ رپیہ سے زنا کرنے کا حکم ۳۵۳
- ۵۵۹۹ ممسوسہ بالشہوۃ کی بیٹی سے نکاح ۳۵۴
- ۵۶۰۰ موطوہ کی بیٹی سے نکاح تکرار ہے ۳۵۵
- ۵۶۰۱ زانی مزنیہ کی لڑکی سے نکاح ۳۵۶

۳۵۸	۵۶۰۲	مزنئیہ کی فروغ سے زانی کا نکاح
۳۵۹	۵۶۰۳	اپنی مزنئیہ کی بیٹی سے نکاح
۳۶۰	۵۶۰۴	باپ کی مزنئیہ سے نکاح کا عدم جواز
۳۶۱	۵۶۰۵	زانی کا مزنئیہ کی ماں یا بیٹی کے ساتھ نکاح کا فساد
۳۶۲	۵۶۰۶	مزنئیہ کی لڑکی سے نکاح کرنے والے کے یہاں کھانا کھانا
۳۶۳	۵۶۰۷	باپ کا لڑکے کی مطلقہ سے نکاح
۳۶۳	۵۶۰۸	بیٹے کا باپ کی مسمومہ سے نکاح
۳۶۴	۵۶۰۹	بیٹے کا ماں کو شہوت کے ساتھ چھونے کا حکم
۳۶۵	۵۶۱۰	حقیقی بہن سے صحبت کرنے کی وجہ سے کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے؟
۳۶۶	۵۶۱۱	ساس کی شرم گاہ کو دیکھنا
۳۶۷	۵۶۱۲	شہوت کے ساتھ ساس کو مس کرنا اور بوسہ لینا
۳۶۸	۵۶۱۳	دھوکے سے داماد کا ساس کو بحالتِ شہوت چھونا
۳۶۹	۵۶۱۴	صحبت کے ارادے سے ساس کو بیوی سمجھ کر ہاتھ لگانا
۳۷۰	۵۶۱۵	شہوت کے ساتھ ساس کو چھونے سے کیا بیوی حرام ہو جائے گی
۳۷۱	۵۶۱۶	خوش دامن سے مجامعت کرنے کا حکم
۳۷۲	۵۶۱۷	کیا سالی سے زنا کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟
۳۷۳	۵۶۱۸	کیا سالی سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا؟
۳۷۴	۵۶۱۹	سالی سے بدکاری کے بعد بیوی نکاح میں رہے گی یا نہیں؟
۳۷۴	۵۶۲۰	منکوہہ اپنے بہنوئی سے زنا کرے تو شوہر پر حرام ہوگی یا نہیں؟
۳۷۶	۵۶۲۱	سالی سے وطی کرنے سے بیوی حرام ہوگی یا نہیں؟
۳۷۶	۵۶۲۲	مزنئیہ کی بہن سے نکاح اور سالی سے زنا کا حکم

۳۷۷	سالی کو اٹھا کر لے جا کر اپنے ساتھ رکھنے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟	۵۶۲۳
۳۷۸	کیا مزنیہ کے اصول و فروع زانی پر حرام ہیں؟	۵۶۲۴
۳۷۹	سالی کے سینے کو چھونے کا حکم	۵۶۲۵
۳۸۰	سالی سے زنا کرنے کا حکم	۵۶۲۶
۳۸۱	بیوی کی بہن سے زنا کرنا	۵۶۲۷
۳۸۲	سالی سے زنا کر لے تو حرمت مصاہرت کا حکم	۵۶۲۸
۳۸۳	سالی کے ساتھ زنا کرنا اور اپنے لڑکے کا اس کی لڑکی سے نکاح کرنا	۵۶۲۹
۳۸۴	کیا نامحرم سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟	۵۶۳۰
۳۸۵	اجنبی کے ساتھ غلط تعلقات کا نکاح پر اثر	۵۶۳۱

<input type="checkbox"/>	۱۹/باب الجمع بین المحارم	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------------	--------------------------

۳۸۷	دو علاقائی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا	۵۶۳۲
۳۸۷	بیوی کی موجودگی میں بیوی کی سگی بہن سے نکاح	۵۶۳۳
۳۸۸	دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا	۵۶۳۴
۳۹۰	بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح	۵۶۳۵
۳۹۱	بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح	۵۶۳۶
۳۹۲	دو سگی بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھنا	۵۶۳۷
۳۹۳	دو سگی بہنوں کے ایک نکاح میں اجتماع کا عدم جواز	۵۶۳۸
۳۹۴	بیوی کی بہن سے زنا اور نکاح کرنے کا حکم	۵۶۳۹
۳۹۵	بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کرنا	۵۶۴۰
۳۹۶	سالی سے نکاح	۵۶۴۱

۳۹۸	سگی سالی سے نکاح	۵۶۴۲
۳۹۹	بیوی کی موجودگی میں سگی سالی سے نکاح	۵۶۴۳
۴۰۰	بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح اور اولاد کا حکم	۵۶۴۴
۴۰۱	دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں اور ان کی اولاد کا نکاح	۵۶۴۵
۴۰۲	دو بہنوں سے الگ الگ نکاح اور ان سے پیدا شدہ اولاد کا حکم	۵۶۴۶
۴۰۳	پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا	۵۶۴۷
۴۰۴	ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا	۵۶۴۸
۴۰۶	خالہ، بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا	۵۶۴۹
۴۰۷	بیوی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا	۵۶۵۰
۴۰۸	بیوی کے رہتے ہوئے اس کی حقیقی بھانجی سے نکاح	۵۶۵۱
۴۰۹	بیوی کی ماں شریکِ اخیانی بہن سے نکاح	۵۶۵۲

□	۲۰ / باب النکاح الفاسد والباطل	□
---	--------------------------------	---

۴۱۲	نکاح فاسد کی وضاحت	۵۶۵۳
۴۱۳	نکاح فاسد و باطل کی تحقیق سے متعلق ایک جامع فتویٰ	۵۶۵۴
۴۱۹	کیا دو مردوں کے درمیان بھی نکاح ہونے لگا؟	۵۶۵۵
۴۱۹	عنین اور خنثی مشکل کسے کہتے ہیں؟	۵۶۵۶
۴۲۰	خنثی سے نکاح	۵۶۵۷

□	۲۱ / باب نکاح منکوحۃ الغیر	□
---	----------------------------	---

۴۲۲	لاپتہ شوہر کی بیوی کا دوسرا نکاح	۵۶۵۸
-----	-------	----------------------------------	------

- ۵۶۵۹ شوہر کی موجودگی میں دوسرے سے کورٹ میرج کرنا ۴۲۳
- ۵۶۶۰ شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسرے سے نکاح ۴۲۴
- ۵۶۶۱ ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح ۴۲۵
- ۵۶۶۲ دوسرے کی بیوی سے نکاح ۴۲۶
- ۵۶۶۳ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح ۴۲۷
- ۵۶۶۴ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کی شرعی حیثیت ۴۲۹
- ۵۶۶۵ کسی کی منکوحہ سے نکاح ۴۳۰
- ۵۶۶۶ منکوحہ الغیر کا دوسری جگہ شادی کرنا ۴۳۱
- ۵۶۶۷ منکوحہ الغیر کی کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ۴۳۲
- ۵۶۶۸ منکوحہ الغیر اور معتدہ سے نکاح ۴۳۳
- ۵۶۶۹ منکوحہ الغیر کا دوسرے مرد سے نکاح ۴۳۵
- ۵۶۷۰ منکوحہ الغیر کے نکاح سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۴۳۶
- ۵۶۷۱ منکوحہ الغیر سے نکاح کے متعلق چند سوالات و جوابات ۴۳۸
- ۵۶۷۲ منکوحہ الغیر کا شرعی تفریق کے بغیر نکاح ۴۳۹
- ۵۶۷۳ شرعی تفریق حاصل کئے بغیر منکوحہ الغیر کا دوسری جگہ نکاح ۴۴۱
- ۵۶۷۴ منکوحہ الغیر کا دوسرے مرد سے شادی کرنا ۴۴۲
- ۵۶۷۵ منکوحہ کا تفریق سے قبل دوسرے شخص سے نکاح ۴۴۳
- ۵۶۷۶ منکوحہ الغیر سے نکاح اور اس کی دعوت قبول کرنے کا حکم ۴۴۴
- ۵۶۷۷ کیا منکوحہ الغیر سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ۴۴۵
- ۵۶۷۸ کیا منکوحہ الغیر سے نکاح کرنا حرام ہے؟ ۴۴۷
- ۵۶۷۹ منکوحہ الغیر سے قصداً نکاح کرنا ۴۴۹

- ۵۶۸۰ منکوحۃ الغیر کا نکاح ۴۵۰
- ۵۶۸۱ منکوحۃ الغیر کا نکاح کرنا ۴۵۱
- ۵۶۸۲ شرعی تفریق حاصل کئے بغیر منکوحۃ کا دوسری جگہ نکاح ۴۵۲
- ۵۶۸۳ منکوحۃ الغیر کی دوسرے سے شادی اور اولاد کا حکم ۴۵۳
- ۵۶۸۴ منکوحۃ الغیر سے نکاح اور اولاد کا حکم ۴۵۴
- ۵۶۸۵ منکوحۃ الغیر کے دوسرے سے نکاح کے بعد مہر اور پیدا شدہ بچہ کا حکم ... ۴۵۵
- ۵۶۸۶ منکوحۃ الغیر سے نکاح اور اس سے پیدا شدہ بچہ کا نسب ۴۵۷
- ۵۶۸۷ منکوحۃ غیر کو اپنے پاس رکھنا ۴۵۸
- ۵۶۸۸ دوسرے کی بیوی کو اغواء کر کے نکاح کرنا ۴۵۹
- ۵۶۸۹ منکوحۃ کی اجازت کے بغیر چوری چھپے دوسرے مرد سے نکاح کر دینے کا حکم ... ۴۶۱
- ۵۶۹۰ شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ بھاگ جانا ۴۶۲
- ۵۶۹۱ دوسرے کی بیوی کو بھگا کر اس سے نکاح ۴۶۴
- ۵۶۹۲ لڑکی کے گھر والوں کا لڑکے کو طلاق پر مجبور کرنا، نیز دوسری جگہ شادی کرنا .. ۴۶۵
- ۵۶۹۳ منکوحۃ کو فروخت کرنا ۴۶۷
- ۵۶۹۴ رجعت کردہ بیوی کا دوسری جگہ نکاح ۴۶۸
- ۵۶۹۵ غیر کی منکوحۃ سے نکاح اور اس کی سزا ۴۶۹
- ۵۶۹۶ شرعی تفریق حاصل کئے بغیر دوسرے سے متعلق چند سوالات ... ۴۷۱
- ۵۶۹۷ شوہر کے طلاق دیئے بغیر دوسرے کے ساتھ کورٹ میرج ۴۷۳
- ۵۶۹۸ شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسرے سے نکاح ۴۷۴
- ۵۶۹۹ شوہر اول سے شرعی تفریق کے بغیر دوسرے سے نکاح ۴۷۵
- ۵۷۰۰ شوہر اول سے طلاق لئے بغیر دوسرے کے پاس رہنا ۴۷۶

- ۵۷۰۱ شوہر اول سے طلاق کے بغیر دوسرے سے نکاح ۴۷۷
- ۵۷۰۲ موجودہ شوہر سے خلاصی حاصل کئے بغیر دوسرے سے نکاح ۴۷۸
- ۵۷۰۳ بغیر طلاق دوسری جگہ نکاح ۴۷۹
- ۵۷۰۴ بغیر طلاق و شرعی تفریق کے نکاح ثانی ۴۸۰
- ۵۷۰۵ شرعی تفریق حاصل کئے بغیر دوسرا نکاح ۴۸۱
- ۵۷۰۶ تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ نکاح کا عدم جواز ۴۸۲
- ۵۷۰۷ مطلقہ ثلاثہ سے اس کی عدت میں نکاح اور نسب کا حکم ۴۸۳
- ۵۷۰۸ مطلقہ کی عدت میں جان بوجھ کر دوسرے شخص کا نکاح باطل ۴۸۵
- ۵۷۰۹ تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح ۴۸۶
- ۵۷۱۰ زانیہ بیوی کا بغیر طلاق کے زانی سے نکاح ۴۸۷
- ۵۷۱۱ تین طلاق کے بعد بلا حلالہ نکاح ثانی ۴۸۷
- ۵۷۱۲ سرسرا اپنی بیٹی کے شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا ۴۸۹
- ۵۷۱۳ بغیر شرعی تفریق کے دوسری جگہ نکاح کا حکم ۴۹۰
- ۵۷۱۴ طلاق یا شرعی تفریق کے بغیر دوسری جگہ نکاح ۴۹۰
- ۵۷۱۵ بغیر طلاق نکاح ثانی کا حکم ۴۹۳
- ۵۷۱۶ بغیر شرعی تفریق کے نکاح ثانی کا حکم ۴۹۴
- ۵۷۱۷ بغیر طلاق اور شرعی تفریق کے نکاح ثانی کا حکم ۴۹۶
- ۵۷۱۸ شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا ۴۹۷
- ۵۷۱۹ شوہر سے طلاق حاصل کئے بغیر عدالت مجاز سے نکاح فسخ کرا کر دوسرے سے نکاح ... ۴۹۹
- ۵۷۲۰ شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح ۴۹۹
- ۵۷۲۱ عدالت کی طلاق کے بعد دوسری جگہ نکاح ۵۰۱

- ۵۰۲ شوہر سے تفریق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنے کا حکم ۵۷۲۲
- ۵۰۳ بغیر تفریق کے نکاح ۵۷۲۳
- ۵۰۴ طلاق لئے بغیر منکوحہ کا دوسری جگہ نکاح ۵۷۲۴
- ۵۰۶ شوہر سے تفریق حاصل کئے بغیر بیوی کا دوسرا نکاح کر لینا ۵۷۲۵
- ۵۰۷ پہلے شوہر سے طلاق حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح ۵۷۲۶
- ۵۰۸ مطلقہ حلالہ سے منع کرے تو کیا حکم ہے؟ ۵۷۲۷
- ۵۱۰ حمل کی حالت میں طلاق کے بغیر دوسرے سے نکاح اور بچہ کا ثبوت ... ۵۷۲۸
- ۵۱۱ شوہر سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا ۵۷۲۹
- ۵۱۲ کورٹ کی طلاق کے بعد دوسری جگہ نکاح کا حکم ۵۷۳۰

□	۲۲ / باب نکاح المعتدة	□
---	-----------------------	---

- ۵۱۴ معتدہ کو نکاح کا پیغام دینا ۵۷۳۱
- ۵۱۶ دوران عدت دوسرے سے نکاح ۵۷۳۲
- ۵۱۷ مطلقہ کا عدت کی تکمیل سے قبل دوسرا نکاح کرنا ۵۷۳۳
- ۵۱۸ تکمیل عدت سے قبل دوسرا نکاح کرنا ۵۷۳۴
- ۵۱۹ کیا مطلقہ دوران عدت نکاح کر سکتی ہے؟ ۵۷۳۵
- ۵۲۰ بحالت عدت مطلقہ کا دوسرا نکاح کرنا ۵۷۳۶
- ۵۲۱ درمیان عدت نکاح کا حکم ۵۷۳۷
- ۵۲۲ دوران عدت نکاح کرنا ۵۷۳۸
- ۵۲۳ دوران عدت نکاح کرنا ۵۷۳۹
- ۵۲۴ دوران عدت نکاح کا حکم شرعی ۵۷۴۰

- ۵۲۱ عدت سے قبل بغیر حلالہ کے شوہر کا مطلقہ سے نکاح کرنا ۵۲۵
- ۵۲۲ عدت گزارے بغیر نکاح ۵۲۷
- ۵۲۳ معتدہ کا دوسری جگہ نکاح کرنا ۵۲۷
- ۵۲۸ طلاق نامہ پراگٹوٹھا لگوانے سے طلاق عدت کے اندر نکاح ۵۲۸

□	۲۲ / باب نکاح المطلقہ	□
---	-----------------------	---

- ۵۳۰ مطلقہ مغلظہ کا بعد العدة دوسری جگہ نکاح کرنا ۵۲۵
- ۵۳۱ طلاق کے ڈھائی ماہ بعد دوسرا نکاح کرنا ۵۲۶
- ۵۳۲ مطلقہ مرتدہ سے دوبارہ نکاح ۵۲۷
- ۵۳۳ مطلقہ مرتدہ کا پہلے شوہر سے نکاح ۵۲۸
- ۵۳۴ مطلقہ تلاش کا طلاق کے گیارہ ماہ بعد دوسرا نکاح کرنا ۵۲۹
- ۵۳۶ حلالہ کے بعد نکاح کرنا اور اہل بستی کا اس کو حرام کہنا ۵۳۰
- ۵۳۷ خلع شدہ عورت سے بلا حلالہ نکاح ۵۳۱
- ۵۳۸ کیا طلاق کے بعد بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے؟ ۵۳۲
- ۵۴۰ شوہر ثانی سے طلاق کے بعد شوہر اول سے نکاح ۵۳۰
- ۵۴۱ تیسرا شوہر طلاق دیدے تو اول و ثانی شوہر کے لئے نکاح کا حکم ۵۳۱
- ۵۴۲ عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح ۵۳۲
- ۵۴۳ مطلقہ بائنتہ سے نکاح کرنا ۵۳۳
- ۵۴۵ مطلقہ غیر مدخول بہا کا عدت گزارے بغیر نکاح ۵۳۵
- ۵۴۷ مطلقہ مغلظہ کا بعد العدة دوسری جگہ نکاح کرنا ۵۳۷
- ۵۴۸ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا ۵۳۸

۵۷۶۰ طلاق ثلاثہ کے بعد ڈھائی سال تک شوہر کے ساتھ رہ کر دوسرے سے شادی کرنا . ۵۵۰

□	۲۴ / باب الولایۃ و الکفایۃ	□
---	----------------------------	---

۵۵۲	والدین میں سے حق ولایت کس کو حاصل ہے؟	۵۷۶۱
۵۵۳	محض والد کی ناراضگی سے مناسب رشتہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا	۵۷۶۲
۵۵۵	مناسب رشتہ ملنے پر باپ کی ناراضگی کے ساتھ نکاح	۵۷۶۳
۵۵۶	اولیاء کی رضا مندی کی صورت میں کفو یا غیر کفو میں نکاح کا حکم	۵۷۶۴
۵۵۷	والد کی موجودگی میں بھائی کا غیر کفو میں بہن کا نکاح کرانا	۵۷۶۵
۵۵۹	والدہ کی مرضی کے بغیر اپنی پسند سے نکاح کرنا	۵۷۶۶
۵۵۹	والدین کا لڑکے کی پسند کے خلاف دوسری جگہ نکاح کرانا	۵۷۶۷
۵۶۱	والدین کا بالغ لڑکے کو نکاح پر مجبور کرنا	۵۷۶۸
۵۶۲	اولیاء کی اجازت کے بغیر نابالغہ کے نکاح کا حکم	۵۷۶۹
۵۶۴	بالغہ کا جبراً نکاح کرنا	۵۷۷۰
۵۶۵	اولیاء کا جبراً بالغہ کا نکاح کرنا	۵۷۷۱
۵۶۷	لڑکی کو بتائے بغیر اس کی شادی کر دینا	۵۷۷۲
۵۶۸	لڑکی کی اجازت کے بغیر والد کی اجازت سے نکاح پڑھانا	۵۷۷۳
۵۶۹	نکاح میں زوجین کی رضامندی کا لحاظ	۵۷۷۴
۵۷۱	کیا بالغ لڑکی کا اپنی مرضی سے کیا ہوا نکاح درست ہے؟	۵۷۷۵
۵۷۲	کیا لڑکی ولی یا اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی؟	۵۷۷۶
۵۷۳	عقل بالغ لڑکی کا گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا	۵۷۷۷
۵۷۴	اولیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کی موجودگی میں عقل بالغ لڑکے کی نکاح	۵۷۷۸

- ۵۷۷۹ بالغ لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ۵۷۷۵
- ۵۷۸۰ والدین کی اجازت کے بغیر بالغ لڑکی کا نکاح ۵۷۷۷
- ۵۷۸۱ گھر والوں کی رضامندی کے بغیر لڑکی کا نکاح ۵۷۷۸
- ۵۷۸۲ بالغان کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا ۵۷۷۹
- ۵۷۸۳ عاقل بالغ لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ۵۷۸۱
- ۵۷۸۴ ولی کی اجازت کے بغیر عاقل، بالغ لڑکی کا نکاح ۵۷۸۲
- ۵۷۸۵ بالغ لڑکے اور لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا ۵۷۸۳
- ۵۷۸۶ ولی کا لڑکی کی اجازت کے بغیر، اور لڑکی کا ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرنا ۵۷۸۴
- ۵۷۸۷ بالغ لڑکی اور لڑکے کا اپنا نکاح خود کرنا ۵۷۸۶
- ۵۷۸۸ والدین کی اجازت کے بغیر بالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرنا ۵۷۸۸
- ۵۷۸۹ پچیس سالہ لڑکی کا بذات خود کفو میں نکاح کرنا ۵۷۸۹
- ۵۷۹۰ بالغ لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر کفو میں نکاح ۵۷۹۰
- ۵۷۹۱ بالغ لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر مناسب مہر پر کفو میں نکاح کرنا ۵۷۹۲
- ۵۷۹۲ بیس سالہ لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر کفو میں نکاح کرنا ۵۷۹۲
- ۵۷۹۳ اولیاء کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح ۵۷۹۳
- ۵۷۹۴ ولی کی اجازت کے بغیر ایک ہی خاندان کے لڑکی و لڑکے کا نکاح ۵۷۹۵
- ۵۷۹۵ اسلام میں کفوات اور مساوات کا حکم ۵۷۹۷
- ۵۷۹۶ مقصد کفوات ۵۷۹۹
- ۵۷۹۷ لڑکی کے والدین کی رضامندی شرط ہے نہ کہ لڑکے کے والدین کی ۶۰۰
- ۵۷۹۸ غیر کفو میں نکاح سے متعلق مختلف مقام کے فتاویٰ ۶۰۱
- ۵۷۹۹ اعلیٰ خاندان بتا کر اعلیٰ نسب کی لڑکی سے نکاح ۶۰۴

۶۰۶ غیر برادری میں عالم سے نکاح کرنا	۵۸۰۰
۶۰۸ دیوبندی لڑکی کا بریلوی لڑکے سے نکاح کرنا	۵۸۰۱
۶۰۹ پٹھان مرد کا انصاری لڑکی سے نکاح	۵۸۰۲
۶۱۰ کیا انصاری درزیوں کے ہم کفو ہیں؟	۵۸۰۳
۶۱۱ بالغہ پٹھان لڑکی کا نیگلر لڑکے کے ساتھ نکاح	۵۸۰۴
۶۱۴ سیفی برادری لڑکے کا انصاری برادری لڑکی کیساتھ نکاح	۵۸۰۵
۶۱۵ سیفی برادری لڑکے کا فقیر برادری لڑکی کے ساتھ نکاح	۵۸۰۶
۶۱۷ سلمانی برادری کا قریشی میں نکاح کرنا	۵۸۰۷

□	۲۴ / باب خیار البلوغ	□
---	----------------------	---

۶۱۹ نابالغی کی حالت میں والدین کا نکاح کرانا	۵۸۰۸
۶۲۰ نابالغی کی حالت میں والدین کا کرایا ہوا نکاح لازم ہے	۵۸۰۹
۶۲۱ داد ادا کی کا تیرہ سال کے لڑکے کا زبردستی نکاح کرنا	۵۸۱۰
۶۲۳ نابالغی میں والدین کے کرائے ہوئے نکاح میں خیار کا حکم	۵۸۱۱
۶۲۵ نابالغی میں نکاح ہو جانے کے بعد والدین کا اس کو فسخ کرنا	۵۸۱۲
۶۲۶ حالت صغر میں کیا ہوا نکاح کب فسخ ہو سکتا ہے؟	۵۸۱۳
۶۲۷ بچپن میں کئے ہوئے رشتہ کو جوانی میں ختم کرنا	۵۸۱۴
۶۲۸ نابالغی میں اہل محلہ کے کئے ہوئے نکاح کو بلوغ کے بعد ختم کرنا	۵۸۱۵

□	۲۵ / باب المہر	□
---	----------------	---

۶۳۰ چار قسم کے مہروں کی تفصیل	۵۸۱۶
-----	---------------------------------	------

- ۵۸۱۷ دور نبوت کی مہریں ۶۳۳
- ۵۸۱۸ دور نبوت و صحابہ رضی اللہ عنہم کے مہر ۶۳۵
- ۵۸۱۹ جملہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا ۶۳۶
- ۵۸۲۰ امہات المؤمنین کا مہر کتنا تھا؟ ۶۳۷
- ۵۸۲۱ مہر کے سلسلے میں عرب و عجم کا حکم یکساں ہے یا الگ الگ؟ ۶۳۸
- ۵۸۲۲ مہر سے متعلق چند سوالات ۶۴۰
- ۵۸۲۳ مہر سے متعلق چند سوالات و جوابات ۶۴۳
- ۵۸۲۴ مہر سے متعلق چند سوالات و جوابات ۶۴۴
- ۵۸۲۵ استطاعت سے زائد مہر باندھنا ۶۴۶
- ۵۸۲۶ لڑکے پر زور ڈال کر اس کی حیثیت سے زیادہ مہر باندھنا ۶۴۷
- ۵۸۲۷ جبراً مہر مثل سے زیادہ مہر لوگوں نے مقرر کر دیا تو کیا حکم ہے؟ ۶۴۸
- ۵۸۲۸ اقل مہر اور اکثر مہر کی مقدار ۶۴۹
- ۵۸۲۹ مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار ۶۵۰
- ۵۸۳۰ اقل مہر کی مقدار ۶۵۱
- ۵۸۳۱ دس درہم کی مقدار تولہ اور پیسوں کے حساب سے ۶۵۱
- ۵۸۳۲ دور حاضر کے اوزان کے اعتبار سے دس درہم کی مقدار ۶۵۲
- ۵۸۳۳ مہر میں پانچ روپیہ مقرر کئے تو نکاح ہو گیا؟ ۶۵۳
- ۵۸۳۴ دس درہم سے کم مہر مقرر کرنا ۶۵۴
- ۵۸۳۵ مہر فاطمی، مہر ام حبیبہؓ اور اقل مہر کی تفصیل ۶۵۴
- ۵۸۳۶ اقل مہر اور مہر فاطمی کی مقدار ۶۵۶

- ۵۸۳۷ حضور ﷺ کے زمانہ کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار ۶۵۷
- ۵۸۳۸ مہر فاطمی کی مقدار ۶۵۸
- ۵۸۳۹ مہر فاطمی کی مقدار ۶۵۸
- ۵۸۴۰ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ ۶۵۹
- ۵۸۴۱ مہر فاطمی کے دونوں قولوں کا حدیث سے ثبوت ۶۵۹
- ۵۸۴۲ مہر فاطمی و مہر شرعی پیغمبری کی مقدار ۶۶۰
- ۵۸۴۳ مہر فاطمی کی مقدار پر تحقیقی جواب ۶۶۲
- ۵۸۴۴ مہر کی ادائیگی کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ ۶۶۷
- ۵۸۴۵ مہر معجل اولیٰ ہے یا مؤجل؟ ۶۶۸
- ۵۸۴۶ مہر معجل، مؤجل اور مہر عند الطلب کسے کہتے ہیں؟ ۶۶۸
- ۵۸۴۷ مہر مؤجل و معجل کا حدیث سے ثبوت ۶۶۹
- ۵۸۴۸ مہر معجل و مؤجل میں فرق ۶۷۱
- ۵۸۴۹ مہر مؤجل و معجل کی ادائیگی کا طریقہ ۶۷۲
- ۵۸۵۰ مہر میں اشرفی کی جگہ روپے، پیسے دینا ۶۷۲
- ۵۸۵۱ شب زفاف میں بیوی کو بطور گفٹ کوئی چیز دینا ۶۷۳
- ۵۸۵۲ شب عروسی میں مہر کا تذکرہ کیسے کریں؟ ۶۷۴
- ۵۸۵۳ مہر ہمبستری سے پہلے دی جائے یا بعد میں؟ ۶۷۵
- ۵۸۵۴ ادائے گی مہر سے قبل بیوی سے ہمبستری کرنا ۶۷۶
- ۵۸۵۵ مہر معجل میں برضا قدرت دینے کے بعد دوبارہ منع کرنے کا حق نہیں ۶۷۷
- ۵۸۵۶ چار سو مثقال چاندی کا وزن ۶۷۹

- ۵۸۵۷ مہر کی ادائے گی میں تاخیر کرنے یا نہ دینے کا حکم ۶۷۹
- ۵۸۵۸ دین مہر کی مالک بیوی ہے ۶۸۰
- ۵۸۵۹ کیا مہر کی ادائیگی کے بعد بیوی میکہ نہیں جاسکتی؟ ۶۸۲
- ۵۸۶۰ کیا مہر کے ساتھ جوڑے کی رقم کا بھی مطالبہ درست ہے؟ ۶۸۳
- ۵۸۶۱ بیوی کے انتقال کے بعد مہر کس کو ملے گا؟ ۶۸۴
- ۵۸۶۲ عورت کے انتقال کے بعد بھی مہر کی ادائے گی واجب ہے ۶۸۵
- ۵۸۶۳ متوفی بیوی کا مہر کس طرح ادا کریں؟ ۶۸۵
- ۵۸۶۴ بیوی مہر کا مطالبہ کس سے کرے؟ ۶۸۶
- ۵۸۶۵ دین مہر کی ادائے گی مرحوم کے ترکہ سے کی جائے گی؟ ۶۸۷
- ۵۸۶۶ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر کا مہر میں تصرف کرنا ۶۸۸
- ۵۸۶۷ لڑکے کا باپ کی طرف سے ماں کا مہر ادا کرنا ۶۸۹
- ۵۸۶۸ شوہر کی وفات کے بعد اس کے والد سے مہر کا مطالبہ کرنا ۶۹۰
- ۵۸۶۹ شوہر مہر ادا نہ کرے تو باپ پر ادا کرنا لازم ہے؟ ۶۹۲
- ۵۸۷۰ برائے حلالہ نکاح میں مہر کی مقدار و معافی کا حکم ۶۹۴
- ۵۸۷۱ شادی سے قبل زنا کرانے والی عورت کا مہر ۶۹۵
- ۵۸۷۲ موجودہ وقت کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار ۶۹۶
- ۵۸۷۳ رائج الوقت کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار ۶۹۶
- ۵۸۷۴ رائج الوقت سکھ کے مطابق مہر فاطمی کی مقدار ۶۹۷
- ۵۸۷۵ موجودہ اوزان کے اعتبار سے مہر فاطمی کی مقدار ۶۹۸
- ۵۸۷۶ مہر شرعی پیغمبری ۶۹۸

- ۵۸۷۷ مہر پیغمبری کیا ہے؟ ۶۹۹
- ۵۸۷۸ مہر شرع پیغمبری کی تعریف و مقدار ۷۰۰
- ۵۸۷۹ مہر فاطمی و مہر شرع پیغمبری ۷۰۰
- ۵۸۸۰ مہر شرع پیغمبری اور مہر فاطمی کی مقدار ۷۰۱
- ۵۸۸۱ مہر شرع پیغمبری کی تحقیق ۷۰۲
- ۵۸۸۲ مہر فاطمی اور شرع پیغمبری میں فرق ۷۰۳
- ۵۸۸۳ مہر شرعی پیغمبری کی مقدار کیا ہے؟ ۷۰۴
- ۵۸۸۴ مہر فاطمی اور مہر پیغمبری کی مقدار کیا ہے؟ ۷۰۶
- ۵۸۸۵ شوہر کو مہر فاطمی کی مقدار معلوم نہ ہونے پر مہر مثل کا وجوب ۷۰۷
- ۵۸۸۶ سکہ راجح الوقت سے کیا مراد ہے؟ ۷۰۷
- ۵۸۸۷ مہر فاطمی کی نقدی قیمت ۷۰۹
- ۵۸۸۸ مہر فاطمی کس قیمت سے ادا کی جائے گی؟ ۷۱۰
- ۵۸۸۹ مہر کی ادائے گی میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟ ۷۱۰
- ۵۸۹۰ مہر فاطمی میں چاندی کی قیمت دی جائے تو کونسی قیمت معتبر ہوگی؟ ۷۱۲
- ۵۸۹۱ ایک زمانہ کے بعد مہر کی ادائے گی کا حکم ۷۱۳
- ۵۸۹۲ مہر فاطمی کی قیمت نکاح کے وقت کا اعتبار سے ہی جائے گی یا طلاق کے؟ .. ۷۱۴
- ۵۸۹۳ مہر فاطمی کی مقدار اور مہر کس ریٹ سے ادا کریں؟ ۷۱۵
- ۵۸۹۴ مہر میں قیمت کا اعتبار عقد کے وقت کا ہوگا یا ادائیگی کے وقت کا؟ ۷۱۶
- ۵۸۹۵ شوہر کا مہر دینے سے انکار کرنا ۷۱۸
- ۵۸۹۶ شوہر بیوی کو طلاق دے کر مہر نہ دے تو کیا حکم ہے؟ ۷۱۹

- ۵۸۹۷ ناقابل جماع عورت کا مہر..... ۷۲۰
- ۵۸۹۸ رتقاء کو طلاق دینے پر نصف مہر لازم ۷۲۱
- ۵۸۹۹ رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں مہر کی ادائیگی کا حکم ۷۲۲
- ۵۹۰۰ ہمبستری سے قبل طلاق کی صورت میں مہر کا حکم ۷۲۳
- ۵۹۰۱ خلوت سے قبل طلاق کی صورت میں مہر کا حکم ۷۲۴
- ۵۹۰۲ خلوت صحیحہ سے قبل طلاق کی صورت میں مہر کا حکم ۷۲۵
- ۵۹۰۳ خلوت صحیحہ سے قبل طلاق ہو جائے تو کتنا مہر ملے گا؟ ۷۲۶
- ۵۹۰۴ طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر اور نکاح کے خرچہ کا حکم ۷۲۷
- ۵۹۰۵ طلاق ثلاثہ کے بعد دین مہر اور جہیز کا حکم ۷۲۸
- ۵۹۰۶ خلوت صحیحہ کے بعد مہر اور عدت کا حکم ۷۳۰
- ۵۹۰۷ خلوت صحیحہ کے بعد کتنا مہر لازم ہے؟ ۷۳۱
- ۵۹۰۸ مطلقہ مدخولہ کا مہر کتنا ہے، نصف یا کامل؟ ۷۳۲
- ۵۹۰۹ بدکارہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد مہر کا حکم ۷۳۳
- ۵۹۱۰ شوہر پر دباؤ ڈال کر طلاق لینے کی صورت میں مہر اور جہیز کا حکم ۷۳۵
- ۵۹۱۱ طلاق ثلاثہ کے بعد لڑکی والوں کا مہر اور جہیز کا مطالبہ کرنا ۷۳۶
- ۵۹۱۲ کیا مطلقہ مغالطہ کا مہر اور عدت کا نفقہ شوہر پر لازم ہے؟ ۷۳۷
- ۵۹۱۳ بیوی کا طلاق و عدت کے بعد مہر کا مطالبہ کرنا ۷۳۹
- ۵۹۱۴ کیا طلاق مغالطہ کے بعد اسی سے نکاح کی صورت میں دوبارہ مہر واجب ہوگا؟ ۷۴۰
- ۵۹۱۵ نفقہ واجبہ کے ذریعہ ادائے مہر کی نیت کرنا ۷۴۱
- ۵۹۱۶ شوہر کی جانب سے مہر کے ارادے سے دیئے گئے زیورات کا حکم ۷۴۲

- ۵۹۱۷ مہر میں زیور دینا ۷۴۳
- ۵۹۱۸ بیوی کو مہر میں زیور دینا ۷۴۴
- ۵۹۱۹ بیوی کو دیئے ہوئے سامان میں سالوں بعد مہر کی نیت کرنے کا حکم ۷۴۵
- ۵۹۲۰ مہر میں نصف کی جگہ قاضی غلطی سے پورا مکان لکھ دے تو کیا حکم ہے؟ ... ۷۴۶
- ۵۹۲۱ یہ دو سو گز کا مکان ہے اس کو بیچ کر مہر لو کہنے سے مہر کی ادائے گی ۷۴۸
- ۵۹۲۲ مہر کے روپیوں کے عوض زمین خرید کر دینا ۷۴۹
- ۵۹۲۳ چیک کے ذریعہ مہر ادا کرنا ۷۵۰
- ۵۹۲۴ ساس کا بیٹی کے دین مہر کو داماد کے قرضہ میں مجری کرنا ۷۵۱
- ۵۹۲۵ مہر فاطمی فتسوا اراد کرنا ۷۵۲
- ۵۹۲۶ حسب حیثیت تھوڑا تھوڑا مہر ادا کرنا ۷۵۳
- ۵۹۲۷ مہر میں دیئے گئے مکان میں وراثت کا حکم؟ ۷۵۴
- ۵۹۲۸ کیا لڑکی کے مطالبہ طلاق کی وجہ سے مہر معاف ہو جاتا ہے؟ ۷۵۶
- ۵۹۲۹ مہر معاف کرنے کے بعد مہر کا مطالبہ کرنا ۷۵۷
- ۵۹۳۰ بیوی مہر واپس کرنے کے بعد ثواب کی مستحق ہوگی؟ ۷۵۸
- ۵۹۳۱ مہر کس کا حق ہے؟ ۷۵۹
- ۵۹۳۲ مہر کی ادائیگی کی صورت ۷۵۹
- ۵۹۳۳ مہر معاف کرنا ۷۶۰
- ۵۹۳۴ بیوی مہر معاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ ۷۶۱
- ۵۹۳۵ مہر معاف کرانے یا عورت کے خود معاف کرنے کا حکم ۷۶۲
- ۵۹۳۶ بیوی نے پہلی رات مہر لینے سے انکار کر دیا تو کیا حکم ہے؟ ۷۶۲

۷۶۳	شب زفاف میں مہر کی معافی کرانا	۵۹۳۷
۷۶۴	شب زفاف میں معاف کیے ہوئے مہر کی حیثیت	۵۹۳۸
۷۶۶	مہر معاف کر دوں گی کہنے سے مہر کا حکم	۵۹۳۹
۷۶۷	زبردستی دین مہر معاف کروانا	۵۹۴۰
۷۷۰	شوہر کے انتقال کے بعد مہر معاف کروانا	۵۹۴۱
۷۷۱	میت کے کان میں مہر معاف کرنا	۵۹۴۲
۷۷۳	مجبور ہو کر طلاق دینے کی صورت میں مہر کا حکم	۵۹۴۳



فہرست مضامین

۱۶/ کتاب الرضاع

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۵	۵۹۴۴ ثبوت رضاعت کیلئے شرعی شہادت
۳۷	۵۹۴۵ کیا حرمت رضاعت کے لئے دودھ کا اترنا لازم ہے؟
۳۸	۵۹۴۶ دودھ پیٹ میں نہ جانے کی صورت میں رضاعت کا حکم
۳۹	۵۹۴۷ لے پاک کو حقیقی بہن، بھتیجی یا بھانجی کا دودھ پلانا
۴۱	۵۹۴۸ دودھ پلانے کی صورت میں دودھ نہ نکلنے سے رضاعت کا حکم
۴۲	۵۹۴۹ مدت رضاعت میں ایک دو مرتبہ دودھ پینے کا حکم
۴۳	۵۹۵۰ بہن کا اپنے شیر خوار بھائی کو دودھ پلانا
۴۴	۵۹۵۱ خطأً دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کا حکم
۴۵	۵۹۵۲ بچے کا رضاعی باپ کون ہے؟ سابقہ شوہر یا موجودہ شوہر
۴۶	۵۹۵۳ رضاعی بہن کی علاقائی بہن سے نکاح کا حکم
۴۷	۵۹۵۴ آٹھ ماہ بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں پہلے بچہ کو دودھ پلانے کا حکم ..
۴۸	۵۹۵۵ بیوی کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی
۵۰	۵۹۵۶ بیوی کے پستان کو چوسنے سے نکاح کا حکم

- ۵۱ اہلیہ کا دودھ پینے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۵۹۵۷
- ۵۲ رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں سے نکاح کا حکم ۵۹۵۸
- ۵۳ رضاعی لڑکی کا نکاح مرضعہ کے کسی بھی لڑکے سے جائز نہیں ۵۹۵۹
- ۵۴ رضیع کا مرضعہ کی کسی بھی اولاد سے نکاح جائز نہیں ۵۹۶۰
- ۵۵ مرضعہ کا اپنی بیٹی کا نکاح رضاعی بیٹے سے کرنا ۵۹۶۱
- ۵۶ رضیع کے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۵۹۶۲
- ۵۷ رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں کا مرضعہ کی لڑکی سے نکاح ۵۹۶۳
- ۵۸ رضاعی بھائی بہن کی اولادوں کا باہم نکاح ۵۹۶۴
- ۵۹ رضاعی ماموں سے نکاح ۵۹۶۵
- ۶۰ رضاعی بھتیجی سے نکاح ۵۹۶۶
- ۶۱ حقیقی ماموں کی سوتیلی ماں کا دودھ پینے سے رضاعت کا حکم ۵۹۶۷
- ۶۳ مرضعہ کا اپنے بیٹے کا نکاح رضاعی بیٹے کی بہن سے کرنا ۵۹۶۸
- ۶۴ والدین کا بالجبر رضاعی بہن سے نکاح کرانا ۵۹۶۹
- ۶۵ رضاعی بہن سے نکاح کے بعد تفریق کی شکل ۵۹۷۰
- ۶۶ رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح کرنا ۵۹۷۱
- ۶۷ رضاعی بھائی بہنوں کے آپس میں نکاح کا حکم ۵۹۷۲
- ۶۹ رضاعی بہن سے نکاح ۵۹۷۳
- ۷۰ رضاعی بھائی بہن کا نکاح ۵۹۷۴
- ۷۱ کیا رضاعی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں؟ ۵۹۷۵
- ۷۳ دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں ۵۹۷۶

- ۵۹۷۷ رضاعی بہن کا نکاح اور اس سے پیدا شدہ اولاد کا حکم ۷۳
- ۵۹۷۸ رضاعی بہن سے نکاح اور اس سے پیدا شدہ بچہ کا نسب ۷۵
- ۵۹۷۹ رضاعی بہن کی بہن سے نکاح کرنا ۷۶
- ۵۹۸۰ رضاعی بہن کا لاعلمی میں نکاح کرنا ۷۷
- ۵۹۸۱ ڈھائی سال کے بعد دودھ پلانے والی مرضعہ کی بیٹی کا رضیع سے نکاح ۷۹
- ۵۹۸۲ رضیع کے چھوٹے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۸۰
- ۵۹۸۳ رضیع کے دوسرے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۸۱
- ۵۹۸۴ رضاعت متحقق نہ ہونے کی وجہ سے پھوپھی زاد بھائی سے نکاح ۸۱
- ۵۹۸۵ مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے اور اس سے نکاح کا حکم ۸۲
- ۵۹۸۶ دو رضاعی بھائی میں سے ایک کی بیٹی اور دوسرے کے پوتے سے نکاح ۸۴
- ۵۹۸۷ رضاعی بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا ۸۴
- ۵۹۸۸ اپنے بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنا ۸۵

۱۷ / کتاب الطلاق

□	۱ / باب صفة الطلاق و من أحق به	□
---	--------------------------------	---

- ۵۹۸۹ طلاق کا مسنون طریقہ ۸۷
- ۵۹۹۰ طلاق بدعی ۸۸
- ۵۹۹۱ طلاق کا حق دار کون ہے؟ اور بیوی کا طلاق کے بعد شوہر لکھنا ۸۹
- ۵۹۹۲ شوہر کے علاوہ کی طلاق غیر معتبر ہے ۹۰

- ۵۹۹۳ شوہر کے طلاق دیئے بغیر لڑکی والوں کا طلاق کی شہرت دینے کا حکم .. ۹۱
- ۵۹۹۴ بیوی نے طلاق دے کر پردہ کر لیا ۹۳
- ۵۹۹۵ شوہر کو طلاق کی تعداد یاد نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ۹۵
- ۵۹۹۶ عورت حنفی اور شوہر اہل حدیث ہو تو طلاق میں کن کا اعتبار ہوگا؟ ۹۷
- ۵۹۹۷ بے قصور طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ۹۸
- ۵۹۹۸ بیوی کو ڈرانے کے لئے طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ . ۹۹
- ۵۹۹۹ نکاح کی حرص دلا کر طلاق حاصل کرنا ۱۰۰
- ۶۰۰۰ ان بری باتوں پر لوگوں نے طلاق دیدی ہیں کہنا ۱۰۱
- ۶۰۰۱ مرتد کی طلاق ۱۰۲
- ۶۰۰۲ غیر مسلم عدالت میں مسلم حج کے طلاق کے فیصلہ کا حکم ۱۰۳
- ۶۰۰۳ عدالت کی طلاق کا حکم ۱۰۵
- ۶۰۰۴ غیر مسلم عدالت کی طلاق کے فیصلہ کا حکم ۱۰۷
- ۶۰۰۵ ہندوستانی عدالت کی طلاق کی شرعی حیثیت ۱۰۹
- ۶۰۰۶ بیوی کا کورٹ سے طلاق لینا ۱۱۰
- ۶۰۰۷ غیر مسلم حج سے طلاق لینے کے بعد شوہر کے پاس واپس آنا ۱۱۲
- ۶۰۰۸ ہندوستانی عدلیہ کے حج کی طلاق، تفریق اور فسخ کا حکم ۱۱۳
- ۶۰۰۹ کورٹ سے طلاق حاصل کر کے نکاح کرنے کا حکم ۱۱۴
- ۶۰۱۰ کورٹ کی طلاق ۱۱۶
- ۶۰۱۱ مروجہ عدالت کے ذریعہ طلاق ۱۱۸

۶۰۱۲	غیر مسلم عدالت کی طلاق معتبر نہیں	۱۱۹
۶۰۱۳	مسلمہ عورت کا غیر شرعی عدالت سے طلاق حاصل کرنا	۱۲۰
۶۰۱۴	شوہر کی طلاق کا اعتبار ہے یا پنچایت کی؟	۱۲۲
۶۰۱۵	طلاق کے بارے میں کمیٹی کا فیصلہ معتبر ہے یا نہیں؟	۱۲۳
۶۰۱۶	ٹیلیفون پر طلاق دینا	۱۲۷
۶۰۱۷	فون کی طلاق کا حکم	۱۲۸
۶۰۱۸	فون پر طلاق دینے سے طلاق کا حکم	۱۳۰
۶۰۱۹	ٹیلیفون پر دی گئی طلاق کا شرعی حکم	۱۳۱
۶۰۲۰	طلاق کے معنی جانے بغیر طلاق دینے کا حکم	۱۳۳

<input type="checkbox"/>	۲ / باب إباحة الطلاق	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------	--------------------------

۶۰۲۱	شرعاً طلاق کب دے سکتے ہیں؟	۱۳۵
۶۰۲۲	شرعاً طلاق دینا کب جائز ہے؟	۱۳۶
۶۰۲۳	عدم نبھاؤ کی شکل میں طلاق کا طریقہ	۱۳۸
۶۰۲۴	نبھاؤ کی شکل مشکل ہو تو علیحدگی حاصل کر لیں	۱۴۰
۶۰۲۵	والدین کے ساتھ مار پیٹ کرنے والی لڑکی کو طلاق دینا کیسا ہے؟	۱۴۲
۶۰۲۶	کیا پاگل بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟	۱۴۴
۶۰۲۷	بے نمازی بیوی کو طلاق دینا	۱۴۵
۶۰۲۸	حقوق زوجیت ادا نہ کرنے والی عورت سے نبھاؤ	۱۴۶
۶۰۲۹	بیوی پسند نہ آنے پر طلاق	۱۴۸

- ۶۰۳۰ بدفعی کے شبہ پر طلاق ۱۴۹
- ۶۰۳۱ پھوپھی کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے بھتیجی کو طلاق دینا ۱۵۰
- ۶۰۳۲ شوہر کی جان لینے کے درپے ہونے والی بیوی کو طلاق دینا ۱۵۱
- ۶۰۳۳ نافرمان بیوی کو طلاق ۱۵۲
- ۶۰۳۴ نافرمان بیوی کو طلاق دینے کا حکم ۱۵۳
- ۶۰۳۵ نافرمان، بدتمیز بیوی کو طلاق دینا ۱۵۵
- ۶۰۳۶ کیا نافرمان بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ۱۵۷
- ۶۰۳۷ کیا نافرمان اور بدتمیز بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ۱۶۰
- ۶۰۳۸ حقوق زوجیت ادا نہ کرنے والی کو طلاق ۱۶۱
- ۶۰۳۹ بدتمیزی اور مار پیٹ کرنے والی بیوی کو طلاق ۱۶۲
- ۶۰۴۰ فاحشہ اور ناشزہ کو طلاق دینا ۱۶۳
- ۶۰۴۱ فاجرہ کو طلاق دینا ۱۶۵
- ۶۰۴۲ کیا فاجرہ بیوی کو طلاق دے دینا چاہئے؟ ۱۶۶
- ۶۰۴۳ فاجرہ عورت کو طلاق دینا لازم نہیں ۱۶۸
- ۶۰۴۴ فاجرہ بیوی کو طلاق دینا ۱۶۹
- ۶۰۴۵ فاجرہ، زانیہ، گمراہ بیوی کو طلاق دینا ۱۷۰
- ۶۰۴۶ نافرمان بیوی کو طلاق دینا ۱۷۲
- ۶۰۴۷ فاجرہ عورت کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے ۱۷۳
- ۶۰۴۸ ناشزہ عورت کو طلاق دینا ۱۷۵

□	۳ باب مطالبۃ الطلاق	□
---	---------------------	---

۱۷۸	۶۰۴۹	بغیر شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۸۰	۶۰۵۰	طلاق کے مطالبہ پر شوہر کا مجبوراً طلاق دینا۔
۱۸۲	۶۰۵۱	دوسری شادی کی بناء پر طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۸۳	۶۰۵۲	بیوی کا بلا کسی وجہ معقول کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۸۴	۶۰۵۳	بیوی کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۸۵	۶۰۵۴	شرعی وجہ کے بغیر عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا حکم ہے؟
۱۸۶	۶۰۵۵	زیادہ عمر کے لڑکے سے شادی کرنے کی بناء پر والدین کا اس کے شوہر کو پریشان کرنا۔
۱۸۸	۶۰۵۶	شوہر کی عمر زیادہ ہونے پر طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۹۰	۶۰۵۷	شوہر پر طلاق کا دباؤ ڈالنا۔
۱۹۱	۶۰۵۸	لڑکے کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے لڑکی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۹۳	۶۰۵۹	بیوی کا شب و روز طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۹۴	۶۰۶۰	رخصتی سے قبل طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۱۹۶	۶۰۶۱	مرض کی بناء پر طلاق یا خلع کا مطالبہ۔
۱۹۷	۶۰۶۲	شوہر کی بدکاریوں کی وجہ سے بیوی کو طلاق کے مطالبہ کا حق ہے یا نہیں؟
۱۹۸	۶۰۶۳	لواطت کرنے والے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حکم۔
۱۹۹	۶۰۶۴	عورت کا مکان کی تبدیلی نہ کرنے پر طلاق کا مطالبہ کرنا۔
۲۰۰	۶۰۶۵	پہلی بیوی کا دوسری بیوی کو طلاق دینے پر اصرار کرنا۔
۲۰۳	۶۰۶۶	لڑکی کا طلاق پر مجبور کرنا۔

- ۶۰۶۷ لڑکی کی خواہش پر طلاق ۲۰۴
- ۶۰۶۸ طلاق کے مطالبہ پر یوں ہی طلاق کے الفاظ کہنا ۲۰۴
- ۶۰۶۹ بیوی کے مطالبہ پر کتنی طلاق دی جائے؟ ۲۰۵
- ۶۰۷۰ ایک لڑکی کی طلاق سے دوسری لڑکیوں کی طلاق کا مطالبہ ۲۰۷
- ۶۰۷۱ بیوی شوہر کے پاس نہ جائے تو کیا کریں؟ ۲۰۹
- ۶۰۷۲ بیٹی، داماد کا سوتیلی ساس کی برائیاں بتا کر سسر سے طلاق کا مطالبہ کرنا ۲۱۱
- ۶۰۷۳ طلاق کے مطالبہ پر بیوی کو مہر دینا لازم ہے یا نہیں؟ ۲۱۲
- ۶۰۷۴ نامرد شوہر سے طلاق و مہر کا مطالبہ کرنا ۲۱۳
- ۶۰۷۵ بیوی کے مطالبہ طلاق پر ”ہاں ہاں جا دیدوں گا“ کہنے کا حکم ۲۱۵
- ۶۰۷۶ بیوی کے مطالبہ پر دو مرتبہ طلاق دینا ۲۱۷
- ۶۰۷۷ زوجین میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا مطالبہ طلاق ۲۱۷

□	۴/ باب وقوع الطلاق	□
---	--------------------	---

- ۶۰۷۸ کتاب الطلاق کے چند مقامات سے عدم اتفاق کی رائے ۲۱۹
- مع تصدیقات علماء مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۱۹
- دارالافتاء مدرسہ شاہی کی جانب سے جواب ۲۲۰
- ۶۰۸۹ کیا طلاق واقع ہونے کے لئے تحررے ضروری ہے؟ ۲۲۵
- ۶۰۸۰ مسئلہ معلوم نہ ہو کے کی صورت میں طلاق کا حکم ۲۲۷
- ۶۰۸۱ وقوع طلاق کے لئے شوہر کا اقرار کافی ہے ۲۲۸
- ۶۰۸۲ طلاق کا جھوٹا اقرار کرنا ۲۳۰

- ۶۰۸۳ شوہر کا طلاق دینے کے بعد انکار کرنا ۲۳۱
- ۶۰۸۴ فرضی راضی نامہ سے طلاق کا حکم ۲۳۲
- ۶۰۸۵ دل میں سوچی ہوئی طلاق کو زبان سے ادا کرنا ۲۳۴
- ۶۰۸۶ شوہر کے طلاق دینے پر بیوی کا قبول نہ کرنا ۲۳۵
- ۶۰۸۷ بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا ۲۳۶
- ۶۰۸۸ ایک طلاق کے بعد دوسروں کے سوال کے جواب میں طلاق کی خبر دینا ۲۳۷
- ۶۰۸۹ سسر سے کہا کہ تیری لڑکی کو طلاق ۲۳۹
- ۶۰۹۰ بیوی کی عدم موجودگی میں طلاق کا حکم ۲۴۰
- ۶۰۹۱ وقوع طلاق کے لئے عورت کی موجودگی، سماع اور اس سے خطاب ضروری نہیں ۲۴۱
- ۶۰۹۲ وقوع طلاق کے لئے بیوی کے سماع کی شرعی حیثیت ۲۴۲
- ۶۰۹۳ حاملہ طلاق کے الفاظ نہ سنے تو طلاق کا حکم ۲۴۴
- ۶۰۹۴ کیا طلاق کے وقوع کے لئے بیوی کا سننا ضروری ہے؟ ۲۴۵
- ۶۰۹۵ وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا لازم نہیں ۲۴۶
- ۶۰۹۶ وقوع طلاق کے لئے بیوی کا سننا یا سامنے ہونا لازم نہیں ۲۴۷
- ۶۰۹۷ وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا اور پاک ہونا لازم نہیں ۲۴۸
- ۶۰۹۸ وقوع طلاق کے لئے بیوی کا طلاق کے الفاظ سننا لازم نہیں ۲۴۹
- ۶۰۹۹ ”نانی اماں ایک دو تین“ کہنے کا حکم ۲۵۰
- ۶۱۰۰ آپسی نزاع کے درمیان ”آپ کی بہن کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا“ کہنا ۲۵۲
- ۶۱۰۱ ”تیری بہن کو طلاق ہوگئی، اس کی خیر خبر لے لو“ کہنے کا حکم ۲۵۵

- ۶۱۰۲ ”طلاق دیدوں گا، نبھاؤ نہیں ہو سکتا ایک دو تین“ کا حکم ۲۵۶
- ۶۱۰۳ کیا پاگل بیوی کو طلاق دینے سے واقع ہو جائے گی؟ ۲۵۷

□	۵ / باب طلاق الحامل و الحائض	□
---	------------------------------	---

- ۶۱۰۴ حالت حمل کی طلاق ۲۵۹
- ۶۱۰۵ حمل کی حالت میں طلاق کا حکم ۲۶۰
- ۶۱۰۶ حاملہ کو طلاق دینے کا حکم ۲۶۰
- ۶۱۰۷ کیا حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ۲۶۱
- ۶۱۰۸ حالت حمل میں دو طلاق ۲۶۳
- ۶۱۰۹ حالت حمل میں تین طلاق کا حکم ۲۶۴
- ۶۱۱۰ حالت حمل میں تین طلاق، نیز وضع حمل کے بعد پھر طلاق دینے کا حکم ۲۶۵
- ۶۱۱۱ حاملہ بیوی کو تین طلاق دینا ۲۶۶
- ۶۱۱۲ جھگڑے کے دوران حالت حمل میں پانچ مرتبہ طلاق دینا ۲۶۷
- ۶۱۱۳ حمل میں طلاق اور عدت کا حکم ۲۶۸
- ۶۱۱۴ حالت حمل کی طلاق، بچہ کی پرورش، مہر اور جہیز کا حکم ۲۶۹
- ۶۱۱۵ حالت حمل میں طلاق سے متعلق چند سوالات و جوابات ۲۷۱
- ۶۱۱۶ حالت حیض میں طلاق ۲۷۳
- ۶۱۱۷ حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق کا حکم ۲۷۴
- ۶۱۱۸ حیض و نفاس کی حالت میں طلاق کا حکم ۲۷۷

□	۶ / باب طلاق الہازل والغاضب	□
---	-----------------------------	---

۶۱۱۹ مذاق میں طلاق دینے کا حکم	۲۷۸
۶۱۲۰ مذاق اور حمل میں طلاق کا حکم	۲۷۹
۶۱۲۱ مذاق میں بیوی کو ”طلاق دیدوں گا یا دیدی“ کہنے کا حکم	۲۸۱
۶۱۲۲ مذاق میں طلاق دینا	۲۸۳
۶۱۲۳ غصے اور مذاق کی حالت میں طلاق کا حکم	۲۸۴
۶۱۲۴ شوہر کا غصہ کی حالت میں طلاق دینا	۲۸۵
۶۱۲۵ غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم	۲۸۶
۶۱۲۶ کیا غصہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۲۹۰
۶۱۲۷ غصہ کی حالت میں بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا	۲۹۱
۶۱۲۸ حالت غضب میں دو طلاق	۲۹۲
۶۱۲۹ غصہ میں طلاق دی مگر کتنی بار دی یا نہیں	۲۹۳
۶۱۳۰ بحالت غضب تین طلاق جبکہ بیوی حاملہ بھی ہو	۲۹۳
۶۱۳۱ غصہ میں تین طلاق دینا	۲۹۴
۶۱۳۲ حالت غضب میں آٹھ، نو مرتبہ ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“ کہنا	۲۹۵

□	۷ / باب طلاق السكران والجنون	□
---	------------------------------	---

۶۱۳۳ حمل اور نشہ میں طلاق کا حکم	۲۹۷
۶۱۳۴ نشہ اور حمل کی حالت میں طلاق کا حکم	۲۹۸
۶۱۳۵ شرابی کے ”اس کو طلاق دی“ کہنے کا حکم	۲۹۹

۳۰۱	کیا نشہ کی طلاق معتبر ہے؟	۶۱۳۶
۳۰۲	کیا نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۶۱۳۷
۳۰۴	نشہ کی حالت میں طلاق دی؛ لیکن گواہ نادر اور شوہر منکر ہے	۶۱۳۸
۳۰۵	نشہ کی حالت میں طلاق دینا	۶۱۳۹
۳۰۸	نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم	۶۱۴۰
۳۱۰	حالت نشہ میں دی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۴۱
۳۱۱	ٹیلیفون سے حالت نشہ میں طلاق دینا	۶۱۴۲
۳۱۳	نشہ کی حالت میں طلاق	۶۱۴۳
۳۱۴	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۴
۳۱۶	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۵
۳۱۸	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۶
۳۱۹	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۷
۳۲۰	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۸
۳۲۲	نشہ کی حالت میں طلاق معلق دینا	۶۱۴۹
۳۲۳	شراب کے نشہ میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۵۰
۳۲۴	نشہ کی حالت میں دو طلاق دینا	۶۱۵۱
۳۲۵	شراب کے نشہ میں تین طلاق دینا	۶۱۵۲
۳۲۷	بجالت نشہ تین طلاق دینا	۶۱۵۳
۳۲۸	نشہ کی حالت میں بیوی کو تین طلاق دینا	۶۱۵۴
۳۲۹	نشہ کی حالت میں طلاق مغلطہ دینا	۶۱۵۵
۳۳۰	نشہ میں طلاق مغلطہ دینے کا حکم	۶۱۵۶

- ۶۱۵۷ بحالت نشہ تین طلاق دینا ۳۳۰
- ۶۱۵۸ نشہ کی حالت میں ایک ہی سانس میں طلاق مغلطہ دینا ۳۳۲
- ۶۱۵۹ نشہ کی حالت میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا ۳۳۲
- ۶۱۶۰ نشہ کی حالت میں تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا ۳۳۳
- ۶۱۶۱ نشہ کی حالت میں چار پانچ مرتبہ طلاق دینا ۳۳۴
- ۶۱۶۲ بیوی کو بحالت نشہ میں چھ، سات بار ”میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا ۳۳۵
- ۶۱۶۳ حالت نشہ میں کئی بار لفظ طلاق استعمال کرنا ۳۳۶
- ۶۱۶۴ نشہ کی حالت میں کئی مرتبہ طلاق دینا ۳۳۷
- طلاق سکران کا تحقیقی جائزہ ۳۳۹
- طلاق سکران ۳۴۴
- حضرات صحابہ کی رائے ۳۴۴
- ۲ حضرات اجلہ تابعین کی رائے ۳۴۶
- عدم وقوع طلاق کے قائلین ۳۴۷
- وقوع طلاق کے قائلین ۳۴۹
- وقوع طلاق کے قائلین کی ترجیح ۳۵۲
- ائمہ اربعہ کی رائے ۳۵۳
- فقہاء احناف کی رائے ۳۵۵
- ۱. حنفیہ میں سے عدم وقوع طلاق کے قائلین ۳۵۶
- ۲. حنفیہ میں سے وقوع طلاق کے قائلین ۳۵۷
- حنفیہ کا قول مفتی بہ ۳۵۸
- اشیاء مندرہ ۳۶۰

۳۶۳	پاگل کی طلاق	۶۱۶۵
۳۶۴	پاگل پن کا دورہ پڑنے والے کی طلاق	۶۱۶۶
۳۶۵	کبھی ہوش اور کبھی جنون طاری ہونے والے کی طلاق	۶۱۶۷
۳۶۷	مجنون کو طلاق دینا یا در ہے	۶۱۶۸
۳۶۹	مجنون کو طلاق دینا یا در ہو تو کیا حکم ہے؟	۶۱۶۹
۳۷۰	دماغی مرض میں مبتلا شخص کی طلاق	۶۱۷۰
۳۷۲	حالت جنون میں تین طلاق دینا	۶۱۷۱
۳۷۳	بے ہوشی میں طلاق کا حکم	۶۱۷۲
۳۷۴	بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینا	۶۱۷۳
۳۷۵	بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۷۴
۳۷۷	آسیب زدہ شخص کا دوران جنون طلاق دینا	۶۱۷۵
۳۷۹	آسیب زدہ شخص کا بیوی کو طلاق دینا	۶۱۷۶
۳۸۰	ہارٹ اٹیک کے دورے کے دوران طلاق دینا	۶۱۷۷
۳۸۱	ڈرانے کے ارادے سے طلاق دینا	۶۱۷۸

<input type="checkbox"/>	۸/باب طلاق المکرہ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

۳۸۳	طلاق بالجبر کا حکم	۶۱۷۹
۳۸۴	مکرہ کی تحریری اور زبانی طلاق کا حکم	۶۱۸۰
۳۸۵	زور زبردستی زبانی طلاق دلوانے کا حکم	۶۱۸۱
۳۸۷	بحالت اکراہ دی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۸۲
۳۸۸	زبردستی لی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۸۳

۳۸۹ دباؤ میں آ کر زبانی طلاق دینے کا حکم	۶۱۸۴
۳۹۱ طلاق دینے پر جبر کرنے کی صورت میں سر سے اشارہ کرنا	۶۱۸۵
۳۹۲ جان کے خوف سے بیوی کو طلاق دینا	۶۱۸۶
۳۹۳ مار ڈالنے کی دھمکی دے کر زبردستی طلاق دلوانا	۶۱۸۷
۳۹۴ دباؤ میں آ کر طلاق دینا	۶۱۸۸
۳۹۶ کیا جبراً طلاق کے الفاظ کہلوانے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟	۶۱۸۹
۳۹۷ حالت اکراہ میں دو طلاق	۶۱۹۰
۳۹۸ زبردستی لفظ تلاک سے طلاق کا حکم	۶۱۹۱
۴۰۲ مکرہ کی طلاق اور نکاح ثانی کی صحت	۶۱۹۲
۴۰۴ کسی کے مجبور کرنے پر طلاق دینا	۶۱۹۳
۴۰۵ بیوی کے بھائیوں کا جبراً بہنوئی سے طلاق دلوانا	۶۱۹۴

<input type="checkbox"/>	۹ / باب الطلاق بالألفاظ المصحفة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--	--------------------------

۴۰۷ ایسی زبان میں طلاق جس کو شوہر نہیں سمجھتا	۶۱۹۵
۴۰۸ لفظ طلاق سے وقوع طلاق کا حکم	۶۱۹۶
۴۰۹ جان بچانے کے خوف سے بلا نیت طلاق ”تلاک دیتا ہوں“ کہا	۶۱۹۷
۴۱۱ لفظ طلاق سے طلاق کا حکم	۶۱۹۸
۴۱۲ لفظ طلاق سے کوئی طلاق نہیں	۶۱۹۹
۴۱۳ لفظ ”تلاق“ سے طلاق کا حکم	۶۲۰۰
۴۱۴ وسوسہ کو دور کرنے کے لئے تجھے کرا لاق دیتا ہوں کہنے سے طلاق کا حکم	۶۲۰۱

<input type="checkbox"/>	۱۰ / باب عدم وقوع الطلاق	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------------	--------------------------

۲۱۶	قبل النکاح خیالی طلاق دینا	۶۲۰۲
۲۱۷	دل میں طلاق دینے کا حکم	۶۲۰۳
۲۱۸	دل ہی دل میں طلاق دینا	۶۲۰۴
۲۲۰	طلاق دینے میں شک ہو تو کیا حکم ہے؟	۶۲۰۵
۲۲۱	شوہر کا طلاق کو اپنی طرف منسوب کرنا	۶۲۰۶
۲۲۱	دفع و سانس کے لئے بھاگ، یا چل بھاگ کہنے پر بیوی کا خیال آنے سے طلاق کا حکم	۶۲۰۷
۲۲۳	عورت کا جھوٹی طلاق کا دعویٰ کرنا	۶۲۰۸
۲۲۴	کیا لڑکی کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟	۶۲۰۹
۲۲۶	بیوی کے جھوٹ بولنے سے کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟	۶۲۱۰
۲۲۷	محض بیوی کے طلاق کا دعویٰ کرنے سے طلاق کا حکم	۶۲۱۱
۲۲۸	بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار کرے تو کیا حکم ہے؟	۶۲۱۲
۲۲۹	سسرال والوں کا یہ کہنا کہ لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے	۶۲۱۳
۲۳۰	سسرال والوں کے طلاق کے مطالبہ پر زور دینے سے طلاق کا حکم	۶۲۱۴
۲۳۱	کیا آنسہ پر طلاق واقع ہو جاتی ہے	۶۲۱۵
۲۳۳	حق زوجیت ادا نہ کرنے کی بنا پر طلاق کا حکم	۶۲۱۶
۲۳۴	جب بھی کوئی ناراضگی کی بات ہوتی ہے تو تم یہی کہتی ہو طلاق، طلاق، طلاق ..	۶۲۱۷
۲۳۵	تختے میں رکھیل بنا کر رکھوں گا کہنے کا حکم	۶۲۱۸
۲۳۵	”تجھ سے صحبت کروں تو ماں سے صحبت کروں“ کہنے کا حکم	۶۲۱۹
۲۳۶	مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم	۶۲۲۰
۲۳۸	کیا لعنت بھیجنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۶۲۲۱

- ۶۲۲۲ شوہر کا اپنے کوشیدطان کہنے سے طلاق کا حکم ۴۳۹
- ۶۲۲۳ معاف کر دو کے جواب میں دیدی، کہنے کا حکم ۴۴۰
- ۶۲۲۴ زبان سے سلام کی جگہ طلاق نکل جائے تو کیا حکم؟ ۴۴۲
- ۶۲۲۵ ”تجھے تو طلاق ہو جائے گی“ سے طلاق کا حکم ۴۴۳
- ۶۲۲۶ بس اب تم ختم سمجھو، رشتہ ختم ہو جائے گا وغیر کہنے کا حکم ۴۴۴
- ۶۲۲۷ ”طلاق دیدو“ کے جواب میں ہاں کہنے کا حکم ۴۴۶
- ۶۲۲۸ امی تم چاہتی ہو، تو میں طلاق دے دیتا ہوں سے طلاق ۴۴۷
- ۶۲۲۹ منظوری طلاق سے عدم طلاق کا ثبوت ۴۴۸
- ۶۲۳۰ حکایت طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۴۵۱
- ۶۲۳۱ مسئلہ بتانے کی غرض سے لفظ طلاق کہنے کا حکم ۴۵۲
- ۶۲۳۲ دوران درس استاد کا اعتراف، استہرا، کے تذکرہ کے وقت دل میں طلاق کا تصور کرنا ۴۵۳
- ۶۲۳۳ کیا طلاق کے مسائل کے تکرار سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ۴۵۴
- ۶۲۳۴ انشاء اللہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم ۴۵۵
- ۶۲۳۵ ”طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ“ کہنے کا حکم ۴۵۶
- ۶۲۳۶ طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہ ہو تو؟ ۴۵۷
- ۶۲۳۷ بیوی کی طرف نسبت کئے بغیر لفظ طلاق کہنا ۴۵۹
- ۶۲۳۸ بیوی کو طلاق لکھ کر دینے سے طلاق کا حکم ۴۶۰
- ۶۲۳۹ بیوی کی طرف اضافت کئے بغیر طلاق دینا ۴۶۰
- ۶۲۴۰ بیوی کی طرف اضافت کے بغیر زبان سے طلاق، طلاق، کہنے کا حکم .. ۴۶۲
- ۶۲۴۱ محض جدارہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا اور سوکن کا الگ مکان کا مطالبہ کرنا .. ۴۶۳
- ۶۲۴۲ کیا شوہر کے گھر نہ جا کر میکہ میں رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ۴۶۵

۶۲۴۳	زیادہ عرصہ تک الگ رہنے کی بناء پر طلاق کا حکم	۴۶۶
۶۲۴۴	مسلسل پانچ سال تک شوہر سے علیحدگی کی بناء پر طلاق کا حکم	۴۶۷
۶۲۴۵	کیا بیوی سے پانچ سال تک دور رہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۴۶۹
۶۲۴۶	گیارہ سال تک بیوی سے قطع تعلق کی بناء پر طلاق کا حکم	۴۷۰
۶۲۴۷	نامردگی کی بناء پر علیحدگی سے طلاق کا حکم	۴۷۱
۶۲۴۸	”آئندہ بھانجی کے رشتہ سے ملنے گا، ہم جملوں کا استعمال کریں گے“ کہنا	۴۷۲
۶۲۴۹	”تیری طلاق سے راضی ہوں“ کہنے کا حکم	۴۷۳

□	۱۱ / باب وعد الطلاق	□
---	---------------------	---

۶۲۵۰	صیغہ استقبال سے طلاق دینے کا حکم	۴۷۴
۶۲۵۱	صیغہ حال سے طلاق کا حکم	۴۷۵
۶۲۵۲	طلاق دے دوں گا سے طلاق کا حکم	۴۷۶
۶۲۵۳	تجھے طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۷۷
۶۲۵۴	طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۷۸
۶۲۵۵	بیوی سے محض تجھ کو طلاق دیدوں گا کہنا	۴۷۹
۶۲۵۶	طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۸۰
۶۲۵۷	انور میاں کو بلاؤ ہم طلاق دیں گے کہنے کا حکم	۴۸۱
۶۲۵۸	تیرا معاملہ صاف کر دوں گا سے عدم وقوع طلاق	۴۸۳
۶۲۵۹	”میں تجھے طلاق دے دوں گا“ سے طلاق	۴۸۴
۶۲۶۰	”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ کہنا	۴۸۵

- ۶۲۶۱ طلاق دیدوں گا کہنے کا حکم ۴۸۶
- ۶۲۶۲ طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم ۴۸۸
- ۶۲۶۳ طلاق دیدوں گا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ۴۸۹
- ۶۲۶۴ بوقت نزاع ”طلاق دیدوں گا“ کہنا ۴۹۱
- ۶۲۶۵ ”طلاق دیدوں“ کہنے کا حکم ۴۹۲
- ۶۲۶۶ ”تجھے طلاق دوں“ کے الفاظ سے طلاق کا حکم ۴۹۳
- ۶۲۶۷ تو گھر چلی جاؤرنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا ۴۹۴
- ۶۲۶۸ اگر تم جاؤ گی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا کہنے کا حکم ۴۹۵
- ۶۲۶۹ طلاق دیدینی چاہئے طلاق دیدوگا، طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہنا ۴۹۶
- ۶۲۷۰ میکہ گئی تو طلاق دیدوں گا سے طلاق ۴۹۷
- ۶۲۷۱ چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر میرے گھر سے چلی جاؤرنہ طلاق دیدوں گا ۴۹۸
- ۶۲۷۲ تجھے چھوڑ دوں گا سے طلاق کا حکم ۴۹۹
- ۶۲۷۳ تجھے نہیں رکھوں گا سے طلاق ۵۰۰
- ۶۲۷۴ اگر تو پانی پت چلی گئی تو تجھے طلاق دیدوں گا ۵۰۱
- ۶۲۷۵ ”لے تجھے دے ہی دی“ کہنا ۵۰۳
- ۶۲۷۶ تو خاموش ہو جا، میں تیرے مہر کے پیسے بھی دیدوں گا سے طلاق کا حکم ۵۰۴

□	۱۲ / باب الطلاق الصریح	□
---	------------------------	---

- ۶۲۷۷ طلاق صریح اور بائن میں فرق ۵۰۷

- ۶۲۷۸ طلاق صریح میں نیت کا حکم ۵۰۸
- ۶۲۷۹ الفاظ صریح میں بلا نیت وارادہ طلاق کا حکم ۵۰۹
- ۶۲۸۰ کیا طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے؟ ۵۱۱
- ۶۲۸۱ بغیر نیت طلاق کے تین مرتبہ صریح طلاق دینا ۵۱۲
- ۶۲۸۲ بلا نیت طلاق ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا ۵۱۳
- ۶۲۸۳ بغیر نیت کے ”جا چھوٹ گئی“ کہنے سے طلاق کا حکم ۵۱۵
- ۶۲۸۴ بیوی طلاق صریح کی عدت کے بعد بائندہ ہو جاتی ہے ۵۱۶
- ۶۲۸۵ کیا لفظ سے صریح دی گئی طلاق بعد العدت بائن ہو جاتی ہے؟ ۵۱۸
- ۶۲۸۶ کہا کہ ”طلاق دے رہا ہوں“ طلاق کا حکم ۵۱۹
- ۶۲۸۷ ”میں تم کو طلاق دے رہا ہوں“ سے طلاق ۵۲۰
- ۶۲۸۸ بنگلہ زبان میں طلاق کے لئے مستعمل الفاظ استعمال کرنا ۵۲۲
- ۶۲۸۹ لفظ ”لاذ“ نہ صریح ہے اور نہ ہی کنایہ ۵۲۳
- ۶۲۹۰ ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی“ کہنا ۵۲۴
- ۶۲۹۱ ”ایک مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا ۵۲۵
- ۶۲۹۲ جا میں نے تجھے آزاد کیا سے طلاق ۵۲۷
- ۶۲۹۳ لفظ طلاق کے بعد متعدد بار دے دے کہنے کا حکم ۵۲۷
- ۶۲۹۴ ”لفظ طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق کا حکم ۵۲۹
- ۶۲۹۵ دو مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی سے طلاق کا حکم ۵۳۰
- منجانب: دارالافتاء جامعہ نعیمیہ ۵۳۰

- منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۵۳۱
- ۶۲۹۶ ”ہاں میں نے طلاق دی اسے اور نکالو اسے یہاں سے“ کہنے کا حکم . ۵۳۲
- ۶۲۹۷ جب مجھے رکھنا نہیں تو ان باتوں سے کیا فائدہ میں نے تو طلاق دیدی ۵۳۳
- ۶۲۹۸ ”طلاق تو پہلے دے چکا ہوں“ کہنے سے طلاق کا حکم ۵۳۶
- ۶۲۹۹ طلاق دینے کے بعد دوبارہ ”جادی“ کے الفاظ کہنا ۵۳۹
- ۶۳۰۰ طلاق، طلاق کہہ دیا ۵۴۰
- ۶۳۰۱ بیوی کو دو مرتبہ طلاق دینا ۵۴۱
- ۶۳۰۲ طلاق ثلاثہ کے بعد اس کا انکار کرنا ۵۴۲
- ۶۳۰۳ والد کے سامنے ایک ہی مرتبہ میں بیوی کو تین طلاق دینا ۵۴۳
- ۶۳۰۴ لالکھ کر دیتا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق کا حکم ۵۴۴
- ۶۳۰۵ ”تجھے طلاق دی، تجھے آزاد کیا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تجھے فارغ خطی دی“ کہنے کا حکم .. ۵۴۵
- ۶۳۰۶ ایک دو اگر خاموش نہ رہی، تو تین کر دیں گے کہنا ۵۴۷
- ۶۳۰۷ ”لے طلاق“ کا حکم ۵۴۸
- ۶۳۰۸ ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کا حکم ۵۴۹
- ۶۳۰۹ دیور کا بھابھی کے ساتھ زنا کرنا اور شوہر کا اس کو طلاق دینا ۵۵۰
- ۶۳۱۰ خیالی طلاق کے بعد یہ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے .. ۵۵۲
- ۶۳۱۱ ایک مرتبہ طلاق کہنے کا حکم ۵۵۳
- ۶۳۱۲ شوہر کا دو آدمی کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اس کو تو طلاق ہو چکی ہے ... ۵۵۴
- ۶۳۱۳ وارنگ کے طور پر ایک مرتبہ طلاق دینا ۵۵۵
- ۶۳۱۴ ”بیوی کو طلاق دے آیا ہوں“ سے طلاق ۵۵۷
- ۶۳۱۵ لفظ ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ سے طلاق ۵۵۸

- ۶۳۱۶ ”جب دیدی تو تو جاتی کیوں نہیں، انشاء طلاق ہے یا تاکید ۵۵۹
- ۶۳۱۷ میں نے تیری طلاق دیدی کہنے کا حق ۵۶۰
- ۶۳۱۸ ”میں نے تجھے طلاق دی“ سے کونسی طلاق واقع ہوگی؟ ۵۶۲
- ۶۳۱۹ طلاق دیدی سے کونسی طلاق واقع ہوگئی؟ ۵۶۳
- ۶۳۲۰ ”جائیں نے تجھے طلاق دی“ سے طلاق ۵۶۴
- ۶۳۲۱ ”میں نے تمہاری بھانجی کو طلاق دیدی“ کہنے سے طلاق ۵۶۶
- ۶۳۲۲ ”میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں“ کہنے کا حکم ۵۶۷
- ۶۳۲۳ شرعی و قانونی طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا ۵۶۸
- ۶۳۲۴ وکیل کے دریافت کرنے پر طلاق کا اقرار کرنا ۵۶۹
- ۶۳۲۵ کسی شخص کے کہنے سے بیوی کو ایک طلاق دینا ۵۷۱
- ۶۳۲۶ ”طلاق دی اور طلاق دیدوں گا“ سے وقوع طلاق کا مسئلہ ۵۷۳
- ۶۳۲۷ طلاق دیدوں گا، اور ”طلاق دی“ سے طلاق کا حکم ۵۷۴
- ۶۳۲۸ ”دیدي“ کے لفظ سے طلاق ۵۷۵
- ۶۳۲۹ شوہر کا طلاق سے انکار اور لڑکی والوں کا اقرار کرنا ۵۷۷
- ۶۳۳۰ دو طلاق رجعی ۵۷۸
- ۶۳۳۱ دو طلاق رجعی دینا ۵۷۹
- ۶۳۳۲ ”جاؤ تم آزاد ہو میں نے تمہیں طلاق دی“ سے طلاق کا حکم ۵۸۱
- ۶۳۳۳ ”طلاق لے کر نمٹ لے“ سے طلاق ۵۸۲
- ۶۳۳۴ میں نے اس کو چھوڑ دی ۵۸۳
- ۶۳۳۵ ایک مرتبہ زور سے دوسری مرتبہ آہستہ طلاق دینا ۵۸۴
- ۶۳۳۶ ”میں نے اس کو آزاد کیا، آزاد کرتا ہوں، سے طلاق ۵۸۵

- ۶۳۳۷ ”شوہر کا میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے چھوڑوں اور طلاق دی طلاق دی“ کہنا . ۵۸۶
- ۶۳۳۸ دو مرتبہ طلاق دیدوں گا اور دو مرتبہ طلاق دی کہنا ۵۸۸
- ۶۳۳۹ میں نے طلاق دی دو مرتبہ کہنا ۵۸۹
- ۶۳۴۰ دو ماہ قبل دو طلاق دے کر پھر تجھے طلاق دیدوں گا کہنا ۵۹۱
- ۶۳۴۱ شوہر کا بیوی کو دو طلاق دینا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا ۵۹۱
- ۶۳۴۲ ”طلاق، طلاق، طلاق، ان شاء اللہ“ سے طلاق کا حکم ۶۰۱
- ۶۳۴۳ فون پر دو طلاق دینا ۶۰۳
- ۶۳۴۴ بیوی کی عدم موجودگی میں دو مرتبہ طلاق دینا ۶۰۴
- ۶۳۴۵ دو مرتبہ طلاق دینا ہوں کے الفاظ سے طلاق ۶۰۵
- ۶۳۴۶ مختلف الفاظ صریح سے طلاق دینا ۶۰۶
- ۶۳۴۷ دو مرتبہ طلاق دی، پھر باہر آ کر کہا میں نے اس کو طلاق دیدی ۶۰۷
- ۶۳۴۸ ”تجھے طلاق دینی ہے کے بعد“ سمجھ لو طلاق ہوئی“ کہنے سے طلاق . ۶۰۸
- ۶۳۴۹ بیوی کو طلاق دے کر والد کو خبر دینا ۶۰۹
- ۶۳۵۰ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد مختلف مقامات پر اس کی خبر دینا ۶۱۰
- ۶۳۵۱ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دی سے طلاق کا حکم ۶۱۳
- ۶۳۵۲ ایک ایک کر کے دو طلاق موصولاً دینا ۶۱۴
- ۶۳۵۳ ساس سے لڑائی کے دوران دو بار طلاق دینا ۶۲۱
- ۶۳۵۴ نند بھارج میں لڑائی دیکھ کر دو طلاق دینا ۶۱۵
- ۶۳۵۵ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق ۶۱۶
- ۶۳۵۶ ”طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق کا حکم ۶۱۷
- ۶۳۵۷ بیوی کو مخاطب بنا کر دو مرتبہ طلاق دینا ۶۱۸

- ۶۱۹ ”طلاق دلو او، طلاق دیدوں گا اور طلاق دیدی“ سے کتنی طلاق ہوئیں ۶۳۵۸
- ۶۲۰ دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دینے سے قبل منہ بند کر دینا ۶۳۵۹
- ۶۲۱ فارغ خطی کا لفظ طلاق صریح رجعی کیلئے ہے ۶۳۶۰
- ۶۲۲ فارغ خطی کے لفظ سے طلاق ۶۳۶۱
- ۶۲۳ فارغ خطی کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۳۶۲
- ۶۲۴ میں نے تجھے فارغ خطی دیدی ۶۳۶۳
- ۶۲۶ چھوڑ دیا کا لفظ عرف میں طلاق ہی کو کہتے ہیں ۶۳۶۴
- ۶۲۷ ”چھوڑ دیا،“ کے لفظ سے طلاق صریح ۶۳۶۵
- ۶۲۸ چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۳۶۶
- ۶۲۹ لفظ چھوڑ چکا ہوں سے طلاق ۶۳۶۷
- ۶۳ جا میں نے تجھے چھوڑا ۶۳۶۸
- ۶۳۲ لفظ چھوڑ دی سے طلاق دینا ۶۳۶۹
- ۶۳۳ لفظ ”چھوڑ دیا،“ سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ ۶۳۷۰
- ۶۳۵ چھوڑ دی سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ ۶۳۷۱
- ۶۳۶ ”چھوڑ دیا“ اور ”تیری ماں کا کام تمام کر دیا کا حکم“ ۶۳۷۲
- ۶۳۸ تجھے چھوڑ دوںگا، تیرا فیصلہ کر دوں گا کا حکم ۶۳۷۳
- ۶۳۹ دوران جھگڑا بیوی کو دو مرتبہ چھوڑ دیا کہنا ۶۳۷۴
- ۶۴۰ ”میں نے تجھے کو چھوڑ دیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۶۳۷۵
- ۶۴۲ دو مرتبہ ”میں تجھے چھوڑ چکا ہوں“ کہنے کا حکم ۶۳۷۶
- ۶۴۵ ”میں نے تم کو چھوڑا، چھوڑا، چھوڑا کہنے کا حکم“ ۶۳۷۷
- ۶۴۶ لفظ چھوڑ دی تین مرتبہ کہنے کا حکم ۶۳۷۸

- ۶۳۷۹ لفظ چھوڑ دیا وقفہ وقفہ سے تین مرتبہ کہنا ۶۳۷
- ۶۳۸۰ چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے طلاق ۶۳۸
- ۶۳۸۱ آزاد کر دیا کا لفظ عرف میں بیوی کے حق میں طلاق رجعی ہے ۶۳۹
- ۶۳۸۲ ”دل سے تو میری بیوی آزاد ہے“ کہنا ۶۵۰
- ۶۳۸۳ آزاد کرتا ہوں سے طلاق ۶۵۲
- ۶۳۸۴ تجھے آزاد کر دیا ۶۵۳
- ۶۳۸۵ میں نے آپ کو آزاد کر دیا ۶۵۴
- ۶۳۸۶ میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کیا ۶۵۵
- ۶۳۸۷ جاؤ تم کا آزاد کر دیہن ۶۵۶
- ۶۳۸۸ ”نکاح سے آزادی دیتا ہوں“ کے الفاظ سے طلاق ۶۵۸
- ۶۳۸۹ تین مرتبہ شوہر کا ”آزاد کر دیا“ کہنا ۶۶۰
- ۶۳۹۰ لفظ ”آزاد کرتا ہوں“ سے طلاق کا حکم ۶۶۰
- ۶۳۹۱ ”تم میری طرف سے آزاد ہو، سے طلاق ۶۶۱
- ۶۳۹۲ ”اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں، سے طلاق ۶۶۲
- ۶۳۹۳ ”میں نے آزاد کر دیا“ کے لفظ سے طلاق ۶۶۳
- ۶۳۹۴ لفظ آزاد اور لفظ طلاق کے ذریعہ طلاق دینے کا مسئلہ ۶۶۴
- ۶۳۹۵ ”میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے آزاد کر دیا، سے طلاق ۶۶۵
- ۶۳۹۶ ”تو میری طرف سے آزاد ہے، ایک مرتبہ کہنے سے طلاق ۶۶۶
- ۶۳۹۷ ”تو آزاد ہے نکل، کے الفاظ سے طلاق کا حکم ۶۶۸
- ۶۳۹۸ ”آزاد کر دیا“ سے طلاق ۶۶۹
- ۶۳۹۹ آزاد کرنے اور چھوڑنے کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۷۱

۶۷۳ شوہر کا قول ”میں نے تجھے طلاق دی، آزاد کیا“ سے طلاق	۶۴۰۰
۶۷۴ ”تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور آزاد ہو“ سے طلاق کا حکم	۶۴۰۱
۶۷۵ ”میں نے تجھے آزاد کیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق	۶۴۰۲
۶۷۶ تین مرتبہ کہنا کہ ”تو میری طرف سے آزاد ہے“،	۶۴۰۳
۶۷۸ مختلف مواقع پر چھ سات مرتبہ آزاد کر دیا کہنا	۶۴۰۴
۶۷۹ متعدد بار آزاد کرنا	۶۴۰۵
۶۸۰ بارہا ”آزادی دی“ کہنا	۶۴۰۶

<input type="checkbox"/>	۱۳ / باب الکنایۃ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------	--------------------------

۶۸۲ کنائی الفاظ سے بلا نیت طلاق کا حکم	۶۴۰۷
۶۸۴ الفاظ کنائی سے طلاق	۶۴۰۸
۶۸۵ الفاظ کنائی سے طلاق دینا	۶۴۰۹
۶۸۷ کیا الفاظ کنائی سے طلاق ہو جاتی ہے؟	۶۴۱۰
۶۸۸ ایک طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے	۶۴۱۱
۶۹۰ طلاق بائن کے بعد ساتھ رہنے کی صورت	۶۴۱۲
۶۹۱ دو طلاق سے عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کا حکم	۶۴۱۳
۶۹۲ طلاق رجعی بعد عدت بائن بن جاتی ہے	۶۴۱۴
۶۹۳ اشارہ کنایہ وغیرہ کے ذریعہ سے بھی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت نہ ہو تو؟	۶۴۱۵
۶۹۴ لفظ ٹھیک نہ صریح ہے، نہ کنایہ	۶۴۱۶
۶۹۶ تو مجھ پر حرام کے لفظ سے طلاق صریح بائن	۶۴۱۷

- ۶۴۱۸ شوہر نے کہا کہ، میں تیرا شوہر نہیں ہوں، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ ۶۹۶
- ۶۴۱۹ ”نہیں رکھوں گا“ اور ”نکل جا“ کہنے کا حکم ۶۹۷
- ۶۴۲۰ ”اگر میں نے تم کو روکا، تو بہن بنا کر رکھوں“ سے طلاق کا حکم ۶۹۸
- ۶۴۲۱ ”اگر میں تیرے پاس جاؤں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آیا“ ۷۰۰
- ۶۴۲۲ تجھے طلاق دی اور دوسری مرتبہ کہا، تو میرے نکاح سے باہر ہوگئی کا حکم .. ۷۰۱
- ۶۴۲۳ ”آپ کی لڑکی مجھے نہیں بھری جانے کی“ سے طلاق ۷۰۲
- ۶۴۲۴ آپس میں کوئی رشتہ نہیں کہنے کا حکم ۷۰۳
- ۶۴۲۵ لفظ البتہ طلاق کا حکم ۷۰۴
- ۶۴۲۶ اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق ۷۰۵
- ۶۴۲۷ تو اپنے باپ کے گھر چلی جا سے طلاق ۷۰۷
- ۶۴۲۸ جواب دیا کا لفظ کنائی ہے یا صریح ۷۰۸
- ۶۴۲۹ ”جواب دیا، جدا کر دیا، میرے گھر سے چلی جا“ کہنا ۷۱۱
- ۶۴۳۰ لفظ جواب سے ایک طلاق بائن ۷۱۳
- ۶۴۳۱ لفظ جواب دیدیا سے ایک طلاق بائن ۷۱۴
- ۶۴۳۲ ”اگر آپ کی لڑکی دوسری جگہ شادی کے لئے تیار ہے تو میری طرف سے اجازت ہے“ سے طلاق ... ۷۱۵
- ۶۴۳۳ جا طلاق ہوگئی، اب تو آزاد ہوگئی، جاؤ گھومو، سے طلاق ۷۱۶
- ۶۴۳۴ ”اب وہ میرے لئے حرام ہے“ کہنے کا حکم ۷۱۸
- ۶۴۳۵ تمہارا فیصلہ کر دیا کہنے کا حکم ۷۲۱
- ۶۴۳۶ طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیا ۷۲۲
- ۶۴۳۷ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ۷۲۳

- ۶۴۳۸ میں نے شادی ختم کر دی ختم کر دی ختم کر دی کہنا ۷۲۴
- ۶۴۳۹ رات کے اندھیرے میں بھی اپنی ماں کے گھر گئی تو میرے نکاح میں نہیں رہنے کی .. ۷۲۵
- ۶۴۴۰ طلاق دیدی کے بعد چلی جاگی کہنے سے طلاق ۷۲۶
- ۶۴۴۱ تم اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق کا حکم ۷۲۷
- ۶۴۴۲ جاؤ اب چلی جاؤ سے طلاق کا حکم ۷۲۸
- ۶۴۴۳ مجھے ریحانہ کی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم ۷۲۹
- ۶۴۴۴ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد کہنا کہ تمہارا معاملہ صاف ۷۳۱
- ۶۴۴۵ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ”جایا میں نے تیرا فیصلہ کر دیا“ کہنا ... ۷۳۲
- ۶۴۴۶ آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم ۷۳۳
- ۶۴۴۷ لفظ ”ڈیزولو“ اور ڈیورس سے طلاق کا حکم ۷۳۵
- ۶۴۴۸ میں انگوٹھا دے آیا ہوں ۷۳۷
- ۶۴۴۹ تو میری زندگی میں میرے گھر نہیں آسکتی ہے، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں ۷۳۸
- ۶۴۵۰ دو مرتبہ طلاق دے کر جاؤ بھاگو کہنا ۷۳۹
- ۶۴۵۱ اگر گھر سے باہر گئی، تو نکاح سے باہر ۷۴۱
- ۶۴۵۲ بیوی سے کہا میں نے تجھے خلع دیا ۷۴۲
- ۶۴۵۳ ”تو میرے لئے مرگئی میں تیرے لئے مر گیا“ سے طلاق ۷۴۵
- ۶۴۵۴ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کے لفظ سے طلاق ۷۴۶
- ۶۴۵۵ طلاق دی دی کہنے کے بعد چلی جا کہنے سے کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ ۷۴۷
- ۶۴۵۶ اگر میں تیرے پاس جاؤں تو صاف طلاق ۷۴۸
- ۶۴۵۷ ”چل نکل جا میرے گھر سے“ کے لفظ سے طلاق کا حکم ۷۴۹

- ۶۳۵۸ میں نے تجھے طلاق دی، تیرا میرا حساب صاف ہوا..... ۷۵۱
- ۶۳۵۹ تم چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں کہنا..... ۷۵۲
- ۶۳۶۰ ”اب وہیں رہ“ کہنے کا حکم..... ۷۵۳
- ۶۳۶۱ لفظ ”تجھے خلع دیا تین مرتبہ کہنے سے طلاق“..... ۷۵۴
- ۶۳۶۲ تو میری بہن ہے لا بہن پانی لا سے طلاق..... ۷۵۵



فہرست مضامین

۱۷/ بقیۃ کتاب الطلاق

□	۱۴/ باب الرجعة	□
---	----------------	---

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۱	۶۴۶۳ ناہ کے دشوار ہونے کی صورت میں ایک طلاق رجعی دینا
۳۳	۶۴۶۴ نبھاؤ کی شکل نہ بن پارہی ہو، تو ایک طلاق کے ذریعہ علیحدگی کافی ہے
۳۴	۶۴۶۵ دو مرتبہ طلاق کے بعد کنائی الفاظ استعمال کرنا
۳۷	۶۴۶۶ ایک طلاق رجعی
۳۹	۶۴۶۷ ایک طلاق رجعی دینا
۴۰	۶۴۶۸ دو طلاق رجعی
۴۱	۶۴۶۹ دو طلاق رجعی
۴۳	۶۴۷۰ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دو مرتبہ کہنا
۴۴	۶۴۷۱ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی
۴۵	۶۴۷۲ تمہاری سالی کو میں نے بد چلنی کی وجہ سے چھوڑ دیا
۴۷	۶۴۷۳ بیوی میکہ چلی جائے تو رجعت کیسے کریں؟
۴۸	۶۴۷۴ بوس و کنار کے ذریعہ رجعت کا حکم
۴۹	۶۴۷۵ کیا عدت میں صحبت کرنے سے رجعت متحقق ہو جاتی ہے؟

- ۶۳۷۶ کیا ہم بستری کرنے سے رجعت متحقق ہو جاتی ہے؟ ۵۰
- ۶۳۷۷ رجعت کی ایک صورت ۵۲
- ۶۳۷۸ فون پر طلاق دینے کے ایک ہفتہ بعد رجعت کرنے کا حکم ۵۳
- ۶۳۷۹ مطلقہ واحدہ سے بلا حلالہ نکاح درست ہے ۵۴
- ۶۳۸۰ طلاق رجعی کے بعد کب تک رجوع کر سکتا ہے؟ ۵۵
- ۶۳۸۱ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ۵۶
- ۶۳۸۲ تجھ کو طلاق دیتا ہوں کہنے کے بعد ساتھ رہنا ۵۸
- ۶۳۸۳ عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق ہے ۵۹
- ۶۳۸۴ دوران عدت رجوع کافی ہے نکاح کی ضرورت نہیں ۶۰
- ۶۳۸۵ دومرتبہ طلاق کے بعد بیوی کو بہن کہنا ۶۱
- ۶۳۸۶ دوران گفتگو طلاق ہو گئی کہنا ۶۲
- ۶۳۸۷ ایک طلاق کے بعد رجوع پھر طلاق پھر رجوع ۶۴
- ۶۳۸۸ بغیر نیت طلاق کے شوہر کا کہنا ”مجھے ہاتھ مت لگا ورنہ گنہ گار ہوگی“ ۶۵
- ۶۳۸۹ بلا نیت کے طلاق طلاق کہنا ۶۷
- ۶۳۹۰ میں نے تم کو طلاق دیدی ۶۸
- ۶۳۹۱ دومرتبہ طلاق دی تیسری مرتبہ کہا طلاق دیدوں گا ۶۹
- ۶۳۹۲ بیوی سے دومرتبہ طلاق دی کہنا ۷۰
- ۶۳۹۳ دو طلاق کے بعد شوہر کے لئے بیوی کو رکھنے کا حق ہے ۷۱
- ۶۳۹۴ دوبار طلاق دینے کے بعد رجعت کرنا ۷۲
- ۶۳۹۵ دومرتبہ طلاق کے بعد ساتھ رہنے کی شکل ۷۴
- ۶۳۹۶ دو طلاق رجعی کے بعد رجعت کی گنجائش ۷۴

- ۶۳۹۷ دو طلاق کا شرعی حکم ۷۶
- ۶۳۹۸ دو طلاق کے بعد بیوی کے ساتھ ہمبستر ہونے سے رجعت کا تحقق ۷۷
- ۶۳۹۹ دو طلاق رجعی کی صورت میں بلا حلالہ نکاح درست ہے ۷۸
- ۶۵۰۰ دو مرتبہ طلاق کے بعد تین حیض گزر گئے کیا حکم ہے؟ ۷۹
- ۶۵۰۱ دو طلاق کے بعد پانچ ماہ گزر گئے کیا حکم ہے؟ ۸۱
- ۶۵۰۲ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد سات آٹھ ماہ گزر گئے ۸۳
- ۶۵۰۳ رجعت کے بعد دوسری طلاق دینا ۸۳
- ۶۵۰۴ طلاق رجعی کی عدت پوری ہونے کے بعد دی گئی طلاق کا حکم ۸۴
- ۶۵۰۵ مطلقہ مغلظ سے نکاح کے لئے لمحض نکاح ثانی کافی نہیں ۸۶

□	۱۵ / باب طلاق البائن	□
---	----------------------	---

- ۶۵۰۶ شیماروین میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں ۸۹
- ۶۵۰۷ طلاق بائن بائن دی، ایک طلاق دو طلاق بائن دی سے طلاق ۹۰
- ۶۵۰۸ طلاق قطعی دینا ۹۱
- ۶۵۰۹ غیر مدخول بہا کو مذاق میں طلاق بائن ۹۲
- ۶۵۱۰ ایک طلاق بائن میں بغیر حلالہ جواز نکاح ۹۴
- ۶۵۱۱ رخصتی سے قبل طلاق و مہر کا حکم ۹۵
- ۶۵۱۲ رخصتی سے قبل طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم ۹۷
- ۶۵۱۳ طلاق دے کر زوجیت سے الگ کرتا ہوں ۹۸
- ۶۵۱۴ رخصتی سے قبل طلاق طلاق کہنے سے کتنی طلاق ہوئی ۱۰۰
- ۶۵۱۵ غیر مدخول بہا کو الگ الگ تین طلاق اور حالت حیض میں خلوت کا حکم ۱۰۱

- جواب منجانب: جامعہ حیات العلوم مراد آباد ۱۰۲
- تصدیق منجانب: مفتی شبیر صاحب مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۱۰۲
- مستقل جواب منجانب: دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۱۰۳
- ۶۵۱۶ غیر مدخولہ کو متفرق میں طلاق، پھر اس سے نکاح کی کیا صورت ہے؟ ۱۰۳
- ۶۵۱۷ طلاق بائنہ کی ایک صورت ۱۰۴

□	۱۶ / باب الطلاق بالکتابۃ	□
---	--------------------------	---

- ۶۵۱۸ تحریری طلاق کے شرائط ۱۰۷
- ۶۵۱۹ تحریری طلاق نامہ میں شوہر کا اقرار معتبر ہے یا تحریر؟ ۱۰۹
- ۶۵۲۰ شوہر سے زبانی و تحریری جبراً طلاق لینے میں فرق کی وجہ ۱۱۰
- ۶۵۲۱ بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دینے کے بعد تحریری طلاق دینا ۱۱۲
- ۶۵۲۲ موبائل پر بیوی کو پیج کے ذریعہ سے طلاق دینا ۱۱۲
- ۶۵۲۳ تحریری طلاق ۱۱۴
- ۶۵۲۴ تحریری طلاق کا حکم ۱۱۵
- ۶۵۲۵ تحریری طور پر طلاق دینا ۱۱۷
- ۶۵۲۶ حالت حمل میں تحریری طلاق دینا ۱۱۹
- ۶۵۲۷ ”میں..... کو طلاق دیتا ہوں“ بیوی کو لکھ کر دینے سے طلاق ۱۱۹
- ۶۵۲۸ تحریری طلاق کی ایک صورت ۱۲۰
- ۶۵۲۹ بیوی کے سامنے تحریری طلاق دینا ۱۲۲
- ۶۵۳۰ بیوی کے سامنے بیٹھ کر طلاق لکھ کر دیدی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا ۱۲۳
- ۶۵۳۱ بیوی کے سامنے طلاق طلاق لکھنا ۱۲۴

- ۶۵۳۲ تحریری طلاق ۱۲۵
- ۶۵۳۳ ڈرانے دھمکانے کے لئے بیوی کو پرچہ میں لکھ کر طلاق دینا ۱۳۱
- ۶۵۳۴ ”ہم دونوں بخوشی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں“ لکھنے کا حکم ۱۳۲
- ۶۵۳۵ طلاق کے صریح الفاظ لکھوانے کے بعد کنائی الفاظ لکھوانا ۱۳۳
- ۶۵۳۶ موکل نے ایک طلاق دی اور وکیل نے تین لکھ دی تو کتنی واقع ہوئیں؟ ۱۳۴
- ۶۵۳۷ وکیل ایک طلاق کی جگہ تین لکھ دے تو کیا حکم ہے؟ ۱۳۶
- ۶۵۳۸ وکیل کا موکل کی نیت کے خلاف طلاق نامہ میں تین طلاق لکھنا ۱۳۷
- ۶۵۳۹ بیوی کے نام طلاق نامہ ارسال کرانا ۱۳۹
- ۶۵۴۰ بذریعہ خط طلاق دینا ۱۴۰
- ۶۵۴۱ بذریعہ خط طلاق دینا ۱۴۲
- ۶۵۴۲ ”میں نے تم کو رو برد و گواہان طلاق دیدی“ لکھی رجسٹری کا حکم ۱۴۴
- ۶۵۴۳ طلاق کا نوٹس بھیجنے سے وقوع طلاق کا حکم ۱۴۵
- ۶۵۴۴ طلاق کا نوٹس بھیجنے سے وقوع طلاق کا حکم ۱۴۷
- ۶۵۴۵ طلاق نامہ لکھوا کر بھجوانے کا حکم ۱۴۸
- ۶۵۴۶ مکرہ کی طلاق یا کتابت کا حکم ۱۵۰
- ۶۵۴۷ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق نامہ لکھنا ۱۵۲
- ۶۵۴۸ اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھ کر بھیجنا ۱۵۳
- ۶۵۴۹ بخوشی یا بحالت اکراہ لکھ کر طلاق دینا ۱۵۴
- ۶۵۵۰ نوٹس طلاق کی شرعی حیثیت ۱۵۵
- ۶۵۵۱ طلاق کا نوٹس بھیجنا ۱۵۷
- ۶۵۵۲ ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے طلاق نامہ سے طلاق کا حکم ۱۵۸

- ۶۵۵۳ بغیر تحقیق کے دوسرے ملک سے طلاق لکھ کر بھیجنے سے طلاق ۱۶۰
- ۶۵۵۴ رجسٹری طلاق نامہ پر لڑکی کے دستخط کرنے سے طلاق کا حکم ۱۶۱
- ۶۵۵۵ کیا طلاق نامہ پڑھے بغیر دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟ ۱۶۲
- ۶۵۵۶ الگ کرنے کی نیت سے طلاق نامہ پر دستخط کرنا ۱۶۴
- ۶۵۵۷ طلاق نامہ کو لکھوانے اور سن کر اس پر دستخط کرنے سے طلاق کا حکم ۱۶۶
- ۶۵۵۸ اسٹامپ پیپر پر جبراً انگوٹھا لگوانے سے طلاق کا حکم ۱۶۹
- ۶۵۵۹ تحریری طور پر طلاق دے کر انکار کرنا ۱۷۰
- ۶۵۶۰ لڑکا طلاق نامہ کا منکر ہو تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۱
- ۶۵۶۱ وکیل نے طلاق نامہ لکھا اور شوہر طلاق کا منکر ہے ۱۷۲
- ۶۵۶۲ بیوی کے طلاق کا انکار کرنے سے طلاق کا حکم ۱۷۴
- ۶۵۶۳ شوہر سے لاعلمی میں طلاق نامہ پر دستخط کروانا ۱۷۵
- ۶۵۶۴ فرضی طلاق نامہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۱۷۶
- ۶۵۶۵ غیر شوہر کا فرضی طلاق نامہ معتبر نہیں ۱۷۸
- ۶۵۶۶ شوہر کی طرف فرضی طلاق نامہ منسوب کر کے طلاق دلوانا ۱۷۹
- ۶۵۶۷ سادہ کاغذ پر محض انگوٹھا لگانے سے طلاق کا حکم ۱۸۱
- ۶۵۶۸ دھمکی دے کر خالی اسٹامپ پر دستخط کروانے سے طلاق ۱۸۲
- ۶۵۶۹ والد نے بغیر لڑکے کی اجازت کے طلاق نامہ لکھوایا ۱۸۳
- ۶۵۷۰ طلاق نامہ دینے سے طلاق کا حکم ۱۸۵
- ۶۵۷۱ طلاق نامہ لکھوا کر والد کو دینے سے طلاق کا حکم ۱۸۶
- ۶۵۷۲ دھمکی دے کر طلاق نامہ لکھوانے سے طلاق کا حکم ۱۸۷

- ۱۸۸ ۶۵۷۳ طلاق نامہ لکھوانے سے وقوع طلاق کا حکم
- ۱۹۰ ۶۵۷۴ طلاق نامہ لکھنے سے طلاق کا حکم
- ۱۹۲ ۶۵۷۵ زبردستی طلاق نامہ لکھوانا
- ۱۹۴ ۶۵۷۶ طلاق نامہ کی تفصیل بتائے بغیر شوہر کے اس پر دستخط لینا
- ۱۹۵ ۶۵۷۷ طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی شرعی حیثیت
- ۱۹۷ ۶۵۷۸ زبان سے طلاق دیئے بغیر طلاق نامہ پر دستخط لینے سے عدم وقوع طلاق
- ۱۹۸ ۶۵۷۹ پولیس کے دباؤ سے طلاق نامہ پر دستخط
- ۲۰۰ ۶۵۸۰ طلاق نامہ پر دباؤ ڈال کر دستخط کرانا
- ۲۰۱ ۶۵۸۱ شوہر سے اس کی مرضی کے بغیر طلاق نامہ پر دستخط کرانا
- ۲۰۲ ۶۵۸۲ طلاق نامہ پر زبردستی اگلوٹھا لگوانا
- ۲۰۳ ۶۵۸۳ طلاق نامہ پر جبراً دستخط کرانے کے بعد زبانی طلاق کہلوانا
- ۲۰۵ ۶۵۸۴ طلاق نامہ پر دستخط کرنا
- ۲۰۷ ۶۵۸۵ طلاق نامہ پر زبردستی دستخط کرانے کا حکم
- ۲۰۸ ۶۵۸۶ طلاق نامہ پر بغیر پڑھے ہوئے شوہر کا دستخط کرنا
- ۲۰۹ ۶۵۸۷ طلاق نامہ پر بخوشی دستخط کرنا
- ۲۱۰ ۶۵۸۸ تحریری طلاق بائن
- ۲۱۱ ۶۵۸۹ نوٹس کے ذریعہ سے بیوی کو تین طلاق لکھ کر دینا
- ۲۱۲ ۶۵۹۰ طلاق ثلاثہ کی رجسٹری کرنا
- ۲۱۴ ۶۵۹۱ بذریعہ خط طلاق دینے کے بعد زبانی تین طلاق کا اقرار
- ۲۱۶ ۶۵۹۲ اسٹامپ پر سے طلاق دے کر آزاد کر دیا لکھ کر بیوی کو دینا

۲۱۷	تحریراً تین طلاق دینا	۶۵۹۳
۲۱۹	بیوی کو تحریری تین طلاق دینا	۶۵۹۴
۲۲۲	تحریری طلاق مغالطہ	۶۵۹۵
۲۲۳	غصہ میں کاغذ پر تین طلاق لکھنے کا حکم	۶۵۹۶
۲۲۵	شوہر کا بیوی کو طلاق کا پرچہ دینا اور بیوی کا نہ لینا	۶۵۹۷
۲۲۶	شوہر سے جبراً طلاق کا املاء کرانا	۶۵۹۸
۲۲۹	طلاق دے کر اور طلاق کے کلمات ادا کر کے زوجیت سے الگ کر دیا لکھوانے کا حکم	۶۵۹۹

	باب الطلاق الثالث	
--	--------------------------	--

۲۳۱	ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی شمار ہوتی ہیں	۶۶۰۰
۱۳۴	ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں یا ایک؟	۶۶۰۱
۲۳۷	○ جواب من جانب حضرت مفتی صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد	
۲۳۹	ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم	۶۶۰۲
۲۴۱	ایک مجلس کی تین طلاق کا ثبوت حدیث شریف سے	۶۶۰۳
۲۴۳	ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم	۶۶۰۴
۲۴۵	چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہیں	۶۶۰۵
۲۴۷	ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں ایک نہیں	۶۶۰۶
۲۵۱	ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد غیر مقلد کے فتویٰ پر عمل کرنا	۶۶۰۷
۲۵۳	غیر مقلد کے فتویٰ سے مطلقہ ثلاثہ حلال نہ ہوگی	۶۶۰۸
۲۵۵	حنفی مذہب ہونے کی حالت میں تین طلاق دے کر غیر مقلدیت کو اپنانا	۶۶۰۹

- ۶۶۱۰ کیا علماء احناف نے ایک مجلس کی تین طلاق میں غیر مقلدین کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے؟ ۲۵۶
- ۶۶۱۰ ایک مجلس کی تین طلاق کا تحقیقی جائزہ ۲۵۹
- حضرت حسن بن علیؑ کی روایت اور واقعہ ۲۶۰
- حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلط نسبت ۲۶۲
- بغیر ہم بستری کے حلالہ معتبر نہیں ۲۶۵
- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ۲۶۸
- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ۲۶۸
- حدیث رکانہ سے متعلق روایات کا جائزہ ۲۶۹
- حضرت رکانہ کے واقعہ میں حدیث شریف کا صحیح مطلب ۲۷۰
- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ۲۷۴
- متعدد صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ ۲۷۵
- ۶۶۱۱ جھوٹ بول کر فتویٰ لینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی ۲۷۸
- ۶۶۱۲ تین طلاق دینے کا مسنون طریقہ ۲۷۹
- ۶۶۱۳ ایک ایک کر کے تین طلاق دینا ۲۸۰
- ۶۶۱۴ یکے بعد دیگرے تین طلاق دینا ۲۸۲
- ۶۶۱۵ ایک طلاق کے بعد دو طلاق دینا ۲۸۳
- ۶۶۱۶ طلاق ثلاثہ ۲۸۵
- ۶۶۱۷ تین طلاق ۲۸۶
- ۶۶۱۸ تین طلاق کا حکم ۲۸۷

- ۶۶۱۹ طلاق مغلظہ ۲۹۰
- ۶۶۲۰ طلاق ثلاثہ سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب ۲۹۲
- جواب منجانب: مفتی عزیز الرحمن صاحب مدرسہ عربیہ امدادیہ ۲۹۳
- جواب منجانب: درالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۹۴
- ۶۶۲۱ طلاق ثلاثہ اور میرا کوئی خدا نہیں کہنے کا حکم ۲۹۶
- ۶۶۲۲ تین مرتبہ طلاق دیدی واقع ہوئیں یا نہیں؟ ۲۹۸
- ۶۶۲۳ ایک ہی سانس میں تین مرتبہ طلاق دینا ۲۹۹
- ۶۶۲۴ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں ۳۰۰
- ۶۶۲۵ تنہائی میں طلاق ثلاثہ دینا ۳۰۱
- ۶۶۲۶ ڈرانے کی نیت سے طلاق مغلظہ دینا ۳۰۲
- ۶۶۲۷ شوہر اقرار کرے کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لئے تین طلاق دیں ۳۰۳
- ۶۶۲۸ ڈرانے کے لئے تین طلاق دینے سے وقوع طلاق ۳۰۴
- ۶۶۲۹ اپنے گھر والوں سے ڈر کر بیوی کو تین طلاق دینا ۳۰۵
- ۶۶۳۰ محض تین طلاق کا اقرار کرنے سے طلاق کا حکم ۳۰۶
- ۶۶۳۱ تین طلاق کے اقرار کرنے کا حکم ۳۰۹
- ۶۶۳۲ شوہر کا تین مرتبہ طلاق کا اقرار کرنا ۳۱۰
- ۶۶۳۳ تین طلاق کا اقرار کرنے کے بعد ایک کا انکار کرنا ۳۱۱
- ۶۶۳۴ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تین مرتبہ کہا ۳۱۲
- ۶۶۳۵ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کہنے سے طلاق ۳۱۴
- ۶۶۳۶ ایک طلاق کے بعد شوہر نے کہا ”میں نے تیسری طلاق دی“ ۳۱۵

- ۶۶۳۷ ایک اور دو طلاق دی اور ایک دو طلاق کا حکم ۳۱۶
- ۶۶۳۸ ۳۶/۲۱ میں نے طلاق دی ۳۱۸
- ۶۶۳۹ میں نے مینا کو ۳۶/۲۱ ردی ۳۱۹
- ۶۶۴۰ ایک دو تین میں تم کو طلاق دے رہا ہوں ۳۲۰
- ۶۶۴۱ ایک دو تین دیا، جو اب سے طلاق کا حکم ۳۲۱
- ۶۶۴۲ ایک طلاق دو طلاق، دل سے طلاق کہنے سے تین طلاق کا وقوع ۳۲۲
- ۶۶۴۳ ایک بار دو بار تین بار طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں ۳۲۳
- ۶۶۴۴ طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کر زوجیت سے الگ کرنا ۳۲۴
- ۶۶۴۵ عورت کو چالیس دنوں کے لئے تین طلاق ۳۲۵
- ۶۶۴۶ تین مواضع میں الگ الگ تین طلاق دینا ۳۲۶
- ۶۶۴۷ حالت نشہ میں تین مرتبہ تم کو چھوڑ دیا کہنا ۳۲۷
- ۶۶۴۸ نشہ کی حالت میں حاملہ بیوی کو تین طلاق دینے کا شرعی حکم ۳۲۹
- ۶۶۴۹ جنونی حالت میں کہنا ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“ ۳۳۱
- ۶۶۵۰ دماغی توازن کمزور ہونے کی بنا پر تین طلاق دینا ۳۳۳
- ۶۶۵۱ جنونی کیفیت میں تین طلاق دینا ۳۳۴
- فتویٰ نمبر: الف ۸۱۶۶/۳۷ سے متعلق مفتی عزیز الرحمن بجنوری کا جواب ۳۳۵
- مذکورہ طلاق سے متعلق مستفتی کا اقرار اور بیان ۳۳۵
- جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۳۳۶
- ۶۶۵۲ غصہ میں تین طلاق دینا ۳۳۷
- ۶۶۵۳ غصہ کی حالت میں تین طلاق دینا ۳۳۹

- ۶۶۵۴ میں نے اور میرے خدا نے طلاق دی، تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۳۴۱
- ۶۶۵۵ شدید غصے میں یہ کہنا ”خدا کو حاضر و ناظر کر کے تم کو تین طلاق دیتا ہوں“ ۳۴۲
- ۶۶۵۶ غصہ میں تیرے اوپر تین کہنے کا حکم ۳۴۳
- ۶۶۵۷ دھمکانے کے لئے غصہ کی حالت میں تین طلاق دینے کا حکم ۳۴۶
- ۶۶۵۸ حالت غصہ میں دی گئی تین طلاق کا حکم ۳۴۸
- ۶۶۵۹ حالت غضب میں بیک وقت تین طلاق دے کر عدول عن المذہب کرنا ۳۵۰
- ۶۶۶۰ حالت حمل میں تین طلاق کا وقوع ۳۵۲
- ۶۶۶۱ ایام حیض میں تین مرتبہ طلاق دینا ۳۵۴
- ۶۶۶۲ حالت حیض میں تین طلاق ۳۵۵
- ۶۶۶۳ ”لے لے تو طلاق“ تین مرتبہ کہنا ۳۵۶
- ۶۶۶۴ شوہر نے تین طلاق دیں اور بیوی نے نہیں سنا تو ۳۵۷
- ۶۶۶۵ کیا بیوی کے سننے بغیر شوہر کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ ۳۵۸
- ۶۶۶۶ بیوی کی عدم موجودگی میں تین طلاق ۳۵۹
- ۶۶۶۷ بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں تین طلاق ۳۶۰
- ۶۶۶۸ بیوی کا نام لئے بغیر ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا ۳۶۱
- ۶۶۶۹ بیوی کا نام لے کر تین مرتبہ طلاق دینا ۳۶۳
- ۶۶۷۰ بیوی کی طرف اشارہ کر کے تین طلاق دینا ۳۶۳
- ۶۶۷۱ بیوی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے تین طلاق دینا ۳۶۶
- ۶۶۷۲ شوہر کا تین مرتبہ طلاق دینا اور بیوی کا نہ لینا ۳۶۷
- ۶۶۷۳ میں نے تجھے طلاق دی، تین مرتبہ کہنا اور بیوی کا ہر مرتبہ انکار کرنا ۳۶۸

- ۶۶۷۴ بیوی صرف ایک طلاق کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟ ۳۶۹
- ۶۶۷۵ فون پر نشہ کی حالت میں تین طلاق دینا ۳۷۰
- ۶۶۷۶ فون پر تین طلاق دیدیں ۳۷۲
- ۶۶۷۷ فون پر تین طلاق دینا ۳۷۳
- ۶۶۷۸ دو طلاق کے بعد پھر فون پر تیسری طلاق ۳۷۵
- ۶۶۷۹ فون پر تین طلاق دینے کا اقرار کرنا ۳۷۶
- ۶۶۸۰ شوہر کا میں نے تم کو آزاد کیا تین بار کہنا ۳۷۹
- ۶۶۸۱ ”آزاد کرتا ہوں“ تین مرتبہ کہنے سے طلاق مغلطہ ۳۸۱
- ۶۶۸۲ بیوی کے مطالبہ پر شوہر کا تین طلاق دینا ۳۸۲
- ۶۶۸۳ بیوی کے مطالبہ پر ”جا میں نے تجھے طلاق دی“ تین مرتبہ کہنا ۳۸۳
- ۶۶۸۴ بیوی کے اصرار پر شوہر کا تین طلاق دینا ۳۸۵
- ۶۶۸۵ مطالبہ پر طلاق ثلاثہ دینے کی صورت میں عدت، مہر اور جہیز کا حکم ۳۸۶
- ۶۶۸۶ طلاق کے مسلسل مطالبہ پر شوہر کا ”دی“ کہنا ۳۸۸
- ۶۶۸۷ ”میں نے تجھے طلاق دی“ تین مرتبہ کہنے سے طلاق ۳۸۹
- ۶۶۸۸ لفظ ایک دو تین سے طلاق کا حکم ۳۹۰
- ۶۶۸۹ بیوی کو مخاطب کر کے تین مرتبہ طلاق دینا ۳۹۲
- ۶۶۹۰ بیوی کو زبانی تین طلاق دینا ۳۹۳
- ۶۶۹۱ ”میں نے اس کو طلاق دی“ تین مرتبہ کہنا ۳۹۴
- ۶۶۹۲ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں تینوں طلاق دے رہا ہوں کہنے کا حکم ۳۹۵
- ۶۶۹۳ بھابھی کی موجودگی میں تین طلاق ۳۹۷

- ۳۹۸ دو گواہوں کے روبرو تین طلاق دینا ۶۶۹۴
- ۴۰۰ دو گواہوں کی موجودگی میں تین طلاق دینا ۶۶۹۵
- ۴۰۲ شوہر کا گواہوں کے سامنے تین بار تم کو طلاق دی کہنا ۶۶۹۶
- ۴۰۴ چار آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا ۶۶۹۷
- ۴۰۵ ۱۲/۱۰ آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا ۶۶۹۸
- ۴۰۶ مجمع عام میں تین طلاق دینا ۶۶۹۹
- ۴۰۷ تین جھگڑوں میں میں نے تمہیں طلاق دیدی کہنے سے طلاق ۶۷۰۰
- ۴۰۷ جھگڑے کے دوران تین مرتبہ طلاق دینا ۶۷۰۱
- ۴۰۸ کیا تیری ماں میری ماں ہے، طلاق، طلاق، طلاق ۶۷۰۲
- ۴۰۹ بلانیت تین طلاق دینا ۶۷۰۳
- ۴۱۰ نیت کئے بغیر تین مرتبہ طلاق دینا ۶۷۰۴
- ۴۱۱ جا میں نے تجھے تین طلاق دیں ۶۷۰۵
- ۴۱۳ ”تمہیں تین دفعہ طلاق دیدی“ سے طلاق مغالطہ ۶۷۰۶
- ۴۱۴ ”طلاق دیتا ہوں“ تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۶۷۰۷
- ۴۱۵ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے ۶۷۰۸
- ۴۱۶ میں تجھے تین بار طلاق طلاق طلاق دیدوں ۶۷۰۹
- ۴۱۷ طلاق دی، دی، دی، دی، دی، دی سے طلاق ۶۷۱۰
- ۴۱۸ طلاق دی، طلاق، طلاق، پھر طلاق دی جا طلاق دی ۶۷۱۱
- ۴۲۰ طلاق دی، طلاق، طلاق سے قضاء تین طلاق ۶۷۱۲
- ۴۲۱ ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق مغالطہ ۶۷۱۳

- ۶۷۱۴ میں تمہیں طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں ۴۲۲
- ۶۷۱۵ شوہر کا ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا ۴۲۳
- ۶۷۱۶ ”تجھے طلاق دوں گا“ کے بعد ”دی، دی، دی“ کہنے سے طلاق مغلظہ ۴۲۴
- ۶۷۱۷ طلاق دی، دی، دی“ کہنے کا حکم ۴۲۵
- ۶۷۱۸ ”تجھے طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق مغلظہ ۴۲۶
- ۶۷۱۹ ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق مغلظہ ۴۲۷
- ۶۷۲۰ میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی میں نے طلاق، تو اب کیا کہتی ہے ۴۲۸
- ۶۷۲۱ لوبھائی طلاق، طلاق، طلاق ۴۲۹
- ۶۷۲۲ ایک طلاق دو طلاق بائن ۴۳۱
- ۶۷۲۳ دو طلاق کے بعد کہا ”میں نے تیرا حساب چکتا کر دیا“ ۴۳۲
- ۶۷۲۴ طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں ۴۳۳
- ۶۷۲۵ دو مرتبہ آزاد اور ایک مرتبہ لفظ طلاق کہنا ۴۳۴
- ۶۷۲۶ دو مرتبہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور تیسری مرتبہ صرف ”طلاق دی“ کہنا ۴۳۵
- ۶۷۲۷ ”طلاق، طلاق، تجھے طلاق“ اگر لکھوانی ہو تو لکھوا بھی لو ۴۳۶
- ۶۷۲۸ دو طلاق دینا یاد ہے؛ لیکن تیسری کا دھیان نہیں ۴۳۷
- ۶۷۲۹ تین طلاق دینے کے بعد شوہر کے والدین کا طلاق نہ ماننا ۴۳۹
- ۶۷۳۰ ساس کی وجہ سے بیوی کو تین طلاق دینا ۴۴۰
- ۶۷۳۱ طیش میں آکر ”اس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کہنا ۴۴۱
- جواب منجانب: دارالعلوم دیوبند ۴۴۲
- جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۴۴۲

- ۶۷۳۲ تیز بخار کی غفلت میں تین طلاق دینا ۴۴۳
- ۶۷۳۳ بہری بیوی کو تین طلاق دینا ۴۴۴
- ۶۷۳۴ کالی کو تین طلاق کہنے سے دو بیویوں میں سے کس پر طلاق واقع ہوگی؟ ۴۴۶
- ۶۷۳۵ ایک ساتھ دو بیویوں کو طلاق دینے کا حکم ۴۴۷
- ۶۷۳۶ زبانی طلاق مغلطہ دینے کے بعد تحریری طلاق دینا ۴۴۹
- ۶۷۳۷ بدکار عورت کو تین طلاق دینا ۴۵۰
- ۶۷۳۸ بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے شوہر کا تین طلاق دینا ۴۵۱
- ۶۷۳۹ دباؤ میں آ کر تین طلاق دینا ۴۵۳
- ۶۷۴۰ وکیل کے دباؤ پر تین مرتبہ طلاق دینا ۴۵۴
- ۶۷۴۱ بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر خاموش رہے تو کیا حکم ہے؟ ۴۵۵
- ۶۷۴۲ غیر ارادی طور پر تین طلاق منہ سے نکلنے پر وقوع طلاق ۴۵۷
- ۶۷۴۳ تین طلاق کے بہانے سے سائلے کو گھر پر بلانا ۴۵۸
- ۶۷۴۴ غیر مدخول بہا کو 'تین طلاق دی یادیتا ہوں' کہنے کا حکم ۴۶۰
- ۶۷۴۵ قبل التحولت تین طلاق دینے کے احکام ۴۶۱
- ۶۷۴۶ غیر مدخول بہا کو تین طلاق کے بعد بلا حلالہ نکاح کا عدم جواز ۴۶۳
- ۶۷۴۷ غیر کفو میں نکاح کے بعد تین طلاق دی، بلا حلالہ دوبارہ نکاح کا عدم جواز ۴۶۴
- ۶۷۴۸ بیوی تین کا دعویٰ کرتی ہے، شوہر انکار کرتا ہے ۴۷۰
- ۶۷۴۹ لفظ طلاق کئی مرتبہ بول کر تاکید مراد لینا ۴۷۱
- ۶۷۵۰ تین طلاق دے کر یہ کہنا کہ ہمیں تم سے محبت ہے ہزار مرتبہ طلاق دوں
- تب بھی واقع نہ ہوگی ۴۷۲

- ۶۷۵۱ تین چار سال میں کئی مرتبہ طلاق دینا ۴۷۳
- ۶۷۵۲ فون پر کئی مرتبہ طلاق دینے کا حکم ۴۷۵
- ۶۷۵۳ بار بار ”طلاق دی“ کہنا ۴۷۶
- ۶۷۵۴ شوہر کا بیوی کو متعدد بار طلاق دینا ۴۷۷
- ۶۷۵۵ ہوش و حواس میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا ۴۷۹
- ۶۷۵۶ تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا ۴۸۰
- ۶۷۵۷ تین مرتبہ سے زائد چھوڑ دیا کہنا ۴۸۱
- ۶۷۵۸ ”میں نے تجھے طلاق دی“ چار مرتبہ کہنا ۴۸۳
- ۶۷۵۹ یکبارگی تین چار بار طلاق دینا ۴۸۴
- ۶۷۶۰ ”میں نے تجھے چھوڑ دی“ تین چار بار کہنے سے طلاق مغلظہ ۴۸۵
- ۶۷۶۱ طلاق، طلاق، طلاق، طلاق سے طلاق کا حکم ۴۸۶
- ۶۷۶۲ دو طلاق دینے کے بعد پھر ۲ ماہ بعد دو طلاق دینا ۴۸۸
- ۶۷۶۳ دو مرتبہ دو، دو کر کے چار طلاق دینا ۴۸۹
- ۶۷۶۴ چار طلاق کی شرعی حیثیت ۴۹۲
- ۶۷۶۵ چار بار طلاق دے کر آپس میں معافی مانگنا ۴۹۳
- ۶۷۶۶ بیوی کے مطالبہ پر چار مرتبہ طلاق دینا ۴۹۴
- ۶۷۶۷ چار مرتبہ طلاق دینا ۴۹۵
- ۶۷۶۸ بیوی کو مخاطب کر کے چار مرتبہ طلاق دینا ۴۹۷
- ۶۷۶۹ جھگڑے کی حالت میں چار مرتبہ طلاق دینا ۴۹۸
- ۶۷۷۰ دو طلاق دینے کے بعد بہن کے کہنے پر دو اور دینا ۴۹۹

- ۶۷۷۱ میں نے ان کو طلاق دیدی ۵/۴ مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۵۰۰
- ۶۷۷۲ ”میں نے تجھے طلاق دی“ چار مرتبہ کہنے سے طلاق ۵۰۲
- ۶۷۷۳ چار پانچ بار طلاق دی؛ لیکن لڑکی نے نہیں سنا ۵۰۴
- ۶۷۷۴ پانچ چھ مرتبہ طلاق ۵۰۵
- ۶۷۷۵ ”میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی“ چھ مرتبہ کہنا ۵۰۶
- ۶۷۷۶ دو مرتبہ تین تین دفعہ طلاق دینے کا حکم ۵۰۷
- ۶۷۷۷ جھگڑے کے دوران سات مرتبہ طلاق دینا ۵۰۹
- ۶۷۷۸ سات مرتبہ طلاق دینا ۵۱۰
- ۶۷۷۹ آٹھ طلاق دینا ۵۱۱
- ۶۷۸۰ آٹھ نو مرتبہ طلاق کے بعد کہنا طلاق نہیں ہوئی ۵۱۲
- ۶۷۸۱ نشہ کی حالت میں آٹھ نو بار طلاق دینا ۵۱۳
- ۶۷۸۲ تم کو تین طلاق ہی نہیں بلکہ نو طلاق کہنے کا حکم ۵۱۴
- ۶۷۸۳ جا تجھے طلاق، طلاق دس مرتبہ کہنا ۵۱۵
- ۶۷۸۴ تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق دس مرتبہ کہنا ۵۱۶
- ۶۷۸۵ یکبارگی دسیوں بار طلاق دینا ۵۱۸
- ۶۷۸۶ جنون کے عالم میں دس گیا رہ مرتبہ طلاق دینا ۵۱۹
- ۶۷۸۷ لاتعداد طلاق، طلاق، طلاق، کہنا ۵۲۰
- ۶۷۸۸ سینکڑوں بار لفظ طلاق کہنا ۵۲۱
- ۶۷۸۹ شوہر پر مطلقہ ثلاثہ کا مہر، جہیز اور بچی کا خرچہ لازم ہے ۵۲۲
- ۶۷۹۰ طلاق مغلطہ کی صورت میں مہر اور بچوں کا حکم ۵۲۳

- ۶۷۹۱ طلاق کے بعد سامانِ جہیز، مہر اور زیورات کے تبادلہ کا حکم ۵۲۶
- ۶۷۹۲ کیا مطلقہ ثلاثہ شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے؟ ۵۲۷
- ۶۷۹۳ ”جا تجھ کو تین طلاق“ ۵۲۹

مطلقہ خواتین کے مسائل کا تحقیقی جائزہ

- طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا ممنوع؟ ۵۳۱
- طلاق دینے کا حق مرد کو کیوں؟ ۵۳۲
- کن حالات میں عورت کو طلاق دی جائے؟ ۵۳۶
- طلاق دینا کب واجب ہوتا ہے؟ ۵۳۷
- طلاق دینا کب مستحب اور مستحسن ہوتا ہے؟ ۵۳۸
- طلاق دینا کب مباح ہوتا ہے؟ ۵۳۹
- طلاق دینا کب مکروہ یا حرام ہوتا ہے؟ ۵۴۰
- شوہر پر تعزیر مالی ۵۴۱
- دین مہر کی ادائیگی میں توازن ۵۴۵
- بیوی کو کب مارا جاسکتا ہے؟ ۵۴۸
- بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ۵۴۹
- اجرت رضاعت ۵۵۰
- زمانہ عدت کا نان و نفقہ ۵۵۱
- متاع یا متعہ کا حکم ۵۵۲
- متعہ کی مستحق کونسی مطلقہ؟ ۵۵۴

طلاق غضبان اور طلاق بدعی کا تحقیقی جائزہ

- مسئلہ نمبر: ۱، طلاق غضبان ۵۶۰
- طلاق مدہوش ۵۶۳
- طلاق غضبان سے متعلق حدیث شریف ۵۶۵
- مسئلہ ۲، طلاق بدعی ۵۶۸
- (۱) طلاق بدعی بالعدد ۵۶۹
- (۲) طلاق بدعی بالزمان ۵۷۰

□	۱۸ / باب الشهادة في الطلاق	□
---	----------------------------	---

- ۲۷۹۴ کیا وقوع طلاق کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ ۵۷۵
- ۲۷۹۵ کیا طلاق میں دو عادل کی گواہی معتبر ہے؟ ۵۷۶
- ۲۷۹۶ شاہدین طلاق کے قائل اور زوجین منکر ۵۷۷
- ۲۷۹۷ گواہ غیر عادل اور زوجین طلاق کے منکر ۵۷۸
- ۲۷۹۸ ایک گواہ طلاق کا مدعی جبکہ شوہر اور دیگر گواہان منکر ۵۷۹
- ۲۷۹۹ شرعی شہادت مفقود ہونے کی صورت میں تعداد طلاق کا فیصلہ کیسے کریں؟ ۵۸۰
- ۶۸۰۰ طلاق کے باب میں ایک گواہ کی گواہی معتبر نہیں ۵۸۲
- ۶۸۰۱ پینچایت کا ایک آدمی کی گواہی پر طلاق مغالطہ کا فیصلہ کرنے کا حکم ۵۸۳
- ۶۸۰۲ جھوٹی گواہی سے طلاق کو ثابت کرنا ۵۸۴
- ۶۸۰۳ بیوی کو تین طلاق کا یقین ہو تو کیا حکم ہے؟ ۵۸۶
- ۶۸۰۴ بیوی تین طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار ۵۸۸
- ۶۸۰۵ شوہر تین طلاق کا منکر ہو اور بیوی اور دیگر لوگ مدعی ۵۹۰
- ۶۸۰۶ شوہر کو طلاق یاد نہ ہو تو بیوی کا قول معتبر ہوگا یا ماں کا؟ ۵۹۱

- ۶۸۰۷ بلاگواہ خلوت کی طلاق کا حکم ۵۹۳
- ۶۸۰۸ بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں دی گئی طلاق کا حکم ۵۹۴
- ۶۸۰۹ یاد نہیں کہ ۲ طلاق دی یا ۳ طلاق ۵۹۵
- ۶۸۱۰ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر ۵۹۶
- ۶۸۱۱ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر تو کیا حکم ہے؟ ۵۹۷
- ۶۸۱۲ طلاق کے سلسلہ میں زوجین کا اختلاف ۵۹۸
- ۶۸۱۳ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر ۵۹۹
- ۶۸۱۴ عورت طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہر منکر تو طلاق ہوئی یا نہیں؟ ۶۰۰
- ۶۸۱۵ بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر اس کا منکر ہے ۶۰۱
- ۶۸۱۶ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر طلاق کا منکر ۶۰۲
- ۶۸۱۷ طلاق میں شوہر کی بات معتبر ہوگی یا بیوی کی؟ ۶۰۴
- ۶۸۱۸ فقہی ضابطہ ”المرأة كالقاضي“ کا مطلب ۶۰۶
- ۶۸۱۹ بیوی نے طلاق کو سنا اور شوہر منکر ہے ۶۰۷
- ۶۸۲۰ بیوی کا طلاق کو سنا اور شوہر کا انکار کرنا ۶۰۹
- ۶۸۲۱ بیوی نے تین طلاق کو سنا اور شوہر منکر ۶۱۰
- ۶۸۲۲ بیوی تین طلاق کی مدعی ہے اور شوہر منکر ۶۱۲
- ۶۸۲۳ شوہر طلاق ثلاثہ کا منکر اور بیوی مدعیہ ۶۱۳
- ۶۸۲۴ تعداد طلاق کے بارے میں مدعیہ کا بیان شرعی گواہان ہونے کی صورت میں معتبر ہے ۶۱۴
- ۶۸۲۵ شوہر تین طلاق کا منکر اور بیوی مدعیہ ۶۲۰
- ۶۸۲۶ طلاق کے بارے میں زوجین میں سے کس کے قول کا اعتبار ہے؟ ۶۲۱
- ۶۸۲۷ مطلق اور گواہ کے مابین صیغہ طلاق میں اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟ ۶۲۳

- ۶۸۲۸ شوہر و طلاق کا اقرار کرے بیوی چار کا ۶۲۴
- ۶۸۲۹ دو مرتبہ طلاق کے بعد مزید ۲ طلاق میں شوہر و بیوی کا اختلاف ۶۲۷
- ۶۸۳۰ تعدد طلاق میں زوجین کا اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟ ۶۲۹
- ۶۸۳۱ تعدد طلاق میں کس کا قول معتبر ہے زوج یا زوجہ کا؟ ۶۳۰
- جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۶۳۱
- ۶۸۳۲ بلاگواہ عورت تین طلاق سننے کی مدعیہ اور شوہر منکر ۶۳۲
- ۶۸۳۳ تین طلاق پر بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ۶۳۳
- ۶۸۳۴ شوہر طلاق کا منکر ہو اور بیوی اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟ ۶۳۴
- ۶۸۳۵ تعدد طلاق میں زوجین کا اختلاف ۶۳۶
- ۶۸۳۶ زوجین کے مابین طلاق کے سلسلہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ۶۳۸
- ۶۸۳۷ زوجین کے قول میں اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟ ۶۳۹
- ۶۸۳۸ عدد طلاق کے بارے میں زوجین کا اختلاف ۶۴۱
- ۶۸۳۹ شوہر کا چار گواہوں کے سامنے طلاق کا اقرار کر کے مکر جانا ۶۴۶
- ۶۸۴۰ شوہر طلاق کا مقرا اور گواہ منکر ہو تو کیا حکم ہے؟ ۶۴۷
- ۶۸۴۱ عورت کے پاس شرعی گواہ موجود ہوں تو شوہر کے قول کا اعتبار نہیں ۶۴۸
- ۶۸۴۲ طلاق کی تعداد یاد نہیں ۶۵۰

□	۱۹ باب الحلالۃ	□
---	----------------	---

- ۶۸۴۳ حلالہ کی تفصیل اور اس کی شرائط ۶۵۲
- ۶۸۴۴ حلالہ کے لئے اسلام شرط ہے ۶۵۴
- ۶۸۴۵ دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے کی ایسی شکل جس میں محلل اور محلل لہ

۶۵۵ مستحق لعنت نہ ہوں
۶۵۶ اس نیت سے حلالہ کرنا کہ جماع کے بعد طلاق دیدے گا
۶۵۷ شوہر ثانی سے حلالہ میں زبردستی طلاق دلوانا
۶۵۹ حلالہ میں مہر کا لزوم اور طلاق دینے کی شرط پر حلالہ
۶۶۰ حلالہ کی شرط پر نکاح کرنے کا حکم
۶۶۳ حلالہ کی نیت سے کئے گئے نکاح اور حلالہ کا حکم
۶۶۵ طلاق کی شرط کے ساتھ حلالہ کرانا
۶۶۶ مطلقہ مغلظہ کا شوہر ثانی سے خلوة کے بعد شوہر اول سے نکاح کرنا
۶۶۸ حلالہ شرعی کی صحیح صورت
۶۷۰ شرعی حلالہ کا طریقہ
۶۷۲ حلالہ شرعی کی صورت
۶۷۳ ہمبستری کے بغیر حلالہ نامکمل ہے
۶۷۵ حلالہ میں ہمبستری شرط ہے
۶۷۷ حلالہ کی صحت کے لئے ہمبستری شرط ہے
۶۷۸ حلالہ درست ہونے کے لئے دخول لازم ہے
۶۷۹ حلالہ میں صحبت شرط ہے
۶۸۱ حلالہ کی ایک صورت
۶۸۳ مطلقہ مغلظہ سے دوبارہ نکاح کرنا
۶۸۴ مطلقہ ثلاثہ سے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا
۶۸۵ طلاق ثلاثہ کے بعد بلا حلالہ نکاح جائز نہیں
۶۸۶ بغیر حلالہ کے نکاح کرنا

- ۶۸۶۶ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح درست نہیں ۶۸۷
- ۶۸۶۷ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کرنا ۶۸۸
- ۶۸۶۸ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کا حکم ۶۸۹
- ۶۸۶۹ تین طلاق کے بعد کفارہ دینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی ۶۹۰
- ۶۸۷۰ بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا ۶۹۳
- ۶۸۷۱ بیوی کو تین طلاق دے کر اس سے رجوع کرنا ۶۹۵
- ۶۸۷۲ مطلقہ مغلظہ کا بلا حلالہ نکاح کرنا ۶۹۶
- ۶۸۷۳ مطلقہ ثلاثہ سابق شوہر کے حق میں اجنبیہ ہے ۶۹۷
- ۶۸۷۴ فالج کی بیمار مطلقہ کو اپنے پاس اس مقصد سے رکھنا کہ اب اس سے کون نکاح کرے گا ۶۹۸
- ۶۸۷۵ طلاق مغلظہ کے بعد دونوں کا ایک ساتھ رہنا ۷۰۰
- ۶۸۷۶ مطلقہ ثلاثہ کا شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے ۷۰۱
- ۶۸۷۷ تین طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ رہنا ۷۰۲
- ۶۸۷۸ طلاق ثلاثہ کے بعد بھی شوہر کے ساتھ رہنا ۷۰۳
- ۶۸۷۹ مطلقہ مغلظہ سے ۹ رسال تک منکوحہ جیسا تعلق رکھنا ۷۰۵
- ۶۸۸۰ کورٹ کے فیصلہ پر مطلقہ مغلظہ کو ساتھ رکھنا ۷۰۶
- ۶۸۸۱ طلاق مغلظہ کے بعد بیوی کو دوبارہ رکھنا ۷۰۸
- ۶۸۸۲ مطلقہ ثلاثہ کو بغیر حلالہ رکھ لیا دینے پر بھی ہو گئے کیا حکم ہے؟ ۷۰۹
- ۶۸۸۳ حلالہ شرعی کے بغیر مطلقہ ثلاثہ شوہر اول کے لئے حلال نہیں ۷۱۱
- ۶۸۸۴ مطلقہ مغلظہ بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی ۷۱۲
- ۶۸۸۵ مطلقہ ثلاثہ کو ساتھ رکھنے کی شکل ۷۱۳

- ۶۸۸۶ تین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل ۷۱۵
- ۶۸۸۷ طلاق کے بعد دوبارہ ساتھ رہنے کی شکل ۷۱۶
- ۶۸۸۸ طلاق مغلظہ کے بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت ۷۱۷
- ۶۸۸۹ مطلقہ ثلاثہ کو دوبارہ رکھنے کی صورت ۷۱۹
- ۶۸۹۰ مطلقہ مغلظہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانے کا طریقہ ۷۲۰
- ۶۸۹۱ مطلقہ مغلظہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھنے کی صورت ۷۲۲
- ۶۸۹۲ تین طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لئے کب حلال ہوگی؟ ۷۲۳
- ۶۸۹۳ تین طلاق کے بعد رجوع کی خواہش کرنا ۷۲۴
- ۶۸۹۴ تین طلاق حلالہ اور جہیز کا حکم ۷۲۵
- ۶۸۹۵ بلا حلالہ مطلقہ ثلاثہ کو رکھنے کا حکم ۷۲۷
- ۶۸۹۶ طلاق کے بعد بیوی کو پاس رکھنے کی شکل ۷۲۹
- ۶۸۹۷ چھ مرتبہ طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل ۷۳۰
- ۶۸۹۸ مطلقہ مغلظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنے کا حکم ۷۳۱
- ۶۸۹۹ شوہر اول کا مطلقہ مغلظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنا ۷۳۲
- ۶۹۰۰ حلالہ کے بعد مطلقہ ثلاثہ سے پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے ۷۳۴
- ۶۹۰۱ حلالہ کے بعد شوہر اول سے نکاح کرے یا شوہر ثانی سے ۷۳۵
- ۶۹۰۲ حلالہ، مہر فاطمی اور حضانت سے متعلق سوال ۷۳۶



فہرست عناوین

صفحہ	۱۵ بقیۃ کتاب الطلاق	مسئلہ نمبر
۳۱	(۲۰) باب تعلیق الطلاق	
۳۱ بیین فور کا حکم	۶۹۰۳
۳۲ بیین فور میں بعد میں اجازت لے کر گھر سے نکلے تو کیا حکم ہے؟	۶۹۰۴
۳۳ ان شاء اللہ کہہ کر تین طلاق دینا	۶۹۰۵
۳۴ تعلیق طلاق کے فوراً بعد ان شاء اللہ کہنا	۶۹۰۶
۳۵ طلاق کی تعلیق سے رجوع کا عدم جواز	۶۹۰۷
۳۶ کیا شرط کو واپس لیا جاسکتا ہے؟	۶۹۰۸
۳۷ کیا تعلیق واپس لی جاسکتی ہے؟	۶۹۰۹
۳۸ تعلیق ختم کرنے کا حیلہ	۶۹۱۰
۴۰ تعلیق واپس لینے کا حکم	۶۹۱۱
۴۱ تعلیق بالشرط سے بچنے کی ایک صورت	۶۹۱۲
۴۲ اجازت سے تعلیق ختم نہیں ہوتی	۶۹۱۳
۴۳ معلق شدہ تین طلاق سے بچنے کا حیلہ	۶۹۱۴
۴۴ تعلیق طلاق کو ختم کرنے کا حیلہ	۶۹۱۵
۴۵ تین شرطوں پر طلاق کو معلق کرنا	۶۹۱۶
۴۸ مغلطہ کی تعلیق کو ختم کرنے کی ترکیب	۶۹۱۷
۵۰ طلاق ثلاثہ کی تعلیق سے بچنے کا حیلہ	۶۹۱۸
۵۱ طلاق ثلاثہ معلقہ سے بچنے کا حیلہ	۶۹۱۹

- ۲۹۲۰ تین طلاق کو کسی شرط پر معلق کر دیا تو اس سے چھٹکارے کی صورت . ۵۲
- ۲۹۲۱ تعلق ثلاث سے بچنے کا حیلہ ۵۳
- ۲۹۲۲ عورت کو تعلق کا علم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ۵۵
- ۲۹۲۳ الفاظ کنائی کو شرط پر معلق کرنا ۵۷
- ۲۹۲۴ اگر تو اس وقت میرے پاس نہیں آئی تو میری طرف سے طلاق طلاق ۶۰
- ۲۹۲۵ آج کے بعد میرا کہنا نہ مانا تو طلاق ۶۱
- ۲۹۲۶ اگر تم میری ماں کی خدمت نہیں کرو گی تو تم میری بیوی نہیں ۶۲
- ۲۹۲۷ اگر تم نے میری والدہ کی خدمت نہیں کی تو تم میری بیوی نہیں ۶۳
- ۲۹۲۸ گھر سے قدم نکالتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، کئی مرتبہ کہنا ۶۴
- ۲۹۲۹ میرے گھر سے نہیں نکلی تو طلاق پڑ جائے گی ۶۶
- ۲۹۳۰ میری اجازت کے بغیر اپنی ماں کے گھر بیٹھ میں گئی تو ایک دو تین ... ۶۷
- ۲۹۳۱ آج کے بعد مجھ سے اجازت لے کر گئی تو میرے نکاح سے خارج ہو جائے گی ۷۰
- ۲۹۳۲ تیرے گھر کچھ کھایا پیا تو تجھے تین طلاق ۷۱
- ۲۹۳۳ تیرے گھر کا کھانا کھایا تو تجھے تین طلاق ۷۲
- ۲۹۳۴ طلاق کو بیوی کے گھر جانے پر معلق کرنا ۷۳
- ۲۹۳۵ اگر تو اپنے والد کے گھر جا کر کھانا کھائے تو تجھے طلاق ہے ۷۵
- ۲۹۳۶ اگر تو سوتیلی ماں سے بولے گی تو تینوں طلاق ۷۵
- ۲۹۳۷ باپ کے گھر میں رہائش پر طلاق کو معلق کرنا ۷۷
- ۲۹۳۸ شوہر نے کہا: اگر تو میکے گئی تو طلاق ہو جائے گی ۷۸
- ۲۹۳۹ بلا اجازت میکے جانے پر طلاق کو معلق کرنا ۷۹
- ۲۹۴۰ اگر ماں باپ کے گھر گئی تو تین طلاق ۸۰
- ۲۹۴۱ باپ کے گھر نہ جا کر صرف بستی سے گزرنے کا حکم ۸۱

- ۶۹۴۲ میری اجازت کے بغیر میکہ گئی تو طلاق ۸۳
- ۶۹۴۳ اگر تو میری اجازت کے بغیر میکہ گئی تو تین طلاق ۸۴
- ۶۹۴۴ تم اپنے میکہ گئیں تو تمہیں طلاق ۸۵
- ۶۹۴۵ تو اپنے میکہ جائے گی تو تجھے صاف طلاق ۸۶
- ۶۹۴۶ اگر میکہ گئی تو تجھے طلاق ۸۷
- ۶۹۴۷ تین طلاق کو میکہ جانے پر معلق کر دیا ۸۸
- ۶۹۴۸ الگ الگ تین مرتبہ میکہ جانے پر طلاق کو معلق کرنا ۸۹
- ۶۹۴۹ تم اپنے والدین کے گھر جاؤ گی تو نکاح سے باہر ہو جاؤ گی ۹۰
- ۶۹۵۰ طلاق کو بہن کے گھر جانے پر معلق کرنا ۹۱
- ۶۹۵۱ بھائی کے گھر پر جائے گی تو تین طلاق ۹۲
- ۶۹۵۲ شوہر نے کہا: کہ اگر تو امر و نہ گئی تو تین طلاق، پھر کہا: ماجد و ذاکر کے گھر گئی تو تین طلاق ۹۳
- ۶۹۵۳ اس گھر کی چھت پر چڑھا تو بیوی کو طلاق ۹۴
- ۶۹۵۴ اب چلی جایاں صبح کو چلی جا، فارغی اب لے جایاں صبح کو لے جا کہنے کا حکم ۹۶
- ۶۹۵۵ اگر تم کبھی بھی قاسم کے گھر جاؤ گی تو تم کو تین طلاق ۹۷
- ۶۹۵۶ اگر بہنوئی سے بولے گی تو طلاق، طلاق، طلاق ۹۷
- ۶۹۵۷ بہنوئی سے بات کی تو تجھے طلاق ۹۸
- ۶۹۵۸ طلاق کو بیوی کی ناجائز حرکت پر معلق کرنا ۹۹
- ۶۹۵۹ اگر تم نے فعل بد کیا ہے تو تم کو طلاق ۱۰۰
- ۶۹۶۰ اگر تو میرے بعد کسی سے صحبت کرے تو تجھے طلاق ۱۰۱
- ۶۹۶۱ مردوں کے ساتھ لواطت کرنے پر طلاق کو معلق کر کے بیوی کے ساتھ لواطت کرنا ۱۰۲
- ۶۹۶۲ اگر تو فلاں شہر گئی تو تجھے تین طلاق ۱۰۴

۱۰۵ تیسری طلاق کو کسی کے ساتھ بات کرنے پر معلق کرنا	۶۹۶۳
۱۰۶ تجھے میرے گھر نہیں رہنا ہے، ایک دو تین	۶۹۶۴
۱۰۸ اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی بھر صحبت نہیں کروں گا	۶۹۶۵
۱۰۹ طلاق کو سامان چھڑانے پر معلق کرنا	۶۹۶۶
۱۱۰ اگر ماموں کی لڑکی سے نکاح کروں تو اس پر تین طلاق	۶۹۶۷
۱۱۲ اگر کیس ہٹاؤ گی تو طلاق	۶۹۶۸
۱۱۴ مقدمات واپس لینے کی شرط پر طلاق	۶۹۶۹
۱۱۵ دومرتبہ طلاق کے بعد کہنا کہ تیسری چالیس روز کے بعد خود بخود ہو جائیگی	۶۹۷۰
۱۱۷ طلاق کو آنگن، برآمدہ اور بیوی کے گھر میں دخول پر معلق کرنا	۶۹۷۱
۱۱۸ تیری بہن کی شادی فلاں شخص سے ہوئی تو تجھے طلاق	۶۹۷۲
۱۱۹ بیوی کے پان کھانے پر طلاق کو معلق کرنا	۶۹۷۳
۱۲۰ سرسکد روازے پر جانے کی تعین کے بعد مرنے کے بعد جانے کا حکم	۶۹۷۴
۱۲۱ زنا یا شہوت کی نظر سے دیکھنے پر طلاق کی قسم دلانا	۶۹۷۵
۱۲۳ اگر تو فلاں گاؤں میں جائے گی تو طلاق	۶۹۷۶
۱۲۴ عیب پر طلاق کو معلق کرنا	۶۹۷۷
۱۲۵ بیوی کے بھائی نے میری بہن سے شادی کی تو بیوی کو طلاق	۶۹۷۸
۱۲۶ فلم دیکھوں تو بیوی کو طلاق کہنے کا حکم	۶۹۷۹
۱۲۷ شوہر کے طے شدہ شرائط کو پورا کرنے پر عدم وقوع طلاق	۶۹۸۰
 شرائط مذکورہ کے خلاف کوئی کام کروں تو میری بیوی میری زوجیت	۶۹۸۱
۱۲۹ سے خارج ہو جائے	
۱۳۱ تجھ سے نکاح کی صورت نکلنے کے بعد نہ کروں تو ہونے والی بیوی کو طلاق	۶۹۸۲
 شائستہ کے ہاتھ سے تیار کرائی ہوئی کوئی چیز میرے بچے کو استعمال کرائی	۶۹۸۳
۱۳۴ تو تجھے تین طلاق	

۱۳۵ اگر میں اب تیرے گھر میں جاؤں تو میری بیوی پر تین طلاق	۶۹۸۴
۱۳۷ اگر تو اس گاؤں میں قدم رکھے گی تو طلاق	۶۹۸۵
۱۳۸ تمہاری لڑکی ایک گھنٹہ کے اندر گھر نہ آئی تو آزاد ہے	۶۹۸۶
۱۳۹ اگر گلشن عصر تک نہیں پہنچی تو اس کو تینوں طلاق	۶۹۸۷
۱۴۲ ۶ رجب سے قبل گھر نہ آئی تو طلاق	۶۹۸۸
۱۴۳ اگر شام چھ بجے تک گھر نہ آئی تو میری طرف سے طلاق	۶۹۸۹
۱۴۴ ۱۰ اپریل کی شام تک نہ پہنچنے پر تین طلاق	۶۹۹۰
۱۴۶ شوہر نے کہا: کہ نماز کے لیے اب کہے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی	۶۹۹۱
۱۴۷ ترک صلاۃ پر طلاق کو معلق کرنا	۶۹۹۲
۱۴۸ تاش کھیلنے پر طلاق کو معلق کرنا	۶۹۹۳
۱۴۹ اگر میں تجھ سے کبھی بھی بولوں تو تجھ کو طلاق	۶۹۹۴
۱۵۰ اگر آج سے تم نے ان کی کوئی چیز لی تو تم کو تین طلاق	۶۹۹۵
۱۵۲ تو حاجی مختار کے یہاں جائے گی تو تجھ کو طلاق، طلاق، طلاق	۶۹۹۶
۱۵۳ اگر تو نے میری بیوی کو میری حویلی میں پہنچا دیا تو اس پر تین طلاق	۶۹۹۷
۱۵۶ لفظ ”کامما“ کی مثال سمجھانے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں	۶۹۹۸
۱۵۷ کلمہ کی قسم کا مسئلہ بتانے والے پر کوئی اثر نہیں پڑتا	۶۹۹۹
۱۵۷ کلمہ کی قسم کی تعلیم دینے سے طلاق کا حکم	۷۰۰۰
۱۵۸ کلمہ کی قسم کھانے کے بعد نکاح	۷۰۰۱
۱۵۹ کلمہ کی قسم اور اس کا حل	۷۰۰۲
۱۶۱ کلمہ کی قسم سے چھٹکارے کا حیلہ	۷۰۰۳
۱۶۲ کلمہ کی طلاق کی شکل اور اس سے بچنے کا حیلہ	۷۰۰۴
۱۶۳ کلمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پرانی بیوی کو نہیں لاؤں گا	۷۰۰۵
۱۶۵ گھر گئی تو کلمہ کی طلاق	۷۰۰۶

۱۶۶ لفظ کل اور کلام کی طلاق میں فرق	۷۰۰۷
۱۶۸ جب جب فلاں کام کرے گی تو تجھے طلاق	۷۰۰۸
۱۶۹ میں فلاں کام کروں تو جب بھی میں نکاح کروں میری بیوی کو طلاق ہو ...	۷۰۰۹
۷۰۱۰ اگر میں تم سے ہمیشہ دوستی نہ رکھوں تو جب جب بھی میں شادی کروں	۷۰۱۰
۱۷۰ میری بیوی کو طلاق	۷۰۱۱
۱۷۲ جب میں نکاح کروں تو ہر بار تین طلاق	۷۰۱۱
۱۷۳ ”جب میں نکاح کروں میری بیوی کو طلاق ہو“ کہنے کے بعد نکاح ...	۷۰۱۲
۷۰۱۳ اگر میرا روپیہ چوری نہ ہوا تو میں جب جب شادی کروں میری بیوی	۷۰۱۳
۱۷۴ پر تین طلاق	۷۰۱۴
۱۷۶ جب میں فریدہ سے شادی کروں گا تو اسے طلاق ہے	۷۰۱۴
۷۰۱۵ اگر فلاں کام اس طرح ہو تو جب بھی میں نکاح کروں گا تو میری بیوی	۷۰۱۵
۱۷۷ کو طلاق	۷۰۱۶
۱۷۸ نکاح پر طلاق کو معلق کرنا	۷۰۱۶

(۲۱) باب تفویض الطلاق		
۱۸۱ بغیر نیت کے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے تین طلاق واقع کر دی .	۷۰۱۷
۱۸۲ شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا تو اس نے تین واقع کر دیں ...	۷۰۱۸
۱۸۳ شوہر کا نسبتی بھائی کو اختیارات دینا	۷۰۱۹
۱۸۴ رجسٹر نکاح میں لکھی ہوئی شرائط کا حکم	۷۰۲۰
۱۸۵ ”اپنے نکاح کو کینسل کر دے“ کا حکم	۷۰۲۱
۷۰۲۲ مجھے طلاق دو تو جاؤں گی کے جواب میں شوہر کا ”جا طلاق ہی سمجھ لے“	۷۰۲۲
۱۸۷ کہنے کا حکم	۷۰۲۳
۱۸۸ بیوی کے مطالبہ طلاق پر ”دو مرتبہ میں نے طلاق دی“ کہنے کا حکم ..	۷۰۲۳
۱۸۹ تعلیق ختم کرنے کا فیصلہ	۷۰۲۴

(۲۲) باب الفسخ و التفريق		
۱۹۱	دارالقضاء میں کون سے مسئلے حل کیے جائیں؟	۴۰۲۵
۱۹۴	محکمہ شرعیہ کا فیصلہ غلط ثابت ہونے پر کیا کریں؟	۴۰۲۶
۱۹۵	فسخ نکاح میں کون سی طلاق دی جائے؟	۴۰۲۷
۱۹۸	بچ کے ذریعہ علیحدگی کرنے سے طلاق کا حکم	۴۰۲۸
۱۹۹	تمام شرائط کی خلاف ورزی سے قبل کمیٹی کی طلاق کا حکم	۴۰۲۹
۲۰۲	زوجه کی زوجہ کے سلسلے میں ادارہ شرعیہ پٹنہ کے فیصلے پر نظر ثانی	۴۰۳۰
۲۰۵	فسخ نکاح سے متعلق چند جوابات پر تبصرہ	۴۰۳۱
	کیا شوہر کے بریلی ہونے کی وجہ سے عورت یا محکمہ شرعیہ کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے؟	۴۰۳۲
۲۰۹	کیا شریعت میں بیوی کو معلق کر کے رکھنا جائز ہے؟	۴۰۳۳
۲۱۲	شوہر نہ رکھتا ہے اور نہ ہی طلاق و خلع دیتا ہے تو عورت کیا کرے	۴۰۳۴
۲۱۳	کیا نکاح کے بعد شوہر کے نابینا ہونے کی وجہ سے عورت کو فسخ نکاح کا حق ہے؟	۴۰۳۵
۲۱۵	طلاق و تفریق سے قبل دوسری جگہ نکاح کا حکم	۴۰۳۶
۲۱۸	کیا عرصہ دراز تک الگ رہنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟	۴۰۳۷
۲۱۹	بیوی کا زمانہ طویل تک شوہر سے الگ رہنے کا حکم	۴۰۳۸
۲۲۱	نکاح کے بعد رخصتی نہ ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا	۴۰۳۹
۲۲۲	شوہر کی بیماری کی وجہ سے عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا	۴۰۴۰
۲۲۳	فسخ و تفریق کا ایک مسئلہ	۴۰۴۱
۲۲۴	بھاء کی شکل ممکن نہ ہو تو طلاق یا خلع کے ذریعہ تفریق کا حکم	۴۰۴۲
۲۲۶	شوہر کے ظلم و ستم کی بناء پر بیوی کا میکہ میں رہنا اور مہر کا مطالبہ کرنا	۴۰۴۳

- ۴۳۰ .. شراب پینے اور بیوی کو پلانے اور غیر فطری صحبت کرنے والے سے فسخ نکاح .. ۷۰۴۴
- ۴۳۱ عمر قید ہونے والے شوہر کی بیوی کا حکم ۷۰۴۵
- ۴۳۳ شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار اور اجنبی کے ساتھ رہنے پر اصرار سے فسخ نکاح ۷۰۴۶
- ۴۳۵ پاگل اور کوڑھی شوہر سے تفریق کی شکل ۷۰۴۷
- ۴۳۶ باطن نہ ملنے کی وجہ سے بیوی کا شوہر کے پاس جانے سے انکار ۷۰۴۸
- ۴۳۸ نو مسلمہ سے نکاح کے احکام ۷۰۴۹
- ۴۴۱ بیوی کے عیسائی ہونے سے نکاح کا حکم ۷۰۵۰
- ۴۴۲ کیا ارتداد کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے ۷۰۵۱
- ۴۴۳ کیا غیر مسلم کے ساتھ جانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ ۷۰۵۲
- ۴۴۵ شادی کے دو سال بعد عنین ہونے کا الزام لگانا ۷۰۵۳
- ۴۴۶ بیوی عنین ہونے کا دعویٰ کرے اور شوہر منکر ہو تو کیا حکم ہے؟ ۷۰۵۴
- ۴۴۸ قلت امساک کی وجہ سے لڑکا عنین نہ ہوگا ۷۰۵۵
- ۴۴۸ کیا قلت امساک کی وجہ سے بیوی کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے؟ ... ۷۰۵۶
- ۴۵۰ نامرد شوہر سے طلاق حاصل کرنا ۷۰۵۷
- ۴۵۱ نامرد شوہر سے خلوت کے بعد مہر کا لزوم ۷۰۵۸
- ۴۵۲ شوہر عنین ہو تو بیوی کیا کرے؟ ۷۰۵۹
- ۴۵۴ شوہر کو عنین بتا کر بیوی کا فسخ نکاح کا مطالبہ کرنا ۷۰۶۰
- ۴۵۵ اگر شوہر عنین ہو تو تفریق کی صورت کیا ہوگی؟ ۷۰۶۱
- ۴۵۶ مردانہ کمزوری والے شوہر کو کتنی مہلت دی جائے گی ۷۰۶۲
- ۴۵۸ قاضی شرعی کا شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے نکاح فسخ کرنا ۷۰۶۳
- ۴۵۹ زوجہ مفقود الخیر کیا کرے؟ ۷۰۶۴
- ۴۶۰ مفقود الخیر کی بیوی کا حکم ۷۰۶۵

- ۴۶۱ زوجہ مفقود الخمر کے نکاح کا مسئلہ ۴۰۶۶
- ۴۶۲ زوجہ مفقود الخمر کتنے سال نکاح ثانی سے رکے گی؟ ۴۰۶۷
- ۶۳ مفقود الخمر کی زوجہ کتنے سال انتظار کرے اور اس کے نفقہ کا حکم.... ۴۰۶۸
- ۴۶۵ شرعی تفریق حاصل کیے بغیر زوجہ مفقود الخمر کا دوسرے سے نکاح کرنا.. ۴۰۶۹
- ۴۶۶ زوجہ مفقود کا زبردستی نکاح کرنا ۴۰۷۰
- ۴۶۹ زوجہ مفقود کے سامان جہیز و نکاح کا حکم ۴۰۷۱
- ۴۷۲ موت کی اطلاع کے بعد لوٹ کر آنے والے شوہر کی بیوی کے درمیان ۴۰۷۲
- ۴۷۱ میں نکاح اور بچے کا حکم ۴۰۷۳
- ۴۷۲ طلاق کے بعد پیش آمدہ چند سوالات کے جوابات ۴۰۷۴
- ۴۷۴ مطلقہ کن کن چیزوں کی مستحق ہے؟ ۴۰۷۵
- ۴۷۵ طلاق کی صورت میں شوہر پر کن کن چیزوں کی ادائیگی لازم ہے؟.. ۴۰۷۶
- ۴۷۶ طلاق دینے کے بعد شوہر کے ذمہ کیا کیا واجب ہے؟ ۴۰۷۷
- ۴۷۸ تین طلاق کے بعد مہر کا مطالبہ ۴۰۷۸
- ۴۷۹ زوجین طلاق دینا لینا چاہیں تو مہر کا کیا حکم ہے؟ ۴۰۷۹
- ۴۸۰ طلاق کے بعد مہر وغیرہ کی واپسی کا حکم ۴۰۸۰
- ۴۸۲ طلاق کی صورت میں زیورات کا حکم ۴۰۸۱
- ۴۸۳ شوہر بیوی کو طلاق دے تو مہر و جہیز کا حکم ۴۰۸۲
- ۴۸۴ مطلقہ کے جہیز کی واپسی کا حکم ۴۰۸۳
- ۴۸۵ کیا طلاق کی صورت میں جہیز اور شادی کے کپڑوں کو واپس کرنا لازم ہے؟... ۴۰۸۴
- ۴۸۶ بیوی کے مطالبہ پر طلاق جہیز، مہر اور بچی کا حکم ۴۰۸۵
- ۴۸۹ کیا طلاق کے بعد شوہر پر مہر، جہیز اور قرض کی رقم واپس کرنا لازم ہے؟... ۴۰۸۶
- ۴۹۰ طلاق کے بعد مہر، عدت کا خرچہ، بچہ، اور جہیز کا حکم ۴۰۸۶

- ۴۹۲ کیا مطلقہ کو مہر، زیورات، اور جہیز کی واپسی کے مطالبہ کا حق ہے؟ ... ۷۰۸۷
- ۲۹۴ ایک مجلس کی تین طلاق نیز مہر، نفقہ اور بچوں کی پرورش کا حکم ۷۰۸۸
- ۲۹۷ مہر، طلاق، زیورات اور بچے سے متعلق سوالات کے جوابات ۷۰۸۹
- ۳۰۱ طلاق کے بعد لڑکے سے شادی کے خرچ کا مطالبہ کرنا ۷۰۹۰
- ۳۰۲ حمل کی حالت میں طلاق عدت اور نفقہ کا حکم ۷۰۹۱
- ۳۰۴ مہر کی معافی کے بدلے میں طلاق، عدت کا خرچ اور جہیز وغیرہ کا حکم ... ۷۰۹۲
- ۳۰۵ طلاق ثلاثہ کے بعد عدت، مہر، نان و نفقہ اور زیورات کا حکم ۷۰۹۳
- ۳۰۸ طلاق کے مطالبہ پر مہر، جہیز اور زیورات وغیرہ کا حکم ۷۰۹۴
- ۷۰۹۵ نافرمان بیوی کو طلاق دینے پر مہر اور بچوں کی پرورش کے متعلق چند سوالات و جوابات ۳۱۱
- ۷۰۹۶ عدالت میں طلاق نامہ کے دخول، حضانت اور وراثت سے متعلق سوالات کے جوابات ۳۱۳
- ۷۰۹۷ طلاق کی صورت میں مہر، جہیز اور زیورات کا حکم ۳۱۶
- ۷۰۹۸ طلاق، عدت، مہر و نفقہ اور بچے کے نسب و پرورش کا حکم ۳۱۹
- ۷۰۹۹ عدالت شرعی کے نکاح ثانی کی اجازت کے بعد شوہر اول کا واپس آجانا ... ۳۲۲
- ۷۱۰۰ طلاق اور اس کے متعلقات کا بیان ۳۲۳
- ۷۱۰۱ طلاق کی صورت میں جہیز، مہر اور بیوی کا حکم ۳۲۵
- ۷۱۰۲ علیحدگی کی صورت میں زیورات، جہیز اور مہر کا حکم ۳۲۷
- ۷۱۰۳ تین طلاق کے بعد زیور، نان و نفقہ، مہر اور بچوں کا حکم ۳۲۹
- الحيلة الناجية (مختصر) الحيلة الناجية ۳۳۲
- حرف آغاز ۳۳۲
- (۱) جماعۃ المسلمین کی شرائط ۳۳۳

- ۳۳۴ (۲) مسئلہ زوجہ مفقود
- ۳۳۵ (۱) بغیر حادثہ کے اچانک لاپتہ شخص
- ۳۳۷ (۲) فسادات یا حادثہ میں لاپتہ شخص
- ۳۳۸ (۳) مسئلہ زوجہ غائب غیر مفقود
- ۳۳۹ ضروری ہدایت
- ۳۴۰ دوردراز علاقہ میں کمیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں
- ۳۴۰ (۴) مسئلہ زوجہ جمعیت
- ۳۴۱ صورت تفریق
- ۳۴۲ (۵) مسئلہ زوجہ مجنون
- ۳۴۲ (۱) زوجہ مجنون کے مسئلہ کا حل فقہ حنفی میں ہے
- ۳۴۲ (۲) فقہ مالکی سے ہی مسئلہ کا حل ہے
- ۳۴۳ (۳) جنون کی قسمیں
- ۳۴۳ (۴) صورت تفریق
- ۳۴۴ (۵) تفریق کی شرائط
- ۳۴۵ ضروری ہدایت
- ۳۴۵ (۶) زوجہ عنین کا مسئلہ
- ۳۴۶ (۱) فیصلہ کون کرے
- ۳۴۶ (۲) عنین کی حقیقت
- ۳۴۶ (۳) تفریق کا حق
- ۳۴۷ (۴) صورت تفریق
- ۳۴۷ (۵) شرائط تفریق
- ۳۴۸ ہدایت
- ۳۴۸ (۷) حرمت مصاہرت

۳۵۰	(۸) خیارِ کفایت	
۳۵۲	کفایتِ اُمفتی کی عبارت	
۳۵۲	(۹) خیارِ بلوغ	
۳۵۳	(۱) مسئلہ فرقتِ ارتداد	
۳۵۴	ارتدادِ شوہر	
۳۵۴	ارتدادِ زوجہ	
۳۵۷	فسخِ نکاح کی بعض وجوہ کی تنقیح	
۳۵۷	پہلی بات	
۳۵۸	دوسری بات	
۳۵۸	تیسری بات	
۳۵۸	فالج زدہ شخص کی زوجہ	۷۱۰۴
۳۶۰	ایسی بیماری جس کی وجہ سے جماع پر قادر نہ ہو	۷۱۰۵
۳۶۲	برص و جذام وغیرہ کا مریض	۷۱۰۶
۳۶۷	ایڈز اور اس جیسے مہلک متعدی مرض کی وجہ سے فسخِ نکاح	۷۱۰۷
۳۶۸	قوتِ تولید نہ ہونے کی وجہ سے فسخِ نکاح کا مطالبہ	۷۱۰۸
۳۶۹	عمر قید کی وجہ سے فسخِ نکاح	۷۱۰۹
۳۷۱	ناچاقی اور بے جا مار پیٹ کی وجہ سے فسخِ نکاح کا مطالبہ	۷۱۱۰
۳۷۲	کلمہ کفریہ کی وجہ سے فسخِ نکاح کا مسئلہ	۷۱۱۱
۳۷۴	وجوہِ فسخ کی مزید پانچ صورتیں	
۳۷۵	تجاویزِ بابت ”فسخِ نکاح کی بعض وجوہ کی تنقیح“	

۳۷۷	(۲۳) باب الظہار والإیلاء	
-----	--------------------------	--

۳۷۷	زوجین کا ایک دوسرے کو ابائی کہنے کا حکم	۷۱۱۲
-----	-------	---	------

۳۷۸ اپنی بیوی کو امی کہنے کا حکم	۷۱۱۳
۳۷۹ بیوی کو ماں کہنا	۷۱۱۴
۳۸۰ ”خدا کی قسم میں اس کو نہیں رکھ سکتا“ کہنے کا حکم	۷۱۱۵
۳۸۱ ”اب تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا“ کہنے کا حکم	۷۱۱۶
۳۸۲ دل میں نہ لانے کے ارادے سے ایلاء کا ثبوت نہ ہوگا	۷۱۱۷
۳۸۴	(۲۴) باب الخلع	
۳۸۴ خلع	۷۱۱۸
۳۸۵ شریعت میں خلع کی اجازت کب ہے؟	۷۱۱۹
۳۸۶ شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلع کا حکم	۷۱۲۰
۳۸۷ خلع نامہ پر دستخط کرنے سے طلاق کا حکم	۷۱۲۱
۳۸۹ خلع نامہ پر شوہر کے دستخط نہ کرنے سے خلع کا حکم	۷۱۲۲
۳۹۰ خلع نامہ پر جبراً دستخط کرانے سے طلاق ہوگی یا نہیں؟	۷۱۲۳
۳۹۱ دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب	۷۱۲۴
۳۹۲ محض عورت کے لکھ دینے سے خلع کا حکم	۷۱۲۵
۳۹۴ خلع میں طلاق اور مال کا حکم	۷۱۲۶
۳۹۶ خلع کی ایک صورت	۷۱۲۷
۳۹۸ کیا کورٹ کا خلع معتبر ہے؟	۷۱۲۸
۳۹۹ بوقت خلع شوہر کا معاشرہ کی معیاری رقم سے زیادہ مطالبہ کرنا	۷۱۲۹
۴۰۰ زوجین کی رضا مندی سے طلاق و مہر کا حکم	۷۱۳۰
۴۰۱ عورت کب خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے	۷۱۳۱
۴۰۴ شوہر طلاق نہ دے تو بیوی کیا کرے؟	۷۱۳۲
۴۰۵ خلع کے ذریعہ علیحدگی حاصل کرنا	۷۱۳۳

۴۰۶ نبھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے مہر معاف کر کے طلاق دینا	۷۱۳۳
۴۰۷ جب ازدواجی زندگی گزارنا دشوار ہو جائے تو خلع کا حکم	۷۱۳۴
۴۰۹ عورت طلاق لینے پر بضد ہو تو شوہر کیا کرے؟	۷۱۳۵
۴۱۰ لڑکا طلاق پر راضی نہ ہو تو خلع کی شکل اختیار کریں	۷۱۳۶
۴۱۱ شرابی طلاق نہ دے تو خلع کے ذریعہ تفریق حاصل کرنے کا حکم	۷۱۳۷

۴۱۳	(۲۵) باب الطلاق علی المال	
-----	----------------------------------	--

۴۱۳ لڑکی والوں کے مطالبہ طلاق پر مہر اور دیگر اخراجات نہ دینے کی شرط لگانا	۷۱۳۸
۴۱۴ مہر اور دیگر اخراجات کی معافی کی شرط پر طلاق دینا	۷۱۳۹
۴۱۵ مہر اور عدت کے خرچہ کی معافی کے عوض طلاق	۷۱۴۰
۴۱۶ نافرمان بیوی کو طلاق نہ دے کر خلع کرنا	۷۱۴۱
۴۱۷ بیوی کے طلاق کے مطالبہ پر شوہر کا مہر معاف کرانا	۷۱۴۲
۴۱۹ بیوی کے مطالبہ طلاق پر معافی مہر کی شرط لگانے کا حکم	۷۱۴۳
۴۲۰ پہلی بیوی کے والد کے طلاق کے مطالبہ پر مہر معاف کرنے کی شرط لگانا	۷۱۴۴
 منجانب سسرال مطالبہ طلاق پر مہر نہ دینے اور مقدمہ میں خرچ شدہ	۷۱۴۵
۴۲۲ رقم لینے کی شرط لگانا	
۴۲۳ طلاق دینے کے لیے رقم کی شرط لگانا	۷۱۴۶
۴۲۴ طلاق علی المال کی ایک صورت	۷۱۴۷
۴۲۵ بیوی طلاق لینے پر مصر ہو تو کیا کریں؟	۷۱۴۸
 بلا دلیل نامردی کا الزام دینے والی بیوی کو طلاق دینے کے لیے مہر کی	۷۱۴۹
۴۲۷ معافی کی شرط لگانا	
۴۲۸ مہر معاف کرنے کی شرط پر طلاق	۷۱۵۰
۴۲۹ مہر کی معافی کی شرط پر طلاق دینا	۷۱۵۱

۴۳۰ مہر معاف کرنے پر طلاق	۷۱۵۲
۴۳۱ شوہر کا مہر کی معافی پر طلاق دینا	۷۱۵۳
۴۳۲ کیا مہر کی معافی کی شرط لگا کر طلاق دے سکتے ہیں؟	۷۱۵۴
۴۳۳ طلاق دینے کے لیے مہر کی معافی کی شرط لگانے کا حکم	۷۱۵۵

۴۳۵	باب العدة (۲۶)	
-----	-----------------------	--

۴۳۵ عدت کے لغوی و اصطلاحی معنی	۷۱۵۶
۴۳۶ عدت میں کیا حکمت ہے اور اس میں پردے کا حکم	۷۱۵۷
۴۳۷ بحالت عدت کن کن لوگوں سے پردہ ضروری ہے؟	۷۱۵۸
۴۳۹ مطلقہ کی عدت اور پردہ کا حکم	۷۱۵۹
۴۴۰ حالت عدت میں غیر محرم سے ضروری گفتگو	۷۱۶۰
۴۴۱ اگر شوہر اپنے گھر میں عدت گزارنے نہ دے تو؟	۷۱۶۱
۴۴۲ سسرال میں پردہ کا انتظام نہ ہوا اور جگہ تنگ ہو تو عورت عدت کہاں گزارے؟	۷۱۶۲
۴۴۳ کیا عدت شوہر کے مکان میں گزارنا لازم ہے؟	۷۱۶۳
۴۴۴ مطلقہ کا شوہر کے مکان میں عدت گزارنا	۷۱۶۴
۴۴۶ معتدہ عدت کہاں گزارے؟	۷۱۶۵
۴۴۷ مطلقہ عدت کہاں گزارے؟	۷۱۶۶
۴۴۸ مطلقہ مغلطہ عدت کہاں گزارے؟	۷۱۶۷
۴۴۹ عورت عدت کہاں گزارے؟	۷۱۶۸
۴۵۰ شوہر ثانی کے طلاق کی عدت شوہر اول کے گھر گزارنا	۷۱۶۹
۴۵۱ طلاق کہاں دے اور عدت کہاں گزارے	۷۱۷۰
۴۵۲ ناجائز جمل والی عورت عدت طلاق کہاں گزارے؟	۷۱۷۱
۴۵۳ عدت میں انتقال مکان کا شرعی حکم	۷۱۷۲

- ۴۵۴ شوہر کے انتقال ہوتے ہی گھر سے نکالے جانے والی عورت کی عدت کا حکم ۷۱۷۳
- ۴۵۶ جس حیض میں طلاق ہوئی وہ عدت میں شامل ہے یا نہیں؟ ۷۱۷۴
- ۴۵۷ کیا طلاق کے فوراً بعد آنے والا حیض عدت میں شمار ہوگا؟ ۷۱۷۵
- ۴۵۷ دورانِ عدت دو دن حیض کا خون آیا تیسرے دن نہیں آیا تو کیا حکم ہے؟ ۷۱۷۶
- ۴۶۱ دواؤں کے ذریعہ ماہواری آنے سے عدت مکمل ہوگی یا نہیں؟ ۷۱۷۷
- ۴۶۳ عدتِ طلاق کا شمار کب سے ہوگا؟ ۷۱۷۸
- ۴۶۴ طلاق نامہ لکھنے سے تین ماہ بعد ملے تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ ۷۱۷۹
- ۴۶۵ عدت کی ابتداء کب سے ہے؟ ۷۱۸۰
- ۴۶۷ عدت کب سے شمار کی جائے گی؟ ۷۱۸۱
- ۴۶۸ سو اس سال سے علیحدہ رہنے والی بیوی کو شوہر طلاق دیدے تو عدت کا حکم ۷۱۸۲
- ۴۶۹ ڈھائی سال سے الگ رہنے والی عورت پر طلاق کی صورت میں عدت کا حکم .. ۷۱۸۳
- ۴۷۰ دوسرے نکاح کے لیے عدت گزارنا لازم ہے یا نہیں؟ ۷۱۸۴
- ۴۷۱ کیا طلاق سے قبل کی علیحدگی عدت میں شمار ہوگی؟ ۷۱۸۵
- ۴۷۳ حائضہ اور حاملہ کی عدت کی میعاد ۷۱۸۶
- ۴۷۴ حاملہ کی عدت اور خرچہ کا حکم ۷۱۸۷
- ۴۷۵ استسقاء حمل کی صورت میں عدت کا حکم ۷۱۸۸
- ۴۷۸ کیا حمل کے ساقط ہونے سے عدت پوری ہو جائے گی؟ ۷۱۸۹
- ۴۷۹ مطلقہ حاملہ کا حمل ڈیڑھ ماہ پر ساقط ہو جائے تو عدت کی شکل کیا ہوگی؟ ۷۱۹۰
- ۴۸۰ دو مہینے کے وضع حمل سے کیا عدت پوری ہو جائے گی؟ ۷۱۹۱
- ۴۸۱ حمل کے ساقط کرانے سے عدت کی تکمیل کا حکم ۷۱۹۲
- ۴۸۲ کیا حلالہ کے بعد بھی عدت ہے؟ ۷۱۹۳
- ۴۸۳ تین طلاق کے بعد بیوی عدت کہاں گزارے؟ ۷۱۹۴

۳۸۴	مطلقہ کی عدت	۷۱۹۵
۳۸۵	مطلقہ کی عدت تین حیض ہے	۷۱۹۶
۳۸۶	مطلقہ عورت کی عدت کی مقدار	۷۱۹۷
۳۸۷	مطلقہ کی عدت کتنے یوم ہے اور عدت میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟	۷۱۹۸
۳۸۸	مطلقہ ثلاثہ کی عدت	۷۱۹۹
۳۸۹	تین طلاق واقع ہونے کے ۴۵ روز بعد دوسری جگہ نکاح کا حکم	۷۲۰۰
۳۹۰	مطلقہ مغلطہ کس طرح عدت پوری کرے؟	۷۲۰۱
۳۹۲	مطلقہ آنسہ کی عدت	۷۲۰۲
۳۹۳	جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کا حکم	۷۲۰۳
		وہ عورت جس کی عادت سال میں حیض آنے کی ہو تو وہ عدت کس	۷۲۰۴
۳۹۴	طرح پوری کریگی؟	۷۲۰۴
۳۹۶	جس عورت کو لمبی مدت تک حیض نہ آئے اس کی عدت کا حکم	۷۲۰۵
۳۹۸	طلاق قبل الدخول کی صورت میں عدت کا حکم	۷۲۰۶
۳۹۹	قبل الدخول طلاق سے عدت نہیں	۷۲۰۷
۵۰۰	خلوت صحیحہ سے قبل مطلقہ ثلاثہ کی عدت	۷۲۰۸
۵۰۱	عنین سے خلوت صحیحہ ہونے پر عدت کا حکم	۷۲۰۹
۵۰۲	کیا خلوت صحیحہ کے بعد عدت ضروری ہے؟	۷۲۱۰
۵۰۳	خلوت صحیحہ کے بعد طلاق کی صورت میں عدت	۷۲۱۱
۵۰۳	دوران عدت نکاح کا حکم	۷۲۱۲
۵۰۴	دوران عدت زنا سے حاملہ عورت کے نکاح کا حکم	۷۲۱۳
۵۰۵	تیسرے حیض کے ختم پر عدت کا پورا ہونا	۷۲۱۴
۵۰۶	طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور عدت کا حکم	۷۲۱۵

- ۴۲۱۶ حالت عدت میں قریبی رشتہ دار کی موت پر دیکھنے کیلئے جانا ۵۰۸
- ۴۲۱۷ کسب معاش کے لیے مطلقہ کا گھر سے نکلنا ۵۰۹
- ۴۲۱۸ مطلقہ کا کسب معاش کے لیے دوران عدت گھر سے نکلنا ۵۰۹
- ۴۲۱۹ مطلقہ حالت عدت میں اسکول نہیں جاسکتی ۵۱۰
- ۴۲۲۰ دوران عدت اسکول میں پڑھانے کے لیے جانا ۵۱۱
- ۴۲۲۱ کیا دوران عدت پڑھانے جاسکتی ہے؟ ۵۱۲
- ۴۲۲۲ دوران عدت بیوی کا سروس کے لیے جانا ۵۱۳
- ۴۲۲۳ دوران عدت بی اے فائنل کے پیپر دینا ۵۱۴
- ۴۲۲۴ دوران عدت ڈاکٹر کے پاس جانا ۵۱۵
- ۴۲۲۵ متوفی عنہاز و جہا کی عدت کی کمیت و کیفیت ۵۱۷
- ۴۲۲۶ متوفی عنہاز و جہا کی عدت کیا ہے؟ ۵۱۸
- ۴۲۲۷ متوفی عنہاز و جہا کی عدت کتنے دن ہیں؟ ۵۱۹
- ۴۲۲۸ عدت و فوات کتنے دن ہے؟ ۵۲۰
- ۴۲۲۹ مطلقہ اور متوفی عنہاز و جہا کی عدت ۵۲۱
- ۴۲۳۰ حاملہ کی عدت ۵۲۲
- ۴۲۳۱ کیا حالت حمل میں شوہر کا انتقال ہو جانے کی صورت میں عدت نہیں ... ۵۲۲
- ۴۲۳۲ بیوی کے حج کو جانے کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کا حکم ۵۲۴
- ۴۲۳۳ دوران حج شوہر کا انتقال ہونے کی صورت میں عدت کا حکم ۵۲۵
- ۴۲۳۴ غیر مدخول بہا متوفی عنہا کی عدت اور پورا مہر اور وراثت ۵۲۶
- ۴۲۳۵ طلاق کی عدت کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ .. ۵۲۷
- ۴۲۳۶ خلوت صحیحہ سے قبل شوہر کا انتقال ہونے کی صورت میں عدت کا حکم ۵۲۹
- ۴۲۳۷ بالغ ہونے کے بعد شوہر کے انتقال پر عدت کا حکم ۵۳۰

- ۴۲۳۸ شوہر شادی سے ۲ ماہ بعد انتقال کر جائے تو عدت کا حکم ۵۳۱
- ۴۲۳۹ بیس سال سے علیحدہ رہنے کی صورت میں عدت و فوات کا حکم ۵۳۲
- ۴۲۴۰ کیا ۱۷ سال سے الگ رہنے والی عورت پر عدت لازم ہے؟ ۵۳۳
- ۴۲۴۱ شوہر کے انتقال کے ۶ ماہ بعد وفات کی خبر ملے تو عدت کا کیا حکم ہے؟ ... ۵۳۵
- ۴۲۴۲ متوفی عنہاز و جہا کے ساتھ چند پیش آمدہ مسائل ۵۳۶
- ۴۲۴۳ معتدہ کی عدت، بچے کی پرورش، جائیداد کی تقسیم اور زیورات کا حکم ۵۳۸
- ۴۲۴۴ دورانِ عدت پان کھانا ۵۴۰
- ۴۲۴۵ دورانِ عدت سر میں تیل ڈالنا ۵۴۱
- ۴۲۴۶ عدت میں جوڑا بنانا اور آسمان کے نیچے سونا ۵۴۱
- ۴۲۴۷ عدت کب سے شروع ہوگی، نیز دن کے حساب سے پوری ہوگی یا مہینہ کے حساب سے؟ ۵۴۲
- ۴۲۴۸ متوفی عنہاز و جہا کی عدت کا شمار کس طرح ہو؟ ۵۴۴
- ۴۲۴۹ عدت کا شمار کس وقت سے ہوگا؟ ۵۴۵
- ۴۲۵۰ عدت کا شمار قمری مہینہ کے اعتبار سے ہوگا یا شمسی مہینہ کے؟ ۵۴۶
- ۴۲۵۱ عدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ ۵۴۸
- ۴۲۵۲ دورانِ ماہ انتقال کرنے والی کی اہلیہ کی عدت کی تکمیل کا طریقہ ۵۴۹
- ۴۲۵۳ کیا جس روز انتقال ہو وہ دن بھی عدت میں شمار ہوگا؟ ۵۴۹
- ۴۲۵۴ کیا وضع حمل سے عدت پوری ہو جاتی ہے؟ ۵۵۰
- ۴۲۵۵ رات سوا بجے انتقال ہو اعدت رات میں پوری ہوگی یا دن میں؟ ۵۵۱
- ۴۲۵۶ معتدۃ الوفات کا ایک مسئلہ ۵۵۲
- ۴۲۵۷ عدت کس وقت پوری ہوتی ہے؟ ۵۵۳
- ۴۲۵۸ شوہر کے صبح کو انتقال کرنے کی صورت میں عدت کس وقت پوری ہوگی؟ .. ۵۵۴

- ۴۲۵۹ دورانِ عدت کس کس سے پردہ لازم ہے؟ ۵۵۵
- ۴۲۶۰ متوفی عنہا زوجہا کا کن سے پردہ کرنا لازم ہے؟ ۵۵۶
- ۴۲۶۱ دورانِ عدت کن لوگوں سے پردہ ہے؟ ۵۵۷
- ۴۲۶۲ بحالتِ عدت داماد سے پردہ کرنا ۵۵۸
- ۴۲۶۳ دورانِ عدت بھتیجے اور داماد سے پردہ نیز سرمہ تیل منجن کا استعمال ۵۵۸
- ۴۲۶۴ دورانِ عدت بھانجے، بھتیجے داماد وغیرہ سے پردہ کرنا ۵۵۹
- ۴۲۶۵ عدت میں کیا داماد اور دیور سے پردہ ہے؟ ۵۶۰
- ۴۲۶۶ عدت میں دیور سے پردہ اور میت کے یہاں کھانا کھانا ۵۶۲
- ۴۲۶۷ دورانِ عدت خالو اور پھوپھی سے پردہ کرنا ۵۶۳
- ۴۲۶۸ دورانِ عدت ضرورت کی بنا پر غیر محرم سے بات کرنا ۵۶۴
- ۴۲۶۹ متوفی عنہا عدت کہاں گزارے ۵۶۵
- ۴۲۷۰ معتدّہ وفات وطن اصلی میں عدت گزارے ۵۶۷
- ۴۲۷۱ عورت عدت میکہ میں گزارے گی یا سسرال میں ۵۶۸
- ۴۲۷۲ شوہر کی موت کے بعد میکہ میں عدت گزارے یا شوہر کے گھر ۵۶۹
- ۴۲۷۳ شوہر کے گھر عذر شرعی کے پیش نظر میکہ میں عدت گزارنا ۵۷۰
- ۴۲۷۴ بے پردگی یا دیگر شرعی عذر کی بنا پر میکہ میں عدت گزارنا ۵۷۱
- ۴۲۷۵ سسرال میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کہاں گزارے ۵۷۲
- ۴۲۷۶ شوہر کے موت کے صدمہ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے میکہ میں
عدت گزارنا ۵۷۳
- ۴۲۷۷ شوہر کے گھر عدت گزارنے میں وحشت ہو تو دوسری جگہ عدت گزارنا ۵۷۴
- ۴۲۷۸ کسی خوف کی وجہ سے عورت کا اپنے میکہ میں عدت گزارنا ۵۷۵
- ۴۲۷۹ عدت اسی مکان میں گزارنا جس میں ہمیشہ رہنا ہو ۵۷۶
- ۴۲۸۰ دورانِ عدت مکان کے مختلف حصوں اور صحن میں جانا ۵۷۷

- ۴۲۸۱ دورانِ عدت حویلی کے تمام کمروں میں جانے کی اجازت ہے ۵۷۸
- ۴۲۸۲ شوہر کے بہنوئی کے گھر عدت گزارنا ۵۷۹
- ۴۲۸۳ معتدہ کا ضرورتاً ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا حکم ۵۸۰
- ۴۲۸۴ دورانِ عدت بضرورت شدیدہ کیا عورت دن میں دوسرے شہر جا کر
آسکتی ہے؟ ۵۸۲
- ۴۲۸۵ متوفی عنہا اپنی عدت کے دوران کن کن موقع پر باہر نکل سکتی ہے؟ ۵۸۳
- ۴۲۸۶ متوفی عنہا زوجہ عدت و فلت میں کسی شدید ضرورت کی بناء پر نکل سکتی ہے؟ ۵۸۵
- ۴۲۸۷ اگر عورت عدت میں نہ بیٹھے تو کیا حکم ہے؟ ۵۸۶
- ۴۲۸۸ عدت میں گھر سے باہر نکلنا ۵۸۷
- ۴۲۸۹ عدت کی تکمیل سے قبل معتدہ کا گھر سے نکلنا ۵۸۸
- ۴۲۹۰ دورانِ عدت خلاف ورزی ہو جائے تو شرعی حکم کیا ہے؟ ۵۸۹
- ۴۲۹۱ عدت سے اٹھنے کا طریقہ ۵۹۰
- ۴۲۹۲ عدت پوری ہونے پر گھر سے نکلنا ضروری نہیں ۵۹۱
- ۴۲۹۳ تکمیل عدت کے دن عورتوں کا گھر میں جمع ہونا ۵۹۲
- ۴۲۹۴ عدت کی تکمیل اور بعض رسوم کا بیان ۵۹۴
- ۴۲۹۵ کیا عدت مکمل ہونے کے بعد عورت با اختیار ہے؟ ۵۹۵
- ۴۲۹۶ شوہر کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا نکاح کرنا ۵۹۶
- ۴۲۹۷ معتدہ کا قضائے حاجت و غسل کے لیے باہر جانا ۵۹۷
- ۴۲۹۸ دورانِ عدت سفر کرنے کا حکم ۵۹۸
- ۴۲۹۹ معتدہ کا والدین کی تعزیت کے لیے جانا ۵۹۹
- ۴۳۰۰ معتدہ الوفات والدین کے یہاں نہیں جائے گی ۶۰۰
- ۴۳۰۱ دورانِ عدت قریبی رشتہ دار کے انتقال پر اس کے گھر جانا ۶۰۱

- ۴۳۰۲ دورانِ عدت ہسپتال میں والدہ کو دیکھ بھال کرنا ۶۰۲
- ۴۳۰۳ معتدہ کا دن دن میں والدہ کی عیادت کے لیے جانا ۶۰۲
- ۴۳۰۴ دورانِ عدت شادی یا موت میں جانا ۶۰۳
- ۴۳۰۵ معتدہ کا حجاج کرام کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن جانا ۶۰۴
- ۴۳۰۶ معتدہ کا ڈاکٹر کے پاس یا تعزیت کے لیے جانا ۶۰۵
- ۴۳۰۷ دورانِ عدت ڈاکٹر کے پاس جانا ۶۰۶
- ۴۳۰۸ دورانِ عدت علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ۶۰۷
- ۴۳۰۹ عدت کی حالت میں ڈاکٹر کے یہاں جانا ۶۰۸
- ۴۳۱۰ معتدہ الوفات شدید بیماری میں کیا کرے؟ ۶۰۹
- ۴۳۱۱ دورانِ عدت ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ۶۱۰
- ۴۳۱۲ کیا دورانِ عدت ووٹ ڈالنے جاسکتی ہے؟ ۶۱۰
- ۴۳۱۳ رقم کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے معتدہ کا سفر کرنا ۶۱۱
- ۴۳۱۴ دورانِ عدت شوہر کی جگہ اپنا نام لکھوانے کے لیے بینک جانا ۶۱۲
- ۴۳۱۵ دورانِ عدت پیسہ نکالنے کے لیے بینک جانا ۶۱۳
- ۴۳۱۶ دورانِ عدت پنشن جاری کرانے کے لیے کچھری جانا ۶۱۴
- ۴۳۱۷ دورانِ عدت کچھری جانا ۶۱۵
- ۴۳۱۸ معتدہ الوفات کا سرکری دفتر جا کر دستخط کرنا ۶۱۶
- ۴۳۱۹ بحالتِ عدت نوکری پر جانا ۶۱۷
- ۴۳۲۰ دورانِ عدت بیوی کا ملازمت کرنا ۶۱۷
- ۴۳۲۱ عدتِ وفات کے دوران اسکول جانا ۶۱۸
- ۴۳۲۲ معتدہ کا آدھے گھنٹے کے لیے اسکول کے پروگرام میں جانا ۶۱۹
- ۴۳۲۳ عدتِ وفات میں بیوہ کا اسکول جانا ۶۲۰

۶۲۳	(۲۷) باب النفقة والسكنی	
۶۲۳ کیا عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہے؟	۷۳۲۴
۶۲۵ شوہر پر زمانہ عدت کا خرچ	۷۳۲۵
۶۲۶ عدت کا نفقہ شوہر پر کب لازم ہے؟	۷۳۲۶
۶۲۷ عدت کے زمانہ کا خرچ کس پر لازم ہے؟	۷۳۲۷
۶۲۸ مہر فاطمی اور عدت کے کل خرچ کی مقدار	۷۳۲۸
۶۲۹ مطلقہ مغلطہ کے دین مہر اور عدت کے خرچہ کا حکم	۷۳۲۹
۶۳۰ دوبار طلاق دی اور عدت کے نفقہ کا واجب ہونا	۷۳۳۰
۶۳۱ عدت اور ایک سال کی بچی کا خرچہ کس پر لازم ہے؟	۷۳۳۱
۶۳۲ طلاق کے بعد مہر و نان و نفقہ کا حکم	۷۳۳۲
۶۳۳ دوران عدت نان و نفقہ کا حکم	۷۳۳۳
۶۳۴ شوہر پر عدت کا خرچہ اور مہر لازم ہوتا ہے	۷۳۳۴
۶۳۶ طلاق کے بعد جہیز، مہر اور عدت کے خرچہ کا حکم	۷۳۳۵
۶۳۸ بیوی کو عدت کا خرچہ کس تناسب سے دے	۷۳۳۶
۶۳۸ مطلقہ بیوی کی عدت کی رقم کتنی ہوگی؟	۷۳۳۷
۶۳۹ کیا طلاق کے بعد بیوی کو عمدہ کپڑا دینا واجب ہے؟	۷۳۳۸
۶۴۰ کیا رہائش میں عورت کی مرضی کا اعتبار کرنا لازم ہے؟	۷۳۳۹
۶۴۲ جہیز نہ دینے پر بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد نان و نفقہ سے محروم کرنا	۷۳۴۰
۶۴۴ دو بیویوں میں سے بے اولاد بیوی کو آئندہ سہارا کیلئے مخصوص جائیداد دینا	۷۳۴۱
۶۴۵ لڑکی کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم شوہر سے وصول کرنا	۷۳۴۲
۶۴۶ کیا لڑکی والوں کا طلاق کی صورت میں تین لاکھ کا مطالبہ کرنا درست ہے؟	۷۳۴۳
۶۴۷ بیویوں کے درمیان برابری نہ کرنا	۷۳۴۴

۶۴۹	میکہ میں عدت گزارنے والی بیوی کا نفقہ	۴۳۴۵
۶۴۹	کیا میکہ میں رہتے ہوئے بھی نفقہ لازم ہے؟	۴۳۴۶
۶۵۱	کیا شوہر بیوی کو نکال دے تو میکہ میں بیوی کو نفقہ ملے گا؟	۴۳۴۷
۶۵۱	شوہر کی اجازت سے میکہ رہنے والی عورت کا نفقہ	۴۳۴۸
۶۵۲	شوہر کی اجازت کے بغیر میکہ میں رہنے والی عورت کے نفقہ کا حکم	۴۳۴۹
۶۵۳	ناشزہ عورت کے نفقہ اور مہر کا مسئلہ	۴۳۵۰
۶۵۶	ناشزہ بیوی اور لڑکی کے نان و نفقہ کا حکم	۴۳۵۱
۶۵۸	ناشزہ بیوی کی عدت کے خرچہ کا حکم	۴۳۵۲
۶۶۰	ناشزہ نفقہ کی حقدار ہے یا نہیں؟	۴۳۵۳
۶۶۱	کیا ناشزہ کو عدت کا خرچہ ملے گا	۴۳۵۴
۶۶۳	کیا ناشزہ کو عدت کے خرچہ کے مطالبہ کا حق ہے؟	۴۳۵۵
۶۶۴	ناشزہ کی عدت کا خرچہ اور زیورات کی واپسی	۴۳۵۶
۶۶۶	ناشزہ بیوی کا نان و نفقہ کا مطالبہ کرنا	۴۳۵۷
۶۶۷	بدکار بیوی کو طلاق، مہر، نان و نفقہ اور جہیز کا حکم	۴۳۵۸
۶۶۸	ناشزہ بیوی کو طلاق اور عدت و مہر کا حکم	۴۳۵۹
۶۶۹	طلاق کے بعد پیش آنے والے مختلف مراحل کا حل	۴۳۶۰
۶۷۳	کیا عدت کے بعد کے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے؟	۴۳۶۱
۶۷۴	مطلقہ کی عدت کے بعد خرچ کا حکم	۴۳۶۲
۶۷۵	مہر و عدت کا خرچہ دینے کے بعد مزید مطالبہ کرنا	۴۳۶۳
۶۷۷	عدت کے بعد سابقہ شوہر پر کسی طرح کا نفقہ واجب نہیں	۴۳۶۴
۶۷۸	مطلقہ معتدہ کی عدت گزرنے کے بعد نان و نفقہ کا حکم	۴۳۶۵
۶۷۹	مطلقہ کی عدت پوری ہونے کے بعد نان و نفقہ کا حکم	۴۳۶۶
۶۸۰	عدت مکمل ہونے کے بعد مطلقہ کے نان و نفقہ کا حکم	۴۳۶۷

۶۸۲ عدت مکمل ہو جانے کے بعد شوہر پر کچھ بھی واجب نہیں	۴۳۶۸
(۲۸) باب ثبوت النسب		
۶۸۴ شوہر کا بچہ کے نسب کا انکار کرنا	۴۳۶۹
۶۸۵ اولاد کا نسب شوہر سے ثابت ہو گا یا زانی سے؟	۴۳۷۰
۶۸۷ کیا مجنونہ بیوی سے پیدا شدہ بچہ ثابت النسب ہے؟	۴۳۷۱
۶۸۸ شادی شدہ عورت سے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچہ کا نسب	۴۳۷۲
۶۸۹ بدکاری کے ذریعہ پیدا شدہ بچی کا نسب	۴۳۷۳
۶۹۰ DNA ٹیسٹ کے ذریعہ ثبوت نسب کی شرعی حیثیت	۴۳۷۴
۶۹۱ نکاح فاسد و باطل میں سے کس میں نسب ثابت ہوگا؟	۴۳۷۵
۶۹۸ لاعلمی کی وجہ سے منکوحہ الغیر سے نکاح اور اس سے پیدا شدہ بچوں کا حکم	۴۳۷۶
۶۹۹ موطوءہ بالشبہ سے پیدا ہونے والی اولاد کا حکم	۴۳۷۷
۷۰۱ وطی بالشبہ	۴۳۷۸
۷۰۳ مطلقہ مغلظہ سے ہم بستری کے بعد اولاد کا حکم	۴۳۷۹
۷۰۴ کیا طلاق کے بعد پیدا شدہ بچے ثابت النسب ہوں گے؟	۴۳۸۰
۷۰۶ طلاق مغلظہ کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنا اور اس سے ہونے والی اولاد کا حکم	۴۳۸۱
۷۰۷ لمبے عرصہ تک شوہر کے غائب رہنے کی صورت میں پیدا شدہ بچے کا نسب	۴۳۸۲
۷۰۸ کسی نوزائیدہ کے بارے میں بیوی کا یہ کہنا کہ یہ میرا بچہ ہے اور شوہر اس کی تصدیق کرنا	۴۳۸۳
۷۱۰ جو بچہ ۶ ماہ سے کچھ یوم قبل گرجائے اس کا نسب	۴۳۸۴
۷۱۲ نکاح کے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے کا نسب	۴۳۸۵
۷۱۳ کیا نکاح کے چھ ماہ بعد پیدا شدہ بچہ ثابت النسب ہے؟	۴۳۸۶
۷۱۵ شادی کے سات ماہ بعد پیدا شدہ بچہ کا نسب	۴۳۸۷

- ۴۳۸۸ نکاح کے ایک دن بعد پیدا ہونے والا بچہ ثابت النسب ہوگا یا نہیں؟ ۷۱۶
- ۴۳۸۹ نکاح کے ساڑھے پانچ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچہ کا نسب ۷۱۶
- ۴۳۹۰ چھ ماہ سے قبل پیدا ہونے والے بچہ کا نسب ۷۱۷

۷۱۹	باب الحضانة (۲۹)
-----	-------------------------

- ۴۳۹۱ بیوی کو طلاق دینے کے بعد بچہ کس کو ملے گا؟ ۷۱۹
- ۴۳۹۲ مطلقہ اگر بچوں کی پرورش نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ ۷۲۰
- ۴۳۹۳ بچوں کی پرورش کا حقدار اور نفقہ کا ذمہ دار کون ہے؟ ۷۲۱
- ۴۳۹۴ بچوں کی پرورش کا حق ماں کے انتقال کے بعد نانی کو ہے یا باپ کو؟ ۷۲۲
- ۴۳۹۵ کیا لڑکا سات سال اور لڑکی مشتبہاً ہونے تک ماں کے پاس رہے گی؟ ۷۲۳
- ۴۳۹۶ لڑکا اور لڑکی کتنے سال تک کس کے پاس رہیں گے؟ ۷۲۴
- ۴۳۹۷ لڑکی کا حق پرورش کس کو حاصل ہے؟ ۷۲۵
- ۴۳۹۸ نابالغ بچوں کی کفالت کا ذمہ دار کون؟ ۷۲۶
- ۴۳۹۹ بیوی کے پاس بچوں کے ہونے کی صورت میں کفالت کا ذمہ دار کون؟ ۷۲۶
- ۴۴۰۰ بچوں اور مطلقہ بیوی کی رہائش کا ذمہ دار کون؟ ۷۲۷
- ۴۴۰۱ طلاق کے بعد بچے کی پرورش، عدت، اور سامانِ جہیز کا حکم ۷۲۸
- ۴۴۰۲ نابالغ بچوں کا باپ مر جائے تو ان کی پرورش اور ان کے مال کا ولی ۷۲۸
- ۴۴۰۰ کون؟ ۷۳۰



فہرست عناوین

صفحہ	مسئلہ نمبر	۱۸ کتاب الایمان والندور
۲۴		(۱) باب الایمان
۲۴	۷۴۰۳	قسم کا دار و مدار الفاظ پر ہے یا نیت پر؟
۲۶	۷۴۰۴	قسم میں الفاظ کا اعتبار ہے یا نیت کا؟
۲۷	۷۴۰۵	جس بستی میں نہ جانے کی قسم کھائی وہاں سے گزرنے کا حکم
۲۸	۷۴۰۶	مجبوری میں قرآن کی قسم کھانا
۲۹	۷۴۰۷	صحیح بات پر قرآن کی قسم کھانا
۳۰	۷۴۰۸	قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھانا
۳۲	۷۴۰۹	غصہ میں قرآن لے کر شادی نہ کرنے کی قسم کھانا
۳۳	۷۴۱۰	اولاد کی قسم کھانا
۳۴	۷۴۱۱	یبین لغوی کی ایک صورت
۳۵	۷۴۱۲	چوری ہونے پر تمام محلہ والوں سے طلاق مغلطہ کی قسم دلوانا
۳۶	۷۴۱۳	بچہ پیدا نہ ہونے دینے کی قسم کھانا
۳۸	۷۴۱۴	”مجھے قسم ہے“ کے الفاظ سے حائث ہونا
۳۸	۷۴۱۵	ان قبلتنی فتقبیلک ایسی حرایم سے قسم کا انعقاد
۴۰	۷۴۱۶	اگر تم نے فلاں عورت سے بات کی تو قسم ہے؟
۴۱	۷۴۱۷	قسم کھا کر کہنا کہ ”میری جیب میں کتنے روپے ہیں صحیح بتانے پر سب دیدوں گا“
۴۲	۷۴۱۸	گھر بجانے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا
۴۳	۷۴۱۹	چوری کرنے کے بعد جھوٹی قسم کھانا
۴۴	۷۴۲۰	کلمہ کی قسم کا حکم
۴۶	۷۴۲۱	کلمہ کی قسم کا شرعی حکم
۴۷	۷۴۲۲	کلمہ کی قسم کی تلقین کا حکم
۴۸	۷۴۲۳	”ہم کھا رہے ہیں کلمہ کی قسم“ کہنا
۵۰	۷۴۲۴	بہن بھائیوں سے نہ ملنے کی قسم کھانا؟

۵۱	تمہارے یہاں کھایا تو سور کا گوشت کھایا	۷۴۲۵
۵۲	بیٹی کے گھر نہ جانے کی قسم توڑنے پر کفارہ	۷۴۲۶
۵۳	بھائی سے نہ بولنے کی قسم کھانا	۷۴۲۷
۵۴	دیورانی اور جیٹھانی کا آپس میں نہ بولنے کی قسم کھانا	۷۴۲۸
۵۶	بہوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا	۷۴۲۹
۵۶	گھر کھانا نہ کھانے کی قسم کھانا	۷۴۳۰
۵۷	حلال جانور کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کرنا	۷۴۳۱
۵۸	قسم کھانی کہ اگر اس لڑکی سے شادی نہ ہوئی تو کبھی شادی نہ کرونگا	۷۴۳۲
۵۹	کسی عورت سے نکاح کی قسم کھانے کے بعد عورت کا دوسرے سے نکاح ہو جانا	۷۴۳۳
۶۰	دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد دوسری شادی کرنا	۷۴۳۴
۶۱	لڑکے کا شادی نہ کرنے کی قسم کھا کر شادی کرنا	۷۴۳۵
۶۲	ہندوستان میں نہ رہنے کی قسم کھانا	۷۴۳۶
۶۳	ہندو کے قتل کی قسم کھانا	۷۴۳۷
۶۵	قسم کا کفارہ	۷۴۳۸
۶۶	۱۵۰ مرتبہ قسم توڑنے کا کفارہ	۷۴۳۹
۶۶	کفارہ قسم ادا کرنے کا طریقہ	۷۴۴۰
۶۷	دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل	۷۴۴۱
۶۹	قسم کی خلاف ورزی اور کفارہ کا مستحق	۷۴۴۲

۷۰	(۲) باب النذور
----	-----------------------

۷۰	کیا محض دل میں ادارہ کر لینے سے نذر منعقد ہو جاتی ہے؟	۷۴۴۳
۷۱	کیا نذر پوری کرنا واجب ہے؟	۷۴۴۴
۷۲	نذر پوری کرنے کا شرعی حکم	۷۴۴۵
۷۳	نذر مان کر اس سے رجوع کرنا	۷۴۴۶
۷۴	نذر میں ایک کام پر تین چیزوں کے معلق کرنے کا حکم	۷۴۴۷
۷۶	کام پورا ہونے سے پہلے نذر نہ ہوگی	۷۴۴۸
۷۷	نذر پوری نہ ہونے پر بکروں کی قربانی کرنا	۷۴۴۹
۷۸	نذر کی تکمیل کے لیے متعینہ مکان ضروری نہیں	۷۴۵۰
۷۹	نذر ذبح اور نذر راضیہ کا فرقہ	۷۴۵۱

۸۳	مشرک کی نذر کا حکم	۷۴۵۲
۸۴	نذر میں خیرات کی رقم متعین نہیں کی تو کیا کریں؟	۷۴۵۳
۸۵	متعینہ مدرسہ میں نذر کا پیسہ دیں یا کسی بھی مدرسہ میں؟	۷۴۵۴
۸۶	ایک مسجد میں روپے دینے کی نذر مان کر دوسری مسجد میں دینا	۷۴۵۵
۸۷	مسجد میں سو روپہ دینے کی نذر ماننا	۷۴۵۶
۸۸	کاروبار شروع ہونے پر مسجد میں ضرورت کے سامان دینے کی نذر	۷۴۵۷
۸۹	مسجد میں مصلیٰ یا اگر بتی دینے کی نذر	۷۴۵۸
۸۹	کام پورا ہونے پر نوافل اور صدقہ و خیرات کی نذر ماننا	۷۴۵۹
۹۱	جو تنخواہ ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا	۷۴۶۰
۹۲	بیس ہزار رکعت پڑھنے کی نذر ماننا	۷۴۶۱
۹۳	لا الہ الا انت الخ ۱۲۴۰۰۰ مرتبہ پڑھنے کی نذر ماننا	۷۴۶۲
۹۴	کیا نذر کردہ روزہ کے درمیان ترتیب لازم ہے؟	۷۴۶۳
۹۵	اگر میرا داخلہ فلاں مدرسہ میں ہو جائے تو ایک ماہ کا روزہ رکھوں گا	۷۴۶۴
۹۶	زندگی بھر روزہ رکھنے کی منت کے بعد قدرت نہ ہو تو؟	۷۴۶۵
۹۷	ایک ہی قسم کی نذروں کے متعدد روزہ کی نیت کا طریقہ	۷۴۶۶
۹۸	شوہر کو چلہ کی جماعت میں بھیجنے کی نذر کا شرعی حکم	۷۴۶۷
۱۰۰	جماعت میں سال لگانے کی نذر ماننا	۷۴۶۸
۱۰۰	امام و مؤذن کو کھانا دینا بہتر ہے یا اس کی رقم	۷۴۶۹
۱۰۱	حرام کام پر مانی ہوئی منت کا پورا کرنا	۷۴۷۰
۱۰۲	کام ہونے پر صدقہ کرنے کی نذر ماننا	۷۴۷۱
۱۰۳	قبروں پر دودھ چڑھانا	۷۴۷۲
۱۰۴	نذر کے بکرے کی عمر کتنی ہو؟	۷۴۷۳
۱۰۵	نذر کے جانور کی عمر	۷۴۷۴
۱۰۶	بکرے کی نذر مانی تھی لیکن غلطی سے بکری خریدی گئی	۷۴۷۵
۱۰۷	اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بکر ذبح کروں گا	۷۴۷۶
۱۰۷	مرض سے شفایابی پر بکرے کی نذر مانی لیکن شفا یاب نہ ہوا تو کیا کرے؟	۷۴۷۷
۱۰۸	اولاد کی خوشی میں بکرے اللہ کے نام قربان کرنے کی منت ماننا	۷۴۷۸
۱۰۹	کیا اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟	۷۴۷۹

- ۴۸۰ اولیاء کی قبروں پر مرغاً بکرا ذبح کرنے سے متعلق سوالات ۱۱۰
- ۴۸۱ بیماری سے شفا یابی ہونے پر بزرگ کے مزار پر بکرا ذبح کرنے کی نذر ماننا ۱۱۱
- ۴۸۲ دیوی، مزار اور بت کے نام سے منت ماننا ۱۱۲
- ۴۸۳ صدقہ بکرے کا کریں یا قیمت کا؟ ۱۱۳
- ۴۸۴ نذر کے بکرے کی قیمت سے نذر پوری کرنا ۱۱۴
- ۴۸۵ کیا بکرا صدقہ کرنے کی نذر میں قیمت ادا کرنا کافی ہے؟ ۱۱۴
- ۴۸۶ نذر شدہ جانور کی قیمت کھلانے کے علاوہ دوسرے کاموں میں لانا ۱۱۶
- ۴۸۷ نذر کے جانور کا مصرف ۱۱۷
- ۴۸۸ صدقہٴ نافلہ اور نذر معین وغیر معین کے بکرے کا مصرف ۱۱۸
- ۴۸۹ نذر کا بکرا کون کون کھا سکتا ہے؟ ۱۱۹
- ۴۹۰ کیا نذر کا کھانا مالدار رشتہ دار کھا سکتے ہیں؟ ۱۲۰
- ۴۹۱ کیا نذر کے گوشت کا مصرف صرف فقراء ہیں؟ ۱۲۱
- ۴۹۲ منت کی شیرینی کے مستحق کون؟ مسجد میں منت کی شیرینی لے جانا ۱۲۲
- ۴۹۳ غرباء میں تقسیم کی نیت کے بعد گوشت کا خود کھانا اور مالداروں کو کھلانا ۱۲۳
- ۴۹۴ نذر کے اہل خانہ کا نذر شدہ بکرے کا گوشت کھانا ۱۲۴
- ۴۹۵ بیماری کا بکرا فقیروں کے لیے بھی ناجائز ۱۲۵

	۱۹ کتاب الحدود	
۱۲۶	(۱) باب القصاص والدية	

- ۴۹۶ مسلمان کو قتل کرنے والے کی معافی کی کیا صورت ہے؟ ۱۲۶
- ۴۹۷ ساڑھے سات ماہ کے حمل کو نکلو کر پھینکنے والی عورت کا حکم ۱۲۷
- ۴۹۸ زانیہ بیوی کو چاقو سے مارنے والا شخص قاتل ہے ۱۲۸
- ۴۹۹ زانی و زانیہ کی سزا ۱۲۹
- ۵۰۰ لڑکی کے زنا کا دعویٰ کرنے سے زنا کا ثبوت ۱۳۰
- ۴۰۱ غیر اسلامی ممالک میں زانی کی سزا ۱۳۲
- ۵۰۲ زنا کا کفارہ کیا ہے؟ ۱۳۴
- ۵۰۳ بدکاری سے عورت حرام نہیں ہوتی ۱۳۵
- ۵۰۴ کیا شراب کو بڑھاوا دینے والے کو موت کی سزا دی جاسکتی ہے؟ ۱۳۶

۱۳۸ چیخ و پکار سے ہونے والی موت کا ذمہ دار کون؟	۷۵۰۵
۱۳۰ کیا حکومت کا ساتھ دینے والا شخص واجب القتل ہے؟	۷۵۰۶
۱۴۱ حادثہ کے بعد ذمہ دار ڈرائیور ہے یا مالک جبکہ مالک کے ذمہ دار ہونیکا کا معاہدہ ہو ..	۷۵۰۷
۱۴۲ ایکسڈ بینٹ کی صورت میں کیا ڈرائیور پر دیت واجب ہے، اور دیت کی مقدار؟	۷۵۰۸
۱۴۳ حادثہ کا شکار ہونے والے کے ورثاء کیلئے سرکاری امداد حاصل کرنا	۷۵۰۹
۱۴۴ حادثہ میں مرنے والے کے معاوضہ کا حکم	۷۵۱۰
۱۴۵ حکومت سے ملنے والی امدادی رقم کا مستحق کون ہے؟	۷۵۱۱
۱۴۶ مقتول کے ورثاء کا مال پر صلح کرنا	۷۵۱۲
۱۴۸ بطور تاوان دی گئی رقم کا حکم	۷۵۱۳

۱۴۹	(۲) باب التعزیر
-----	------------------------

۱۴۹ غلط مسئلہ بتانے پر بطور تاوان دعوت کھانا	۷۵۱۴
۱۵۱ طلبہ سے غیر حاضری پر مالی تاوان لینا	۷۵۱۵
۱۵۲ غیر حاضری کی بنا پر طلبہ سے فیس لینا	۷۵۱۶
۱۵۳ مدارس و اسکولوں میں طلبہ سے لیٹ فیس وصول کرنا	۷۵۱۷
۱۵۴ بطور سزا یا غلطی پر مالی جرمانہ وصول کرنے کا حکم	۷۵۱۸
۱۵۵ شوہر کا بیوی کی طرف سے دائر کیے گئے جھوٹے مقدمے کا خرچہ بیوی سے وصول کرنا	۷۵۱۹
۱۵۷ ڈاکٹر سے جرمانہ وصول کرنے کی ایک شکل	۷۵۲۰
۱۵۸ پچاس ہزار کے مالی جرمانہ کا حکم	۷۵۲۱
۱۵۹ پنچایت کے عائد کردہ مالی جرمانہ کی شرعی حیثیت	۷۵۲۲
۱۶۱ سٹیٹ والوں کا کسی شخص کو مالی یا جسمانی سزا دینا	۷۵۲۳
۱۶۲ مالی جرمانہ و دیگر مسائل	۷۵۲۴

	۲۰ کتاب الجہاد	
۱۶۴	(۱) باب الہجرة	

۱۶۴ ہجرت کی شرعی حیثیت	۷۵۲۵
۱۶۵ اسلام میں جہاد مدافعتیہ ہے یا جارحانہ بھی؟	۷۵۲۶
۱۶۶ مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہے؟	۷۵۲۷

۱۶۸ کیا ہندوستانی مسلمانوں پر جہاد فرض ہے؟	۷۵۲۸
۱۷۰ کیا ہندوستان میں ہندوؤں سے جہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں؟	۷۵۲۹
۱۷۱ کیا کفار سے جہاد کرنا اکراہ میں داخل ہے؟	۷۵۳۰
۱۷۳ کفار ہندوؤں میں یا حربی؟	۷۵۳۱
۱۷۴ کیا ہندوؤں کا لوٹا ہوا مال مالِ غنیمت ہے؟	۷۵۳۲
۱۷۵ کسی لڑائی میں غیروں کا مال آجائے تو کیا حکم ہے؟	۷۵۳۳

	۲۱ کتاب اللقطة	
۱۷۷	(۱) باب اللقطة	

۱۷۷ لقطہ کا حکم	۷۵۳۴
۱۷۸ ملقط فقیر کا لقطہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے	۷۵۳۵
۱۷۹ نامعلوم شخص کے کبوتر گھر آجائیں تو ان کا حکم	۷۵۳۶
۱۸۰ نامعلوم شخص کی مرغی گھر آجائے تو اس کا حکم	۷۵۳۷
۱۸۱ اسٹیشن پر ملنے والی سونے کی چین کا حکم	۷۵۳۸
۱۸۲ لقطہ کی رقم مسجد میں لگانا	۷۵۳۹
۱۸۳ گمشدہ روپے اٹھا کر مسجد میں دینا	۷۵۴۰
۱۸۴ لقطہ کے جانور پر خرچ کی گئی رقم کہاں سے وصول کریں؟	۷۵۴۱
۱۸۵ نابالغ لڑکے نے پائی ہوئی رقم ضائع کر دی	۷۵۴۲

۱۸۷	۲۲ کتاب الإمارة والسیاسة	
-----	---------------------------------	--

۱۸۷ امت کی قیادت و امامت میں اسلام کا نقطہ نظر	۷۵۴۳
۱۸۹ قرآن وحدیث سے ہٹ کر اسلامی قانون بنانا	۷۵۴۴
۱۹۰ برادری کے صدر کا دوسری شادی کے متعلق دستور شائع کرنا	۷۵۴۵
۱۹۱ ہندوستان میں بیت المال قائم کرنا کیسا ہے؟	۷۵۴۶
۱۹۳ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟	۷۵۴۷
۱۹۴ وندے ماترم اور قومی ترانہ کے الفاظ عقیدہ کے خلاف تو نہیں	۷۵۴۸
۱۹۶ حکومت کا مسلمانوں میں پسماندہ وغیر پسماندہ کی تقسیم کرنا	۷۵۴۹
۱۹۸ سفیر کا چندہ کرنے کے لیے دو پاسپورٹ بنوانا	۷۵۵۰

۱۹۸	بغیر لائسنس کے ہندوستان میں اسلحہ رکھنا	۷۵۵۱
۲۰۰	عالم دین کے الیکشن لڑنے سے متعلق چند سوالات	۷۵۵۲
۲۰۲	مسلمانوں کے لیے سیاست میں حصہ لینا کیسا ہے؟	۷۵۵۳
۲۰۳	کیا عورتیں میٹھی کارکن بن سکتی ہیں؟	۷۵۵۴
۲۰۴	عورتوں کا الیکشن میں کھڑے ہونا	۷۵۵۵
۲۰۵	عورت ووٹ لینے یا دینے کی حقدار ہے یا نہیں؟	۷۵۵۶
۲۰۵	ائمہ حضرات کے لیے حکومتی امداد حاصل کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟	۷۵۵۷
۲۰۷	سیاسی عالم کا غیر مسلم کو رادھا کرشن کی تصویر دینا	۷۵۵۸
۲۰۸	کیا آئین ہند کے حامی باطل کے حامی ہیں	۷۵۵۹
۲۰۹	چیرمین پریئر کی تعمیر کیلئے حکومت سے ملنے والی رقم کو وہیں صرف کرنا لازم ہے	۷۵۶۰
۲۱۰	چیرمین کا کسی ضرورتمند کو گھر پالیکا کی زمین بغیر معاوضہ کے دینا	۷۵۶۱
۲۱۱	سرکاری گاڑیوں کی مرمت کا خرچہ سرکار سے وصول کرنا	۷۵۶۲
۲۱۲	چک بندی کی شرعی حیثیت	۷۵۶۳
۲۱۴	عراق کے کویت پر غاصبانہ قبضہ کرنے سے متعلق چند سوالات	۷۵۶۴
۲۱۹	کفیل کا حکومت کا فنڈ خود استعمال کرنا	۷۵۶۵
۲۲۰	۶۰ سال سے اوپر عمر والی بیواؤں اور بوڑھوں کو منجانب سرکار ملنے والی امداد کا حکم	۷۵۶۶
۲۲۱	حکومت سے روپیہ ملنے کی ایک جائز صورت	۷۵۶۷
۲۲۲	فساد زدہ لوگوں کا حکومتی امداد لینا	۷۵۶۸
۲۲۳	دوکانداروں کے لیے حکومت کا تعاون لینا	۷۵۶۹
۲۲۳	مکان وغیرہ کی تعمیر کے لیے مالداروں کا حکومتی امداد لینا	۷۵۷۰
۲۲۴	سرکاری تعاون لے کر ضرورت پوری کرنا	۷۵۷۱
۲۲۶	نومسلمہ کا اپنا ہندوانی نام بتا کر ووٹ حاصل کرنا	۷۵۷۲

۲۳ کتاب القضاء	
۲۲۸	(۱) باب ما يتعلق بنفس القضاء

۲۲۸	غیر اسلامی ممالک میں اسلامی نظام قضاء کا تصور	
۲۲۸	نظام قضاء کی اہمیت	
۲۳۰	غیر اسلامی ممالک میں اسلامی نظام قضاء	۷۵۷۳
۲۳۲	واجب الطاعت کا مصداق	

۲۳۳ ایک اہم شبہ	
۲۳۴ شبہ کا ازالہ اور بلاد کی اقسام	
۲۳۷ غیر اسلامی ممالک میں امیر وقاضی بننے کیلئے ہر حلقہ کے اہل حل و عقد کی رضا شرط ہے ...	
۲۳۸ قضاء اور قاضی شرعی کی حقیقت	۷۵۷۴
۲۳۸ قضاء کی حقیقت	
۲۳۹ شرعی قاضی کی حقیقت	
۲۴۰ اہلیت قضاء کی شرائط	
۱۴۱ قضاء کی تعریف میں الزام کا مصداق	
۲۴۳ قوت منقذہ قاضی شرعی کا جزء لاینفک اور صفت لازمہ نہیں	
۲۴۴ قاضی اور مفتی میں فرق	
۲۴۵ قاضی کا حلقہ عمل اور دائرہ اختیار	۷۵۷۵
۲۴۷ غیر اسلامی حکومت کی طرف سے مسلم قاضی کا تقرر	۷۵۷۶
۲۴۹ ولایت الکافر علی المسلم کا مسئلہ	
۲۵۰ غیر اسلامی حکومت میں مسلم امراء کی طرف سے قاضی کا تقرر	
۲۵۲ تراشی مسلمانوں سے جو قاضی مقرر ہوتا ہے اس سے قاضی جمعہ مراد نہیں	
۲۵۳ تراشی مسلمانوں سے تقرر قاضی پر اشکال	
۲۵۴ جوابات	
۲۵۴ قوت عسکری اور قوت قاہرہ نظام قضاء کے لیے شرط نہیں	
۲۵۵ جوابات	
۲۵۶ ہندوستان کے نظام قضاء پر اکابر کی عدم موافقت کیوں ہوئی؟	
۲۵۶ جوابات	
۲۵۸ اکابر مفتیان کا فتویٰ	
۲۵۸ الخلیفۃ الناجزۃ لکھنے کی وجہ	۷۵۷۷
۲۶۰ تلفیق کی بحث	
۲۶۲ نظام قضاء کے بعد مذہب مالکی کے مطابق جماعت مسلمانوں کی عدم ضرورت	۷۵۷۸
۲۶۳ مقام واحد میں تعدد قضاة	۷۵۷۹
۲۶۵ آخر میں ایک اہم مشورہ	
۲۶۵ محکمہ شرعیہ کی حیثیت	۷۵۸۰

۲۶۶ محکمہ شرعیہ کی حیثیت	۷۵۸۱
۲۶۸ قضاء قاضی کے لیے کن امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟	۷۵۸۲
۲۶۹ امارت شرعیہ سلطان کے قائم مقام ہے یا قاضی کے؟	۷۵۸۳
۲۷۰ قاضی یا امام کا تہج شرعیہ اور مسائل شرعیہ سے واقف ہونا لازم ہے	۷۵۸۴
۲۷۲ دھوکہ باز کو قاضی متعین کرنا	۷۵۸۵
۲۷۳ کیا فیصلہ کی کاپی ہر فریق کو ملنی چاہیے؟	۷۵۸۶
۲۷۴ فیصلہ کے لیے فریقین کا موجود ہونا لازم ہے	۷۵۸۷
۲۷۵ ناحق فیصلہ کرنے کا حکم	۷۵۸۸
۲۷۷ حکموں کا فیصلہ	۷۵۸۹
۲۸۰ شریعت کے خلاف فیصلہ صادر کرنے والی پنچایت میں شرکت کا حکم	۷۵۹۰
۲۸۰ قضاء اور تحکیم کے بعض مسائل	۷۵۹۱
۲۸۳ جائیداد کے لیے ذریعہ فریق میں جھگڑے کا فیصلہ	۷۵۹۱

۲۸۷	(۲) باب الشهادة
-----	------------------------

۲۸۷ دعویٰ بغیر گواہی کے قبول نہیں	۷۵۹۲
۲۸۸ فاسق کی شہادت مقبول ہے یا مردود؟	۷۵۹۳
۲۸۹ کیا فاسق اور قرآن کریم کی قسم کھانے والے کی گواہی معتبر ہے؟	۷۵۹۴
۲۹۱ بیوی کا شوہر کے خلاف طلاق کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا	۷۵۹۵
۲۹۲ البینة علی المدعی والیمن علی من أنکر	۷۵۹۶
۲۹۳ مقدمہ میں گواہوں کو پیش کرنا کس کے ذمہ لازم ہے، مدعی کے یا مدعی علیہ کے	۷۵۹۷
۳۹۳ گونگی یا ولی لڑکی کا اشارے سے اپنے حمل کو دو آدمیوں کا بتلانا	۷۵۹۸
۲۹۵ مشرقی یوپی کا معاملہ مدعی علیہ کے اخراجات کے تحمل نہ ہونے کے باوجود	۷۵۹۹
۲۹۵ مغربی یوپی میں دائر کرنا	۷۶۰۰
۲۹۶ ایک جگہ کی شرعی پنچایت کے فیصلہ کو روک کر دوسری جگہ اپیل کرنا	۷۶۰۱
۲۹۷ باپ بیٹے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں کہاں کہاں معتبر ہے	۷۶۰۲
۲۹۷ ووٹ کے متعلق چند ضروری مسائل	۷۶۰۳
۳۰۰ ووٹ کی شرعی حیثیت	۷۶۰۴

۲۴ کتاب الوقف		
(۱) باب ما يتعلق بنفس الوقف		

۳۰۱	وقف کی جائیداد کا مالک کون؟	۷۶۰۴
۳۰۲	موقوفہ زمین اللہ کی ملک ہے	۷۶۰۵
۳۰۳	وقف کا مالک ہونا ضروری ہے	۷۶۰۶
۳۰۵	ارادہ ظاہر کرنے سے وقف تام نہیں ہوتا	۷۶۰۷
۳۰۶	زبانی وقف کرنے سے مسجد کا حکم	۷۶۰۸
۳۱۰	صرف بنیاد رکھنے سے شرعی مسجد کا حکم	۷۶۰۹
۳۱۱	بنیاد رکھنے سے مسجد کا حکم	۷۶۱۰
۳۱۲	میرے مکان میں مسجد بنا لو اور اس کے بدلہ مجھ کو کوئی زمین دیدینا کہنے کا حکم	۷۶۱۱
۳۱۴	نہ بیچنے کی شرط لگا کر مسجد کو زمین وقف کرنا	۷۶۱۲
۳۱۵	جس جگہ کو مسجد کے نام سے خریدا گیا ہو وہ مسجد ہے یا نہیں؟	۷۶۱۳
۳۱۸	زمین وقف کرنے کے بعد اپنی ملکیت میں لینا	۷۶۱۴
۳۱۹	موقوفہ زمین میں مالکانہ حقوق کسی کو حاصل نہیں ہوتے	۷۶۱۵
۳۲۱	پانچ پانچ روپے کے اسٹامپ پیپر پر لکھا ہوا اقرار نامہ	۷۶۱۶
	وقف تام ہونے کے بعد وقف کے رشتہ دار کا غاصبانہ طور پر فائدہ اٹھانے	
۳۲۵	سے متعلق مختلف احکام	
۳۲۸	صدقہ جاریہ کی رقم سے تعمیر عمارت کو منہدم کر کے اس میں کاشت کرینے کا حکم	۷۶۱۷
۳۲۹	والدہ مرحومہ کی وقف علی الخیر جائیداد سے اپنی ضرورت پوری کرنا	۷۶۱۸
۳۳۰	وقف علی اللہ وصیت کرتا ہوں کہنے کا حکم	۷۶۱۹
۳۳۲	کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے نام وقف کی آمدنی کا حکم	۷۶۲۰
۳۳۴	متعینہ مصارف پر صرف کرنا لازم ہے	۷۶۲۱
۳۳۵	وقف کی شرط کا حکم	۷۶۲۲
۳۳۶	وقف کی شرائط کو پورا کرنے کا حکم	۷۶۲۳
۳۳۷	وقف کی غرض کے خلاف وقف کے استعمال کا حکم	۷۶۲۴
۳۳۹	غرض الوقف کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے	۷۶۲۵
۳۴۰	شرائط وقف کی رعایت لازم لیکن استبدال کی شرط معتبر نہیں	۷۶۲۶

۳۴۳	قبرستان کے لیے زمین وقف کر کے اس سے رجوع کرنا	۷۶۲۷
۳۴۴	سرکاری زمین پر مدرسہ قائم کرنا	۷۶۲۸
۳۴۵	سوال و جواب	۷۶۲۹
۳۴۶	پٹے کی زمین پر مدرسہ کی تعمیر	۷۶۳۰
۳۴۷	جائیداد مدرسہ کو دے یا بھائی کو؟	۷۶۳۱
۳۴۸	اپنی ملکیت کی زمین پر مدرسہ قائم کرنا	۷۶۳۲
۳۴۹	محکمہ کسٹوڈین کے قبضہ میں آنے والی موقوفہ جائیداد کا حکم	۷۶۳۳

۳۵۱	(۲) باب الوقف علی الأولاد	
-----	----------------------------------	--

۳۵۱	وقف علی الأولاد	۷۶۳۴
۳۵۲	وقف علی الأولاد کی ایک صورت	۷۶۳۵
۳۵۴	وقف علی الأولاد کا حکم	۷۶۳۶
۳۵۶	اولاد اکبر کے انتقال کے بعد مکان موقوفہ کا مالک کون؟	۷۶۳۷
۳۵۹	وقف کی شرط کی پابندی لازم ہے	۷۶۳۸
۳۶۰	تولیت میں وقف کی شرائط کا حکم	۷۶۳۹
۳۶۳	وقف علی الأولاد کی صورت میں نسل ختم ہونے پر متولی کون ہوگا؟	۷۶۴۰
۳۶۶	وقف علی الأولاد میں وقف کی اولاد کے علاوہ کا متولی بننا	۷۶۴۱
	وقف علی الأولاد کا متولی کون ہو؟ اس کو فروخت کرنے اور اس میں کس کو رہائش کا اختیار ہے؟	۷۶۴۲
۳۶۷	وقف علی الأولاد کا اختیار ہے؟	۷۶۴۳
۳۷۰	وقف علی الأولاد جائیداد کو میراث کی طرح تقسیم کرنا	۷۶۴۴
۳۷۳	وقف علی الأولاد کی جائیداد کی تقسیم	۷۶۴۵
۳۷۴	وقف علی الأولاد جائیداد کی تقسیم کا ایک مسئلہ	۷۶۴۶
۳۷۵	وقف علی الأولاد میں مذکور مومنٹ سب شامل ہوتے ہیں	۷۶۴۷
۳۷۶	وقف علی الأولاد میں تولیت کا حق کس کس کو حاصل ہے؟	۷۶۴۸
۳۷۸	اولاد ذکور کی عدم موجودگی میں اولاد اناث متولی بنے گی	۷۶۴۹
۳۷۹	وقف علی الأولاد سے متعلق ایک جامع فتویٰ	۷۶۵۰
۳۸۲	وقف علی الأولاد میں شرعی و رثاء کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے	۷۶۵۱
۳۸۳	وقف کی اولاد کا موقوفہ علی الأولاد مکان پر دوسری منزل تعمیر کرنا	۷۶۵۱

۳۸۴	وقف علی الاولاد دینی کی بیع	۷۶۵۲
۳۸۵	وقف علی الاولاد جائیداد کو فروخت کرنا	۷۶۵۳
۳۸۷	وقف علی الاولاد جائیداد کو ضائع ہونے کے خطرہ سے فروخت کرنا	۷۶۵۴

۳۸۸	باب ولایة الوقف (۳)
-----	----------------------------

۳۸۸	کیا تولیت میں حق وراثت جاری ہوتی ہے؟	۷۶۵۵
۳۸۹	واقف کے ورثہ کی موجودگی میں غیر کا متولی بننا	۷۶۵۶
۳۹۱	واقف کی اولاد میں بیٹا متولی ہوگا یا پوتا؟	۷۶۵۷
۳۹۲	باشرع متولی پر الزام لگا کر تولیت سے ہٹانا	۷۶۵۸
۳۹۳	فاسق مسجد کا متولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟	۷۶۵۹
۳۹۴	جو شخص مسجد کا حساب و کتاب نہ دے اس کو متولی بنانا	۷۶۶۰
۳۹۵	تولیت وقف کا حقدار خائن شخص نہیں ہے	۷۶۶۱
۳۹۷	متولی کا نااہل کو جائشیں بنانا	۷۶۶۲
۳۹۹	رشوت دے کر اپنے نام تولیت کرانا	۷۶۶۳
۴۰۰	واقف کی شرط کے خلاف اولاد یا ناث کی نذر کرنا اولاد کو متولی بنانا	۷۶۶۴
۴۰۴	وقف نامہ میں واقف کی شرائط پر عمل کرنا لازم ہے	۷۶۶۵
۴۰۵	وقف کے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے والے متولی کو ہٹانا	۷۶۶۶
۴۰۷	متولی کا کہنا کہ مسجد ہم نے اپنے فائدے کے لیے بنوائی ہے کیسا ہے؟	۷۶۶۷
۴۰۸	وقف علی الخیر کو وقف علی الاولاد میں تبدیل کرنا	۷۶۶۸
۴۱۰	حسب مصراح واقف منتظمین کا جائیداد موقوفہ میں ترمیم و تعمیر کرنا	۷۶۶۹
۴۱۱	وقف علی الاولاد مکان کو متولی کا فروخت کرنا یا کرائے پر دینا	۷۶۷۰
۴۱۴	متولی کا مسجد کے سامان میں خیانت کرنا	۷۶۷۱
۴۱۵	متولی مسجد کی خیانت اگر ثابت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۷۶۷۲
۴۱۷	متولی کو مسجد پر یا لگانہ قبضہ اور ناجائز تصرف کا حق حاصل نہیں	۷۶۷۳
۴۱۸	سود اور مسجد کی رُم استعمال کرنے والے متولی کا حکم	۷۶۷۴
۴۲۰	واقف کی غرض کے خلاف موقوفہ زمین میں تصرف کرنا	۷۶۷۵

۴۲۲	باب بیوع الأوقاف (۴)
-----	-----------------------------

۴۲۲	وقف کی زمین فروخت کرنا	۷۶۷۶
-----	------------------------	------

۴۲۳ زیادتی آمدنی کی غرض سے وقف کی زمین فروخت کرنا	۷۶۷
۴۲۴ ناقابل انتفاع موقوفہ زمین کو بیچ کر قابل انتفاع زمین خریدنا	۷۶۷
۴۲۵ مسجد کی زمین کو فروخت کرنا	۷۶۷
۴۲۶ تکمیل وقف کے بعد ہبہ کرنا	۷۶۸
۴۲۷ موقوفہ زمین کو فروخت کرنا	۷۶۸
۴۲۹ موقوفہ زمین کو فروخت کر کے اس کی جگہ دوسری زمین خریدنا	۷۶۸
۴۳۰ مسجد کے لیے وقف شدہ زمین کو فروخت کرنا	۷۶۸
۴۳۱ مسجد کی موقوفہ زمین فروخت کرنا	۷۶۸
۴۳۱ مسجد کی زمین کب فروخت کرنا جائز ہے؟	۷۶۸
۴۳۳ مسجد کی زمین بضرورت فروخت کرنا	۷۶۸
۴۳۴ مسجد کی خستہ زمین فروخت کر کے دوسری زمین خریدنا	۷۶۸
۴۳۵ کیا مسجد شرعی بننے کے بعد اسے بیچا نہیں جاسکتا؟	۷۶۸
۴۳۷ مسجد شرعی کے محقق کے بعد اس کی خرید و فروخت کا حکم	۷۶۸
۴۳۸ تعمیر مسجد کے لیے زمین کو فروخت کرنا	۷۶۹
۴۴۱ تعمیر ضرورت کے پیش نظر مسجد کا مکان فروخت کرنا	۷۶۹
۴۴۳ مسجد کے پرانے بلبے کا حکم	۷۶۹
۴۴۵ مسجد فروخت کر دینا اور سامان مسجد اپنے کاروبار میں لگانا	۷۶۹
۴۴۶ مسجد کی زمین فروخت کر کے دوسری جگہ خریدنا	۷۶۹
۴۴۸ مسجد کے نام پر دیئے گئے پلاٹ کو فروخت کر کے دوسری مسجد میں لگانا	۷۶۹
 مسجد بنانے کی غرض سے خریدی گئی زمین کی قیمت ادا کرنے سے قبل مسجد کی تعمیر	۷۶۹
۴۵۰ مدرسہ کی زمین کس کے ہاتھ فروخت کی جائے	۷۶۹
۴۵۱ مدرسہ کی زمین بیچ کر اپنا قرضہ وصول کرنا	۷۶۹
۴۵۲ آبادی کے لیے قبرستان فروخت کر کے دوسری جگہ اس کی زمین خریدنا	۷۶۹
۴۵۴ قبرستان کو فروخت کرنا	۷۷۰
۴۵۵ وقف کردہ ذاتی قبرستان کی خالی زمین کو فروخت کرنا	۷۷۰
۴۵۶ برانے قبرستان کی خرید و فروخت	۷۷۰
۴۵۷ جس مکان میں قبرستان کی جگہ آگئی اس کو خریدنا	۷۷۰
۴۵۸ چہار دیواری کے لیے قبرستان کی کچھ زمین فروخت کرنا	۷۷۰

۴۵۹	قبرستان کے درخت فروخت کر کے چہار دیواری قائم کرنا	۷۷۰۵
۴۶۰	قبرستان کی چہار دیواری کیلئے زمین کو فروخت کرنا	۷۷۰۶
۴۶۲	(۵) باب استبدال الأوقاف	
۴۶۲	مسجد کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا	۷۷۰۷
۴۶۳	مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا	۷۷۰۸
۴۶۴	مسجد منتقل کرنے کا حکم	۷۷۰۹
۴۶۵	کیا مسجد کی زمین کو تبدیل کرنے کی شرعا گنجائش ہے؟	۷۷۱۰
۴۶۶	مسجد کے موقوفہ مکان کو دوسری مسجد میں تبدیل کرنا	۷۷۱۱
۴۶۷	مسجد اور اس کی زمین کا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا	۷۷۱۲
۴۶۹	مسجد کی زمین کا تبادلہ کرنا	۷۷۱۳
۴۷۱	مسجد کی زمین کا تبادلہ کب جائز ہے؟	۷۷۱۴
۴۷۲	نماز کے لیے مخصوص مسجد کی جگہ کو دوسرے مقصد میں استعمال کرنا	۷۷۱۵
۴۷۳	مسجد کی جگہ تبدیل کرنا	۷۷۱۶
۴۷۴	مسجد کی زمین کے تبادلہ کا حکم	۷۷۱۷
۴۷۶	واقف کی اجازت سے مسجد کی زمین کو دوسری زمین سے بدلنا	۷۷۱۸
۴۷۷	مسجد کے لیے دی گئی زمین کو دوسری بری زمین سے تبدیل کرنا	۷۷۱۹
۴۷۹	مسجد کے مکان کا دوسرے مکان سے تبادلہ کرنا	۷۷۲۰
۴۸۰	مسجد کی آراضی موقوفہ کا استبدال	۷۷۲۱
۴۸۲	مسجد کی زمین کا دوسری جگہ سے تبادلہ کرنا	۷۷۲۲
۴۸۳	مسجد کے کونے کو عذر کی بناء پر مسجد سے خارج کرنا	۷۷۲۳
۴۸۴	مسجد کا بعض حصہ سڑک میں شامل کر کے دوسری جانب زمین لینا	۷۷۲۴
۴۸۷	مسجد کا حصہ قیمت یا بلا قیمت پڑوسی کو دینا	۷۷۲۵
۴۸۹	نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے درمیان کی مسجد کے تبادلہ کا مسئلہ	۷۷۲۶
۴۹۰	واقف کے وارث کا موقوفہ مکان کو ایک ہزار روپے کے بدلہ لینا	۷۷۲۷
۴۹۱	مسجد کی زمین میں ذاتی رقم سے رہائشی مکان تعمیر کرنا	۷۷۲۸
۴۹۲	مسجد کی دیوار توڑ کر اس کو پختہ بنا کر اپنے مکان کی چھت ڈالنا	۷۷۲۹
۴۹۳	مسجد کے ماتحت مدرسہ یا دینی ہال بنانا	۷۷۳۰

۴۹۵ مسجد کو مدرسہ اور وضو خانہ میں تبدیل کرنا	۷۷۳۱
۴۹۷ مسجد کی زمین مدرسہ کو وقف کرنا	۷۷۳۲
۴۹۷ نامعلوم پوشیدہ قبر کو ہموار کر کے اس زمین میں مسجد مدرسہ بنانا	۷۷۳۳
۴۹۸ مسجد کے وضو خانہ پر اسکول کا حکم	۷۷۳۴
۴۹۹ مسجد کی جائیداد اور کمروں میں اسکول چلانا	۷۷۳۵
۵۰۰ خفیہ طور پر مسجد کی زمین میں ہسپتال یا اسکول بنانا	۷۷۳۶
۵۰۲ مسجد میں اسکول قائم کرنا	۷۷۳۷
۵۰۵ مسجد و مدرسہ کی زمین میں سرکاری اسکول بنانا	۷۷۳۸
۵۰۶ مسجد کی موقوفہ زمین میں اسکول بنانا	۷۷۳۹
۵۰۷ کارپارنگ کی منزل کو مسجد بنانا	۷۷۴۰
۵۰۸ مسجد کی جگہ مندر بنانے کی حمایت کرنا	۷۷۴۱
۵۰۹ مسجد کی جگہ میں اسکول بنانا	۷۷۴۲
۵۱۱ مسجد کی زمین مندر بنانے کے لیے دینا جائز نہیں	۷۷۴۳
۵۰۲ مسجد کا کچھ حصہ دوکان بنانے میں لینا	۷۷۴۴
۵۱۳ وقف کردہ مکان کو وقف تام ہونے کے بعد بدلنا	۷۷۴۵
۵۱۴ مسجد کی زمین پر رفاہی ہسپتال قائم کرنا	۷۷۴۶
۵۱۶ غیر وقف شدہ مدرسہ کی زمین کا تبادلہ کرنا	۷۷۴۷
۵۱۸ مدرسہ کو ماڈرن اسکول میں تبدیل کرنا	۷۷۴۸
۵۲۰ مدرسہ کی زمین پر سرکاری مدرسہ یا اسکول بنانا	۷۷۴۹
۵۲۱ پرانی قبروں پر مدرسہ کا بیت الخلاء بنانا	۷۷۵۰
۵۲۲ موقوفہ قبرستان میں دوکان، کارخانہ وغیرہ کی تعمیر	۷۷۵۱
۵۲۴ مزار پر لینئر ڈال کر مدرسہ بنانا	۷۷۵۲
۵۲۵ کیا قبرستان میں بنائی گئی مسجد میں پڑھی گئی نمازیں واجب الاعادہ ہیں؟	۷۷۵۳
۵۲۵ مدرسہ کو مسجد بنانا	۷۷۵۴
۵۲۶ مدرسہ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا	۷۷۵۵
۵۲۷ مدرسہ کے نام سے دی گئی زمین پر مسجد اور قبرستان بھی بنانا	۷۷۵۶
۵۲۹ وقف شدہ غیر مستعمل کنواں پر مدرسہ کی تعمیر کرنا	۷۷۵۷
۵۳۱ مدرسہ کی زمین پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم	۷۷۵۸

۵۳۲ گرام سماج کی زمین میں مدرسہ بنانا	۷۷۵۹
۵۳۳ موقوفہ بوسیدہ قبرستان پر دینی مدرسہ بنانا	۷۷۶۰
۵۳۴ مدرسہ کی آراضی کو مزار میں شامل کرنا	۷۷۶۱
۵۳۵ مدرسہ کی جگہ پر قبرستان بنانا	۷۷۶۲
۵۳۶ مدرسہ کو منتقل کرنا	۷۷۶۳
۵۳۸ مسجد و مدرسہ کی زمین کا تبادلہ کرنا	۷۷۶۴
۵۳۹ مدرسہ کی زمین پر اسکول کھولنا	۷۷۶۵
۵۴۰ قبرستان میں پلر لگا کر اس پر مسجد بنانا	۷۷۶۶
۵۴۱ قبرستان کی آراضی میں مسجد تعمیر کرنا	۷۷۶۷
۵۴۲ بوسیدہ قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا	۷۷۶۸
۵۴۳ بوسیدہ قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا	۷۷۶۹
۵۴۴ قبرستان کی زمین کو مسجد میں صرف کرنا	۷۷۷۰
۵۴۵ قبرستان کی خالی جگہ میں اتفاق رائے سے مسجد بنانا	۷۷۷۱
۵۴۶ قبرستان کی افتادہ زمین میں مسجد بنانا	۷۷۷۲
۵۴۷ قبرستان کی فاضل زمین پر مسجد بنانا	۷۷۷۳
۵۵۰ قبرستان کی فاضل زمین پر مسجد بنانے کا حکم	۷۷۷۴
۵۵۴ بہت پرانی قبروں پر مسجد بنانا	۷۷۷۵
۵۵۵ مملوکہ قبرستان میں توسیع مسجد باجارت مالکان	۷۷۷۶
۵۵۶ بوسیدہ قبروں کو مسجد کی توسیع میں داخل کرنا	۷۷۷۷
۵۵۶ پرانے قبرستان میں مسجد بنا کر نماز پڑھنا	۷۷۷۸
۵۵۸ قبرستان کی خالی زمین پر عبادت گاہ بنانا	۷۷۷۹
۵۵۹ پندرہ سال پرانی قبروں کو ختم کر کے مسجد بنانا	۷۷۸۰
۵۶۰ قبرستان یا میونسپل بورڈ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا	۷۷۸۱
۵۶۲ قبرستان میں مسجد یا کار پارکنگ بنانا	۷۷۸۲
۵۶۳ قبر برابر کر کے مسجد کی صف میں شامل کرنا	۷۷۸۳
۵۶۴ قبرستان میں مسجد و مدرسہ کی تعمیر کی شرعی حیثیت	۷۷۸۴
۵۶۶ ۳۱ رسال سے خالی پڑے قبرستان میں مسجد یا مدرسہ بنانا	۷۷۸۵
۵۶۷ قبر کو مسمار کر کے اس پر مسجد یا مدرسہ بنانا	۷۷۸۶

۵۶۸ پرانے قبرستان میں مدرسہ و مسجد قائم کرنا	۷۷۸۷
۵۷۰ افتادہ قبرستان میں مسجد یا مدرسہ قائم کرنا	۷۷۸۸
۵۷۱ بوسیدہ قبرستان میں مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا	۷۷۸۹
۵۷۳ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مردے دفن کرنا یا مسجد بنانا	۷۷۹۰
۵۷۴ نجی قبرستان میں مدرسہ کی تعمیر	۷۷۹۱
۵۷۶ قبرستان کے اوپر مدرسہ بنانا	۷۷۹۲
۵۷۶ قبرستان میں پلہ قائم کر کے مدرسہ بنانا	۷۷۹۳
۵۷۸ پرانا مقوقہ قبرستان کو ناجائز قبضے سے بچانے کیلئے اس پر دینی مدرسہ بنانا	۷۷۹۴
۵۷۹ افتادہ قبرستان کو غلاظت چھینکنے کی وجہ سے مدرسہ میں منتقل کرنا	۷۷۹۵
۵۸۱ قبرستان کی جگہ مدرسہ بنانا	۷۷۹۶
۵۸۲ ذاتی قبرستان میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے مکتب بنانا	۷۷۹۷
۵۸۳ بوسیدہ قبرستان میں اسکول بنانا	۷۷۹۸
۵۸۵ بوسیدہ قبرستان میں لڑکیوں کا اسکول بنانا	۷۸۹۹
۵۸۷ افتادہ قبرستان میں مکتب بنانا اور عید کی نماز ادا کرنا	۷۸۰۰
۵۸۸ پرانے قبرستان میں عید گاہ بنانے کا حکم	۷۸۰۱
۵۹۰ عید گاہ کی توسیع کے لیے قبرستان کی جگہ لینا	۷۸۰۲
۵۹۱ قبرستان کی وقف شدہ زمین میں عید گاہ بنانا	۷۸۰۳
۵۹۲ پرانے قبرستان کو جنازہ گاہ بنانا	۷۸۰۴
۵۹۳ ویران قبرستان میں وقتی طور پر قربان گاہ بنانا	۷۸۰۵
۵۹۵ قبرستان کی زمین میں لیٹرین کا گھر بنانا	۷۸۰۶
۵۹۶ بوسیدہ قبرستان جو گندگی چھینکنے کا مرکز ہے اس کو کس کام میں لایا جائے؟	۷۸۰۷
۵۹۷ قبرستان میں مسجد کا کمرہ بنا کر فیکلی کے ساتھ رہائش اختیار کرنا	۷۸۰۸
۵۹۸ صدیوں پرانی قبر کو برابر کر کے اس پر مکان تعمیر کرنا	۷۸۰۹
۵۹۹ مملوکہ زمین میں ساٹھ سالہ پرانی قبر پر تعمیر کرنا	۷۸۱۰
۶۰۰ زیر ملکیت قبرستان کو اپنی ضرورت میں صرف کرنا	۷۸۱۱
۶۰۱ قبرستان کی آراضی کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرنا	۷۸۱۲
۶۰۲ قبرستان کی جگہ پر اپنا کارخانہ بنانا	۷۸۱۳
۶۰۲ قبرستان کی جگہ پر قبضہ کرنے، لکڑیاں ڈالنے، وغیرہ کا حکم	۷۸۱۴

۶۰۳	قدیم قبرستان کو طعام گاہ بنانا	۷۸۱۵
۶۰۴	پرانے قبرستان کو شادی ہال بنانا	۷۸۱۶
۶۰۶	بوسیدہ قبرستان میں شادی ہال اور ہسپتال بنانا	۷۸۱۷
۶۰۸	قبرستان کے اوپر لپسٹریڈال کروڈ بنانا اور بدلے میں دوسری زمین لینا	۷۸۱۸
۶۰۹	قبروں کو مٹا کر پختہ راستہ بنانا	۷۸۱۹
۶۱۰	پختہ راستہ بناتے وقت قبر آجائے تو کیا کریں؟	۷۸۲۰
۶۱۱	قبرستان عامہ کی چہار دیواری توڑ کر لیب سڑک دوکان بنانا	۷۸۲۱

۶۱۳	(۶) باب المساجد
-----	------------------------

۶۱۳	مسجد کا محافظ کون اور مسجد شرعی	۸۸۲۲
۶۱۴	مسجد کی حفاظت کا ذمہ دار کون؟	۷۸۲۳
۶۱۵	موجودہ زمانے میں کسی مسجد کو مسجد حرام یا مسجد اقصیٰ یا مسجد نبوی سے موسوم کرنا حکم	۷۸۲۴
۶۱۶	حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت کہاں کہاں ہے؟	۷۸۲۵
۶۱۷	کیا حرمین شریفین میں نماز کی فضیلت عورتوں کے لیے بھی ہے؟	۷۸۲۶
۶۱۸	کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا مطاف اور مسقف عمارت بھی مسجد حرام ہی ہے	۷۸۲۷
۶۱۹	کیا ایک دفعہ نماز پڑھنے سے شرعی مسجد بن جائے گی	۷۸۲۸
۶۲۱	ذاتی زمین میں مسجد بنا کر نماز کی اجازت دینے سے کیا مسجد شرعی ہو جائے گی؟	۷۸۲۹
۶۲۲	نو تعمیر مسجد کو مسجد کا حکم کب حاصل ہوگا؟	۷۸۳۰
۶۲۳	کیا مسجد شرعی ہونے کے لیے وقف ضروری ہے؟	۷۸۳۱
۶۲۴	مسجد کے لیے وقف شدہ زمین پر مسجد بنانا	۷۸۳۲
۶۲۵	وقف تام ہونے سے قبل اس پر مسجد تعمیر کرنا	۷۸۳۳
۶۲۸	مسجد اور اس کے متعلق چند مسائل	۷۸۳۴
۶۳۱	مسجد شرعی بننے کے بعد نمازیوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روکنا	۷۸۳۵
۶۳۳	دو سال پرانی مسجد جس کے مقوقف ہونے کا ثبوت نہ ہو مقوقف کہلائے گی؟	۷۸۳۶
۶۳۴	کیا عید گاہ مسجد کے حکم میں ہے؟	۷۸۳۷
۶۳۵	جہاں سے سارے مسلمان دوسری جگہ چلے گئے ان کی مساجد کا حکم	۷۸۳۸
۶۳۶	مسجد شرعی بنا کر داماد کے نام رجسٹری کرنا	۷۸۳۹
۶۳۸	مسجد کی زمین اپنے نام رجسٹری کرانے کا حکم	۷۸۴۰

۶۴۰۰ مسجد سے دستبرداری یا منتقلی	۴۸۴۱
۶۴۱ گھر کے مقابلے میں مسجد کی جماعت میں شرکت کا حکم	۴۸۴۲
۶۴۲ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کب حاصل ہوگا	۴۸۴۳
۶۴۳ محراب سے آگے کا حصہ مسجد میں شامل نہیں	۴۸۴۴
۶۴۵ قبرستان کے پتھوں بیچ بنی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم	۴۸۴۵
۶۴۶ بابر مسجد کی حفاظت کے لیے تحریک چلانا	۴۸۴۶
۶۴۷ کیا بابر مسجد کے لیے چلائی جانے والی تحریک اسلامی ہے؟	۴۸۴۷
۶۴۸ بابر مسجد کی اراضی تا قیامت مسجد ہے	۴۸۴۸
۶۵۰ کیا مسجد کی مسجد ت کو ختم کرنے کی کوئی صورت ہے؟	۴۸۴۹
۶۵۱ چالیس دن نماز نہ پڑھنے یا مورتیاں نصب کرنے سے مسجد ت ختم نہیں ہوتی	۴۸۵۰
 واقف نے اگر وقف کے وقت نیچے دوکان وغیرہ کی نیت کی اور اوپر مسجد	۴۸۵۱
۶۵۲ بنانے کی تو یہ درست ہے؟	۴۸۵۲
۶۵۳ کیا مسجد میں مالکانہ تصرف کا حق ہے؟	۴۸۵۳
۶۵۵ کسی شخص کا اپنی مسجد میں آنے سے روکنا اور اس میں نماز جمعہ و عیدین کا حکم	۴۸۵۴
۶۵۶ مسجد کو اپنی جاگیر سمجھنا	۴۸۵۵
۶۵۷ واقف کے ورثاء کا یہ دعویٰ کرنا کہ مسجد ہمارے باپ دادا کی ملکیت ہے	۴۸۵۶
۶۶۰ فتنہ برپا کرنے والے کو مسجد سے روک دیا جائے تو کیا اس میں جمعہ پڑھنا صحیح ہے	۴۸۵۷
۶۶۱ بے پردگی اور دیگر منکرات سے بچنے کے لیے مسجد کا دروازہ اور کھڑکی بند کرنا	۴۸۵۸
۶۶۳ مال کو عارضی طور پر مسجد بنانا	۴۸۵۹
۶۶۴ کسی مال میں باجماعت نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملتا	۴۸۶۰
۶۶۶ سہ منزلہ عمارت کے مالک کا دوسری منزل کو مسجد کے لیے وقف کرنا	۴۸۶۱
۶۶۷ مدرسہ کی دیوار پر پلینسٹر ڈال کر نماز پڑھنا	۴۸۶۲
۶۶۸ صحن مسجد، برآمدہ اور چھت پر جماعت	۴۸۶۳
۶۶۹ ایسی جگہ پر مسجد بنانا جس کے نیچے کاروبار ہوتا ہو	۴۸۶۴
۶۷۱ فرم میں مسجد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟	۴۸۶۵
۶۷۱ جماعت خانہ کی جگہ پر زبردستی دوکان بنانا	۴۸۶۶
۶۷۲ جس جگہ پر تین سال نماز پڑھی جائے اس پر بیت الخلاء بنانا	۴۸۶۷
۶۷۴ قدیم نماز گاہ میں بیت الخلاء بنانا	۴۸۶۸

۲۴ / بقیۃ کتاب الوقف

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر:	الفصل الثالث: مسجد قدیم
۳۵	۷۸۶۸	ویران شدہ مسجد کا حکم
۳۶	۷۸۶۹	اجڑے ہوئے علاقہ کی ویران مسجد کا حکم
۳۷	۷۸۷۰	کیا غیر آباد مسجد کی حفاظت لازم ہے؟
۳۸	۷۸۷۱	غیر آباد علاقہ میں مسجد کا حکم

الفصل الرابع: تعدد مساجد

۴۰	۷۸۷۲	دو مساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟
۴۱	۷۸۷۳	مسجد شرعی کے قریب دوسری مسجد بنانا
۴۲	۷۸۷۴	مسجد سے متصل عناد کی بناء پر دوسری مسجد بنانا
۴۵	۷۸۷۵	جھگڑے کی وجہ سے دو مسجدوں میں سے ایک کو بند کرنا
۴۶	۷۸۷۶	غیر آباد مسجد کے قریب آپسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا
۴۷	۷۸۷۷	گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہونے کے باوجود دوسری مسجد بنانے کا حکم
۴۸	۷۸۷۸	چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنے اور چند شرائط پر مسجد بنانے کا حکم
۵۰	۷۸۷۹	کمیٹی سے ناراضگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا
۵۱	۷۸۸۰	ضد کی وجہ سے مسجد بنانے کے بعد تصحیح نیت
۵۲	۷۸۸۱	بڑے گاؤں میں مسجد سے دور ایک ہی محلہ میں دوسری مسجد بنانا
۵۳	۷۸۸۲	ایک ہی گاؤں میں دو مسجدیں بنانا
۵۵	۷۸۸۳	ایک گاؤں میں تیسری مسجد بنانا

الفصل الخامس: امام ومؤذن کے احکام



۵۷ مسجد کا امام و متولی کیسا ہو؟	۷۸۸۴
۵۸ غیر امام کا منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا	۷۸۸۵
۵۹ امام کی رہائش کا انتظام کس پر لازم ہے؟	۷۸۸۶
 امامت سے معزولی کے بعد مسجد کے مکان میں رہنے یا اس	۷۸۸۷
۶۱ کے متبادل کے مطالبہ کا حکم	
۶۳ امام کا اپنے بیٹے کو امام بنانا اور مسجد کا مکان خالی نہ کرنا	۷۸۸۸
۶۶ مسجد سے متصل حجرہ میں امام صاحب کی فیملی کا قیام	۷۸۸۹
۶۷ مسجد کی چھت پر مدرسہ یا امام صاحب کیلئے حجرہ بنانا	۷۸۹۰
۶۸ مسجد کی زمین پر امام صاحب کے لئے مکان بنانا	۷۸۹۱
۷۰ وضو خانہ پر بنے کمرے میں امام صاحب کا مع اہل و عیال قیام کرنا	۷۸۹۲
۷۰ مسجد کے وضو خانہ کے اوپر فیملی کو اٹھتے ہوئے کرنا	۷۸۹۳
۷۱ امام صاحب یا ان کی اولاد کا مسجد کا پتکھا استعمال کرنا	۷۸۹۴
۷۳ امام صاحب کی فیملی کا مسجد کا پانی استعمال کرنا	۷۸۹۵
۷۴ مسجد کے حجرہ کو تعویذ خانہ بنانا	۷۸۹۶
۷۵ مسجد کے بورنگ سے امام صاحب کے کمرے میں کنکشن دینا	۷۸۹۷
 امام صاحب کا مسجد کی بجلی استعمال کرنا اور طلبہ کا مدرسہ کی	۷۸۹۸
۷۶ بجلی سے پر لیس کرنا	
۷۹ کیا ائمہ مساجد وقف بورڈ کی شرائط کے پابند ہیں؟	۷۸۹۹
۸۱ مسجد کے ضعیف العمر امام کے لئے منجانب مسجد پینشن	۷۹۰۰
۸۲ مستقل امام کو رمضان میں رقم جمع کر کے ہدیہ دینا	۷۹۰۱

۸۴ مسجد کی موقوفہ زمین کی آمدنی سے مدرس کو تنخواہ دینا.....	۷۹۰۲
۸۶ مسجد کی آمدنی سے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا.....	۷۹۰۳
۸۷ غریب امام کی مسجد کے فنڈ سے امداد کرنا.....	۷۹۰۴
۸۸ محلہ والوں سے چندہ کر کے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا.....	۷۹۰۵
۸۸ تنخواہ سے ہٹ کر الگ سے امام کی اعانت کرنا.....	۷۹۰۶
۸۹ ایام تعطیل کی تنخواہ کا مستحق امام یا نائب.....	۷۹۰۷
۹۰ امام صاحب کا رخصت کے ایام کی تنخواہ وصول کرنا.....	۷۹۰۸
۹۲ بلا چھٹی کے گھر پر رہنے والے امام صاحب کی تنخواہ کا ٹٹنا.....	۷۹۰۹
۹۳ مسجد کی رقم سے مؤذن کے ضمانتیوں کو پیسہ دینا.....	۷۹۱۰
۹۳ امام کے لئے دی گئی رقم کا استعمال دوسرے مصرف میں کرنا.....	۷۹۱۱
۹۴ امام صاحب کا مسجد کی زمین میں کھیتی کرنا.....	۷۹۱۲
	مساجد کے طاقوں میں رکھے ہوئے پکوان کا امام و مؤذن	۷۹۱۳
۹۵ کے لئے کھانا کیسا ہے؟.....	

۶/الفصل: مسجد میں سونے اور ٹھہرنے کا بیان

۹۷ عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے والے شخص کا مسجد میں سونا	۷۹۱۴
۹۸ گاؤں والوں کا ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے سچے میں آرام کرنا	۷۹۱۵
۹۹ اہل محلہ کا مسجد میں سونا اور نہانا.....	۷۹۱۶
۱۰۰ کیا مسجد میں محلہ کے حافظ صاحب سو سکتے ہیں؟.....	۷۹۱۷
۱۰۱ مسجد کے وضو خانہ میں غسل کرنا.....	۷۹۱۸

۷/الفصل: توسیع مسجد سے متعلق احکام

۱۰۳ پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنا.....	۷۹۱۹
-----	--	------

۱۰۴ پرانی مسجد شہید کر کے تعمیر جدید کرنا۔	۷۹۲۰
۱۰۵ پرانی مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر کرنا۔	۷۹۲۱
۱۰۶ تعمیر جدید کی صورت میں مسجد میں رد و بدل کرنا۔	۷۹۲۲
۱۰۷ زیر تعمیر مسجد میں نماز کو موقوف رکھنا۔	۷۹۲۳
۱۰۸ کیا تعمیر جدید کے دوران نماز کا قائم رکھنا ضروری ہے؟	۷۹۲۴
۱۰۹ محراب نیچے منزل میں بنائی جائے یا اوپر والی میں؟	۷۹۲۵
۱۱۱ بالائی منزل پر جانے کے لئے حدود مسجد میں سیڑھی بنانا۔	۷۹۲۶
۱۱۳ مسجد کے حوض و صحن اور اس سے ملحق عمارت کے نیچے تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۷
۱۱۶ مسجد کے نیچے تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۸
۱۱۸ مسجد کی قدیم سطح میں تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۹
۱۱۹ مسجد قدیم کی تعمیر جدید میں تہ خانہ بنانا۔	۷۹۳۰
۱۲۱ قدیم مسجد کو منہدم کر کے نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد بنانا۔	۷۹۳۱
۱۲۲ مسجد منہدم کر کے اس کے احاطہ میں مدرسہ اور مسجد بنانا۔	۷۹۳۲
۱۲۲ تعمیر جدید میں نچلی منزل میں وضو خانہ اور دوسری میں مسجد تعمیر کرنا۔	۷۹۳۳
۱۲۳ مسجد کی توسیع کے وقت دوکانوں کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھانا۔	۷۹۳۴
۱۲۴ مسجد کے نیچے حصہ میں دوکان بنا کر اوپر مسجد بنانا۔	۷۹۳۵
۱۲۶ غسل خانہ و پیشاب خانہ کی جگہ کو مسجد کے دالان میں شامل کرنا۔	۷۹۳۶
۱۲۷ مملوکہ قبرستان میں مسجد کا چھبہ اور جنگلہ کھولنا۔	۷۹۳۷
۱۲۹ قبروں کی جگہ کو ہموار کر کے مسجد کے حصہ میں لینا۔	۷۹۳۸
۱۳۰ توسیع مسجد میں قبروں کو شامل کرنا۔	۷۹۳۹
۱۳۱ پرانی قبروں کو ہموار کر کے مسجد کے فرش میں شامل کرنا۔	۷۹۴۰
۱۳۲ پرانی قبروں کی جگہ کو حدود مسجد میں شامل کرنا۔	۷۹۴۱

۱۳۴ مسجد کی توسیع میں قبرستان کو شامل کرنا	۷۹۴۲
۱۳۵ سڑک کے کچھ حصہ کو مسجد میں شامل کرنے کا حکم	۷۹۴۳
۱۳۶ راستہ کو مسجد کی توسیع میں شامل کرنا	۷۹۴۴
۱۳۷ موقوفہ ہسپتال کو توسیع مسجد کے لئے فروخت کرنا	۷۹۴۵
۱۳۹ توسیع مسجد کے وقت غیر ضروری مکان کو کرایہ پر باقی رکھنا	۷۹۴۶
۱۴۰ مسجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی ہے، اس میں جزئیٹروم بنانا	۷۹۴۷
۱۴۱ مسجد کے وضو خانہ، حوض، پیشاب خانہ وغیرہ کی جگہ دوکانیں تعمیر کرنا	۷۹۴۸

۸/ الفصل: مسجد میں تصرف کرنے کا بیان



۱۴۳ امام صاحب کے مصلے کا فرش ایک رڈہ اونچا ہونا	۷۹۴۹
۱۴۳ محراب کے نیچے ستون کا بنوانا ضروری ہے یا نہیں؟	۷۹۵۰
 غلط رخ پر بنی ہوئی اور قابل مرمت مسجد کو شہید کر کے صحیح رخ پر تعمیر کرنا	۷۹۵۱
۱۴۴ بے پردگی کی وجہ سے مسجد کے گیٹ کا رخ تبدیل کرنے کا حکم	۷۹۵۲
۱۴۹ حکومت کی ناجائز رکاوٹ مسجد شرعی ہونے میں مغل نہیں	۷۹۵۳
۱۵۰ مسجد کے صحن میں پانی کا موٹر لگانا یا وضو خانہ بنانا	۷۹۵۴
۱۵۱ نچلی منزل میں غسل خانہ وغیرہ بنانا اور اوپر مسجد تعمیر کرنا	۷۹۵۵
۱۵۲ مسجد کے جماعت خانہ میں وضو خانہ کی تعمیر	۷۹۵۶
۱۵۳ جنازہ رکھنے کے لئے جانب قبلہ کی دیوار توڑ کر دروازہ لگانا	۷۹۵۷
۱۵۴ بالائی منزل پر جانے کے لئے جماعت خانہ میں سیڑھی بنانا	۷۹۵۸
۱۵۸ داخل مسجد بالائی منزل پر جانے کے لئے زینہ بنانا	۷۹۵۹
۱۶۳ دوکان یا مکان کی چھت پر مسجد بنانا	۷۹۶۰

- ۷۹۶۱ مسجد کی موقوفہ زمین میں نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانا..... ۱۶۷
- ۷۹۶۲ دو منزلہ مسجد بنا کر نیچے دوکان بنانا..... ۱۶۷
- ۷۹۶۳ حدود مسجد سے باہر مسجد کا سامان رکھنے کے لئے حجرہ بنانا..... ۱۶۸
- ۷۹۶۴ مسجد کا دروازہ توڑ کر مدرسہ کا چھجکا لگانا..... ۱۷۰
- ۷۹۶۵ احاطہ مسجد میں تبلیغی جماعت کی کمیٹی کا اپنے مصارف سے مطبخ تعمیر کرنا..... ۱۷۰
- ۷۹۶۶ منبر سے متصل مغربی جانب مسجد کا بیت الخلاء وغیرہ بنانا..... ۱۷۱
- ۷۹۶۷ مسجد میں انگریزی بیت الخلاء بنانا..... ۱۷۲
- ۷۹۶۸ اپنے اور مسجد کے پیسہ کو ملا کر تعمیر کرایا گیا کمرہ کس کی ملک ہے؟..... ۱۷۳
- ۷۹۶۹ رام لکھی ہوئی اینٹوں سے مسجد تعمیر کرنا..... ۱۷۵
- ۹ الفصل التاسع: مسجد کی رقم ضروریات مسجد □
- میں صرف کرنے کا بیان
- ۷۹۷۰ مسجد کی رقم سے ضروریات مسجد کے لئے کمرہ بنانا..... ۱۷۷
- ۷۹۷۱ مدرسہ کی آمدنی کو مسجد کی ضرورتوں میں صرف کرنا..... ۱۷۸
- ۷۹۷۲ مسجد کے کام کے لئے مسجد کی رقم سے کرایہ دینا..... ۱۷۹
- ۷۹۷۳ مسجد کے روپیہ سے ٹسکی وغیرہ خریدنا؟..... ۱۸۰
- ۷۹۷۴ مسجد کی رقم سے اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر خریدنا..... ۱۸۰
- ۷۹۷۵ مسجد کی رقم سے مائک خریدنا..... ۱۸۱
- ۷۹۷۶ مسجد کی دوکان کو فروخت کر کے آمدنی تعمیر مسجد میں لگانے کا حکم..... ۱۸۲

۱۰۔ الفصل العاشر: ایک مسجد کی اشیاء کا دوسری مسجد میں استعمال

- ۱۸۴ مسجد کی آمدنی کے لئے موقوفہ زمین پر مسجد تعمیر کرنا۔ ۷۹۷۷
- ۱۸۵ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا کب جائز ہے؟ ۷۹۷۸
- ۱۸۶ ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں دینا۔ ۷۹۷۹
- ۱۸۷ ایک مسجد کے بچے ہوئے تعمیری سامان کو دوسری مسجد میں لگانا۔ ۷۹۸۰
- ۱۸۸ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا۔ ۷۹۸۱
- ۱۹۰ ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا۔ ۷۹۸۲
- ۱۹۱ کیا ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد یا مدرسہ میں صرف کر سکتے ہیں؟ ۷۹۸۳
- ۱۹۲ ایک مسجد کی جانماز معطلی کی اجازت سے دوسری مسجد میں دینا۔ ۷۹۸۴
- ۱۹۳ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا۔ ۷۹۸۵
- ۱۹۴ پرانی مسجد کی جائیداد و رقم نئی مسجد میں لگانا۔ ۷۹۸۶

۱۱۔ الفصل الحادی عشر: اشیاء مسجد کا استعمال

- ۱۹۶ مسجد میں موجود تاڑی کے درخت کی آمدنی کا مصرف۔ ۷۹۸۷
- ۱۹۷ کیا مسجد کی چیزوں کا استعمال عوام کے لئے جائز ہے؟ ۷۹۸۸
- ۱۹۹ مسجد کی دیوار میں تصرف کر کے دوکان بنانا۔ ۷۹۸۹
- ۲۰۰ مسجد کی چٹائی وغیرہ کا عید گاہ میں استعمال کا حکم۔ ۷۹۹۰
- ۲۰۱ مسجد کی صفوں اور لاؤڈ اسپیکر کو عید گاہ میں لے جانا۔ ۷۹۹۱
- ۲۰۱ متولی یا عوام کا مسجد کا موٹر چلا کر ذاتی طور پر پانی استعمال کرنا۔ ۷۹۹۲
- ۲۰۲ ذاتی ضرورت کے لئے مسجد کی لائٹ پنکھا وغیرہ استعمال کرنا۔ ۷۹۹۳

۲۰۳	مسجد کی بجلی کے بل کی ادائیگی کرنے والے کا اپنے گھر میں کنکشن لینا	۷۹۹۴
۲۰۴	مسجد کا کالریج کر بجلی کا بل ادا کرنا	۷۹۹۵
۲۰۵	مقروض مسجد میں پانی گرم کرنے کے لئے گیر لگوانا	۷۹۹۶
۲۰۶	مسجد کا سامان غصب کرنے کا حکم؟	۷۹۹۷
۲۰۷	غیر شرعی مسجد کا ملبہ اپنے کام میں لانا	۷۹۹۸
۲۰۸	مسجد میں آئی مٹھائی و پھل کا استعمال	۷۹۹۹
۲۰۹	شادی میں مسجد کی ٹینکی کا پانی استعمال کرنا	۸۰۰۰
۲۱۰	مسجد کے پڑوسیوں کا مسجد سے پانی بھرنا	۸۰۰۱
۲۱۱	مسجد کا لوٹالے کر مدرسہ میں وضو کرنا	۸۰۰۲
۲۱۲	مسجد میں لگے درخت کا پھل کھانا	۸۰۰۳
۲۱۳	مسجد کی دیوار پر اپنے گھر کا بھیم یا لینٹر رکھنا	۸۰۰۴

۱۲ / الفصل الثانی عشر: مسجد کی رقم کا



دوسری جگہ استعمال

۲۱۵	مسجد کا سامان عید گاہ کے لئے استعمال کرنے کا حکم	۸۰۰۵
۲۱۶	مسجد کی چیزیں عید گاہ یا دیگر دینی امور میں استعمال کرنا	۸۰۰۶
۲۱۶	مسجد کے نام پر چندہ کر کے مدرسہ کے اساتذہ کو تنخواہ دینا	۸۰۰۷
۲۱۷	مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں صرف کرنا	۸۰۰۸
۲۱۸	مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں لگانا جائز ہے یا نہیں	۸۰۰۹
۲۲۰	مسجد کی مد سے مدرس کی تنخواہ دینا	۸۰۱۰
۲۲۱	مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کی تعمیر میں لگانا	۸۰۱۱
۲۲۲	مسجد کی آمدنی دارالافتاء و مدرسہ کے مصارف میں لگانا	۸۰۱۲

۲۲۳ مسجد کے فنڈ سے افطار کا انتظام کرنا	۸۰۱۳
۲۲۴ مسجد یا مدرسہ کی رقم ذاتی تجارت میں لگانا	۸۰۱۴
۲۲۵ مسجد یا مدرسہ کی رقم سے کاروبار کرنا یا قرض دینا	۸۰۱۵
۲۲۷ مسجد کی رقم سے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس مسجد کو دینا	۸۰۱۶
۲۲۸ مسجد کا پیسہ ذاتی معاملات کے لئے بطور قرض دینا	۸۰۱۷
۲۲۹ مسجد کی رقم کسی کو بطور قرض دینا	۸۰۱۸
۲۳۰ تبلیغی جماعت والوں کے لئے مسجد کے فنڈ سے بیت الخلاء بنانا	۸۰۱۹
۲۳۰ مسجد کی رقم سے سڑکیں بنانا	۸۰۲۰
۲۳۱ مسجد کے پیسے سے عام راستے کی نالی بنوانا	۸۰۲۱
۲۳۲ مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چارپائی و تختہ وغیرہ خریدنا	۸۰۲۲

۱۳۔ الفصل الثالث عشر: مساجد کی چیزیں



کرایہ پر دینے کا بیان

۲۳۴ کیا متولی اور کرایہ داروں پر معاہدہ کی پابندی لازم ہے؟	۸۰۲۳
۲۳۸ ذمہ داران مسجد کا کرائے دار سے ایک لاکھ روپیہ مانگنا	۸۰۲۴
۲۴۱ موقوفہ کرایہ کی دوکان میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی	۸۰۲۵
۲۴۳ مسجد کی آراضی کو کرایہ دار سے خالی کرانا	۸۰۲۶
۲۴۵ نیچے دوکان اوپر مسجد کا حکم	۸۰۲۷
۲۴۷ نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانے کا حکم	۸۰۲۸
۲۴۸ مسجد کے حصہ اور وضو خانہ کی جگہ پر دوکان بنانا	۸۰۲۹
۲۵۰ صحن مسجد کے نیچے دوکانیں تعمیر کرنا	۸۰۳۰
۲۵۱ مسجد کے نیچے خالی حصہ کو دوکان بنانا	۸۰۳۱

۲۵۲ مسجد کے نچلے حصہ کو رہائش گاہ بنانا.....	۸۰۳۲
۲۵۳ پٹہ پر زمین لے کر مسجد کی آمدنی کے لئے دوکانیں بنانا.....	۸۰۳۳
۲۵۴ مسجد کے فائدے کے لئے مسجد کے نیچے چوپال بنانا.....	۸۰۳۴
۲۵۵ مسجد کی سیڑھی کے نیچے کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۳۵
۲۵۶ مسجد کے لئے کرایہ کی دوکانیں و گودام بنانے کا حکم.....	۸۰۳۶
۲۵۸ مسجد کے گودام اور وضو خانہ کی چھت پر کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۳۷
۲۵۹ شرعی مسجد کے نیچے دوکانیں بنا کر کرایہ پر دینے کا حکم.....	۸۰۳۸
۲۶۰ مسجد کے نیچے بغرض آمدنی ہال بنانا.....	۸۰۳۹
۲۶۲ مسجد کی دوکان کو کرایہ پر دینے سے متعلق چند سوالات کے جوابات.....	۸۰۴۰
۲۶۴ مسجد کی دوکان اور مکان کرائے پر دینا.....	۸۰۴۱
۲۶۶ وقف کی جائیداد کا کرایہ کس تناسب سے ہو.....	۸۰۴۲
۲۶۹ مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا.....	۸۰۴۳
۲۷۰ مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا.....	۸۰۴۴
۲۷۱ مسجد کے کمرہ میں مدرس کا بلا کرایہ رہنا.....	۸۰۴۵
۲۷۲ مسجد کی دوکانیں کم اجرت میں کرائے پر دینا.....	۸۰۴۶
۲۷۴ چندہ کی شرط لگا کر مسجد کا کمرہ کم کرایہ پر دینے کا حکم.....	۸۰۴۷
۲۷۵ مسجد کے کرایہ دار سے مرمت وغیرہ کی شرط لگانا.....	۸۰۴۸
۲۷۷ موقوفہ جائیداد کی آمدنی بڑھانے کا حکم.....	۸۰۴۹
۲۷۸ مسجد کی زائد از ضرورت زمین کو کرایہ پر دینا.....	۸۰۵۰
۲۷۹ مسجد کے اوپر مدرسہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۵۱
۲۸۰ مسجد کے فائدے کے لئے دس بیگہ زمین کو بائیس بیگہ بنانا.....	۸۰۵۲
۲۸۲ مسجد کی دوکان کا کرایہ نہ ادا کرنے والے کا حج کرنا.....	۸۰۵۳

۲۸۴	میلے کے لئے کرایہ پردی گئی مسجد کی زمین کے کرایہ کا حکم	۸۰۵۴
۸۵	مسجد کی کرایہ دار عورت اگر تنگ دست ہو تو کیا کریں؟	۸۰۵۵
۲۸۵	مسجد کی بالائی منزل پر ٹیلر کی دوکان کرنا	۸۰۵۶
۲۸۶	مسجد کے مکان میں کرایہ دار کا جوا وغیرہ کھیلنا	۸۰۵۷
۲۸۷	مسجد کی دوکانوں میں ریڈیو کی دوکان کھولنا	۸۰۵۸
۲۸	مسجد کی دوکان شراب فروخت کرنے والے کو کرایہ پر دینا	۸۰۵۹
۲۸۸	مساجد کی املاک سودی کاروبار کرنے والوں کو دینا	۸۰۶۰
۲۹۰	مساجد کا سامان ہندو کو کرایہ پر دینا	۸۰۶۱
۲۹۱	مسجد کے مانگ سے اعلان کرنا	۸۰۶۲
۲۹۲	مسجد کے مانگ سے تقریر کرنا	۸۰۶۳

۱۴ | الفصل الرابع عشر: مسجد کی اشیاء



کی خرید و فروخت

۲۹۴	مسجد میں مسجد کی اشیاء کو فروخت کرنا	۸۰۶۴
۲۹۵	مسجد کا سامان بیچنا	۸۰۶۵
۲۹۶	مساجد کی اشیاء کے خرید و فروخت کا حکم	۸۰۶۶
۲۹۷	وقف شدہ قرآن کریم مسجد سے باہر لے جانا	۸۰۶۷
۲۹۸	مسجد کے بوسیدہ قرآن کریم کم قیمت میں ہدیہ پر دینا	۸۰۶۸
۲۹۹	مسجد کی چیز دوسری جگہ لے جانا	۸۰۶۹
۳۰۱	آلات مسجد و مدرسہ کے استغناء کی صورت کا حکم	۸۰۷۰
۳۰۲	غرض واقف کے خلاف اشیاء مسجد کے استعمال کا حکم	۸۰۷۱
۳۰۳	قبضہ کے اندیشہ سے مسجد کی موقوفہ زمین فروخت کرنے کا حکم	۸۰۷۲

- ۳۰۴ مساجد کے قرآن ضرورت مند شخص کو یا مکتب میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۸۰۷۳
- ۱۵/ الفصل الخامس عشر: مسجد میں مدرسہ وغیرہ تعمیر کرنا
- ۳۰۶ مسجد کو مسما کر کے مدرسہ بنانا ۸۰۷۴
- ۳۰۷ مسجد کی چھت پر مدرسہ تعمیر کرنا ۸۰۷۵
- ۳۰۷ مسجد و مدرسہ اوپر نیچے بنانا کیسا ہے؟ ۸۰۷۶
- ۳۰۸ مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانہ کے اوپر مدرسہ بنانا ۸۰۷۷
- ۳۰۹ نیچے مدرسہ اوپر مسجد تعمیر کرنا ۸۰۷۸
- ۳۱۰ اوپر مسجد اور نیچے مدرسہ بنانا ۸۰۷۹
- ۳۱۱ اوپر مسجد نیچے مدرسہ بنانا ۸۰۸۰
- ۳۱۲ مدرسہ کی چھت پر مسجد بنانا ۸۰۸۱
- ۳۱۲ مسجد کو مدرسہ سے تبدیل کرنا ۸۰۸۲
- ۳۱۶ مسجد کے لئے موقوفہ مکان میں مدرسہ بنانا ۸۰۸۳
- ۳۱۷ مکتب کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگانا ۸۰۸۴
- ۳۱۸ مسجد کاروپہ مدرسہ میں خرچ کرنا ۸۰۸۵
- ۳۱۸ مسجد سے ملحق مدرسہ کو مسجد کے تابع کرنا ۸۰۸۶
- ۳۲۰ مسجد کی زمین میں مسافر خانہ تعمیر کرنا ۸۰۸۷
- ۳۲۳ نیچے مدرسہ و دکانیں اور اوپر مسجد تعمیر کرنا ۸۰۸۸
- ۳۲۴ مسجد کے لئے خریدی گئی زمین میں رہائشی مکان تعمیر کرنا ۸۰۸۹
- ۳۲۷ دوبارہ آیا ہوا سوال اور الگ سے جواب ۸۰۹۰
- ۳۲۹ مسجد کی دیوار پر دوکان بنانا ۸۰۹۱

۱۶	الفصل السادس عشر: سرکاری زمین میں تعمیر مسجد	□
۳۳۱	رفاہ عام کی جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنانا.....	۸۰۹۲
۳۳۲	گرام سماج کی زمین کس کی ملک ہے؟.....	۸۰۹۳
	پردھان کی طرف سے الاٹ کردہ گرام سماج کی زمین میں	۸۰۹۴
۳۳۳	تعمیر مسجد کا حکم.....	
۳۳۴	سرکاری زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	۸۰۹۵
۳۳۵	سرکاری زمین پر تعمیر مسجد.....	۸۰۹۶
۳۳۶	حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری زمین میں تعمیر مسجد.....	۸۰۹۷
۳۳۷	سرکاری افتادہ زمین پر مسجد بنانا.....	۸۰۹۸
۳۳۸	میونسپلٹی بورڈ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	۸۰۹۹
	سرکاری زمین پر بلا اجازت دوکان بنا کر کرایہ مسجد میں	۸۱۰۰
۳۳۹	استعمال کرنے کا حکم.....	
۳۴۰	سرکاری زمین یا شاہ راہ پر مسجد کے لئے بورنگ بنانا.....	۸۱۰۱
۳۴۲	غیر مسلم سے پٹہ کی زمین ٹھیکہ پر لے کر مسجد و مدرسہ بنانا.....	۸۱۰۲
۳۴۴	سماج کی آراضی پر مسجد بنانا.....	۸۱۰۳
۳۴۵	دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مسجد تعمیر کرنا.....	۸۱۰۴
۱۷	الفصل السابع عشر: مسجد میں سرکاری امداد کا حکم	□
۳۴۷	گرام سماج کی زمین مسجد کی ملک ہوگی یا قابض کی؟.....	۸۱۰۵
۳۴۸	ودھائی کوٹہ کی رقم مسجد میں لگانا.....	۸۱۰۶
۳۴۹	گرام سبھا کی زمین فروخت کر کے قیمت مسجد میں لگانا.....	۸۱۰۷
۳۵۰	MLA یا MP کو ملنے والے حکومتی فنڈ کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا.....	۸۱۰۸

۳۵۱ غیر مسلم MLA/MP کا سرکاری رقم مسجد میں دینا.....	۸۱۰۹
 مسلم پردھان کا پنچایت کی زمین پر لگے ہوئے سوکھے درخت	۸۱۱۰
۳۵۲ کی قیمت مسجد یا مدرسہ میں لگانا.....	
۳۵۳ مسجد میں سرکاری بجلی استعمال کرنا.....	۸۱۱۱
۳۵۵ حکومت کا مسجد کا بجلی بل معاف کرنا.....	۸۱۱۲
۳۵۶ مسجد کے بیت الخلاء میں MLA کے کوٹے کا پیسہ لگانا.....	۸۱۱۳
۳۵۷ مسجدوں کے لئے سرکاری سولرائٹ لینے کا حکم.....	۸۱۱۴
۳۵۷ مسجد میں چوری کی بجلی کے استعمال کا حکم.....	۸۱۱۵
	۱۸/الفصل الثامن عشر: دوسرے کی زمین	□

میں مسجد کی تعمیر

۳۵۹ غیر کی زمین میں مسجد کا دروازہ کھولنا.....	۸۱۱۶
۳۵۹ متنازعہ جگہ پر مسجد تعمیر کرنا.....	۸۱۱۷
۳۶۲ بیوہ کی اجازت کے بغیر جبراً اس کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	۸۱۱۸
۳۶۳ یتیم بچہ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنانا.....	۸۱۱۹
۳۶۵ مشترکہ زمین میں مسجد بنانا.....	۸۱۲۰
۳۶۶ مشترکہ زمین میں کسی ایک وارث کا مسجد بنانا.....	۸۱۲۱
۳۶۷ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنے اور مسجد بنانے کا حکم.....	۸۱۲۲
۳۶۹ خانقاہ کی جگہ پر مسجد بنانا.....	۸۱۲۳
۳۷۰ موروثی زمین میں مسجد کی ملکیت کا دعویٰ کرنا.....	۸۱۲۴
۳۷۱ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم.....	۸۱۲۵
۳۷۳ دوسرے کی زمین میں جبراً بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم.....	۸۱۲۶

۳۷۵ بلا اجازت دوسرے کی زمین میں تعمیر مسجد	۸۱۲۷
۳۷۶ مالک کی رضامندی کے بغیر زمین مسجد میں شامل کرنا	۸۱۲۸
۳۷۷ غیر کی زمین کو مسجد کے لئے وقف کرنا	۸۱۲۹
۳۷۸ دوسرے کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا	۸۱۳۰
۳۸۰ غیر کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا	۸۱۳۱
۳۸۳ غاصب سے مسجد کے لئے زمین خریدنا	۸۱۳۲

۱۹/ الفصل التاسع عشر: مسجد میں چندہ کا بیان

۳۸۴ موعود مسجد کو چندہ نہ دیکر دوسری مسجد کو دینے کا حکم	۸۱۳۳
۳۸۴ ذمہ داران مسجد کی بدعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس لے کر دوسری مسجد میں دینا	۸۱۳۴
۳۸۵ مسجد میں دی ہوئی رقم واپس لینا	۸۱۳۵
۳۸۶ چندہ دیتے وقت پچاس کا نوٹ دے کر چالیس روپیہ واپس لینا	۸۱۳۶
۳۸۷ مسجد کی صفائی اور تعاون کا عہد کر کے مکر نے کا حکم	۸۱۳۷
۳۸۹ ضرورت مسجد کیلئے لئے گئے قرض کا ذمہ دار کون؟	۸۱۳۸
۳۹۰ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں چندہ کرنے کا حکم	۸۱۳۹
۳۹۱ مسجد کے لئے چندہ کی گئی رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنانا	۸۱۴۰
۳۹۲ مٹھلیں مسجد کا چندہ کی رقم سے نصف لینے کا حکم	۸۱۴۱
۳۹۳ رمضان میں چندہ کرنا	۸۱۴۲
۳۹۵ مسجد میں گولک کے ذریعہ سے جمع شدہ رقم مسجد میں لگانا	۸۱۴۳
۳۹۶ مسجد بنانے کے لئے چندہ کرنا	۸۱۴۴

۳۹۷ مسجد کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی چندہ کرنا۔	۸۱۴۵
۳۹۹ کمیشن پر مسجد کا چندہ کرنا۔	۸۱۴۶
۴۰۰ جوٹنکی مسجد میں لگا دی گئی اس کے لئے چندہ کرنا۔	۸۱۴۷
۴۰۰ ایک باغ کی جگہ دوسرے باغ کی قیمت مسجد میں لگانے کا حکم۔	۸۱۴۸
۴۰۲ مسجد کے لئے کئے گئے چندہ سے مسجد کا موٹر، پائپ وغیرہ خریدنا	۸۱۴۹
۴۰۳ مسجد کے برآمدہ کے لئے دی گئی رقم دیگر ضروریات میں صرف کرنا	۸۱۵۰
۴۰۴ تعمیر چندہ سے مؤذن و خادم مسجد کو تنخواہ دینا۔	۸۱۵۱
۴۰۵ دیگر اوقاف کی دکانوں کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۵۲
۴۰۶ فصل کے موقع پر مسجد کے لئے دئے گئے غلہ کی رقم مسجد میں صرف کرنا	۸۱۵۳
۴۰۷ مسجد اور مدرسہ کے لئے الگ الگ چندہ کرنا۔	۸۱۵۴
۴۰۸ شادی میں مسجد و مدرسہ کے لئے چندہ کرنا۔	۸۱۵۵
۴۰۹ مسجد اور مدرسہ کا مشترکہ چندہ۔	۸۱۵۶
۴۱۰ مسجد و مدرسہ کے چندے اور اپنے پیسوں سے مکان تعمیر کرنا۔	۸۱۵۷
۴۱۳ قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۵۸
۴۱۴ قبرستان کے درخت یا ان کی آمدنی مسجد میں لگانا۔	۸۱۵۹
۴۱۶ قربانی کے کھالوں کی رقم کو تملیک کے بعد مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۶۰
۴۱۷ بلا حلالہ مطلقہ ثلاثہ کو رکھنے والے سے مسجد میں چندہ لینا۔	۸۱۶۱
۴۱۸ ہر فرد سے بلا امتیاز غریب و امیر جبراً تین کلو اناج وصول کرنے کا حکم	۸۱۶۲
	۲۰ الفصل العشر ون: مسجد میں صدقات کا حکم	□
۴۲۰ صدقات واجبہ کی رقم سے مسجد کا غسل خانہ وغیرہ تعمیر کرنا۔	۸۱۶۳
۴۲۱ روزہ کے فدیہ کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا۔	۸۱۶۴

۴۲۲	قربانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگانا	۸۱۶۵
۴۲۲	زکوٰۃ، تیجہ، چالیسویں کی رقم مسجد میں لگانا	۸۱۶۶
۴۲۳	راستہ میں نل لگانے کے لئے دیئے گئے چندہ کو مسجد میں لگانا	۸۱۶۷
۴۲۴	جبراً چندہ وصول کرنا	۸۱۶۸
۴۲۵	تعویذ کی اجرت مسجد لگانے کا حکم	۸۱۶۹
		۲۱ الفصل الحادی والعشرون: مسجد میں تعلیم	□
۴۲۷	حدود مسجد میں بچوں کو تعلیم دینے کی شرعی حیثیت	۸۱۷۰
۴۲۸	مسجد میں بچوں کو تعلیم دینا	۸۱۷۱
۴۲۹	چھوٹے بچوں کو مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۷۲
۴۳۰	مسجد میں مکتب قائم کرنا	۸۱۷۳
۴۳۱	بچوں کو مسجد میں تنخواہ لے کر پڑھانا	۸۱۷۴
۴۳۲	مسجد میں اجرت لے کر بچوں کو قرآن پڑھانا	۸۱۷۵
۴۳۵	منجانب مسجد یا مدرسہ تنخواہ یافتہ معلم کے لئے بلا فیس مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۷۶
۴۳۶	با اجرت معلم کا مسجد میں درس دینا	۸۱۷۷
۴۳۷	مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینا	۸۱۷۸
۴۳۹	مسجد میں اجرت لے کر پڑھانا	۸۱۷۹
۴۴۰	تنخواہ دار مدرس کا مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۸۰
۴۴۲	مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینے کا حکم	۸۱۸۱
۴۴۳	معلم مدرسہ کا مسجد میں درس و تدریس کا حکم	۸۱۸۲
		۲۲ الفصل الثانی والعشرون: مسجد کے	□
		مانگ سے اعلان	

۴۴۶ مسجد کے مانگ سے اعلانات کرنا	۸۱۸۳
۴۴۷ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنا	۸۱۸۴
۴۴۷ مسجد کے مانگ سے مختلف اعلان کرنا	۸۱۸۵
۴۴۹ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مختلف قسم کے اعلان کا حکم	۸۱۸۶
۴۵۱ مسجد کے مانگ سے بالعوض اعلان کرنا	۸۱۸۷
۴۵۲ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے اجرت لینا	۸۱۸۸
۴۵۳ مسجد سے الگ مانگ سے اعلان کرانے کا کرایہ لینا	۸۱۸۹
۴۵۴ مسجد کے مانگ سے نماز جنازہ اور جلسہ کا اعلان کرنا	۸۱۹۰
۴۵۵ مسجد کے مانگ سے موت یا کسی بچہ کے کھوجانے کا اعلان کرنا	۸۱۹۱
۴۵۶ جمعہ، عید الفطر وغیرہ کے موقع پر مسجد میں چندہ کرنا اور نام کا اعلان کرنا	۸۱۹۲
۴۵۷ مسجد کے مانگ سے سحری کا اعلان کرنا	۸۱۹۳
۴۵۸ مسجد کے لئے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد میں چندہ کرنا	۸۱۹۴
۴۵۹ مسجد کے مانگ سے مدرسہ کے لئے چندہ کرنا	۸۱۹۵
۴۶۰ مسجد کے مانگ پر مسجد سے غیر متعلق اعلان کرنا	۸۱۹۶
۴۶۱ مسجد کے مانگ سے دنیاوی چیزوں کا اعلان	۸۱۹۷
۴۶۲ مسجد کے مانگ سے بیع و شرا اور گمشدگی کے اعلان کا حکم	۸۱۹۸
۴۶۳ گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا	۸۱۹۹
۴۶۴ مسجد کے اندر گم شدہ بچے اور چیز کا اعلان کرنا	۸۲۰۰
۴۶۵ مسجد کے مانگ سے مختلف امور کا اعلان کرنا	۸۲۰۱
۴۶۶ مسجد کے مانگ سے مرغی، بکری کا اعلان کرنا	۸۲۰۲
۴۶۸ مسجد میں مسائل کا سوال کرنا اور سفیر کا چندہ کرنا	۸۲۰۳

- ۸۲۰۴ مسجد کا ماتک ذاتی کاموں کے لئے استعمال کرنا..... ۴۶۹
- ۲۳ الفصل الثالث والعشرون: غیر مسلم
کا مسجد میں داخل ہونا.....
- ۸۲۰۵ غیر مسلم ملازم سے مسجد کے کاموں میں تعاون لینا..... ۴۷۱
- ۸۲۰۶ کافر کا مسجد میں داخل ہو کر گھومنا..... ۴۷۱
- ۸۲۰۷ غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا..... ۴۷۳
- ۸۲۰۸ مسجد میں نکاح کی منعقد مجلس میں غیر مسلم کی شرکت..... ۴۷۵
- ۲۴ الفصل الرابع والعشرون: مسجد میں
حرام مال لگانا.....
- ۸۲۰۹ مسجد میں مال حرام لگانا..... ۴۷۷
- ۸۲۱۰ مدرسہ و مسجد میں حرام مال لگانا..... ۴۷۸
- ۸۲۱۱ ناجائز آمدنی مسجد میں لگانا..... ۴۷۹
- ۸۲۱۲ مال حرام مسجد اور اس کے متعلقات میں صرف کرنا..... ۴۸۰
- ۸۲۱۳ مسجد میں لگے ہوئے مال حرام کے مکافات کی شکل..... ۴۸۲
- ۸۲۱۴ مخنث کا مکان مسجد کے نام وقف کرنا..... ۴۸۳
- ۸۲۱۵ ہجرے کا مسجد کے لئے زمین وقف کرنا..... ۴۸۴
- ۸۲۱۶ ہجرے کی کمائی سے بنائی گئی مسجد کا حکم..... ۴۸۵
- ۸۲۱۷ زنانہ پن اختیار کرنے والے کے مکان کو مسجد میں استعمال کرنا..... ۴۸۶
- ۸۲۱۸ طوائف کی مسجد..... ۴۸۹
- ۸۲۱۹ طوائف کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد کب شرعی مسجد بن سکتی ہے؟..... ۴۹۰

۴	طوائف کی زمین عمومی چندہ سے خرید کر اس پر مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا	۸۲۲۰
۴۹۲	مسجد میں حرام سامان یا اس کی قیمت دینا.....	۸۲۲۱
۴۹۲	ناجانز آ مدنی والے شخص کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز کا حکم.....	۸۲۲۲
۴۹۴	ناچنے والی عورتوں کا روپیہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۲۳
۴۹۵	سودی رقم مسجد میں صرف کرنے کا حکم.....	۸۲۲۴
۴۹۶	سودی قرض لے کر مساجد مدارس تعمیر کرنا.....	۸۲۲۵
۴۹۷	بینک سے قرض لے کر مسجد بنانا اور آراضی مساجد پر بینک کی تعمیر	۸۲۲۶
۴۹۸	بینک میں مسجد کی جمع شدہ رقم پر ملے سود کو بیت الخلاء میں لگانا.....	۸۲۲۷
۴۹۹	بینک سے حاصل شدہ رقم مسجد کی تعمیر میں صرف کرنا.....	۸۲۲۸
۵۰۰	سودی رقم عید گاہ یا مسجد میں صرف کرنا.....	۸۲۲۹
۵۰۱	مسجد میں لگی ہوئی سودی رقم کو پاک کرنے کا طریقہ.....	۸۲۳۰
	سودی رقم سے تجارت کرنے والے شخص کی رقم مسجد میں لگانے	۸۲۳۱
۵۰۲	اور اس کی دعوت کھانے کا حکم.....	
۵۰۳	سودی رقم مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنا.....	۸۲۳۲
۵۰۴	سود کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا.....	۸۲۳۳
۵۰۴	غیر مسلم کی شراب و خنزیر اور سودی رقم کو مسجد میں لگانا.....	۸۲۳۴
۵۰۶	مسجد میں چوری کی بجلی کا استعمال.....	۸۲۳۵
۵۰۷	چوری کے پیسے سے مسجد کا مانک خریدنا.....	۸۲۳۶
۵۰۸	میٹر کے بغیر مسجد و مدرسہ میں لائٹ کا استعمال.....	۸۲۳۷
۵۰۹	مسجد کی تعمیر میں شیعہ سے بغیر حق کے کے روپے لینا.....	۸۲۳۸
۵۱۱	سٹہ کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۳۹
۵۱۱	تعزیر یا مال کی سزا میں لئے گئے پیسہ کو مسجد و مدرسہ میں لگانا.....	۸۲۴۰

۵۱۳ مالی جرمانہ کا پیسہ مساجد و مدارس میں لگانا.....	۸۲۴۱
۵۱۴ جرمانہ کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا.....	۸۲۴۲
	ہندوستان میں چوری وغیرہ کے جرم میں لیا ہوا روپیہ مساجد کی	۸۲۴۳
۵۱۵ تعمیر وغیرہ میں لگانا کیسا ہے؟.....	
۵۱۶ شراب کی کمائی مسجد میں لگانے کا حکم.....	۸۲۴۴
۵۱۷ خنزیر کے بالوں کے برش بنانے والوں کا چندہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۴۵
۵۱۸ خنزیر کے بالوں کا برش بنانے والوں کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا	۸۲۴۶
۵۱۹ دوسرے کی غصب کردہ زمین کی اجرت مسجد میں دینا.....	۸۲۴۷
۵۲۱ مغصوبہ زمین میں مسجد بنانے کا حکم.....	۸۲۴۸
۵۲۲ مساجد کو ڈسکاؤنٹ دینے والی کمپنیوں سے سامان خریدنا.....	۸۲۴۹
۵۲۲ واپس نہ لینے کی نیت سے دیئے گئے قرض کو مسجد میں صرف کرنا	۸۲۵۰
۵۲۳ جو اور شراب کی آمدنی سے تعمیر کیا گیا مکان مسجد کے لئے خریدنا	۸۲۵۱
۵۲۵ سنیمہال کے جنریٹر کی بجلی مسجد میں استعمال کرنا.....	۸۲۵۲
۵۲۵ جہیز میں روپیہ لے کر مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۳
۵۲۷ شادی کے موقع پر مسجد میں دیئے گئے کولر گھڑی وغیرہ کا حکم.....	۸۲۵۴
۵۲۸ عید میلاد النبی کے جلوس سے مسجد کی تعمیر کے لئے چندہ کرنا.....	۸۲۵۵
۵۲۹ مسجد کا بیت الخلاء دکھلا کر سرکار سے وصول کی گئی رقم کا حکم.....	۸۲۵۶
۵۳۰ منکوحہ الغیر سے نکاح کرنے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۷
	□ ۲۵/الفصل الخامس والعشرون: غیر مسلم کے	
 پیسے مسجد میں لگانے کے احکام.....	
۵۳۱ غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۸

۵۳۲	تعمیر مساجد میں ہندو حکومت یا اشخاص کی رقم لگانا	۸۲۵۹
۵۳۵	غیر مسلم کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا	۸۲۶۰
۵۳۶	مساجد کی تعمیر میں غیر مسلموں کا روپیہ لگانا	۸۲۶۱
۵۳۷	غیر مسلم کا چندہ مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۲
۵۳۸	ہندوؤں کا پیسہ مسجد میں لگانا	۸۲۶۳
۵۴۰	غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانے کا حکم	۸۲۶۴
۵۴۲	غیر مسلم کی رقم مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۵
۵۴۳	مدارس و مساجد میں غیر مسلم کی رقم صرف کرنا	۸۲۶۶
۵۴۴	ہیجڑوں یا کافروں کا روپیہ مسجد یا عید گاہ میں لگانا	۸۲۶۷
۵۴۵	ہندوؤں کا مساجد و مدارس میں چندہ دینا	۸۲۶۸
۵۴۷	اہل ہندو کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۹
۵۴۸	غیر مسلم کی رقم سے مسجد کی تعمیر کا کام کرانا	۸۲۷۰
		۲۶ / الفصل السادس والعشرون : مسجد میں	□
		وعظ و تقریر وغیرہ	
۵۴۹	مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کے لئے مسجد میں جلسہ کرنا	۸۲۷۱
۵۵۰	مسجد کے ماتک سے بچوں کی اجتماعی دعا اور نعت خوانی کا حکم	۸۲۷۲
۵۵۱	مسجد کے ماتک میں نعت وغیرہ پڑھنا	۸۲۷۳
۵۵۲	کیا عورتوں کا اجتماع مسجد میں کر سکتے ہیں؟	۸۲۷۴
۵۵۳	مسجد میں نعت شریف پڑھنا	۸۲۷۵
		۲۷ / الفصل السابع والعشرون : مسجد میں	□
		مستحب اور مکروہ کاموں کا بیان	

۵۵۵	میدار اور کمان بنانے کا حکم	۸۲۷۶
۵۵۶	مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر لگانا	۸۲۷۷
۵۵۷	صفوں میں رنگوں سے مصلیٰ نما شکل بنانا	۸۲۷۸
۵۵۸	پھول والے ٹائلس کو تصویر تصور کرنے کا حکم	۸۲۷۹
۵۵۹	مسجد کی دیواروں پر منقش ٹائلس لگانا	۸۲۸۰
۵۶۱	مسجد کی مختلف جگہوں پر پھول رکھنا یا اس کے درخت لگانا	۸۲۸۱
۵۶۳	مسجد کی زمین میں پھولوں کے درخت لگانا اور گملے رکھنا کیسا ہے؟	۸۲۸۲
۵۶۵	حدود مسجد سے باہر پھولوں کے پیڑ پودے لگانا	۸۲۸۳
۵۶۶	پرچار والے کلینڈر مساجد میں آویزاں کرنا	۸۲۸۴
۵۶۷	مسجد میں غیر جاندار کی تصویر لگانا	۸۲۸۵
۵۶۸	مسجد میں میوزک والی گھڑیاں لگانا	۸۲۸۶
۵۶۹	سنگیت اور میوزک والی گھڑی مساجد میں لگانا	۸۲۸۷
۵۷۰	مسجد میں ٹوپیاں رکھنا اور ان میں مصلیوں کا نماز پڑھنا	۸۲۸۸
۵۷۱	مسجد میں صفوں کے آگے چیلوں کو ٹین کے ڈبہ میں رکھنا	۸۲۸۹
۵۷۲	مسجد و قبرستان سے کتنی دوری پر بیت الخلاء تعمیر کریں؟	۸۲۹۰
۵۷۳	مساجد میں نعرہ بازی کرنا	۸۲۹۱
۵۷۴	ٹیکس سے بچنے کے لئے مسجد کی آمدنی اصل سے کم بتانا	۸۲۹۲
۵۷۵	نمازیوں کا دوسرے کی زمین سے مسجد میں آنا جانا	۸۲۹۳
۵۷۶	مسجد کے نیچے سے نجاست کا پائپ ڈالنا	۸۲۹۴
۵۷۷	حدود مسجد میں نالی بنانا	۸۲۹۵
۵۷۸	مسجد کی اراضی میں گاڑیاں کھڑی کرنا	۸۲۹۶
۵۷۹	حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاجاً مسجد کو مقفل کرنا	۸۲۹۷

۵۸۱ مسجد کی رقم سے خریدی گئی اینٹوں سے استنجاء کرنا.	۸۲۹۸
۵۸۲ پرندوں کی بیٹ کی وجہ سے صحن مسجد کا درخت کاٹنا.	۸۲۹۹
۵۸۳ مسجد میں اگلدان رکھنا اور اس میں تھو کنا.	۸۳۰۰
۵۸۴ مسجد کی دیوار پر پوسٹر لگانا.	۸۳۰۱
۵۸۵ مسجد کے دالان میں آئینہ نصب کرنا.	۸۳۰۲
۵۸۶ مسجد کی تعمیر کے درمیان اس میں چپل پہن کر چلنا.	۸۳۰۳
۵۸۷ حدود مسجد میں مستری و مزدور کا حقہ بیڑی پینا.	۸۳۰۴
۵۸۸ منبر پر جاگٹ، کوٹ یا دودھ کا ڈبہ رکھنا.	۸۳۰۵
۵۸۹ مسجد کے صحن میں چارپائی لگا کر بیٹھنا.	۸۳۰۶
۵۹۰ بچوں کے پاجامہ کی تری سے کیا صف ناپاک ہو جاتی ہے؟	۸۳۰۷
۵۹۲ ناپاک کپڑا بیگ وغیرہ میں رکھ کر مسجد میں رکھنا.	۸۳۰۸
۵۹۳ مسجد کا ملبہ ناپاک جگہ میں استعمال کرنا.	۸۳۰۹

۲۸ / الفصل الثامن والعشرون: مسجد میں



بدبودار چیز داخل کرنے کا بیان

۵۹۴ مسجد میں مورٹین جلانا.	۸۳۱۰
۵۹۴ بدن پر چھہ مارنے والی دوائی لگا کر نماز پڑھنا.	۸۳۱۱
۵۹۵ مساجد میں گیس کی لائٹیں جلانے کا حکم.	۸۳۱۲
۵۹۶ مسجد کے اندر گیس سلینڈر جلانا.	۸۳۱۳
۵۹۷ مساجد میں گیس سلینڈر کا استعمال.	۸۳۱۴
۵۹۹ مسجد میں مٹی کے تیل سے لائٹیں جلانا.	۸۳۱۵
۶۰۰ مسجد میں گھی کا چراغ جلانا.	۸۳۱۶

۶۰۱ مسجد کے اندر اگر بتی جلانے کا حکم	۸۳۱۷
۶۰۲ بدبودار پینٹ کا مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟	۸۳۱۸
۶۰۴ مسجد میں تمباکو استعمال کرنا	۸۳۱۹

۷/باب المصلیٰ



۶۰۵ عید گاہ کے تحقق کے لئے رجسٹری یا عمارت ضروری ہے یا نہیں؟	۸۳۲۰
۶۰۷ کیا عید کی نماز درست ہونے کے لئے عید گاہ کی رجسٹری لازم ہے؟	۸۳۲۱
۶۰۸ گرمی، سردی سے بچاؤ کے لئے عید گاہ کو مسقف بنانا	۸۳۲۲
۶۰۸ آٹھ گاؤں والوں کا مل کر ایک عید گاہ بنانا	۸۳۲۳
۶۱۰ ایک بستی میں دو عید گاہ بنانا	۸۳۲۴
۶۱۱ پہلی عید گاہ کو فروخت کر کے اس کی رقم دوسری عید گاہ میں لگانا	۸۳۲۵
۶۱۳ ایک عید گاہ سے متعلق چند سوالات	۸۳۲۶
۶۱۷ مسجد کی جگہ عید گاہ بنانا	۸۳۲۷
۶۱۸ آباد مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانے کا حکم	۸۳۲۸
۶۱۹ مسجد توڑ کر عید گاہ بنانا	۸۳۲۹
۶۲۰ عید گاہ منہدم کر کے مسجد بنانا	۸۳۳۰
۶۲۲ عید گاہ کے لئے وقف کی گئی زمین پر مسجد بنانا	۸۳۳۱
۶۲۴ قدیم مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانا	۸۳۳۲
۶۲۴ آبادی میں واقع عید گاہ کو مدرسہ بنانا	۸۳۳۳
۶۲۶ عید گاہ کو مدرسہ بنا کر دوسری عید گاہ بنانا	۸۳۳۴
۶۲۷ عید گاہ کو مسجد میں تبدیل کر کے شہر کے باہر عید گاہ بنانا	۸۳۳۵
۶۲۸ گرام پنچایت کی زمین میں عید گاہ بنانا	۸۳۳۶
۶۳۰ سرکاری اسکول کو عید گاہ بنانا	۸۳۳۷

۶۳۰ عید گاہ میں شادی ہال یا اسکول بنانا	۸۳۳۸
۶۳۲ مسجد اور عید گاہ کی آمدنی مخلوط کر کے رکھنا	۸۳۳۹
۶۳۳ عید گاہ کو شادی بیاہ کے لئے دینا	۸۳۴۰
۶۳۴ عید گاہ کو بازار لگانے کے لئے کرایہ پر دینا	۸۳۴۱
۶۳۶ وقف کی زمین میں میلہ لگانا اور اس کے کرایہ کا حکم	۸۳۴۲
۶۳۹ شراب کی مشین بنانے والے کی اجرت کو عید گاہ میں استعمال کرنا	۸۳۴۳
۶۴۰ عید گاہ کو مزین کرنا	۸۳۴۴
۶۴۱ عید گاہ میں کرکٹ کھیلنا	۸۳۴۵

۸/باب المقبرة



۶۴۳ کیا منفقہ قرار دیا پر عمل کرنا ضروری ہے؟	۸۳۴۶
۶۴۶ قبرستان کی زمین قبرستان میں اور کاشت کی زمین کا شکار کے حوالہ کرنا	۸۳۴۷
۶۴۷ قدیم قبرستان کے بدلہ میں دوسری جگہ قبرستان بنانا	۸۳۴۸
۶۴۸ قبر کی مٹی لا کر دوسری جگہ قبر بنانا	۸۳۴۹
۶۵۰ قبرستان کی خود رو گھاس کی قیمت سے چہار دیواری بنانا	۸۳۵۰
۶۵۰ قبرستان میں ممبران کے نام کا پتھر لگوانا	۸۳۵۱
۶۵۲ خلاف شرع امور میں قبرستان کو استعمال کرنا	۸۳۵۲
۶۵۴ قبرستان کی جگہ حاصل کرنے کے لئے سڑک پر میت دفن کرنا	۸۳۵۳
۶۵۷ کھیت میں واقع قبر پر مکان تعمیر کرنا یا کاشت کرنا	۸۳۵۴
۶۵۹ پرانی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کرنا	۸۳۵۵
۶۶۰ قبر کی چوڑائی اور گہرائی کی مقدار	۸۳۵۶
۶۶۱ مالک کی اجازت کے بغیر قبرستان میں میت دفنانا	۸۳۵۷

۲۶۲	قبر کھودنے کے دوران نکلی ہوئی لکڑی کا حکم	۸۳۵۸
۲۶۳	عید گاہ کی قبریں برابر کرنا	۸۳۵۹
۲۶۳	قبرستان پر لینٹریڈال کر امام صاحب کے لئے کمرہ بنانا	۸۳۶۰
۲۶۴	قبروں سے نکالی گئی اینٹوں کا حکم	۸۳۶۱
۲۶۵	قبروں کو توڑ کر پختہ راستہ یا پیشاب کی نالی بنانا	۸۳۶۲
۲۶۶	قبرستان کے خادم کو معزول کرنا	۸۳۶۳
۲۶۷	گانا بجانا اور عرس و قوالی کو ختم کرنے کی غرض سے قبر کو ڈھانا	۸۳۶۴
۲۶۸	قبرستان میں تالا لگا کر فاتحہ پڑھنے سے روکنا	۸۳۶۵
		شیعہ خواجہ چودھری کے عقائد رکھنے والے کو اہل سنت کے	۸۳۶۶
۲۶۹	قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟	۸۳۶۷
۲۷۰	زائرین قبور کے فائدہ کیلئے قبرستان میں اپنے مکان کا چھجہ نکالنا	۸۳۶۸
۲۷۱	قبرستان کی چہار دیواری میں سودی و حرام کمائی کی رقم لگانا	۸۳۶۸
۲۷۲	قبرستان کی جالی دار باؤنڈری کو ختم کرنا	۸۳۶۹

□ ا/الفصل الاول : فی المکروہ والمستحب

۲۷۴	قبرستان میں درخت لگانا	۸۳۷۰
۲۷۴	قبرستان میں رہائش گاہ بنانا	۸۳۷۱
۲۷۵	قبر کے ارد گرد چہار دیواری بنوانا	۸۳۷۲
۲۷۶	قبروں کی توڑ پھوڑ کے ذریعے بے حرمتی کرنا	۸۳۷۳
۲۷۷	قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا	۸۳۷۴
۲۷۸	قبرستان میں جوتے چپل پہن کر چلنا	۸۳۷۵
۲۷۹	قبرستان میں جانور چرانا اور عورتوں کا جانا	۸۳۷۶
۲۸۱	قبرستان میں جانور چرانا اور کرکٹ وغیرہ کھیلنا	۸۳۷۷

۶۸۳	قبرستان کوراستہ اور کھلیان بنانا	۸۳۷۸
۶۸۴	قبرستان میں گاڑیاں چلانا، گھر بنانا، کرکٹ وغیرہ کھیلنا	۸۳۷۹
۶۸۶	قبرستان میں ٹریکٹر ڈرائی کے ذریعہ سے مٹی کا بھراؤ کرنا	۸۳۸۰
۶۸۷	قبرستان کی صفائی کے لئے ٹریکٹر چلوانا	۸۳۸۱
۶۸۸	قبرستان میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور چارپائی لگا کر مجلس قائم کرنا	۸۳۸۲
۶۸۹	قبرستان میں کھانا کھلانا کیسا ہے؟	۸۳۸۳
۶۹۰	قبرستان کی جھاڑیوں کو ہیروبل سے صاف کرنے کا حکم	۸۳۸۴

۲/ الفصل الثانی: فی المصارف □

۶۹۲	زیر ملکیت قبرستان میں دوکان بنا کر آمدنی مسجد میں لگانا	۸۳۸۵
۶۹۳	قبرستان کی آمدنی کے لئے پختہ قبروں کو توڑ کر دوکانیں بنانا	۸۳۸۶
۶۹۴	گورے غریبوں کی قبر کی جگہ دینے کے روپے لینا	۸۳۸۷
۶۹۵	قبرستان کے فنڈ سے برتن خرید کر کرائے پر دینا	۸۳۸۸
۶۹۶	قبرستان کی گھاس بٹائی پر دینا	۸۳۸۹
۶۹۷	قبرستان کی آمدنی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟	۸۳۹۰
۶۹۸	قبرستان کی خود روگھاس کی آمدنی مسجد میں لگانا	۸۳۹۱
۶۹۹	قبرستان کی لکڑیوں سے مسجد کا پانی گرم کرنا	۸۳۹۲
۷۰۰	قبرستان کی رقم مسجد میں لگانا	۸۳۹۳
۷۰۱	قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا	۸۳۹۴
۷۰۳	قبرستان کی آمدنی مسجد کو بطور قرض دینا	۸۳۹۵
۷۰۳	قبرستان کا پیسہ مسجد و مدرسہ میں لگانا	۸۳۹۶
۷۰۵	قبرستان کے روپے کو مسجد یا مکتب میں لگانا	۸۳۹۷
۷۰۶	قبرستان کے درختوں کی آمدنی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا	۸۳۹۸

۷۰۷ قبرستان کے درختوں کی آمدنی سے مدرسہ تعمیر کرنا۔	۸۳۹۹
۷۰۸ ضرورت مند قبرستان کی آمدنی مسجد و مدرسہ میں استعمال کرنا درست نہیں	۸۴۰۰
۷۰۸ قبرستان کی لکڑی مدرسہ میں صرف کرنا۔	۸۴۰۱
۷۰۹ قبرستان کی آمدنی کو امام یا معلم کی اجرت میں دینا۔	۸۴۰۲
۷۱۰ قبرستان کی کوئی چیز عید گاہ میں لگانا۔	۸۴۰۳
۷۱۰ قبرستان میں پڑی ہوئی اینٹ قبرستان میں لگانا۔	۸۴۰۴
۷۱۱ واقف کا قبرستان کی آمدنی غریبوں پر خرچ کرنا۔	۸۴۰۵
۷۱۲ مملوکہ قبرستان کے درخت کاٹ کر استعمال کرنا۔	۸۴۰۶
۷۱۳ اپنے وقف کردہ قبرستان کے درخت سے فائدہ اٹھانا۔	۸۴۰۷
۷۱۴ قبرستان میں کھیتی اور اس میں آمدنی کا حکم۔	۸۴۰۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۲۴ / بقیۃ کتاب الوقف

صفحہ نمبر	باب المدارس	مسئلہ نمبر
۳۲	۹ / باب المدارس	□
	الفصل الأول: في المدارس	
۳۱	کیا مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے سکھایا نہیں جاتا؟	۸۴۰۹
۳۲	دینی مذہبی ادارہ کو رجسٹریشن کرانے کا حکم	۸۴۱۰
۳۶	مجلسِ عاملہ و مجلسِ شوریٰ	۸۴۱۱
۳۷	مجلسِ شوریٰ کے اختیارات	۸۴۱۲
۴۱	مدارسِ اسلامیہ میں طلبہ کی دیکھ بھال کے لئے کیمبرہ لگانے کا حکم	۸۴۱۳
۴۳	ایک مدرسہ سے متعلق چند سوالات و جوابات	۸۴۱۴
۴۶	مدارسِ اسلامیہ کے اصول کا ماخذ	۸۴۱۵
۴۷	مدرسہ کے قوانین کا ماخذ	۸۴۱۶
۴۹	مدارس کے اصول و ضوابط کی شرعی حیثیت	۸۴۱۷
۵۲	ضوابط برائے اساتذہ، تعزیرات و تعطیلات برائے طلبہ	۸۴۱۸
۵۴	تعزیرات برائے طلبہ مدرسہ عربیہ امداد الاسلام ہر سولی ضلع مظفر نگر یوپی	۸۴۱۹
۵۵	ضوابط برائے مدرسہ عربیہ امداد الاسلام ہر سولی ضلع مظفر نگر	۸۴۲۰
۵۸	مدرسہ کے من جملہ بچوں کی ضروریات مدزکوۃ سے پوری کرنے کا حکم	۸۴۲۲

- ۸۴۲۳ مدرسہ میں آمدہ غلہ میں اشیاء کی رسید دینے کا حکم ۶۰
- ۸۴۲۴ مدارس میں فیس لے کر تعلیم دینے کا حکم ۶۱
- ۸۴۲۵ طلبہ کا بلا اجازت مدرسہ کی چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم ۶۲
- ۸۴۲۶ تعلیمی اوقات کے دوران طلبہ کو قرآن خوانی کے لئے بھیجنا ۶۳
- ۸۴۲۷ مدارس کے طلباء سے قرآن خوانی کرانا ۶۴
- ۸۴۲۸ لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرنا ۶۵
- ۸۴۲۹ مدارس اسلامیہ میں غیر مسلم بچوں کو تعلیم دینے کا حکم ۶۵
- ۸۴۳۰ طلباء کو انعام میں ملنے والے روپیوں کا مالک کون؟ ۶۶
- ۸۴۳۱ کیا پرانے مکتب میں تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنا ضروری ہے؟ ۶۸

۶۹	الفصل الثانی: فی التولية	□
----	---------------------------------	---

- ۸۴۳۲ طلبہ کی تعلیمی کوتاہی پر مسئول کون ہے؟ ۶۹
- ۸۴۳۳ موقوفہ جائیداد کو ذاتی ملکیت سمجھنے کا حکم ۷۰
- ۸۴۳۴ مہتمم صاحب کا مدرسہ کی زمین اپنے نام رجسٹری کروانے کا حکم ۷۰
- ۸۴۳۵ مدرسہ کے لئے خریدی گئی زمین کا شخصی بیع نامہ کرانا ۷۱
- ۸۴۳۶ احکام شریعت کا لحاظ نہ رکھنے والے مہتمم کا حکم ۷۳
- ۸۴۳۷ مہتمم سے متعلق سوال و جواب ۷۴
- ۸۴۳۸ مدارس اسلامیہ کے قوانین کی پابندی مہتمم و ملازم سب پر لازم ہے ... ۷۶
- ۸۴۳۹ کیا ذمہ داران مدرسہ اصول کے پابند ہیں؟ ۷۹
- ۸۴۴۰ مدرسہ اور قبرستان کے نام چندہ لے کر اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کا حکم ۸۰
- ۸۴۴۱ بچہ کے قاعدہ پورا ہونے پر مہتمم صاحب کا دعوت کا مطالبہ کرنا ۸۳
- ۸۴۴۲ مہتمم کے مدرسہ کی رقم اپنے کاروبار میں لگانے یا دوسرے کو قرض دینے کا حکم ۸۵

۸۶	الفصل الثالث: في المدرسين	□
----	----------------------------------	---

- ۸۴۴۳ ذمہ دارانِ مدرسہ و مدرسین کے تعلق سے چند سوالات کے جوابات .. ۸۶
- ۸۴۴۴ مدرسہ کے مفاد کے پیش نظر کسی ملازم کو برطرف کرنا .. ۸۸
- ۸۴۴۵ مدرسہ کے صدر مدرس کے خلاف عوام کے انتشار کا حکم .. ۸۹
- ۸۴۴۶ اوقات مدرسہ میں مہتمم کی اجازت سے حوائج ضروریہ کے لئے جانا .. ۹۰
- ۸۴۴۷ مدرس کو دو وقت پڑھانے پر مجبور کرنا .. ۹۰
- ۸۴۴۸ مدرس سے مدرسہ کی رقم گھر سے چوری ہوگئی .. ۹۲
- ۸۴۴۹ مدرسین کا چرم قربانی وصول کرنے پر معاوضہ لینے کا حکم .. ۹۴
- ۸۴۵۰ مدارس کے ملازم اجیر بالعمیل ہیں یا جیر فی الوقت .. ۹۵
- ۸۴۵۱ شخص واحد کے ذمہ درس و تدریس اور امامت وغیرہ سپرد کرنا .. ۹۷
- ۸۴۵۲ کیا گاؤں کے مدرس پر مسجد کی امامت بلا اجرت واجب ہے؟ .. ۹۹
- ۸۴۵۳ مدرس کو نابالغ طلبا کی امامت کا پابند بنانا .. ۱۰۰
- ۸۴۵۴ کیا مدرس کا بیماری میں چھٹی لے کر اپنے نجی کام سے جانا دھوکہ نہیں؟ .. ۱۰۱
- ۸۴۵۵ مکتب میں استاذ کا جمعراتی لینا .. ۱۰۲
- ۸۴۵۶ مدرس کے جمعراتی وصول کرنے کا حکم .. ۱۰۳
- ۸۴۵۷ طلبہ کی طرف سے معلم کو ملنے والے ہدیہ کا حکم .. ۱۰۴
- ۸۴۵۸ مدرسے میں بے پردہ معلمہ کے تقرر کرنے کا حکم .. ۱۰۵
- ۸۴۵۹ اساتذہ کے لئے طلبا کو ملنے والے کنسینشن استعمال کرنے کا حکم .. ۱۰۶
- ۸۴۶۰ مدرسے کے کمروں میں مدرس کا فیملی کے ساتھ رہنا .. ۱۰۷
- ۸۴۶۱ مدرسین کے وسعت و نجی گھر ہونے کے باوجود مدرسہ کا گھر خالی نہ کرنے کا حکم .. ۱۰۸

۱۱۳ غیر صاحب نصاب مدرس کے لئے مدرسہ کا کھانا کھانا	۸۴۶۲
۱۱۴ مدرسین کے لئے ایصال ثواب کا کھانا کھانا	۸۴۶۳
۱۱۶ مدرسے کے ملازم کے علاج کی ذمہ داری کس پر ہے؟	۸۴۶۴

۱۱۷	الفصل الرابع:	□
-----	----------------------	---

مدارس میں سرکاری اور غیر مسلم کا مال صرف کرنے کا حکم

۱۱۷ مدرسہ کو ایڈ کرانا	۸۴۶۵
۱۱۸ کیا ایڈ کے مدارس میں سرکاری قوانین کی پابندی لازم ہے	۸۴۶۶
۱۲۰ سرکار کی طرف سے آئے ہوئے رسد کو مدرسہ یا مسجد میں لگانے کا حکم	۸۴۶۷
۱۲۰ اسکولوں میں آمدہ سرکاری امداد کی بچی ہوئی رقم کا مصرف	۸۴۶۸
۱۲۲ اسکول کی تعمیر یا طلبہ کی خوراک سے بچی ہوئی رقم کا ہیڈ ماسٹر کا استعمال کرنا	۸۴۶۹
۱۲۳ امام باڑہ کے اوپر مدرسہ بنانے کا حکم	۸۴۷۰
۱۲۵ غیر کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر مدرسہ بنانے کا حکم	۸۴۷۱
۱۲۶ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین پر مدرسہ بنانا	۸۴۷۲
۱۲۸ مغصوبہ زمین پر مدرسہ بنانا	۸۴۷۳
۱۳۱ پریس کرنے پر پریس بیچ کر رقم مدرسہ میں لگانا	۸۴۷۴
۱۳۲ لیٹ فیس وصول کرنے کی شرعی حیثیت	۸۴۷۵
۱۳۳ مدرسہ کے لئے غیر مسلموں کا چندہ لینا	۸۴۷۶
۱۳۳ ہندو کی رقم کا رخیہ میں لگانا	۸۴۷۷
۱۳۵ مدرسہ کی تعمیر میں سودی رقم یا کافر کا پیسہ لگانا	۸۴۷۸
۱۳۷ طوائف کی زمین پر مدرسہ تعمیر کرنا	۸۴۷۹

۱۳۸	الفصل الخامس: في التصرف	□
-----	--------------------------------	---

- ۸۴۸۰ کیا کسی مدرسے کے دو نام رکھنے سے وہ دو مدرسے ہو جائیں گے؟ .. ۱۳۸
- ۸۴۸۱ مسجد مدرسہ بنانے سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۱۴۲
- ۸۴۸۲ کیا مدرسہ کی موقوفہ چیزوں میں غرض واقف لازم ہے؟ ۱۴۲
- ۸۴۸۳ مدارس میں قائم کردہ انجمن کی تقسیم کا حکم ۱۴۵
- ۸۴۸۴ چندہ کے پیسے سے بنی ہوئی عمارت میں اراکین مدرسہ کا کتبہ لگانا ۱۵۰
- ۸۴۸۵ جلسہ کی بجگی ہوئی رقم کا مصرف ۱۵۲
- ۸۴۸۶ طلبہ سے لی گئی قیمت طعام کو مدرسہ کی تعمیر میں لگانا ۱۵۳
- ۸۴۸۷ مدرسہ کی رقم سے امام و مؤذن کو وظیفہ دینے کا حکم ۱۵۳
- ۸۴۸۸ انجمن کی رقم سے سرپرست انجمن کو ہدیہ دینا ۱۵۴
- ۸۴۸۹ اسکول کے درجہ پنجم کے امتحان کا خرچ مدرسہ سے لینا ۱۵۵
- ۸۴۹۰ مدرسہ کی رقم سے متعلقین کو ہدیہ دینے کا حکم ۱۵۶
- ۸۴۹۱ مدرسے کے فنڈ سے مہمان نوازی کرنا ۱۵۷
- ۸۴۹۲ مدرسہ کی رقم سے چائے، بسکٹ اور مہمانوں کی ضیافت ۱۵۷
- ۸۴۹۳ مدرسہ کی رقم سے تقریب میں گیٹ وغیرہ کی سجاوٹ ۱۵۸
- ۸۴۹۴ مدرسے کی زمین میں اساتذہ و طلبہ کے لئے مسجد بنانا ۱۵۹
- ۸۴۹۵ مدارس کی جمع شدہ رقم اپنی ضروریات میں صرف کرنا ۱۶۰
- ۸۴۹۶ خزانچی کا مدرسہ کی رقم اپنے استعمال میں لانا ۱۶۱
- ۸۴۹۷ مدرسہ کاروپیداتی معاملہ میں خرچ کرنا ۱۶۲
- ۸۴۹۸ مدرسہ کے فون سے تبلیغی خبر کرنا ۱۶۳

- ۸۴۹۹ مدرسے کی رقم بطور رشوت دینا..... ۱۶۴
- ۸۵۰۰ مدرسے کی رقم سرکاری اسکیم شروع کرانے کے لئے بطور رشوت دینا ... ۱۶۶

□	الفصل السادس: اشیائے مدرسے کی منتقلی کے احکام	۱۶۸
---	--	-----

- ۸۵۰۱ مدرسے کی منتقلی سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۱۶۸
- ۸۵۰۲ مدرسے کی آمدنی اسکول میں لگانا ۱۷۰
- ۸۵۰۳ مسجد و مدرسے کی مشترکہ رقم سے جزیئر خریدنا ۱۷۱
- ۸۵۰۴ مسجد و مدرسے کی رقم کو ایک دوسرے پر صرف کرنا ۱۷۲
- ۸۵۰۵ مسجد و مدرسے کا پانی ولانٹ خارج مسجد و مدرسے کو دینا ۱۷۳
- ۸۵۰۶ ایک مدرسے کا غلہ دوسرے مدرسے میں دینے کا حکم ۱۷۴
- ۸۵۰۷ ایک مدرسے کی رقم دوسرے مدرسے میں لگانا ۱۷۵
- ۸۵۰۸ مدرسے بنانے کے نام پر وصول شدہ رقم کو دوسرے مدرسے میں دینا ۱۷۶
- ۸۵۰۹ ایک مدرسے کی وقف شدہ اراضی کو دوسروں پر تقسیم کرنا ۱۷۸
- ۸۵۱۰ مدرسے کی رقم سے مدرسے کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا ۱۸۰

□	الفصل السابع: في الإجارة	۱۸۱
---	---------------------------------	-----

- ۸۵۱۱ مدرسے کی زمین میں ضروریات مدرسے کے لئے دوکان تعمیر کرنا..... ۱۸۱
- ۸۵۱۲ مدرسے کی رقم مسجد یا مسجد کی رقم مدرسے کو بطور قرض دینا..... ۱۸۳
- ۸۵۱۳ مدرسے کے تہ خانے میں آمدنی کی خاطر ”کار پارکنگ“ بنانا ۱۸۴
- ۸۵۱۴ مدرسے میں ووٹ ڈالنے کی مشین لگانا ۱۸۵
- ۸۵۱۵ احاطہ مدرسے میں قربانی کرنے سے روکنا..... ۱۸۶
- ۸۵۱۶ مدرسے کی عمارت اسکول کے لئے کرایہ پر دینا ۱۸۷

۱۸۸ مدرسہ میں بارات رکنا	۸۵۱۷
۱۹۰ مدارس عربیہ کی بالائی منزل پر جونیر کی تعلیم دینا	۸۵۱۸
۱۹۱ گرام سماج کی زمین پر مدرسہ کی رقم سے دوکان بنانا	۸۵۱۹
۱۹۲ مسجد کے لئے مدرسہ سے قرض لینا	۸۵۲۰
۱۹۳ مدارس کی رقم تجارت کے لئے دینا	۸۵۲۱

۱۹۵	الفصل الثامن: في المشاهدة	□
-----	----------------------------------	---

۱۹۵ کیا مہتمم مدرسین کے مقابلہ میں دو گنی تنخواہ لے سکتے ہیں؟	۸۵۲۲
۱۹۶ موجودہ دور میں تنخواہ میں زیادتی کا مطالبہ کرنا	۸۵۲۳
۱۹۸ شرط فاسد لگا کر تنخواہ بڑھانا	۸۵۲۴
۱۹۹ سائنس سے انٹری پاس اور ہندی کے مدرس کو گورنمنٹ سے تنخواہ دلانا	۸۵۲۵
۲۰۰ مدرسہ کے ناظم کا مدرس کی تنخواہ نہ دینا	۸۵۲۶
۲۰۲ مقررہ تنخواہ سے کم دینے کا حکم	۸۵۲۷
۲۰۳ چندہ نہ کرنے کی صورت میں مدرس کو سابقہ تنخواہ نہ دینا	۸۵۲۸
۲۰۵ مقررہ وقت میں کام کرنے پر تنخواہ کا استحقاق اور کوتاہی پر برطرف کرنا	۸۵۲۹
۲۰۶ مدارس و مساجد کے ملازمین کا سرکاری تنخواہ لینا	۸۵۳۰
۲۰۷ پرائیویٹ فنڈ کا حکم	۸۵۳۱
۲۰۸ بلا اجازت مدرس سے جانے والے کی تنخواہ کا حکم	۸۵۳۲
۲۱۰ مدرس کی تقرری کے بعد بلا عوض نگرانی پر مجبور کرنے کا حکم	۸۵۳۳
۲۱۲ حج کو جانے والے مدرس کے لئے رخصت بالوضع کا حکم	۸۵۳۴
۲۱۳ گورنمنٹ سے روپیہ لے کر مدرسین کو تنخواہ دینا	۸۵۳۵
۲۱۴ بعد تعمیر رقم کو تنخواہ میں استعمال کرنا	۸۵۳۶

- ۸۵۳۷ غیر حاضری کی تنخواہ کا حکم ۲۱۶
- ۸۵۳۸ مدرس کے ایام مرض کی تنخواہ و مجلس شوریٰ کی شرعی حیثیت ۲۱۷
- ۸۵۳۹ علالت کے زمانہ کی تنخواہ ۲۱۹
- ۸۵۴۰ بیماری کے ایام میں گھر پر رہتے ہوئے تنخواہ لینے کا حکم ۲۲۱
- ۸۵۴۱ اطلاعی نوٹس ۱۵ یوم قبل نہ دینے کی صورت میں تنخواہ کاٹ لینے کا حکم ۲۲۲
- ۸۵۴۲ نصف شعبان میں معزول کی وجہ سے رمضان کی تنخواہ کے استحقاق کا مسئلہ ۲۲۳
- ۸۵۴۳ پندرہ شعبان کو معزول مدرس رمضان کی تنخواہ کا مستحق کب؟ ۲۲۴
- ۸۵۴۴ اضافی رقم کے حقدار ملازم ہیں نہ کہ مستعفی؟ ۲۲۵
- ۸۵۴۵ مستعفی کی ایک ماہ کی تنخواہ ضبط کرنے کا حکم ۲۲۷
- ۸۵۴۶ جمعہ کے دن کی تعطیل کو رخصت میں شمار کرنا ۲۲۹
- ۸۵۴۷ غیر حاضری کے ایام کو حاضری کے ایام کا بدل قرار دے کر تنخواہ وصول کرنا ۲۳۰
- ۸۵۴۸ غیر عالم کا حکومت سے عالم کی تنخواہ لینا ۲۳۲
- ۸۵۴۹ غیر حاضری کے دن کی دستخط کر کے تنخواہ وصول کرنا ۲۳۳
- ۸۵۵۰ مدرس و امام کے لئے ایام تعطیل کی تنخواہ لینے کا حکم ۲۳۴
- ۸۵۵۱ سرکار سے مدرسین کا غیر حاضری کے ایام کی تنخواہ لینا ۲۳۶
- ۸۵۵۲ ایام رخصت کی تنخواہ کا مسئلہ ۲۳۷
- ۸۵۵۳ تعطیل کلاں میں تنخواہ کا استحقاق کب؟ ۲۳۸
- ۸۵۵۴ مدرسہ کے ملازم کا ایام تعطیل کی تنخواہ لینا ۲۴۰
- ۸۵۵۵ تعطیل کلاں میں تنخواہ کا استحقاق ۲۴۱
- ۸۵۵۶ مدارس اسلامیہ میں ایام تعطیل کی تنخواہوں کا حکم ۲۴۳
- ۸۵۵۷ مدرسے کی چھٹیوں میں پڑھانے کی اجرت اور تعطیل کلاں کی تنخواہ کا حکم .. ۲۴۴
- ۸۵۵۸ رمضان کی تنخواہ کا حکم ۲۴۶

۲۵ / کتاب البیوع

۲۲۸	۱ / باب البیع الصحیح	□
۲۲۸ مال متقوم وغیر متقوم، بیع باطل اور فاسد کی تعریف	۸۵۵۹
۲۵۰ نیلامی کا حکم	۸۵۶۰
۲۵۰ امریکہ سے ٹیلی ویزن پر خرید و فروخت کا حکم	۸۵۶۱
۲۵۲ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے خرید و فروخت کرنا	۸۵۶۲
۲۵۳ مشتری کا بیع کو استعمال کرنے کے بعد فروخت کرنے کا حکم	۸۵۶۳
۲۵۵ کیا حرام مال میں تعدی پائی جاتی ہے؟	۸۵۶۴
۲۵۷ زمین فروخت کرنے کے بعد رجسٹری نہ کرانا	۸۵۶۵
۲۵۹ خریدار کا بائع کی اولاد کو رجسٹری پر دستخط کرنے کے عوض کچھ دینے کا حکم ..	۸۵۶۶
۲۶۰ خریدار کا ادائے قیمت پر کمیشن کا مطالبہ	۸۵۶۷
۲۶۱ بیع میں کس جگہ کا اعتبار ہے؟	۸۵۶۸
۲۶۲ مشتری کہ طور پر سامان خریدنے کی صورت میں کس پر کتنی قیمت واجب ہے؟	۸۵۶۹
۲۶۳ خریدار کا زمین خالی کرانے کے لئے چھپ کر فصل کاٹ لینا	۸۵۷۰
۲۶۵ فرضی بل کے ذریعہ سرکاری گرفت سے بچنا	۸۵۷۱
۲۶۶ حکومت کے قانون کے خلاف نیپال میں جا کر غلہ بیچنا	۸۵۷۲
۲۶۷ وکیل کا فعل موکل کے فعل کے حکم میں ہوتا ہے	۸۵۷۳
۲۶۸ فروختگی کا وکیل بنانا	۸۵۷۴
۲۷۰ بائع بیع کی قیمت وکیل سے کم لے تو کیا حکم ہے؟	۸۵۷۵
۲۷۱ مستحق نکل آنے والی زمین کا حکم	۸۵۷۶

- ۸۵۷۷ پریس والوں کا پوری قیمت وصول کر کے کچھ اشتہار کم دینا ۲۷۲
- ۸۵۷۸ سپلائی کارخانہ دار سے سامان خرید کر دوکاندار کو کم قیمت میں فروخت کرنا ۲۷۳
- ۸۵۷۹ مبیع کو انعام کے ساتھ فروخت کرنا ۲۷۵
- ۸۵۸۰ اسکیم کے تحت پکھے کی خرید و فروخت ۲۷۶
- ۸۵۸۱ عقد کے وقت ثمن میں جہالت نہ ہو تو عقد صحیح ہے؟ ۲۷۷
- ۸۵۸۲ پیکنگ شدہ ڈبوں کو وزن کئے بغیر خرید و فروخت کرنا ۲۷۸
- ۸۵۸۳ نجرز میں کوآباد کرنا ۲۸۰
- ۸۵۸۴ سرکاری افتادہ زمین کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت ۲۸۱
- ۸۵۸۵ کیا جلسہ کے موقع پر بالعوض کھانا کھانا بیع ہے؟ ۲۸۸
- ۸۵۸۶ مکمل قیمت کی وصولیابی سے قبل بیوہ کا اپنی زمین میں نماز سے روکنا ۲۸۹
- ۸۵۸۷ مشتری اول کا پوری رقم دینے سے قبل مشتری ثانی کو فروخت کرنا ۲۹۱
- ۸۵۸۸ جائیداد پر قبضہ کرنے سے پہلے مشتری کا بائع کو وکیل بالمبیع بنانا ۲۹۲
- ۸۵۸۹ قبضہ سے پہلے زمین کی خرید و فروخت کا حکم ۲۹۳
- ۸۵۹۰ متعینہ بئنگ شدہ زمین کو منافع کے ساتھ فروخت کرنا ۲۹۴
- ۸۵۹۱ قبضہ سے قبل زمین کو فروخت کرنا ۲۹۶
- ۸۵۹۳ ادھار خریدی ہوئی زمین میں مالک کی اجازت سے کھیتی کرنے کا حکم ۲۹۸
- ۸۵۹۴ خرید و فروخت کی ایک شکل کا حکم ۲۹۹
- ۸۵۹۵ خریدار پر دین مہر ادا کرنا لازم نہیں اور فروختگی کے بعد وراثت کو حق اعتراض نہیں ۳۰۱
- ۸۵۹۶ مکان کی فروختگی کی قیمت وصول ہونے کے بعد مالک کو کوئی حق باقی نہیں رہتا ۳۰۲
- ۸۵۹۷ والد کے مکان فروخت کرنے کے بعد اولاد کا دعویٰ معتبر نہیں ۳۰۳
- ۸۵۹۹ والدہ کا حالت صحت میں اپنی جائیداد بیچنا ۳۰۷
- ۸۶۰۰ بائع کا زمین پر قبضہ دینے کے بعد اس کے وراثت کا بیچنے سے انکار کرنا ۳۰۸

- ۸۶۰۱ کیا پھٹی بور یوں سے گرنے والی کھاد دوکان دار استعمال کر سکتا ہے؟ ۳۰۹
- ۸۶۰۲ دوکان دار کا کم قیمت لینا ۳۱۰
- ۸۶۰۳ قصاب کا چرم قربانی بازاری بھاؤ سے کم قیمت پر خریدنا ۳۱۱
- ۸۶۰۴ زائد قیمت کے چاول کے ساتھ کم قیمت والے چاول بیچنا ۳۱۲
- ۸۶۰۵ کرایہ دار کے مکان خالی نہ کرنے پر اسی کے ہاتھ کم قیمت پر بیچنا ۳۱۳
- ۸۶۰۶ کتے کے جھوٹے آٹے کی بیع کا حکم ۳۱۴
- ۸۶۰۷ اولاد نے والد کے ساتھ رہ کر جو کمائی کی وہ کس کی ملک ہے؟ ۳۱۵
- ۸۶۰۸ دودھ کی بالائی مشین کے ذریعہ نکال کر فروخت کرنا ۳۱۶
- ۸۶۰۹ فوٹو فریم بنا کر فروخت کرنا ۳۱۷
- ۸۶۱۰ غیر مسلم کو قرآن شریف فروخت کرنے کا حکم ۳۱۸
- ۸۶۱۱ آیات قرآنیہ والے کلیڈر غیر مسلم کو فروخت کرنے کا حکم ۳۱۹
- ۸۶۱۲ سرکار کی طرف سے بیڈ شدہ کتاب کی فروختگی کا حکم ۳۲۰
- ۸۶۱۳ مسلم شخص کا غیر مذہبی فوٹو کی کتابیں فروخت کرنا ۳۲۱
- ۸۶۱۴ لہو و لعب کی چیزیں بنانے اور بیچنے کا حکم ۳۲۲
- ۸۶۱۵ مانجھے کی آمدنی کا حکم ۳۲۳
- ۸۶۱۶ پوجا پاٹ اور نذر و نیاز میں استعمال ہونے والی اشیاء کی خرید و فروخت کا حکم ۳۲۳
- ۸۶۱۷ پوجا میں استعمال ہونے والے پیتل کے چراغ بنانا ۳۲۵
- ۸۶۱۸ گھنٹی، ترشول، اوم، چراغ وغیرہ آرڈر پر بنانا ۳۲۶
- ۸۶۱۹ مانع حمل دواؤں کی خرید و فروخت کا حکم ۳۲۷
- ۸۶۲۰ زمین کی بقیہ قیمت کی ادائیگی موجودہ وقت کے اعتبار سے ہوگی یا خرید کے؟ ۳۲۸
- ۸۶۲۱ پھل آنے سے قبل بور آنے کے بعد باغوں کی خرید و فروخت ۳۲۹
- ۸۶۲۲ باغات کی فروختگی میں جواز کی متبادل شکل ۳۳۰

۳۳۲	زمین مع باغ ٹھیکہ پر دینا	۸۶۲۳
۳۳۲	باغ مع زمین ایک سال یا کئی سال کے لئے فروخت کرنا	۸۶۲۴
۳۳۳	کیروسین کی خرید و فروخت	۸۶۲۵
۳۳۵	راشن دوکان سے غلہ خریدنا	۸۶۲۶
۳۳۶	دوسروں کے کنکشن سے گیس لے کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنا	۸۶۲۷
۳۳۷	گیس کی کالا بازاری کی شرعی حیثیت	۸۶۲۸
۳۳۸	132 نمبر کاپلاٹ بیچ کر 131 نمبر کاپلاٹ دینا	۸۶۲۹
۳۴۰	گلوکوز کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۳۰
۳۴۱	چوری کا اڈا بنانے والے کو زمین فروخت کرنے کا حکم	۸۶۳۱
۳۴۱	ویزا کی خرید و فروخت	۸۶۳۲
۳۴۲	اخبار کی خریداری کی قیمت کو فیس قرار دینے کا حکم	۸۶۳۳
۳۴۳	ہٹل والوں کا زیادہ قیمت میں کھانا فروخت کرنے کا حکم	۸۶۳۴
۳۴۵	قانوناً پابندی شدہ جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر لانا	۸۶۳۵
۳۴۶	سرکاری جنگلات کی لکڑیوں کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۳۶
۳۴۷	دریائی جانوروں کی بیچ اور ان کے کھانے کا حکم	۸۶۳۷
۳۴۸	مردار کی ہڈی، دانت، سینگ، پٹھے کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۳۸
۳۴۹	مردار جانور کے کچے چمڑے اور ہڈی کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۳۹
۳۵۱	حلال جانوروں کے کون کون سے اعضاء کی تجارت جائز ہے؟	۸۶۴۰
۳۵۱	مرغ وغیرہ جانوروں کو زندہ فروخت کرنے کا حکم	۸۶۴۱
۳۵۲	زندہ جانور تول کر بیچنا	۸۶۴۲
۳۵۳	مذبحہ جانوروں کے اعضاء تناسل اور خون کی بیچ کا حکم	۸۶۴۳
۳۵۴	سمندری کیکڑے کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۴۴

۳۵۶	کتے کی بیع کی شرعی حیثیت	۸۶۴۵
۳۵۷	انسانی و حیوانی فضلات کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۴۶
۳۵۸	بریلوی مسلک کے لوگوں کو زمین فروخت کرنے کا حکم	۸۶۴۷

۳۶۰	۲ / باب الخيار	□
-----	----------------	---

۳۶۰	بیع کے تام ہونے کے بعد کسی ایک فریق کے بیع کو ختم کرنے کا حکم	۸۶۴۸
۳۶۲	عقد صحیح کے بعد واپسی پر مجبور کرنا	۸۶۴۹
۳۶۳	بیعانہ کی ادائے گی نہ کرنے پر کیا بیع کو ختم کیا جاسکتا ہے؟	۸۶۵۰
۳۶۴	مدت متعینہ پر ثمن کی ادائے گی نہ ہونے پر بائع کو خیار فسخ حاصل ہے	۸۶۵۱
۳۶۶	مال میں نقص نکلنے پر کارخانہ دار پر ہرجانہ عائد کرنا	۸۶۵۲
۳۶۷	وقت پر قیمت ادا نہ کرنے کی وجہ سے معاملہ فسخ کرنا	۸۶۵۳
۳۶۹	بیع تام اور لازم ہونے کے بعد معاملہ منسوخ کرنے کا حکم	۸۶۵۴
۳۷۰	وعدہ کی خلاف ورزی پر سابقہ معاملہ ختم کر دینے کا حکم	۸۶۵۵

۳۷۲	۳ / باب العربون	□
-----	-----------------	---

۳۷۲	بیع عربون	۸۶۵۶
۳۷۳	بیعانہ دے کر خرید و فروخت کرنے کا حکم	۸۶۵۷
۳۷۴	کیا دھوکہ سے اپنے نام بیع نامہ کرانے سے ملکیت ثابت ہو جائے گی	۸۶۵۸
۳۷۵	کیا ”امداد الفتاویٰ“ میں بیعانہ ضبط کرنے کا مسئلہ ہے؟	۸۶۵۹
۳۷۶	زر بیعانہ کی واپسی کا حکم	۸۶۶۰
۳۷۷	بیعانہ کی واپسی لازم ہے	۸۶۶۱
۳۷۸	بیعانہ کی رقم ضبط کرنے کا حکم	۸۶۶۲

۳۷۹ بیعانہ کی واپسی پر زائد رقم لینا	۸۶۶۳
۳۸۱ بیعانہ کے بعد معاملہ ختم کرنے کا حکم	۸۶۶۴
۳۸۲ جائیداد کا بیعانہ دوسرے کو دے کر سوتیلے بیٹے کو فروخت کرنا	۸۶۶۵
۳۸۳ بائع کا بیعانہ کی رقم جمع کرنا اور مشتری کا ڈبل رقم لینا	۸۶۶۶
۳۸۵ معاملہ ختم ہونے کی صورت میں بیعانہ کی رقم کا حکم	۸۶۶۷
۳۸۶ بیعانہ کی ڈبل رقم واپس کرنا	۸۶۶۸
۳۸۷ خریداری میں دی گئی رقم کی واپسی میں دوگنی رقم لینا	۸۶۶۹

۳۹۰	۴/ باب البیع الفاسد، والباطل، والمکروہ	□
-----	--	---

۳۹۰ شرط فاسد کے ساتھ خرید و فروخت کی شرعی حیثیت	۸۶۷۰
۳۹۰ شروط فاسدہ کے ساتھ بیع کا معاملہ	۸۶۷۱
۳۹۲ بیع میں شرط فاسد لگانے کا حکم	۸۶۷۲
۳۹۴ بیع واجارہ بیک وقت شیء واحد میں کرنے کا حکم	۸۶۷۳
۳۹۶ معدوم کی بیع کا حکم	۸۶۷۴
۳۹۸ ”بیع منابذہ“	۸۶۷۵
۳۹۹ کمیٹی کا خریدار سے متعینہ رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرنا	۸۶۷۶
۴۰۲ دوسرے کی زمین فروخت کرنے کا حکم	۸۶۷۷
۴۰۳ دوسرے کی دوکان اپنی بنا کر فروخت کرنے کا حکم	۸۶۷۸
۴۰۴ دوسرے کی چیز بلا اجازت فروخت کرنے کا حکم	۸۶۷۹
۴۰۶ لون کے رکشے فروخت کرنے کا حکم	۸۶۸۰
۴۰۸ سامان نہ ملنے پر ۴۵ سو کی جگہ چھ ہزار لینے کا حکم	۸۶۸۱
۴۱۰ ۵۰۰ روپے کا بل ۴۰۰ روپے میں فروخت کرنا	۸۶۸۲

۴۱۱	ہیمینٹ کی دوسونوے کی پرچی ۲۸۰ میں فروخت کرنا	۸۶۸۳
۴۱۲	ڈیڑھ روپے فی اشتہار معاملہ طے کرنے کے بعد ایک روپے میں چھپوانا	۸۶۸۴
۴۱۳	دیوالی پر مسلمان کا آتش بازی کی اشیاء فروخت کرنا	۸۶۸۵
۴۱۴	گرین وے پشوپالمن میں حصہ لینا	۸۶۸۶
۴۱۶	سودی رقم سے، جھوٹ بول کر یا کم تول کر تجارت کرنا	۸۶۸۷
۴۱۷	لاٹری کے پتے، تاش، لوڈو، کچے، آتش بازی بیچنے کا حکم	۸۶۸۸
۴۱۸	غیر شرعی لباس کو سلنا اور فروخت کرنا کیسا ہے؟	۸۶۸۹
۴۱۹	ہیروئن کی بیع و شراء	۸۶۹۰
۴۲۱	نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۹۱
۴۲۲	شراب سے بنے ہوئے سرکہ کا استعمال و تجارت	۸۶۹۲
۴۲۳	اعضائے انسانی کی خرید و فروخت کا حکم	۸۶۹۳
۴۲۵	گوبر اور اس سے نکلے ہوئے دانے کی تجارت	۸۶۹۴
۴۲۷	مردار جانور کی ہڈی، کھال اور چربی فروخت کرنے کا حکم	۸۶۹۵
۴۲۸	مہینہ بکریوں کی بیع اور اس کی آمدنی کا حکم	۸۶۹۶
۴۳۰	مردار جانوروں کے گوشت کی خرید و فروخت	۸۶۹۷
۴۳۱	جھٹکے کے بکرے کی آنت کی تجارت کا حکم	۸۶۹۸
۴۳۳	خون کی مصنوعات کی تجارت	۸۶۹۹
۴۳۴	خون کی بیع کا حکم	۸۷۰۰
۴۳۷	خون سے بنے مچھلیوں کے دانہ کی خرید و فروخت کا حکم	۸۷۰۱
۴۳۹	بیع سرطان کا حکم	۸۷۰۲
۴۴۰	خنزیر کے بالوں کے ساتھ دوسرے جانور کے بالوں سے برش بنانا	۸۷۰۳
۴۴۱	فحش کتابیں اور خنزیر کی چربی سے بنے چپس فروخت کرنے کا حکم	۸۷۰۴

۴۴۲ ادھیاپر بکری دینا	۸۷۰۵
۴۴۳ چارمن غلہ پر زمین کا شنکاری کے لئے دینا	۸۷۰۶
۴۴۴ زمین کی فروختگی کی ایک شکل	۸۷۰۷
۴۴۶ زمین کی فروختگی کی ایک ناجائز شکل	۸۷۰۸
۴۴۷ قسطوار زمین کی خرید و فروخت کرنے والی کمپنی کا ممبر بننا	۸۷۰۹
۴۵۰ زمین کو فروخت کرنے کی ایک ناجائز شکل	۸۷۱۰
۴۵۲ پتنگ بنانا اور فروخت کرنا کیسا ہے؟	۸۷۱۱
۴۵۳ جانوروں کی تصاویر بنانا اور ان کا کاروبار کرنا	۸۷۱۲
۴۵۴ پیتل کے ہاتھی گھوڑے وغیرہ بنانا	۸۷۱۳
۴۵۵ پیتل وغیرہ کی مورتی بنانا کیسا ہے؟	۸۷۱۴
۴۵۶ تانبہ پیتل سے جانوروں کا مجسمہ بنانا	۸۷۱۵
۴۵۸ چوری کے سامان کی خرید و فروخت کا شرعی حکم	۸۷۱۶
۴۶۰ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟	۸۷۱۷
۴۶۱ مال مسروق کی بیع و شراء کا حکم	۸۷۱۸
۴۶۳ چوری کی لکڑی کی خرید و فروخت اور عددوں کو تیار کرنے پر مزدوری لینا	۸۷۱۹
۴۶۵ باغات کی خرید و فروخت	۸۷۲۰
۴۶۷ بد و صلاح سے قبل پھلوں کی خرید و فروخت	۸۷۲۱
۴۶۹ بہار انبہ کی فصل کی خرید و فروخت	۸۷۲۲
۴۷۰ باغ خریدنے کی جائز اور ناجائز شکلیں	۸۷۲۳
۴۷۱ پھل آنے سے قبل باغات کی خرید و فروخت	۸۷۲۴
۴۷۳ پھل آنے سے قبل باغ کے بیع و شراء کی جائز اور ناجائز صورت	۸۷۲۵
۴۷۵ پھل آنے سے پہلے ان کی بیع کا حکم	۸۷۲۶

- ۸۷۲۷ پھل آنے سے پہلے فروخت کئے گئے باغوں کے پھلوں کا حکم ۴۷۷
- ۸۷۲۸ پھلوں کی فروختگی میں پہلا عقد فاسد ہونے کے بعد دیگر عقود کا صحیح ہو جانا .. ۴۷۹
- ۸۷۲۹ ”بیع عرایا“ کی تفسیر میں ائمہ حدیث اور فقہاء کا اختلاف ۴۸۰
- ۸۷۳۰ ایسے باغات کی خریداری کا حکم جن کی زمین میں کاشت نہیں ہوتی ... ۴۸۱
- ۸۷۳۱ کئی سال کے لئے باغات کو ٹھیکہ پر لینا ۴۸۲
- ۸۷۳۲ باغ کی فصل فروخت کرنے کا حکم ۴۸۳
- ۸۷۳۳ پانچ کوئٹل آم کے عوض باغ فروخت کرنے کا حکم ۴۸۴
- ۸۷۳۴ بیس کوئٹل آم پر باغ فروخت کرنے کا حکم ۴۸۵
- ۸۷۳۵ ”احکام“ کا مطلب ۴۸۶
- ۸۷۳۶ احکام کی ممانعت کا مصداق ۴۸۷
- ۸۷۳۷ بغرض تجارت ذخیرہ اندوزی کرنا ۴۸۸
- ۸۷۳۸ غلہ کی ذخیرہ اندوزی کر کے فروخت کرنے کا حکم ۴۸۹
- ۸۷۳۹ اناج اشاک کر کے رکھنے کا حکم ۴۹۰
- ۸۷۴۰ زیادتی ثمن کے لئے پہلے خریدار سے معاملہ ختم کرنے کا حکم ۴۹۱
- ۸۷۴۱ سرکاری باغ سے لکڑی چوری کر کے مکتب میں فروخت کرنا ۴۹۳
- ۸۷۴۲ جانتے ہوئے چوری کا سامان خریدنا مکروہ ۴۹۴
- ۸۷۴۳ پتنگ اور پٹاخوں کی تجارت کا حکم ۴۹۵
- ۸۷۴۴ تصویر والے کپڑوں کی تجارت ۴۹۶
- ۸۷۴۵ مصور زیورات کی خرید فروخت کی شرعی حیثیت ۴۹۷
- ۸۷۴۶ خنزیر کے برش میں لگنے والے دیگر آلات کا آرڈر لینا ۴۹۸
- ۸۷۴۷ نجش فی البیع کا حکم ۴۹۹

۵۰۱	۵/ باب حط الثمن و زیادته نقدا و نسیئة	□
-----	---------------------------------------	---

۵۰۱	ادھار خرید و فروخت	۸۷۴۸
۵۰۲	ادھار خرید و فروخت کا حکم	۸۷۴۹
۵۰۳	فائمنس کا حکم	۸۷۵۰
۵۰۴	ادھار پر مونجی کی فصل کسانوں سے خریدنے کا حکم	۸۷۵۱
۵۰۵	قسطوں پر سواری یا سامان کی خریداری	۸۷۵۲
۵۰۶	گرڑ کی بھیلی بازار کی قیمت سے کم یا زیادہ قیمت پر بنانا	۸۷۵۳
۵۰۹	سوسائٹی سے کھاؤ خریدنے کا حکم	۸۷۵۴
۵۰۹	قیمت بڑھا کر ادھار فروخت کرنا	۸۷۵۵
۵۱۰	ادھار کی صورت میں بیع کی قیمت بڑھانا	۸۷۵۶
۵۱۱	کیش لے کر کم قیمت پر سامان بعد میں دینا	۸۷۵۷
۵۱۲	قیمت بڑھا کر قسطوار ادھار بیچنا	۸۷۵۸
۵۱۳	ادھار و نقد کی صورت میں قیمت میں تفاوت کا حکم	۸۷۵۹
۵۱۴	نقد و ادھار کی وجہ سے قیمت میں کمی زیادتی کرنا	۸۷۶۰
۵۱۶	نقد و ادھار معاملہ میں قیمت میں کمی بیشی کرنا	۸۷۶۱
۵۱۷	نقد ۸۰ روپے اور ایک ماہ کی ادھاری پر ۸۵ روپے میں فروخت کرنا	۸۷۶۲
۵۱۸	نقد اور ادھار کی صورت میں قیمتوں کے فرق کا حکم	۸۷۶۳
۵۱۹	نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا	۸۷۶۴
۵۲۰	ادھار معاملہ میں کمی و بیشی کا حکم	۸۷۶۵
۵۲۱	نقد میں کم اور ادھار میں زائد روپے لینا	۸۷۶۶

۵۲۳	۶/ باب المراجعة	□
-----	-----------------	---

۵۲۳	شرعاً نفع لینے کی حد کیا ہے؟	۸۷۶۷
۵۲۴	دو گئے نفع پر فروخت کرنے کا حکم	۸۷۶۸
۵۲۵	سلنڈر بلیک کرنا	۸۷۶۹
۵۲۷	لون پر رکشہ لینے کی جائز شکل	۸۷۷۰
۵۲۸	کمیشن پر کتاب لاکر پوری قیمت میں فروخت کرنا	۸۷۷۱
۵۲۹	ایک روپے کی چیز سو روپے میں فروخت کرنا	۸۷۷۲
۵۳۰	بیس ہزار کا مال ۲۴ ہزار میں فروخت کرنے کا حکم	۸۷۷۳

۵۳۲	۷/ بیع التلجئة	□
-----	----------------	---

۵۳۲	”بیع تلجئة“ کا مقصد	۸۷۷۴
۵۳۳	بیع تلجئة	۸۷۷۵
۵۳۵	کسی کے نام سے خریدنے کا حکم	۸۷۷۶
۵۳۹	نام کر دینے سے ملکیت کا حکم	۸۷۷۷
۵۴۱	محض نام کرنے سے ملکیت کا حکم	۸۷۷۸
۵۴۳	جائیداد نام کرنے سے ملکیت کا حکم	۸۷۷۹
۵۴۵	اولاد کے نام جائیداد خریدنے کا حکم	۸۷۸۰
۵۴۹	لڑکوں کے نام سے جائیداد خریدی تو وہ کس کی ملک ہوگی؟	۸۷۸۱
۵۵۰	خوف کے سبب عارضی طور پر کسی کے نام جائیداد	۸۷۸۲
۵۵۲	غلطی سے دوسرے کے نام رجسٹری ہونے سے ملکیت کا حکم	۸۷۸۳
۵۵۴	مصلحتاً بڑے لڑکے کے نام بیع نامہ کرانے سے ملکیت کا حکم	۸۷۸۴

۵۵۵	انٹرنیکس سے بچنے کی غرض سے کاروبار بیوی بچوں کے نام کرنے کا حکم	۸۷۸۵
۵۶۰	بیوی کے نام زمین کرانے سے ملکیت کا حکم	۸۷۸۶
۵۶۱	بیوی بچوں کے نام بیع نامہ کرانے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی	۸۷۸۷
۵۶۳	بیوی کے نام سے زمین خریدنا	۸۷۸۸
۵۶۴	بیوی کی دل جوئی کے لئے مکان اس کے نام سے خریدنے کا حکم	۸۷۸۹
۵۶۶	انٹرنیکس سے بچنے کے لئے بیوی کے نام جائیداد کرنے کا حکم	۸۷۹۰
۵۶۷	بیوی کے نام مکان خریدنے سے کیا وہ مالک ہو جائے گی؟	۸۷۹۱
۵۶۹	بیوی کے نام سے جائیداد خریدنے کا حکم	۸۷۹۲
۵۷۰	قانونی مصلحت کی بنا پر بہن کے نام رجسٹری کرانے سے ملکیت کا حکم	۸۷۹۳
۵۷۲	بڑے بھائی کے نام بیع نامہ ہونے کے باوجود دوسرا بھائی حق دار	۸۷۹۴

۵۷۵	۸ / باب الصرف	□
-----	---------------	---

۵۷۵	سونے کی ادھار بیع کا حکم	۸۷۹۵
۵۷۶	سونے اور چاندی کے زیورات کی ادھار خرید و فروخت کا حکم	۸۷۹۶
۵۷۷	سونے چاندی کی ادھار بیع و شراء کی شرعی حیثیت	۸۷۹۷
۵۷۷	قسطوں پر سونے چاندی کی خرید و فروخت کا حکم	۸۷۹۸
۵۷۸	سونے کو سونے کے عوض چاندی کو چاندی کے عوض کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا	۸۷۹۹
۵۸۰	۲۰ ہزار کے زیورات ۲۴ ہزار میں فروخت کرنے کا حکم	۸۸۰۰
۵۸۱	ریال کا تبادلہ اس سے کم مالیت کے سکوں سے کرنے کا حکم	۸۸۰۱
۵۸۲	دو ملکوں کی کرنسیوں کے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کا حکم	۸۸۰۲
۵۸۳	دوسرو پے کے نوٹوں کے ہار کو تین سو روپے میں بیچنا	۸۸۰۳
۵۸۴	بوسیدہ نوٹ کم قیمت میں فروخت کرنے کا حکم	۸۸۰۴

۸۸۰۵ ۹۵ روپے ریز گاری کا سو روپے سے تبادلہ کرنا ۵۸۵

۵۸۷	۹ / باب السلم	□
-----	---------------	---

۵۸۷	بیع سلم کی تعریف اور شرائط	۸۸۰۶
۵۸۸	پیشگی رقم لے کر بیع بعد میں دینا	۸۸۰۷
۵۸۹	پیشگی رقم لے کر بیع کو فروخت کرنے کی چار شکلوں کا حکم	۸۸۰۸
۵۹۱	مال کے لئے آرڈر دے کر نہ لینے کا حکم	۸۸۰۹
۵۹۳	تاریخ اور کھیت متعین کئے بغیر فصل سے پہلے گیہوں خریدنا	۸۸۱۰
۵۹۴	فصل کاٹنے سے پہلے کاشتکار کو روپے دینے کا حکم	۸۸۱۱
۵۹۵	فصل کی کٹائی سے پہلے سو روپے کو منتقل گیہوں خریدنا	۸۸۱۲
۵۹۶	بیع سلم میں مسلم فیر کی مقدار کا متعین نہ ہونے کا حکم	۸۸۱۳
۵۹۶	بیع سلم کی ایک صورت	۸۸۱۴
۵۹۷	بیع سلم کی ایک جائز صورت	۸۸۱۵
۵۹۸	بیع سلم کا مشہور معاملہ	۸۸۱۶
۵۹۹	قیمت کی ادائے گی کے چھ ماہ بعد مال وصول کرنا	۸۸۱۷
۶۰۱	دھان پر پیسہ دینا	۸۸۱۸
۶۰۲	بیع سلم میں روپے کے عوض دھان لینے کی شرط کا حکم	۸۸۱۹
۶۰۳	قرض کی رقم کے عوض میں دھان لینا	۸۸۲۰
۶۰۵	بیع سلم میں روپے کے عوض دھان لینے کی شرط	۸۸۲۱
۶۰۵	ادھار معاملہ میں قیمت میں زیادتی اور بیع سلم سے متعلق ایک سوال	۸۸۲۲
۶۰۷	باغات کی فصل فروخت کرنے کی ایک شکل	۸۸۲۳

۶۰۹	۱۰/ باب الاستصناع	□
-----	-------------------	---

- ۶۰۹ بیع استصناع ۸۸۲۴
- ۶۱۳ عقد استصناع کا مدار عرف و تعاملِ ناس پر ہے یا نصوص پر؟ ۸۸۲۵
- ۶۱۵ عقد استصناع اجارہ ہے یا بیع؟ ۸۸۲۶
- ۶۱۶ کئی واسطوں سے معاملہ استصناع ۸۸۲۷
- ۶۱۷ باہر کے بائیسے آرڈر لینے والے ایکسپورٹر کو صانع کہا جائے یا مستصنع؟ ۸۸۲۸
- ۶۱۸ غیر منقول اشیاء میں استصناع کا معاملہ ۸۸۲۹
- ۶۱۹ گاڑی وغیرہ بڑی چیزوں میں استصناع کا معاملہ ۸۸۳۰
- ۶۲۰ عقد استصناع کی شکل میں مکان، فلیٹ وغیرہ کا معاملہ ۸۸۳۱
- ۶۲۱ (صانع) کاربیکر کو اجیر کب قرار دیا جائے؟ ۸۸۳۲
- ۶۲۲ ایک ماہ سے زیادہ مدت ہو تو کیا معاملہ استصناع سلم میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ۸۸۳۳
- ۶۲۳ عقد استصناع اجارہ کب ہوگا؟ ۸۸۳۴
- ۶۲۵ مدت متعینہ میں مال تیار نہ کرنے سے آرڈر کینسل کرنے کا حق ۸۸۳۵
- ۶۲۶ استصناع میں مال صانع کا ہو تو وہ بائع ہو جائے گا ۸۸۳۶
- ۶۲۷ مال کے لئے انکار پر پیشگی رقم کا ضبط کرنا ۸۸۳۷
- ۶۲۸ داخلی لوگوں نے مال کی تیاری میں تاخیر کر دی، جس سے باہر کے خریدار نے آرڈر کینسل کر دیا، تو نقصان کی تلافی کون کرے؟ ۸۸۳۸
- ۶۳۰ لوکل اور بین الاقوامی مارکیٹ میں عقد استصناع کے مسائل ۸۸۳۹
- ۶۳۰ معاملہ استصناع کے جواز کا مدار تعاملِ ناس پر ۸۸۴۰
- ۶۳۲ عقد استصناع اور عقد سلم کا فرق ۸۸۴۱
- ۶۳۳ عقد استصناع بیع ہے یا وعدہ بیع؟ ۸۸۴۲

۶۳۵	پہلے خریدار کا دوسرے خریدار کو دوسرے خریدار کا تیسرے خریدار کو فروخت کرنے کا معاملہ
۶۳۷	چھوٹی منقول اشیاء کی طرح بڑی چیزوں میں استصناع کا معاملہ
۶۳۸	غیر منقول عقار میں استصناع کا معاملہ
۶۳۹	عقدِ استصناع میں بیعانہ ضبط کرنے کا حکم
۶۴۲	ضروری وضاحت
۶۴۳	معاملہ استصناع اجارہ کب بن سکتا ہے؟
۶۴۵	طے شدہ شرائط اور نمونہ کی خلاف ورزی پر نقصان کا بھگتانا کس پر؟ ..
۶۴۵	استصناع کی شکل
۶۴۶	اجارہ کی شکل
۶۴۸	معاملہ استصناع کو منسوخ کرنے کی شکلیں
۶۵۱	امام ابو یوسفؒ کے قول کی ترجیح
۶۵۳	عقدِ استصناع میں مدت کی تعیین کا مسئلہ
۶۵۵	عقدِ استصناع میں طے شدہ مدت سے تاخیر کے نقصان کا عوض
۶۵۶	مقالہ کا خلاصہ اور جوابات کا حاصل

۶۶۱	۱۱ / باب بیع الوفاء	□
-----	---------------------	---

۶۶۱	بیع الوفاء	۸۸۳۹
۶۶۲	بیع الوفاء کا حکم	۸۸۴۰
۶۶۵	”بیع الوفاء“ کا جواز	۸۸۴۱
۶۶۷	کیا ہندوستان میں عقودِ فاسدہ جائز ہیں؟	۸۸۴۲
۶۶۹	قرض کی واپسی تک زمین کو فروخت کرنے کا حکم	۸۸۴۳

- ۸۸۴۴ رہن یا کرایہ پر رکھی ہوئی زمین سے فائدہ اٹھانے کی مختلف شکلیں ... ۶۷۱
- بیع الوفاء کی شرعی حیثیت ۶۷۵
- بیع الوفاء کے اسماء ۶۷۵
- بیع الوفاء کی حقیقت ۶۷۸
- بیع الوفاء کا جواز ۶۷۹
- معتدل اور مناسب حکم ۶۸۲
- بیع الوفاء کے بارے میں مفصل بحث اور فقہاء کی آراء ۶۸۳
- بیع صحیح کے قائلین ۶۸۴
- بیع فاسد کے قائلین ۶۸۶
- بیع صحیح یا بیع فاسد کے قائلین ۶۸۷
- رہن کے حکم کے قائلین ۶۸۹
- بیع المکرہ کے حکم کے قائلین ۶۹۳
- بیع اور رہن سے مرکب کے قائلین ۶۹۵
- بیع صحیح اور بیع فاسد اور رہن تینوں سے مرکب کے قائلین ۶۹۶
- بیع کو کرایہ پر دینے کا حکم ۶۹۸
- بیع الوفاء میں بیع کی آمدنی کا حق دار کون؟ ۷۰۱
- بیع الوفاء میں بیع کے نقصان کی تلافی ۷۰۱
- بیع الوفاء میں ثمن کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ ۷۰۳
- بائع اور مشتری کا اختلاف ۷۰۴

۷۰۷	۱۲ / باب الشفعة	□
-----	-----------------	---

۸۸۴۵ اپنے پڑوس کو بتائے بغیر زمین فروخت کرنے کا حکم ۷۰۷

- ۸۸۴۶ مکان میں شریک شفعہ کا مستحق ہے یا قبرستان؟ ۷۰۸
- ۸۸۴۷ شریک فی حق اہبیج کو شفعہ میں حق تقدم حاصل ہے ۷۰۹
- ۸۸۴۸ دس ماہ کے بعد حق شفعہ کا دعویٰ کرنا ۷۱۰
- ۸۸۴۹ ایک سال بعد حق شفعہ کا دعویٰ کرنا ۷۱۱

۷۱۳	۱۳ / باب المزارعة	□
-----	-------------------	---

- ۸۸۵۰ پندرہ کیلو تیل پر کھیتی کاشت کے لئے دینا ۷۱۳
- ۸۸۵۱ مزارعت میں مخصوص مقدار کی شرط لگانے کا حکم ۷۱۵
- ۸۸۵۲ ایک کا کھیت اور دوسرے کی محنت و بیج ہونے کی صورت کا حکم ۷۱۶
- ۸۸۵۳ مزارعت میں خاص مقدار میں غلہ متعین کرنا ۷۱۷
- ۸۸۵۴ پیسوں کے عوض میں زمین کو کرایہ پر دینا ۷۱۸
- ۸۸۵۵ متعین غلہ کے عوض میں زمین کرایہ پر دینا ۷۱۹
- ۸۸۵۶ غیر کی ملکیت میں لگایا گیا پودا کس کا ہوگا؟ ۷۲۰



فہرست مضامین

۲۶ / کتاب الشركة والمضاربة

□	۱ / باب شرائط الشركة	□
صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۲ تجارت میں فیصد طے کر کے شرکت کرنے کا حکم	۸۸۵۷
۳۴ شرکت میں نفع و نقصان کا تناسب	۸۸۵۸
۳۵ پانچ فیصد کے نفع پر شرکت کرنے کا حکم	۸۸۵۹
۳۶ منافع کا فیصدی لازم ہے	۸۸۶۰
۳۸ منافع کی تقسیم طے شدہ فیصد کے مطابق کرنے کا حکم	۸۸۶۱
۴۰ بغیر پیسے دیئے کاروبار میں شرکت کا حکم	۸۸۶۲
۴۱ نقصان کی صورت میں شریکوں کو کس حساب سے پیسے لوٹائے جائیں؟	۸۸۶۳
۴۴ سماجی داری ختم کرتے وقت کونسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟	۸۸۶۴
۴۶ شریک سے متعین نفع سے زیادہ رقم وصول کرنے کا حکم	۸۸۶۵
۴۷ مشترکہ کمائی کا مالک کون؟	۸۸۶۶
۴۸ ذاتی اور مشترکہ رقم سے خریدی گئی زمین کا مالک کون؟	۸۸۶۷
۴۹ مشترکہ روپے سے بحالت شرکت خریدے ہوئے مکان کا حکم	۸۸۶۸

- ۹۹۶۹ گاڑی کی خرابی کا خرچہ مشترکہ رقم سے لینے کا حکم ۵۰
- ۸۸۷۰ شرکت کے معاملہ میں نفع کا مجہول ہونا ۵۲
- ۸۸۷۱ نفع زیادہ ہو تو آٹھ ہزار اور کم ہو تو سات ہزار پر شرکت کا حکم ۵۳
- ۸۸۷۲ مشترکہ کاروبار میں کسی شریک کے لئے الگ سے اجرت متعین کرنے کا حکم ۵۴
- ۸۸۷۳ شریک کے لئے نفع کے علاوہ عمل کی اجرت کا حکم ۵۶
- ۸۸۷۴ ایک شریک کا دوسرے کو اجارہ پر رکھنا ۵۷
- ۸۸۷۵ مسلم کا کافر و مشرک کے ساتھ مشترکہ تجارت کرنے کا حکم ۵۸
- ۸۸۷۶ مال حرام کے ساتھ شرکت کرنا ۵۹
- ۸۸۷۷ چند آدمیوں کا حلال و حرام مال سے تجارت میں شرکت کرنا ۶۰
- ۸۸۷۸ کسی ایک شریک کا دوران شرکت انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ۶۱
- ۸۸۷۹ شرکت ختم کرنے کے بعد مطالبہ کئے گئے کا حکم ۶۳
- ۸۸۸۰ شرکت میں رقم کی چوری کا ضمان کس پر؟ ۶۶
- ۸۸۸۱ شریک کا مال مشترک کو خریدنا ۶۷
- ۸۸۸۲ شریکین کے مال کی مقدار معلوم نہ ہو تو حصہ کا تناسب کیسے ہوگا؟ ۶۸
- ۸۸۸۳ شرکت مفروضہ میں تساوی کی شرط کی وضاحت ۷۰
- ۸۸۸۴ مشروط شرکت کا حکم ۷۲
- ۸۸۸۵ مشترکہ کاروبار میں ہر شریک اپنے حصہ کے بقدر تصرف کا مختار ہے ۷۴
- ۸۸۸۶ مال مشترک میں سے کسی ایک شریک کا اپنے حصہ کو فروخت کرنے کا حکم ۷۵
- ۸۸۸۷ شرکت میں طے شدہ شرائط کی شرعی حیثیت ۷۶

- ۸۸۸۸ دوسرے کی زمین میں مکان بنانا اور کرایہ وصول کرنا ۷۸
- ۸۸۸۹ مشترکہ راستہ میں تعمیر کرنے کا حکم ۷۹
- ۸۸۹۰ مشترکہ راستہ میں دروازہ لگانے کا حکم ۸۰
- ۸۸۹۱ ایک مکان میں کم وبیش حصہ داروں کا مشترکہ مکان فروخت کرنے کا حکم ۸۱
- ۸۸۹۲ شرکت بالاموال کی ایک صورت ۸۲

□	۲ / باب شركة العنان	□
---	----------------------------	---

- ۸۸۹۳ جدید تعمیر عمارت کے دو طریقوں کا حکم ۸۴
- ۸۸۹۴ شرکت عنان میں نقصان کو سرمایہ سے کم یا زیادہ فیصدی متعین کرنے کا حکم ۸۷
- ۸۸۹۵ چند لوگوں کا مل کر مشترکہ کاروبار کرنے کا حکم ۸۸
- ۸۸۹۶ فتویٰ ۳۴/۶۳۲ سے متعلق دوسرا فتویٰ ۹۰
- ۸۸۹۷ شرکت عنان میں کسی ایک شریک کے الگ سے تجارت کرنے کا حکم ۹۴
- ۸۸۹۸ تجارتی کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت کا حکم ۹۷
- ۸۸۹۸ باپ اور بیٹے کے مشترکہ کاروبار کا تحقیقی جائزہ ۹۹
- بڑے بیٹے کا باپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے کی وجہ سے اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا ۹۹
- عیال اور فیملی کی حقیقت ۱۰۱
- بیٹے کا اپنا سرمایہ لگا کر باپ کے ساتھ کاروبار کرنا ۱۰۲
- باپ کی فیملی میں رہ کر باپ کی پونجی اور سرمایہ سے بیٹے کا کاروبار شروع کرنا ۱۰۵
- باپ کے سرمایہ میں بیٹوں کی شرکت کی شکلیں ۱۰۷
- بیٹے کا اپنے سرمایہ سے کمپنی قائم کر کے باپ کے نام کر دینا ۱۱۵
- باپ کا اپنے سرمایہ سے سب بیٹوں کا کاروبار لگ لگ کر کے سرپرستی کرنا ۱۱۹

- مرحوم باپ کے متروکہ سرمایہ سے حاصل شدہ آمدنی کیسے تقسیم ہو؟ ... ۱۲۱
- کسی وارث کا والد کے متروکہ سرمایہ کو لے کر اپنا کوئی کاروبار کرنا ۱۲۸
- ابتداء معاملہ کی نوعیت واضح نہ ہونا اور بعد میں شرکت عنان ہونا ۱۳۲
- باپ اور بیٹوں کے مابین مشترکہ کاروبار کے بنیادی اصول ۱۳۴

□	۳ / باب شركة الوجوه	□
---	---------------------	---

- ۸۸۹۹ باپ کی فیملی میں رہ کر مشترکہ کمائی کی تقسیم ۱۳۹
- ۸۹۰۰ والد صاحب کے زیر سایہ اولاد کا رو بار کرے، تو مالک کون؟ ۱۴۰
- ۸۹۰۱ باپ بیٹے یکجا محنت سے کمائیں تو مالک کون؟ ۱۴۲
- ۸۹۰۲ کیا والد صاحب کے ساتھ شرکت کی بناء پر لڑکا تمام جائیداد کا مالک ہوگا؟ ۱۴۳
- ۸۹۰۳ والد کی فیملی میں رہ کر کمایا ہوا مال کس کی ملکیت ہے؟ ۱۴۶
- ۸۹۰۴ کیا بیٹے کی رقم سے خریدی گئی جائیداد والد صاحب کی ہی ملک ہوگی؟ ۱۴۸
- ۸۹۰۵ باپ کی فیملی میں رہتے ہوئے حاصل شدہ جائیداد میں دیگر ورثاء کا حق ۱۴۹
- ۸۹۰۶ والد صاحب کے ساتھ مل کر حاصل کردہ آمدنی میں سبھی ورثاء کا حق ہے ۱۵۰
- ۸۹۰۷ ایک ہی فیملی میں رہ کر خریدی گئی جائیداد کا حکم ۱۵۲
- ۸۹۰۸ باپ کی فیملی میں رہ کر کمائی گئی جائیداد کا حکم ۱۵۳
- ۸۹۰۹ فیملی کا رہن سہن الگ ہو، تو آپسی شرکت کا حکم ۱۵۷
- ۸۹۱۰ باپ کی موت کے بعد اولاد کا مشترکہ کاروبار ۱۵۸
- ۸۹۱۱ والد صاحب کی موت کے بعد مشترکہ کاروبار کی آمدنی کی تقسیم کا تناسب ۱۵۹
- ۸۹۱۲ والد کی دکان میں شرکت اور منافع کی تقسیم کا حکم ۱۶۰

۱۶۲ فیملی کے نام خریدی گئی زمین میں تعمیر کے خرچہ کا تناسب	۸۹۱۳
۱۶۳ بھائیوں کی مشترکہ آمدنی کی شرعی تقسیم	۸۹۱۴
۱۶۶ بھائیوں کی مشترکہ کمائی سے خریدی گئی زمین کا حکم	۸۹۱۵
۱۶۸ مشترکہ زندگی میں ایک بھائی کے پیسے سے خریدی گئی زمین میں شرکت کا تناسب	۸۹۱۶
۱۶۹ مدد کی غرض سے کاروبار میں شریک کئے گئے بھائیوں کے حصہ کا تناسب	۸۹۱۷
۱۷۱ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کی کل جائیداد میں شرکت کا دعویٰ کرنا	۸۹۱۸
۱۷۶ ترکہ کے منافع کی تقسیم کے تناسب کا طریقہ کار	۸۹۱۹
۱۷۷ ایک بھائی کی جائیداد میں دوسرے بھائی شریک ہیں یا نہیں؟	۸۹۲۰
۱۷۹ مشترکہ زمین میں ورثاء اور شریک کے حصہ کی تفصیل	۸۹۲۱

<input type="checkbox"/>	۴ / باب الشَّرْكَةُ الْفَاسِدَةُ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------

۱۸۱ کمپنیوں میں ممبری کی شرعی حیثیت	۸۹۲۲
۱۸۲ کمپنیوں کی ممبر سازی کا حکم	۸۹۲۳
۱۸۵ شیئرز میں بیمہ کی شکل	۸۹۲۴
۱۸۶ شیئرز کی بیع و شراء کا شرعی حکم	۸۹۲۵
۱۸۷ شیئرز کا شرعی حکم	۸۹۲۶
۱۸۸ شیئرز کی کون سی شکل جائز اور کون سی ناجائز؟	۸۹۲۷
۱۹۰ شیئرز کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت	۸۹۲۸
۱۹۱ شیئرز کی خرید و فروخت کا حکم	۸۹۲۹

۱۹۳	شیرز کی خرید و فروخت	۸۹۳۰
۱۹۴	شیرز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟	۸۹۳۱
۱۹۵	شیرز بازار کی خرید و فروخت و منافع کا حکم	۸۹۳۲
۱۹۶	یونٹ ٹرسٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا شیراز	۸۹۳۳
۱۹۷	ایف آئی سی کمپنی کا ایجنٹ بننا اور تجارت میں شامل ہونا	۸۹۳۴
۲۰۱	شرکت کی ایک ناجائز شکل	۸۹۳۵
۲۰۲	شریکین میں سے نقصان صرف ایک شریک پر ہو، تو کیا حکم ہے؟	۸۹۳۶
۲۰۴	ہر ماہ دو ہزار دینے پر شرکت کرنا	۸۹۳۷
۲۰۵	ایک شریک کا دوسرے پر احسان جتنا	۸۹۳۸

□	۱۵ / باب المضاربتہ	□
---	--------------------	---

۲۰۷	مضاربت جائز اور سود حرام ہے	۸۹۳۹
۲۰۸	کسی ایک شریک کے انتقال ہونے کی صورت میں مضاربت کا حکم	۸۹۴۰
۲۰۹	مضاربت میں نفع و نقصان کے تناسب کا طریقہ کار	۸۹۴۱
۲۱۱	مضاربت میں نفع و نقصان دونوں میں شرکت اور تعین کا حکم	۸۹۴۲
۲۱۲	مضاربت میں فیصد کی تعیین لازم ہے رقم کی نہیں	۸۹۴۳
۲۱۴	مضاربت کی محض نفع میں شرکت کا حکم	۸۹۴۴
۲۱۶	دوسرے کی رقم سے مکان بنا کر فروخت کرنے اور منافع میں شرکت کا تناسب	۸۹۴۵
۲۱۷	پانچ فیصدی نفع پر زمین تلاش کر کے فروخت کرنا	۸۹۴۶
۲۱۸	دس فیصد کے منافع پر سرمایہ لگانا	۸۹۴۷
۲۱۹	دو ہزار نفع کی شرط لگانا، عقد مضاربت میں داخل نہیں	۸۹۴۸

۲۲۱ رب المال کا معاملہ ختم ہونے سے قبل رأس المال لینے کا حکم	۸۹۴۹
۲۲۲ مضاربت ختم کرنے کے بعد مضارب سے نفع طلب کرنے کا حکم	۸۹۵۰
۲۲۳ مضاربت کی ایک صورت	۸۹۵۱
۲۲۵ دوسرے سے رقم لے کر کوچنگ سینٹر قائم کر کے نفع برابر تقسیم کرنا	۸۹۵۲
۲۲۶ ایک کا پیسہ اور دوسرے کی محنت ہو، تو کیا حکم ہے؟	۸۹۵۳
۲۲۷ دو ملٹ اور ایک ملٹ کے منافع پر شرکت کرنے کا حکم	۸۹۵۴
۲۲۸ عقد مضاربت کی دو شکلیں	۸۹۵۵
۲۲۹ مضاربت سے متعلق چند مسائل	۸۹۵۶

۲۷ / کتاب الربوا

□	باب ما يتعلق بنفس الربوا	□
---	--------------------------	---

۲۳۱ سود کی لعنت	۸۹۵۷
۲۳۲ کیا سود لینا اور دینا دونوں برابر ہیں؟	۸۹۵۸
۲۳۲ سود ناجائز کیوں؟	۸۹۵۹
۲۳۳ سود اور معاہدہ میں فرق	۸۹۶۰
۲۳۵ سودی رقم سے خریدی گئی جائیداد کو پاک کرنے کا طریقہ	۸۹۶۱
۲۳۷ کیا دارالحرب میں سودی کاروبار جائز ہے؟	۸۹۶۲
۲۳۷ دارالحرب میں حربیوں سے سود لینے کی ایک شرط	۸۹۶۳
۲۳۸ کیا ہندوستان میں سود کے جواز کی کوئی شکل ہے؟	۸۹۶۴

- ۸۹۶۵ ہندوستان کے دارالالحرب ہونے اور اس میں سود لینے کا حکم ۲۴۸
- ۸۹۶۶ کیا ہندوستان میں بینک سے سود لینا جائز ہے؟ ۲۵۰
- ۸۹۶۷ ہندوستانی کافروں سے سود لینے کا حکم ۲۵۱
- ۸۹۶۸ مسلمانوں کا ہندوستان میں سودی کاروبار کرنا ۲۵۴
- ۸۹۶۹ یورپ میں قیام پذیر مسلمانوں کے لئے غیر مسلم سے سود لینا ۲۵۵
- ۸۹۷۰ ہندوستان میں رہتے ہوئے دارالالحرب کے بینک سے سود لینا ۲۵۶
- ۸۹۷۱ بینک کے سود کا حکم ۲۵۶
- ۸۹۷۲ پیریس کا ۲۵۸
- ۸۹۷۳ اسپیک ایشیا آن لائن کی شرعی حیثیت ۲۵۹
- ۸۹۷۴ یونٹ ٹرسٹ کا حکم ۲۶۲
- ۸۹۷۵ یونٹ ٹرسٹ کا حکم ۲۶۴
- منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۶۵
- ۸۹۷۶ ہنڈی ۲۶۵
- ۸۹۷۷ ربوا کی ایک صورت کا حکم ۲۶۷
- ۸۹۷۸ کیا ڈاکخانہ میں جمع شدہ رقم کے علاوہ بڑھی ہوئی رقم سود ہے؟ ۲۷۱
- ۸۹۷۹ کیا ورثاء پر میت کے سودی قرض کو ادا کرنا لازم ہے؟ ۲۷۲
- ۸۹۸۰ غیر سودی رفاہی ادارے اور سوسائٹیوں کا حکم اور طریقہ کار کے سلسلہ میں
- ادارہ مباحث فقہیہ کی جانب سے چند سوالات اور ان کے جوابات ۲۷۴
- سوالات اور جوابات سودی معاملہ میں ابتلاء عام رفاہی اداروں کا قیام
- اور اس کی ضرورت ۲۷۶

۲۷۷	پاس بک کی فروختگی کا جواز	۸۹۸۱
۲۷۸	رفاہی اداروں کے لئے عطایا اور صدقات میں حیلہ تملیک کا حکم	۸۹۸۲
۲۸۱	اجرة الخدمت کا عدم جواز اور ضرورت کے درجات	۸۹۸۳
۲۸۴	سرمایہ کو تجارت میں لگانے کا حکم	۸۹۸۴
۲۸۶	(۷-۸) فارم اور معاہدہ نامہ کی فروختگی کے جواز پر پانچ دلیلیں	۸۹۸۵
۲۹۱	اشیاء مرہونہ کی اجرة الحفظ کا عدم جواز	۸۹۸۶
۲۹۲	اشیاء مرہونہ میں مضمون بالقرض سے زائد کی حفاظت کا کرایہ	۸۹۸۷
۲۹۳	مستقل امانت کی حفاظت کے کرایہ کا جواز	۸۹۸۸
۲۹۴	بیع الجا مکبہ اور میعادہ چیک کی خریداری کا عدم جواز	۸۹۸۹
۲۹۶	فکس ڈپازٹ میں رکھنا اور اس سے ملنے والی رقم کا حکم	۸۹۹۰

	۲ / باب البنوک	
--	-----------------------	--

۲۹۸	بینک سے گرین کارڈ بنوانا کیسا ہے؟	۸۹۹۱
۲۹۹	کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت	۸۹۹۲
۳۰۱	شیررز اور بوئڈر کا حکم	۸۹۹۳
۳۰۲	بوئڈ کی اضافی رقم کی شرعی حیثیت	۸۹۹۴
۳۰۳	بینک کی ایک اسکیم کا حکم	۸۹۹۵
۳۰۴	بینکوں سے ملنے والی اضافی رقم کی شرعی حیثیت	۸۹۹۶
۳۰۶	بینک میں مسجد کا اکاؤنٹ کھولنے اور ملنے والے سود کی شرعی حیثیت	۸۹۹۷
۳۰۷	بینک سے ملنے والی اضافی رقم کا حکم	۸۹۹۸
۳۰۸	بینک سے ملنے والی اضافی رقم نکال لیں یا بینک میں ہی چھوڑ دیں	۸۹۹۹

- ۹۰۰۰ بینک کے سود کا حکم ۳۰۹
- ۹۰۰۱ سودی بینک میں سودی لین دین کے حساب کی ملازمت کا حکم ۳۱۱
- ۹۰۰۲ بینک کی ملازمت کی شرعی حیثیت ۳۱۲
- ۹۰۰۳ سودی نظام والے محکمہ کی ملازمت کرنے کا حکم ۳۱۴
- ۹۰۰۴ سودی فنڈ یا بینک کی ملازمت کا شرعی حکم ۳۱۵
- ۹۰۰۵ سودی کمپنی میں ملازمت کرنے والے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟ ۳۱۶
- ۹۰۰۶ بینک سے حاصل شدہ زائد رقم کا حکم ۳۱۸
- ۹۰۰۷ بینک میں جمع شدہ رقم کے سود کا حکم ۳۱۹
- ۹۰۰۸ سود حاصل کرنے کے لئے بینک میں رقم جمع کرنا ۳۲۰
- ۹۰۰۹ ایف ڈی ۳۲۲
- ۹۰۱۰ بینک میں ایف ڈی کرانا ۳۲۳
- ۹۰۱۱ فکس ڈپازٹ کرانے کا حکم ۳۲۴
- ۹۰۱۲ ایف ڈی کرانے اور اس پر ملنے والے روپے کا حکم ۳۲۵
- ۹۰۱۳ کسی تنظیم کا فلاح و بہبود کے لئے رقم جمع کر کے سود حاصل کرنے کا حکم ۳۲۷
- ۹۰۱۴ یتیم بچوں کے مستقبل کی خاطر ایف ڈی کرانے کا حکم ۳۲۹
- ۹۰۱۵ فقراء کو سودی رقم دینے کی غرض سے بینک میں روپے جمع کرنے کا حکم ... ۳۳۱
- ۹۰۱۶ بے سہارا شخص کو گزارے کے لئے بینک میں روپے جمع کر کے سود حاصل کرنے کا حکم ۳۳۲
- ۹۰۱۷ سودی رقم حاصل کرنے کی غرض سے بینک میں رقم جمع کرنے کا حکم .. ۳۳۳

۳۳۴ بیوہ عورت کا میراث کی رقم بینک میں رکھ کر سود حاصل کرنا	۹۰۱۸
۳۳۶ شادی کے لئے بینک میں سودی کھاتہ کھولنا	۹۰۱۹
۳۳۷ بیٹی کے نام سے بینک میں جمع شدہ رقم کے سود کو شادی میں خرچ کرنا	۹۰۲۰
۳۳۸ زکوٰۃ کی رقم کی ایف ڈی کرانا	۹۰۲۱
۳۳۹ مدرسہ کی رقم کو فکس ڈپازٹ میں رکھنا	۹۰۲۲
۳۴۰ جمع شدہ رقم پر ساڑھے تین فیصد زائد ملنے والی رقم کا حکم	۹۰۲۳
۳۴۱ این آئی اے میں جمع شدہ رقم پر اضافی رقم کا حکم	۹۰۲۴
۳۴۲ کاروبار میں لمٹ کرانے پر سود دینا	۹۰۲۵
۳۴۳ پوسٹ میں کھاتہ کھلانے پر ملنے والی زائد رقم کا حکم	۹۰۲۶

□	۳ / مسلم فنڈ	□
---	--------------	---

۳۴۵ مسلم فنڈ کی ملازمت کی شرعی حیثیت	۹۰۲۷
۳۴۶ مسلم فنڈ کے خرچہ اخراجات کے لئے ایف ڈی کرانا	۹۰۲۸
۳۴۷ سودی کاروبار کرنے والے مسلم فنڈ میں ملازمت	۹۰۲۹
۳۴۸ مسلم فنڈ کا فارم کے نام پر قرضدار سے رقم وصول کرنا	۹۰۳۰
۳۵۱ سودی رقم سے ملازمت کی تنخواہ	۹۰۳۱
۳۵۲ مسلم فنڈ میں قرض کی مدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ فیس وصول کرنا	۹۰۳۲

□	۴ / باب کاروبار میں سودی شکلیں	□
---	--------------------------------	---

۳۵۴ سودی کاروبار میں ملعون ہیں	۹۰۳۳
۳۵۵ سودی لین دین عقد تجارت ہے یا مضاربت؟	۹۰۳۴

- ۹۰۳۵ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ سودی کاروبار کرنا۔ ۳۵۶
- ۹۰۳۶ کاروبار میں لگی ہوئی سٹھ کی رقم کو پاک کرنے کا طریقہ ۳۵۶
- ۹۰۳۷ سٹے میں جیتی ہوئی رقم کاروبار میں لگانا ۳۵۷
- ۹۰۳۸ نفع میں رقم کی مقدار کو متعین کرنا ۳۵۸
- ۹۰۳۹ ایک لاکھ قیمت طے ہونے کے بعد ایک لاکھ بیس ہزار لینا ۳۵۹
- ۹۰۴۰ تاخیر کی وجہ سے قیمت زیادہ وصول کرنا ۳۶۱
- ۹۰۴۱ شیئر بازار میں پیسہ لگانا ۳۶۲
- ۹۰۴۲ سودی کاروبار والے بینک اور کمپنی کا شیئر خریدنا ۳۶۲
- ۹۰۴۳ شیئر کی خرید و فروخت اور شیئر کمپنی میں حصہ داری ۳۶۶
- ۹۰۴۴ سودی ادارہ کے شیئر خریدنا ۳۶۷
- ۹۰۴۵ سودی لین دین والی کمپنی یا بینک سے شیئر خریدنا ۳۶۸
- ۹۰۴۶ سودی بانڈ کی خرید و فروخت ۳۷۰
- ۹۰۴۷ اندر ادکاش پتر کی بیع و شراء اور زائد رقم کا حکم ۳۷۱
- ۹۰۴۸ نقد اور ادھار خریداری ایک ساتھ ہوتو؟ ۳۷۲
- ۹۰۴۹ قسط وار اصل قیمت سے زائد قیمت میں گاڑی خریدنا ۳۷۳
- ۹۰۵۰ قسط وار (فائیننس) پر گاڑی کی خریداری کی متبادل شکل ۳۷۴
- ۹۰۵۱ قسطوں پر گاڑی خریدنا ۳۷۶
- ۹۰۵۲ ۱۵ سو روپیہ یا ۳۱ ہزار میں گاڑی ملنے والی اسکیم کا حکم ۳۷۷
- ۹۰۵۳ فی سلی ہر مہینہ دو روپیہ زائد کی شرط سود ہے ۳۸۰
- ۹۰۵۴ زندہ بکرے کو قتل کر فروخت کرنا ۳۸۱
- ۹۰۵۵ فنڈ میں زیور رکھ کر ماہانہ تین روپیہ بغیر عوض کے دینا ۳۸۲

۳۸۳ آڑھت والوں کا ایک معاملہ (فائنانس) کا شرعی حکم	۹۰۵۶
۳۸۵ کمپنی میں دس ہزار جمع کر کے بیس ہزار لینا	۹۰۵۷
۳۸۶ پرائیویٹ کمپنی کا کم روپے لے کر کچھ مدت بعد زیادہ روپے دینا	۹۰۵۸
۳۸۷ کمپنی فینوسینیل ہیلتھ کیئر سروس میں شرکت	۹۰۵۹
۳۸۹ کمپنیوں کی ممبر سازی کی شرعی حیثیت	۹۰۶۰
۳۹۱ کمپنی سے دوکان کی خرید و فروخت کی ایک ناجائز شکل	۹۰۶۱
۳۹۳ ممبر شپ بنانے میں انعام کا حکم	۹۰۶۲
۳۹۴ بینک سے سود لینے کے مشابہ صورت کا حکم	۹۰۶۳
۳۹۶ پگڑی میں سودی رقم دینا	۹۰۶۴
۳۹۷ سودی لین دین کرنے والے بھائی کے ساتھ رہن سہن	۹۰۶۵

□	۵/باب پرائیویڈنٹ فنڈ	□
---	----------------------	---

۴۰۰ ملازم کے لئے مالک کے واسطے سے آئی ہوئی سودی وغیر سودی رقم کا حکم	۹۰۶۶
۴۰۱ ملازم کے بونس اور فنڈ کا حکم	۹۰۶۷
۴۰۲ این ایس سی و بونس کا حکم	۹۰۶۸
۴۰۴ بینک کے ملازم کے لئے پینشن کا پیسہ حلال ہے یا نہیں؟	۹۰۶۹
۴۰۵ حکومت کا ملازم کے بارہ سو روپے جی آر پی فنڈ میں جمع کر لینا	۹۰۷۰
۴۰۶ یکمشت ملنے والے فنڈ میں سو نہیں ہوتا	۹۰۷۱
۴۰۷ حکومت کا اصل معاوضہ پر اضافی رقم دینا سو نہیں	۹۰۷۲
۴۰۹ پرائیویڈنٹ فنڈ	۹۰۷۳

۲۱۰	پرائیویڈنٹ فنڈ کا حکم	۹۰۷۴
۲۱۲	پرائیویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت	۹۰۷۵
۲۱۳	پرائیویڈنٹ فنڈ میں زائد رقم کی حلت	۹۰۷۶
۲۱۵	ملازم کا اختیاری پرائیویڈنٹ فنڈ کٹوانا	۹۰۷۷
۲۱۶	دستور مدرسہ کے خلاف پرائیویڈنٹ فنڈ وصول کرنا	۹۰۷۸
۲۱۷	ملازم کے جمع شدہ فنڈ پر جو زائد رقم ملے اس پر اشکال و جواب	۹۰۷۹
۲۱۹	پینشن کی اصل رقم لینا جائز اور اضافی لینا حرام ہے	۹۰۸۰
۲۲۱	گاڑی کے انشورنس اور پرائیویڈنٹ فنڈ کا حکم	۹۰۸۱

□	۱۶ بیمہ کے احکام	□
---	------------------	---

۲۲۴	ایل آئی سی ایجنٹ بننا	۹۰۸۲
۲۲۵	جیون بیمہ کی کمپنی میں ملازمت کرنا	۹۰۸۳
۲۲۷	جیون بیمہ اور انشورنس کمپنی میں کام کرنے کا حکم	۹۰۸۴
۲۲۹	جیون بیمہ کمپنی کا ایجنٹ بننا	۹۰۸۵
۲۳۱	تکافل کی شرعی حیثیت	۹۰۸۶
۲۳۹	جیون بیمہ	۹۰۸۷
۲۴۳	لائف انشورنس	۹۰۸۷
۲۴۵	جیون بیمہ کا حکم	۹۰۸۸
۲۴۶	جیون بیمہ کرانے کا	۹۰۸۹
۲۴۸	جیون بیمہ کا شرعی حکم	۹۰۹۰
۲۵۰	کیا جیون بیمہ کرانا جائز ہے؟	۹۰۹۱

- ۹۰۹۲ .. جیون بیمہ کے بارے میں سبیل السلام حیدرآباد کے سیمینار کی تجویز کا شرعی حکم .. ۴۵۲
- ۹۰۹۳ .. جیون بیمہ کے جواز کی تجویز کا حکم ۴۵۴
- ۹۰۹۴ .. L.I.C. اور اس جیسی پالیسیوں کا حکم ۴۵۸
- ۹۰۹۵ .. بیمہ کی کون سی صورت جائز ہے؟ ۴۶۱
- ۹۰۹۶ .. غیر مسلم ملک میں رہ کر L.I.C. کرانا ۴۶۲
- ۹۰۹۷ .. ٹیکس سے بچنے کے لئے L.I.C. کرانا ۴۶۴
- ۹۰۹۸ .. جیون بیمہ کرانے والے کی امامت ۴۶۵
- ۹۰۹۹ .. انکم ٹیکس سے بچنے کے لئے بیمہ کرانے کی شرعی حیثیت ۴۶۶
- ۹۱۰۰ .. ظالمانہ ٹیکس سے بچنے کے لئے L.I.C. کی گنجائش ۴۶۸
- ۹۱۰۱ .. جبری ٹیکس سے بچنے کے لئے جیون بیمہ کرانا ۴۶۹
- ۹۱۰۲ .. جانی، مالی بیمہ کا حکم ۴۷۲
- ۹۱۰۳ .. دوکان کا بیمہ ۴۷۳
- ۹۱۰۴ .. چونے کی دوکان کا بیمہ کرانا ۴۷۴
- ۹۱۰۵ .. دوکان، مکان، کارخانہ وغیرہ کا انشورنس کرانا ۴۷۵
- ۹۱۰۶ .. انشورنس بیمہ و جیون بیمہ کا حکم ۴۷۷
- ۹۱۰۷ .. املاک یا زندگی کا بیمہ کرانا ۴۷۸
- ۹۱۰۸ .. جان و مال کا بیمہ کرانا کیسا ہے؟ ۴۸۰
- ۹۱۰۹ .. ہیلتھ انشورنس ۴۸۲
- ۹۱۱۰ .. صحت کا بیمہ کرانا ۴۸۳
- ۹۱۱۱ .. طبی اعتبار سے جیون بیمہ کرانا ۴۷۵
- ۹۱۱۲ .. گاڑی کا انشورنس کروانا ۴۸۶

۴۸۷ انشورنس کی سودی رقم کا مصرف	۹۱۱۳
۴۸۸ ایل، آئی، سی، میں جمع شدہ رقم پر ملے سود کا مصرف	۹۱۱۴
۴۸۹ جیون بیمہ کے بدلے ملی رقم کو اپنی ضروریات میں صرف کرنا	۹۱۱۵
۴۹۱ بیمہ اور ایف، ڈی، میں ملنے والی زائد رقم کا حکم	۹۱۱۶
۴۹۳ لائف انشورنس اور ایف ڈی کی اضافی رقم رشوت میں دینا	۹۱۱۷
۴۹۴ پرائیویٹ بیمہ کمپنی کی سودی رقم حکومت کے ٹیکس میں دینا	۹۱۱۸
۴۹۵ L.I.C کی رقم جہیز میں دینا	۹۱۱۹
۴۹۶ بیمہ کی رقم شرعی وارثین استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟	۹۱۲۰

<input type="checkbox"/>	۷ / باب القمار	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------	--------------------------

۴۹۸ ہارنے والی ٹیم کا جیتنے والی ٹیم کو کھلانا پلانا	۹۱۲۱
۴۹۹ قرعہ اندازی کے ساتھ حج بیسی کا حکم	۹۱۲۲
۵۰۲ لاٹری کی حقیقت	۹۱۲۳
۵۰۳ لاٹری کی ایک شکل	۹۱۲۴
۵۰۵ لاٹری کی ایک ناجائز اور حرام صورت	۹۱۲۵
۵۰۶ منٹکی آمدنی کا کیا حکم ہے؟	۹۱۲۶
 کمپنی والوں کا متعدد لوگوں سے روپے لے کر یک مشت دوسرے	۹۱۲۷
۵۰۷ کو قرض دینا اور اس سے زائد رقم لینا	۹۱۲۸
۵۰۸ سٹہ لگانا کیسا ہے؟	۹۱۲۸
 سٹہ کی رقم سے بنائے گئے مکان کو سٹہ باز کے لئے ایصال	۹۱۲۹

۵۱۰	ثواب میں دینا	
۵۱۲	سٹہ کا پیسہ اجرت وغیرہ میں لینا	۹۱۳۰
۵۱۳	جو اوور سٹہ کی رقم غریبوں پر صرف کرنا	۹۱۳۱
۵۱۳	تجارت کی نئی اسکیم اور قمار کی مہذب شکل	۹۱۳۲
۵۱۶	کمیٹی کی ایک شکل اور اس کا	۹۱۳۳
۵۱۷	لیس کا حکم	۹۱۳۴
۵۱۹	قرعہ اندازی کا حکم	۹۱۳۵

<input type="checkbox"/>	۸ / باب الرشوة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------	--------------------------

۵۲۱	ہندوستان میں رشوت لینے دینے کا حکم	۹۱۳۶
۵۲۲	دفع ظلم اور حق کی وصولیابی کے لئے	۹۱۳۷
۵۲۳	مجبوری میں رشوت دینا	۹۱۳۸
۵۲۵	مجبوراً رشوت دینے کا حکم	۹۱۳۹
۵۲۶	نا جائز جگہ پر سودی رقم رشوت دینا	۹۱۴۰
۵۲۸	مدت قیام بڑھا کر رشوت لینا	۹۱۴۱
۵۲۹	کرایہ دار کا بیس ہزار روپیہ لے کر مکان خالی کرنا	۹۱۴۲
۵۳۰	مالک مکان کا کرایہ دار کو رقم دینا رشوت میں داخل ہے	۹۱۴۳
۵۳۱	ٹھیکہ لینے کے لئے رشوت دینا	۹۱۴۴
۵۳۲	ڈونیشن	۹۱۴۵
۵۳۷	کالجوں میں لئے جانے والے ڈونیشن کی شرعی حیثیت	۹۱۴۶

۵۳۸ طلبہ کو رعایتاً پاس کرنے کے عوض روپیہ وصول کرنا	۹۱۴۷
۵۴۰ اسکول کی داخلہ اسکیم کی کچھ شکلوں کا حکم	۹۱۴۸
۵۴۲ ملازمت کے حصول کے لئے رشوت	۹۱۴۹
۵۴۳ رشوت دے کر سرکاری مدرسہ میں ملازمت حاصل	۹۱۵۰
۵۴۵ نوکری کے لئے رشوت دینا	۹۱۵۱
۵۴۶ سودی رقم بینک کے کارندوں کو رشوت میں دینا	۹۱۵۲
۵۴۷ بیرون ملک مال فروخت کرنے پر رشوت دینا	۹۱۵۳
۵۴۸ کام کو درست کرنے کے لئے حکام کو رشوت دینا	۹۱۵۴
۵۴۹ پردھان کا تحریری اجازت و مہر پر روپیہ لینا	۹۱۵۵
۵۵۱ رشوت دیکر مشترکہ گرام سماج کی زمین حاصل کرنا	۹۱۵۶
۵۵۲ سرکاری ملازمین کا عوام سے سرکاری کام پر معاوضہ لینا	۹۱۵۷
۵۵۳ پیشکار کا فریقین سے رقم لینا	۹۱۵۸
۵۵۴ دس بیس روپیہ دے کر پولیس سے چھٹکارا پانا	۹۱۵۹
۵۵۵ کچہری یا تحصیل میں پیش ہونے والے لوگوں سے رقم وصول کرنا	۹۱۶۰
۵۵۷ مقدمہ جیتنے والے کا بخوشی باجوہ چپراسی کو رقم دینا	۹۱۶۱
۵۵۹ ڈاکیہ کا مدارس کے طلبہ سے رشوت لینا	۹۱۶۲
۵۶۰ سودی رقم سرکاری افسران کو رشوت میں	۹۱۶۳
۵۶۱ مال حرام کو رشوت میں دینا	۹۱۶۴
۵۶۲ سودی رقم رشوت میں دینا	۹۱۶۵
۵۶۳ رشوت میں سودی رقم دینا	۹۱۶۶

۵۶۵ سودی رقم رشوت میں دینے کا حکم	۹۱۶۷
۵۶۶ سودی رقم رشوت میں دینے کی ممانعت	۹۱۶۸
۵۶۷ سودی رقم کو رشوت میں دینا	۹۱۶۹
۵۶۹ سودی رقم شادی، رشوت اور مقدمات میں خرچ کرنا	۹۱۷۰

<input type="checkbox"/>	۹ باب سودی رقم کا مصرف	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------	--------------------------

۵۷۱ بینک سے سودی رقم نکال کر کہاں صرف کریں؟	۹۱۷۱
۵۷۲ بینک میں جمع شدہ رقم پر ملنے والے سود کو بینک سے نکال لیں	۹۱۷۲
۵۸۳ بینک سے ملے سود کو بلا نیت ثواب فقراء میں تقسیم کرنا	۹۱۷۳
۵۷۴ سودی رقم کا مصرف	۹۱۷۴
۵۷۶ سودی رقم کے مصارف کیا کیا ہیں؟	۹۱۷۵
۵۸۴ بینک کی سودی رقم کا مصرف	۹۱۷۶
۵۸۵ بینک اور جیون بیمہ کے سود کا مصرف	۹۱۷۷
۵۸۷ سودی رقم کہاں خرچ کریں؟	۹۱۷۸
۵۸۹ سودی رقم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟	۹۱۷۹
۵۹۱ سودی رقم کو کہاں صرف کریں؟	۹۱۸۰
۵۹۳ سودی رقم کو کہاں کہاں صرف کر سکتے ہیں؟	۹۱۸۱
۵۹۴ بینک سے ملی سودی رقم کا صحیح مصرف	۹۱۸۲
۵۹۶ سودی رقم کا مصرف کیا ہے؟	۹۱۸۳

- ۹۱۸۴ سودی رقم کا کیا کریں؟ ۵۹۸
- ۹۱۸۵ بینک سے ملے سود کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ ۶۰۰
- ۹۱۸۶ بینک سے ملے سود کا حکم ۶۰۲
- ۹۱۸۷ سودی رقم کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ ۶۰۳
- ۹۱۸۸ سودی رقم کا مصرف، جبری مطالبہ میں سودی رقم دینا ۶۰۵
- ۹۱۸۹ سودی رقم مالک تک پہنچانے کی ایک شکل ۶۰۹
- ۹۱۹۰ سودی رقم اپنے استعمال میں لانا ۶۱۰
- ۹۱۹۱ سودی رقم سے اسلحہ خریدنا ۶۱۱
- ۹۱۹۲ سودی رقم سے نیشنل سیول سٹریٹجکٹ خریدنے کا حکم ۶۱۴
- ۹۱۹۳ سودی رقم رجسٹری میں لگانا یا غرباء و مساکین کو دینا ۶۱۶
- ۹۱۹۴ سود کا بیلنس ٹیکس وغیرہ میں دینا ۶۱۸
- ۹۱۹۵ سودی رقم کو گھر کے غسل خانہ و بیت الخلاء میں استعمال کرنا ۶۱۹
- ۹۱۹۶ سودی رقم کو بیت الخلاء کی تعمیر میں صرف کرنا ۶۲۰
- ۹۱۹۷ سودی رقم رفاہ عام میں لگانا ۶۲۱
- ۹۱۹۸ سودی رقم رفاہ عام میں اسی طرح ٹی وی کی خریداری میں لگانا ۶۲۳
- ۹۱۹۹ سودی رقم سے رفاہی تعمیر کام کرنا ۶۲۵
- ۹۲۰۰ سودی پیسہ سے نالی بنانا ۶۲۶
- ۹۲۰۱ بینک سے حاصل شدہ سودی رقم رفاہ عام وغیرہ میں لگانا ۶۲۷

۶۲۸	سودی رقم سے مسافر خانہ تعمیر کرنا	۹۲۰۲
۶۲۹	سودی رقم سے مسافر خانہ تعمیر کرنے کا حکم	۹۲۰۳
۶۳۰	سودی رقم کو لون میں مجری کرنا	۹۲۰۴
۶۳۱	بینک کے قرضہ کو سودی رقم سے ادا کرنا	۹۲۰۵
۶۳۲	سرکاری بینک کی سودی رقم اسی کے لازم کردہ سود میں منہا کرانا	۹۲۰۶
۶۳۳	بینک میں دیئے ہوئے سودی قرض کو حلال رقم سے مجری کرنا	۹۲۰۷
۶۳۵	سودی رقم سے بجلی کا بل ادا کرنا	۹۲۰۸
۶۳۶	سرکاری قرض کو ادا کرنے میں سودی رقم دینا	۹۲۰۹
۶۳۶	بینک کے جرمانہ میں سودی رقم دینا	۹۲۱۰
۶۳۷	غریب غیر مسلم کو سودی روپیہ دینا	۹۲۱۱
۶۳۸	رجسٹری اسٹامپ فیس میں سودی رقم دینا	۹۲۱۲
۶۳۹	حاجی مقروض کے لئے سودی رقم سے قرض ادا کرنا	۹۲۱۳
۶۴۰	سودی رقم سے قرض ادا کرنا	۹۲۱۴
۶۴۲	سود کی رقم سے مسلمان قرضدار کا قرض ادا کرنا	۹۲۱۵
۶۴۳	سودی رقم سے متعلق چند سوالات	۹۲۱۶
۶۴۵	سودی رقم بیوہ کی شادی میں لگانے کا حکم	۹۲۱۷
۶۴۶	سودی رقم غریب لڑکی کی شادی میں صرف کرنا	۹۲۱۸
۶۴۸	سود کی رقم کو اپنی لڑکی کی شادی میں صرف کرنا	۹۲۱۹

- ۹۲۲۰ سودی رقم شادی وغیرہ میں دینا ۶۳۹
- ۹۲۲۱ سودی رقم جہیز میں دینا ۶۵۰
- ۹۲۲۲ کیا جہیز میں سودی رقم دینے کی گنجائش ہے؟ ۶۵۱
- ۹۲۲۳ سودی رقم سے ولیمہ کرنے اور جہیز کا سامان خریدنے کا حکم ۶۵۲
- ۹۲۲۴ شادی کی رسومات میں سودی رقم صرف کرنا ۶۵۳
- ۹۲۲۵ مسجد کی جمع شدہ رقم پر ملے سود کو مسجد کی تعمیر میں لگانا ۶۵۵
- ۹۲۲۶ بینک میں جمع شدہ اوقاف کی رقم پر ملے سود کو مسجد کے تعاون میں لینا .. ۶۵۶
- ۹۲۲۷ سو دخور کا مسجد کی تعمیر میں روپے دینا ۶۵۷
- ۹۲۲۸ سودی رقم مسجد کے گڑھے کی تعمیر میں لگانا ۶۵۸
- ۹۲۲۹ سودی رقم سے مسجد کے بیت الخلاء کی تعمیر ۶۵۹
- ۹۲۳۰ سودی رقم سے مسجد کا بیت الخلاء یا قبرستان کی چہار دیواری تعمیر کرانے کا حکم .. ۶۶۱
- ۹۲۳۱ سودی رقم سے مدرسہ کے مدرسین و ملازمین کی تنخواہ دینا ۶۶۳
- ۹۲۳۲ سودی رقم کو مسجد و مدرسہ یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ۶۶۴
- ۹۲۳۳ سودی رقم مدرسہ کی تعمیر یا مدرسین کی تنخواہوں میں دینا ۶۶۵
- ۹۲۳۴ سودی رقم مسجد کی نالی یا مدرسہ میں صرف کرنا ۶۶۶
- ۹۲۳۵ سودی رقم سے ذاتی یا مدارس اسلامیہ کے بیت الخلاء تعمیر کرنا ۶۶۷
- ۹۲۳۶ سودی رقم مدرسہ کی بیت الخلاء میں لگانا ۶۶۸
- ۹۲۳۷ سودی رقم غریب کو یا دینی مدارس میں دینا ۶۶۹

- ۹۲۳۸ حرام مال مسجد یا مدرسہ میں لگانا ۶۷۰
- ۹۲۳۹ سودی رقم اسکول، کالج، یارفاہ عام میں لگانا ۶۷۲
- ۹۲۴۰ سودی رقم سے مساجد، مدارس، دینی اجتماعات کی اعانت ۶۷۴
- ۹۲۴۱ سودی رقم سے خرید شدہ جزیئر کی آمدنی مدرسہ یارفاہ عام میں لگانا ۶۷۵
- ۹۲۴۲ سودی رقم سے مدرسہ کافریش یا مسجد کا غسل خانہ وغیرہ تعمیر کرنا ۶۷۶
- ۹۲۴۳ سودی رقم سے مدرسے کا بجلی یا فون بل ادا کرنا ۶۷۷
- ۹۲۴۴ بینک کے سود سے طلباء کی مدد کرنا ۶۷۸
- ۹۲۴۵ سودی رقم تملیک کے بعد طلبہ پر خرچ کرنا ۶۷۹
- ۹۲۴۶ سودی رقم نادار طلباء پر صرف کرنا ۶۸۱
- ۹۲۴۷ سودی رقم بعد تملیک بیرونی طلباء پر صرف کرنا ۶۸۱
- ۹۲۴۸ سودی رقم مانگ کر کمرہ بنانا ۶۸۲
- ۹۲۴۹ سود کی رقم ذاتی کاموں میں لانا ۶۸۴
- ۹۲۵۰ سودی رقم سے مزدوری ادا کرنا اور مزدور کا وصول کرنا ۶۸۶
- ۹۲۵۱ نکالے جانے والے مزدور کے ناجائز مطالبہ میں سودی رقم دینا ۶۸۸
- ۹۲۵۲ اپنی جیب سے فقیر کو پیسہ دینا اور اس کی جگہ سود کی رقم رکھنا ۶۸۹
- ۹۲۵۳ اپنے پاس سے رقم غریبوں کو دے کر بینک کے سود سے منہی کرنے کی شرعی حیثیت ۶۹۱
- ۹۲۵۴ اپنی جیب سے فقراء کو رقم دے کر سودی رقم اپنے مصرف میں استعمال کرنا .. ۶۹۱

- ۹۲۵۵ بینک کے کمیشن میں کاٹی گئی رقم کو سود کی رقم سے پورا کرنا ۶۹۳
- ۹۲۵۶ بینک کے سودی رقم کو سرکاری سود میں دینا؟ ۶۹۴
- ۹۲۵۷ بینک سے حاصل شدہ سودی رقم کے لئے الگ اکاؤنٹ کھول کر اس سے ۶۹۵
- سرکاری سود ادا کرنا ۶۹۵
- ۹۲۵۸ جس ہسپتال میں امیر و غریب کا علاج ہوتا ہو، اس میں سودی رقم بھیجنا ... ۶۹۷
- ۹۲۵۹ کسی وارث کا حصہ سودی رقم سے دینا ۶۹۸
- ۹۲۶۰ سودی رقم سے اشیاء خرید کر غرباء کو دینا ۶۹۹
- ۹۲۶۱ مریض کو سودی رقم دینے کا شرعی حکم ۷۰۱
- ۹۲۶۲ حد درجہ فقیر کو سودی روپیہ دینا ۷۰۲
- ۹۲۶۳ غریب نابالغ یتیم بچوں اور بیوہ کی خاطر بینک میں روپیہ جمع ۷۰۳
- کر کے سود کو ان پر خرچ کرنا ۷۰۴
- ۹۲۶۴ بینک کا سود ریل کے کرایہ میں دینا ۷۰۶
- ۹۲۶۵ سودی رقم غیر مسلم فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۷۰۷
- ۹۲۶۶ سرکاری سود براہ راست فقیر کو صدقہ دینا کیسا ہے ۷۰۸
- ۹۲۶۷ لون والے سود کی ادائے گی بینک کی سودی رقم سے ۷۱۰
- ۹۲۶۸ غریب کو سود کا روپیہ قرض کہہ کر دینا ۷۱۱
- ۹۲۶۹ بینک کے سود سے اپنے گھر کا خرچ چلانا کیسا ہے؟ ۷۱۳
- ۹۲۷۰ فقیر امام کا سودی رقم سے اپنا قرض ادا کرنا ۷۱۴

- ۹۲۷۱ سودی رقم سے قرض کی ادائے گی کرنا ۷۱۵
- ۹۲۷۲ فقیر شخص کو سودی رقم دینا ۷۱۶
- ۹۲۷۳ پگڑی میں سود کی رقم دینے کا حکم ۷۱۷
- ۹۲۷۴ غریب کو بچلی کے کنکشن لگوانے کے لئے سودی رقم دینے کا حکم ۷۱۸

□	۱۰/باب سرکاری ٹیکس	□
---	--------------------	---

- ۹۲۷۵ سودی قرض لینے اور ٹیکس چوری کرنے کی شرعی حیثیت ۷۲۰
- ۹۲۷۶ سیل ٹیکس و انکم ٹیکس میں خیانت کرنا ۷۲۲
- ۹۲۷۷ انکم ٹیکس کے لئے چھوڑی گئی رقم پر اضافی رقم کا حکم ۷۲۳
- ۹۲۷۸ انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لئے سودی قرض لینا ۷۲۴
- ۹۲۷۹ بینک کے سود میں حلال کمائی سے ادا شدہ ٹیکس کا بدل وصول کرنا ۷۲۵
- ۹۲۸۰ ادا شدہ سودی قرض یا انکم ٹیکس میں سودی رقم مجری کرنے کا حکم ۷۲۷
- ۹۲۸۱ انکم ٹیکس سے بچنے کے لئے حیون بیمہ کرانا ۷۲۸
- ۹۲۸۲ انکم ٹیکس میں سودی رقم دینا ۷۲۹
- ۹۲۸۳ بینک سے حاصل شدہ سود سے بینک کا ٹیکس ادا کرنا ۷۳۱
- ۹۲۸۴ سودی رقم سے ٹیکس ادا کرنا ۷۳۲
- ۹۲۸۵ انکم ٹیکس میں بینک سے ملی سودی رقم دینا ۷۳۳
- ۹۲۸۶ مسجد کے سود کا پیسہ ٹیکسوں میں دے کر اپنا خالص پیسہ مسجد میں دینا ... ۷۳۴

۹۲۸۷	حکومت کی طرف سے عائد کردہ ظالمانہ ٹیکس میں سودی رقم دینا.....	۷۳۶
۹۲۸۸	سودی رقم سے آنکم ٹیکس ادا کرنا.....	۷۳۷
۹۲۸۹	پینک کی سودی رقم سے سیل ٹیکس اور آنکم ٹیکس ادا کرنا.....	۷۳۸
۹۲۹۰	سیل ٹیکس میں سودی رقم دینا.....	۷۳۹
۹۲۹۱	عوام سے ملی ہوئی سودی رقم کو آنکم ٹیکس وغیرہ میں دینا.....	۷۴۰
۹۲۹۲	سودی رقم آنکم ٹیکس میں دینا.....	۷۴۲
۹۲۹۳	سودی رقم سیل ٹیکس میں دینا.....	۷۴۴





فہرست مضامین

۲۷ / بقية كتاب الربوا

□	۱۱ / باب القرض	□
صفحہ نمبر		مسئلہ نمبر
۳۱ کتنی ضرورت میں سودی قرض لینے کی گنجائش ہے؟	۹۲۹۵
۳۲ سخت مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینے کا حکم	۹۲۹۶
۳۳ مجبوری کی حالت میں سودی قرض لینا	۹۲۹۷
۳۵ لون کا معاملہ کرنا کیسا ہے؟	۹۲۹۸
۳۶ ہندوستان کو دارالحرہ خیال کر کے بینک سے لون لینا	۹۲۹۹
۳۸ بلا سودی قرض لے کر اس سے انتفاع	۹۳۰۰
۴۰ حکومت سے جتنا قرض لیں اتنا ہی ادا کریں تو کیسا ہے؟	۹۳۰۱
۴۱ سبسڈی اور کم شرح سود کے ساتھ سرکاری قرض	۹۳۰۲
۴۲ اقلیتی طبقہ کو ملنے والی سبسڈی کے ساتھ قرض لینے کا حکم	۹۳۰۳
۴۳ قرض کی وجہ سے کرایہ نہ لینا	۹۳۰۴
۴۴ سودی قرض	۹۳۰۵
۴۶ سود پر قرض دینا	۹۳۰۶
۴۷ بینک سے سودی قرض لینا	۹۳۰۷

۴۸	سودی قرض کا لین دین	۹۳۰۸
۴۹	سودی قرض لینے کا حکم	۹۳۰۹
۵۱	بینک سے سود لینا	۹۳۱۰
۵۳	بینک سے منافع (انسریسٹ) اور مسلم معاشرہ	○
۵۷	قرض پر سود لینا اور دینا کیسا ہے؟	۹۳۱۱
۵۹	بینک سے سودی قرض لینے کی مختلف شکلیں	۹۳۱۲
۶۱	قرض سے زائد رقم وصول کرنا	۹۳۱۳
۶۲	قرض پر ہر ماہ نفع لینا سود	۹۳۱۴
۶۴	نفع لے کر ادھار روپے دینا	۹۳۱۵
۶۵	قرض کے بدلے نفع حاصل کرنا	۹۳۱۶
۶۶	فیصد فائدہ پر قرض دینا	۹۳۱۷
۶۷	فائنس کے نام سے ۱۰ ہزار قرض لے کر ایک ماہ بعد ۱۲ ہزار ادا کرنا	۹۳۱۸
۶۹	تجارت کے لئے تین ہزار دے کر چار ہزار واپس لینا	۹۳۱۹
۷۰	اضافہ کی شرط کے ساتھ قرضہ	۹۳۲۰
۷۰	قرض دے کر قرض گیرندہ کی زمین سے انتفاع کرنا	۹۳۲۱
۷۱	پیشگی گندم دے کر فصل پر زیادہ لینا	۹۳۲۲
۷۳	قرض کی رقم باقی رکھ کر چاول وصول کرنا	۹۳۲۳
۷۳	قرض کے عوض میں ملنے والے گیہوں کا حکم	۹۳۲۴
۷۴	قرض پر نفع حاصل کرنا	۹۳۲۵
۷۶	پانچ من دھان لینے کی شرط پر قرض دینا	۹۳۲۶
۷۷	تعلیمی لون	۹۳۲۷

- ۹۳۲۸ بینک سے قرض لے کر مکان کی تعمیر ۷۸
- ۹۳۲۹ سودی قرض لے کر مکان بنانا ۷۹
- ۹۳۳۰ ہوم لون ۸۰
- ۹۳۳۱ ہوم لون کا شرعی حکم ۸۲
- ۹۳۳۲ نقصان سے بچنے کے لئے لون لینے کا حکم ۸۳
- ۹۳۳۳ جلب منفعت کے لئے بینک سے لون لینا ۸۳
- ۹۳۳۴ قرض کی ایک اسکیم کا حکم ۸۴
- ۹۳۳۵ ٹیکس سے بچنے کے لئے سودی قرض لے کر تجارت کرنے کا حکم ۸۵
- ۹۳۳۶ سودی قرض لے کر فیکٹری چلانا ۸۶
- ۹۳۳۷ حکومت سے راس مل کے لئے سودی قرض لینا ۸۸
- ۹۳۳۸ بینک یا بلاک سے لون پر روپیہ لینا ۸۸
- ۹۳۳۹ بینک سے سودی قرض لے کر تجارت کرنا ۸۹
- ۹۳۴۰ تجارت کو فروغ دینے کے لئے سودی قرض لینا ۹۰
- ۹۳۴۱ کاروبار کے لئے گورنمنٹ سے لون لینا ۹۱
- ۹۳۴۲ تجارت کو فروغ دینے کے لئے حکومت سے سودی قرض لینا ۹۳
- ۹۳۴۳ سرکار سے قرض لے کر تجارت کرنا ۹۴
- ۹۳۴۴ سخت مجبوری میں کیا لون لے کر تجارت کر سکتے ہیں؟ ۹۶
- ۹۳۴۵ تجارت کو فروغ دینے کے لئے بینک سے سودی قرض لینا ۹۷
- ۹۳۴۶ تجارت کے لئے لئے گئے سودی قرض سے خانگی ضرورت ۹۸
- ۹۳۴۷ پوری کرنے کا حکم ۹۹
- ۹۳۴۷ روزگار یोजना کے نام سے لون لے کر حج کرنے اور زکاۃ دینے کا حکم ۱۰۰

۱۰۲	نرسنگ ہوم کھولنے کے لئے سودی قرض لینا	۹۳۴۸
۱۰۳	مستحق زکوٰۃ مقروض کا سودی رقم سے قرض ادا کرنا	۹۳۴۹
۱۰۴	سودی رقم قرض میں دینے کا شرعی حکم	۹۳۵۰

۲۸ / کتاب الدیون

۱۰۶	قرض دار کی روح معلق رہتی ہے	۹۳۵۱
۱۰۷	قرض لینے کی شرط پر قرض دینا	۹۳۵۲
۱۰۹	تاخیر کی بنا پر اصل رقم سے زائد رقم لینا	۹۳۵۳
۱۱۰	دائن کا مدیون کی دعوت قبول کرنا یا ہدیہ لینا	۹۳۵۴
۱۱۰	سبسڈی کا شرعی حکم	۹۳۵۵
		حکومت کی گرفت سے بچنے کے لئے بینک سے قرض لینے سے متعلق چند	۹۳۵۶
۱۱۱	سوالات کے جوابات	
۱۱۴	دسواں وغیرہ منانے کے لئے قرض لینے دینے کا شرعی حکم	۹۳۵۷
۱۱۶	قرض دینے والا غائب ہو جائے تو قرض کیسے ادا کریں؟	۹۳۵۸
۱۱۷	کیا بلا وصیت بھی میت کا قرض ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا؟	۹۳۵۹
		قرض کی ادائے گی کی غرض سے تجارت میں انہماک اور نمازوں سے	۹۳۶۰
۱۱۸	دوری کا شرعی حکم	
۱۱۹	قرض کی ادائے گی میں قیمت کے تفاوت کا حکم	۹۳۶۱
۱۱۹	قرض کا مطالبہ مقروض کے علاوہ سے کرنے کا حکم	۹۳۶۲
۱۲۱	قرض کی ادائے گی کا مطالبہ مقروض کے گھر والوں سے کرنا	۹۳۶۳
۱۲۲	قرض کی ادائے گی کا ذمہ لینے والے پر قرض ادا کرنا لازم ہے	۹۳۶۴

- ۹۳۶۵ مرض الوفات میں اقرار شدہ قرض کی ادائے گی کی ذمہ داری لینے والے
- پراس کا ادا کرنا لازم ہے ۱۲۶
- ۹۳۶۶ مدت مکمل ہونے پر دائن کے لئے قرض کی ادائیگی کا سخت مطالبہ کرنا .. ۱۲۷
- ۹۳۶۷ قرض کی وصولیابی تک مدیون کا جنازہ روکنے کا حکم ۱۲۹
- ۹۳۶۸ قرض لے کر واپس نہ کرنے پر قانونی کارروائی کرنا ۱۳۰
- ۹۳۶۹ قرض کی ادائے گی میں ٹال مٹول کرنا ۱۳۱
- ۹۳۷۰ قرض کی ادائے گی میں ٹال مٹول کرنے کا شرعی حکم ۱۳۳
- ۹۳۷۱ مقرض سے مقدمہ اور سفر خرچ کا مطالبہ ۱۳۴
- ۹۳۷۲ قرض کے بدلے لفصل پر گیہوں لینا ۱۳۶
- ۹۳۷۳ متعینہ مدت کے لئے چاول ادھار پر دینا ۱۳۶
- ۹۳۷۴ کھلے کرنے کے لئے دئے گئے ۵۰۰ میں سے ۳۰۰ فوراً وصول کرنا بقیہ بعد میں ۱۳۷
- ۹۳۷۵ بیس ہزار روپے قرض میں فریقین کا جھگڑا اور فیصلہ ۱۳۸
- ۹۳۷۶ امریکی ڈالر قرض دے کر ہندوستانی رقم لینا ۱۳۹
- ۹۳۷۷ تقسیم جائیداد سے پہلے قرض کی ادائے گی کا حکم ۱۴۱
- ۹۳۷۸ دائن کے انتقال کی صورت میں قرض کس کو دیا جائے؟ ۱۴۲

۲۹ / کتاب الودیعة والأمانة والضمان

- ۹۳۷۹ امانت میں تصرف کرنے کا شرعی حکم ۱۴۳
- ۹۳۸۰ امانت اجازت لے کر استعمال کرنے کا حکم ۱۴۵
- ۹۳۸۱ امانت رکھے ہوئے زیورات بلا اجازت امانت رکھنے والے بیٹے کو دینے کا حکم ۱۴۷
- ۹۳۸۲ امانت میں تصرف کرنے کے بعد ہلاکت کی صورت میں ضمان کا حکم .. ۱۴۹

- ۹۳۸۳ امانت کی رقم اپنی رقم کے ساتھ مخلوط کرنے کے بعد ہلاک ہونے پر ضمان کا حکم ۱۵۰
- ۹۳۸۴ امانت کے ساتھ حاجی کا بیگ ”بیت الخلاء“ میں رہ گیا ۱۵۱
- ۹۳۸۵ مالک سے امانت کے چوری شدہ پیسہ کے مطالبہ کا حکم ۱۵۲
- ۹۳۸۶ ادارے کا تجارت کے لئے روپے دینے پر نقصان کی صورت میں ضمان کا مسئلہ ۱۵۴
- ۹۳۸۷ دوران سفر امانت کی رقم چوری ہونے کا شرعی حکم ۱۵۵
- ۹۳۸۸ امانت کی رقم چوری ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ ۱۵۷
- ۹۳۸۹ کمرے سے بیگ چوری ہونے کا حکم ۱۵۸
- ۹۳۹۰ کیا امانت کی رقم ضائع ہونے پر تاوان لازم ہے؟ ۱۶۰
- ۹۳۹۱ کوتاہی کی بنا پر امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۲
- ۹۳۹۲ امانت کو ضائع کرنے کا شرعی حکم ۱۶۳
- ۹۳۹۳ بلا تعدی امانت کے ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۵
- ۹۳۹۴ بلا تعدی امانت کی رقم ضائع ہونے کا شرعی حکم ۱۶۸
- ۹۳۹۵ ناظم مدرسہ کے پاس رکھی ہوئی امانت چوری ہو جائے تو کون ضامن ہوگا؟ ۱۶۹
- ۹۳۹۶ عاریت پر لی گئی سائیکل گم ہو جائے تو ضامن کون؟ ۱۷۰
- ۹۳۹۷ ملازم سے سائیکل چوری ہوگئی، تو کیا حکم ہے ۱۷۲
- ۹۳۹۸ کھیت میں لگائی گئی آگ دوسرے کے کھیت کو جلا دے تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۳
- ۹۳۹۹ موچی کے پاس سے چپل گم ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۴
- ۹۴۰۰ دوسرے کی دیوار پر اپنی چھت کو ٹینے کا شرعی حکم ۱۷۵
- ۹۴۰۱ فروخت شدہ بکرا واپس مالک کے پاس آجائے تو کیا حکم ہے؟ ۱۷۶

۱۷۸	۱ / باب شرائط الہبۃ	□
-----	---------------------	---

۱۷۸ ”ہبہ“ شرعاً کب معتبر ہے؟	۹۴۰۲
۱۷۹ ہبہ میں محض نیت کافی نہیں	۹۴۰۳
۱۸۱ کیا ایجاب و قبول سے ہبہ منعقد ہو جاتا ہے؟	۹۴۰۴
۱۸۳ زبانی ہبہ	۹۴۰۵
۱۸۴ زبانی ہبہ کا شرعی حکم	۹۴۰۶
۱۸۷ زبانی ہبہ کے لئے شرعی ثبوت لازم	۹۴۰۷
۱۸۸ زبانی ہبہ بغیر شہادت کے معتبر نہیں	۹۴۰۸
۱۸۹ زبانی ہبہ کرنے کے بعد تحریر لکھنے کا شرعی حکم	۹۴۰۹
۱۹۰ زبانی و تحریری ہبہ نامہ کے بعد قبضہ دینے کی شرعی حیثیت	۹۴۱۰
۱۹۴ ہبہ میں قبضہ کی شرعی حیثیت	۹۴۱۱
۱۹۵ ہبہ میں قبضہ کا شرعی حکم	۹۴۱۲
۱۹۶ کیا ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے؟	۹۴۱۳
۲۰۰ کیا قبضہ دینے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟	۹۴۱۴
۲۰۲ ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے	۹۴۱۵
۲۰۵ کیا الگ الگ کمروں میں رہائش دینے سے ہبہ مکمل ہو جاتا ہے؟	۹۴۱۶
۲۰۷ دستخط شدہ سادہ کاغذ پر دستخط کنندہ کی مرضی کے خلاف لکھوانا	۹۴۱۷
۲۰۷ جس کا دماغی توازن درست نہ ہو اس سے ہبہ نامہ پر انگوٹھا لگوانا	۹۴۱۸
۲۰۸ شرعی ثبوت کے بغیر محض سول جج کے فیصلہ سے ملکیت ثابت نہ ہوگی	۹۴۱۹
۲۱۳ شرعی گواہوں کی شہادت یا ثبوت کے بغیر ہبہ کے دعویٰ کا اعتبار نہیں	۹۴۲۰
۲۱۵ جائیداد تقسیم ہونے سے قبل ہبہ کرنے کا شرعی حکم	۹۴۲۱

۹۴۲۲	والد کا اپنے کچھ لڑکوں کے نام سے زمین خریدنا	۲۱۷
۹۴۲۳	”ایف ڈی“ میں نام کرانے سے ہبہ کا ثبوت	۲۱۸
۹۴۲۴	موبہ مکان پر قبضہ کیا لیکن رجسٹری نہیں ہوئی	۲۲۰
۹۴۲۵	ہبہ صحیح ہونے کے لئے رجسٹری کی شرعی حیثیت	۲۲۱
۹۴۲۶	رجسٹری کے طور پر مکان ہبہ کرنا	۲۲۳
۹۴۲۷	کسی کے نام جائیداد رجسٹری کرانے سے ہبہ کا ثبوت	۲۲۵
۹۴۲۸	کسی کے نام رجسٹری کرانے سے کیا وہ مالک ہو جائے گا؟	۲۲۶
۹۴۲۹	کیا نام کرنے کے بعد رجسٹری بیع نامہ کرانے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے؟	۲۲۷
۹۴۳۰	مکان کا رجسٹری بیع نامہ کر کے دینے سے ہبہ کا ثبوت	۲۲۹
۹۴۳۱	موبہ لہ کے لئے ہبہ کے بعد ملکیت کا ثبوت	۲۳۰
۹۴۳۲	غیر شرعی طریقہ سے ہبہ کا نفاذ	۲۳۲

۲۳۳	۲ / باب ما یجوز من الهبة وما لا یجوز	□
-----	--------------------------------------	---

۹۴۳۳	آدمی کو اپنی جائیداد میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے	۲۳۴
۹۴۳۴	کیا والد کو اپنی جائیداد ہر طرح تقسیم کرنے کا حق ہے؟	۲۳۵
۹۴۳۵	اپنا سارا سرمایہ ہبہ کر کے وارثین کو بے یار و مددگار چھوڑنا	۲۳۶
۹۴۳۶	کچہری میں پیشکار کو لوگوں کا ہدیہ دینا	۲۳۸
۹۴۳۷	بادشاہوں کی طرف سے قضاة کو دی گئی زمین فروخت کرنا	۲۳۹
۹۴۳۸	ہجڑے کا ہدیہ قبول کرنا	۲۴۱
۹۴۳۹	آبائی زمین بیچ کر لڑکوں کو رہائشی مکان تیار کر دینا	۲۴۲
۹۴۴۰	اپنی جائیداد بیوی کو ہبہ کر کے دخیل بنانا	۲۴۳
۹۴۴۱	ترکہ سے ملا ہوا حصہ بیوی کو ہبہ کرنا	۲۴۵

- ۲۴۶ دو بیوی میں سے لا ولد بیوی کو بطور ہبہ کوئی خاص چیز دینا ۹۴۴۲
- ۲۴۷ والدہ کا اپنی چھوٹی بیٹی کو زمین دینا ۹۴۴۳
- ۲۴۸ بحالت صحت مکان اپنی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ۹۴۴۴
- ۲۵۰ بیوہ کا اپنی اکلوتی لڑکی کے نام مکمل جائیداد کرنا ۹۴۴۵
- ۲۵۱ والدہ کا اپنی بیٹی اور نواسی کے نام مکان ہبہ کرنا ۹۴۴۶
- ۲۵۲ والدہ کا دو بیٹوں سے قرض معاف کر کے بقیہ سے وصول کر کے دوسروں کو دینا ۹۴۴۷
- ۲۵۴ زندگی میں بحالت صحت اپنی اولاد کو کچھ دینا ۹۴۴۸
- ۲۵۵ کسی ایک وارث کے نام مکان ہبہ کرنا ۹۴۴۹
- ۲۵۷ والد کی جانب سے بیٹے کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا حکم ۹۴۵۰
- ۲۵۸ لڑکے کو بھائی بہنوں کی رضامندی سے مکان ہبہ کرنا ۹۴۵۱
- ۲۶۰ بڑے لڑکے کے نام بندوق منتقل کرنا ۹۴۵۲
- ۲۶۲ زندگی میں صرف ایک بیٹے کو جائیداد دینا ۹۴۵۳
- ۲۶۳ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کی دوکان کو بچتہ بنا کر رقم لینا ۹۴۵۴
- ۲۶۴ صرف ایک بھائی کی اولاد پر خرچ کرنے کا حکم ۹۴۵۵
- ۲۶۵ پوتی کو اپنی زندگی میں ہبہ کرنا ۹۴۵۶
- ۲۶۷ یتیم پوتے پوتیوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ۹۴۵۷
- ۲۶۸ متوفی لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو دینا ۹۴۵۸
- ۲۶۹ نانا کا تبرعاً نواسہ کو کچھ دینا ۹۴۵۹
- ۲۷۰ ماموں کا اپنے بھانجے کو زمین ہبہ کرنا ۹۴۶۰
- ۲۷۱ نکاح کے موقع پر دیا جانے والا کپڑا نکاح سے پہلے پہننا ۹۴۶۱

- ۹۴۶۲ ہبہ کی ایک صورت کا حکم ۲۷۲
- ۹۴۶۳ عرصہ دراز کے بعد مقبوضہ اراضی پر دعویٰ باطل ۲۷۴

۲۷۸	۳ / باب ہبۃ المشاع	□
-----	--------------------	---

- ۹۴۶۴ ہبہ مشاع ۲۷۸
- ۹۴۶۵ ہبہ مشاع اور اس میں تصرف کا حکم ۲۸۰
- ہبۃ المشاع ۲۸۸
- ناقابل تقسیم اشیاء کا ہبۃ المشاع ۲۸۸
- قابل قسمت اشیاء کا ہبہ مشاع ۲۹۰
- ائمہ ثلاثہ کے دلائل ۲۹۲
- ائمہ احناف کے یہاں ہبہ مشاع فاسد ہے یا نا تمام؟ ۲۹۸
- حنفیہ کے درمیان ہبہ مشاع کے جواز اور عدم جواز کا اختلاف ۲۹۹
- صاحبین کے درمیان اختلاف ۳۰۲
- ہبۃ المشاع کے جواز کی شکلیں ۳۰۵
- ہبۃ المشاع میں آپس میں مل کر تقسیم کا جواز ۳۰۶
- نزاع نہ ہو تو ہبہ مشاع کا جواز ۳۰۷
- مقالہ کا خلاصہ اور سوالات کے جوابات ۳۰۹
- شئی موہوب کے مقسوم میں ائمہ کا اختلاف ۳۰۹
- ہبہ میں قبضہ کی حیثیت ۳۱۰
- نابالغ کو ہبہ میں قبضہ جدید کی ضرورت نہیں ۳۱۱
- نابالغ کی طرف سے صحت قبضہ کی شرائط ۳۱۲
- نابالغ کو ہبہ مشاع ۳۱۳

۳۱۵	۴ / باب الرجوع فی الہبۃ	□
-----	-------------------------	---

۳۱۵	شئی موہوب کو واپس لینا	۹۴۶۶
۳۱۶	موہوبہ مکان کو واپس لے کر وقف کرنے کا حکم	۹۴۶۷
۳۱۸	لڑکے کے انتقال کے بعد جائیداد واپس لینا	۹۴۶۸
۳۲۰	اولاد کو ہبہ کر کے واپس لینے کا حکم	۹۴۶۹
۳۲۱	ہدیہ کی واپسی کا مطالبہ کرنا	۹۴۷۰
۳۲۲	باپ کا اولاد کو چھت ہبہ کرنے کے بعد رجوع کرنا	۹۴۷۱

۳۲۵	۵/باب: زندگی میں تقسیم جائیداد	□
-----	--------------------------------	---

۳۲۵	زندگی میں تقسیم	۹۴۷۲
۳۲۶	زندگی میں تقسیم جائیداد	۹۴۷۳
۳۲۸	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا	۹۴۷۴
۳۳۱	زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر دینا	۹۴۷۵
۳۳۲	حالت حیات میں جائیداد تقسیم کرنا	۹۴۷۶
۳۳۳	زندگی میں تقسیم جائیداد کا حکم	۹۴۷۷
۳۳۵	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا شرعی حکم	۹۴۷۸
۳۳۶	زندگی میں تقسیم جائیداد کی شرعی حیثیت	۹۴۷۹
۳۳۷	زندگی میں تقسیم کی دو صورتوں کا بیان	۹۴۸۰
۳۴۰	زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟	۹۴۸۱
۳۴۱	زندگی میں تقسیم جائیداد کا شرعی طریقہ	۹۴۸۲
۳۴۳	زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ	۹۴۸۳
۳۴۴	ایضاً	۹۴۸۴

۳۴۵ ایضاً	۹۴۸۵
۳۴۷ زندگی میں جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟	۹۴۸۶
۳۴۸ جھگڑے کے خوف سے زندگی میں میراث تقسیم کرنا	۹۴۸۷
۳۴۹ زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ	۹۴۸۸
۳۵۱ زندگی میں مکان تقسیم کرنا	۹۴۸۹
۳۵۲ زندگی میں ہی والدہ کا مکان تقسیم کرنا	۹۴۹۰
۳۵۳ زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے ہبہ کرنا	۹۴۹۱
۳۵۵ زندگی میں اپنی جائیداد متعلقین میں تقسیم کرنا	۹۴۹۲
۳۵۶ زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم ترکہ	۹۴۹۳
۳۵۸ زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم	۹۴۹۴
۳۵۹ زندگی میں اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم	۹۴۹۵
۳۶۱ زندگی میں اولاد کے مابین ترکہ کی تقسیم	۹۴۹۶
۳۶۲ اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم زندگی میں کرنے کا شرعی حکم	۹۴۹۷
۳۶۳ زندگی میں اولاد کے مابین جائیداد کی تقسیم کا طریقہ	۹۴۹۸
۳۶۵ زندگی میں کاروبار اور مکان تقسیم کرنا	۹۴۹۹
۳۶۶ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں والدہ کا اپنے لئے کچھ باقی رکھنا ...	۹۵۰۰
۳۶۷ والدین کا اپنی جائیداد بچوں کے درمیان تقسیم کرنا	۹۵۰۱
۳۶۸ زندگی میں ورثاء کے لئے وصیت اور ان کے درمیان تقسیم کا حکم	۹۵۰۲
۳۷۳ زندگی میں تمام اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا	۹۵۰۳
۳۷۵ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں اولاد کے درمیان برابری	۹۵۰۴

- ۹۵۰۵ زندگی میں تقسیم کی صورت میں برابری کا حکم ۳۷۶
- ۹۵۰۶ زندگی میں تقسیم کرنے میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم ... ۳۷۸
- ۹۵۰۷ زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنا ۳۸۱
- ۹۵۰۸ زندگی میں تقسیم کی صورت میں اولاد کے درمیان مساوات کرنے کا حکم ۳۸۲
- ۹۵۰۹ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے میں برابری کرنے کا حکم ۳۸۴
- ۹۵۱۰ کیا زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کے لئے مساوات لازم ہے؟ ۳۸۶
- ۹۵۱۱ زندگی میں تقسیم سے متعلق ایک سوال و جواب ۳۸۷
- ۹۵۱۲ زندگی میں شرعی ورثاء کے درمیان نقدی رقم تقسیم کرنا ۳۹۲
- ۹۵۱۳ اولاد کے مابین زندگی میں فروخت شدہ مکان کی قیمت تقسیم کرنا ۳۹۳
- ۹۵۱۴ زندگی میں ہی لڑکے لڑکیوں کا حصہ متعین کرنا ۳۹۴
- ۹۵۱۵ زندگی میں مکان تقسیم کرنا اور لڑکیوں کا حصہ ۳۹۵
- ۹۵۱۶ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا اور لڑکیوں کو محروم کرنا ۳۹۶
- ۹۵۱۷ لڑکی کو مکان مع دوکان دینا اور لڑکوں کو کھیت کی زمین ۳۹۸
- ۹۵۱۸ زندگی میں بیوی اور لڑکیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم ۴۰۰
- ۹۵۱۹ زندگی میں بیوی اور اولاد کے درمیان جائیداد کی تقسیم ۴۰۱
- ۹۵۲۰ زندگی میں اولاد اور بیوی کے درمیان جائیداد کس طرح تقسیم کریں؟ .. ۴۰۳
- ۹۵۲۱ زندگی میں پوتے، نواسے اور نواسیوں کے درمیان مکان کی تقسیم ۴۰۴
- ۹۵۲۲ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۴۰۵
- ۹۵۲۳ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی صورت میں پوتوں اور نواسوں کو دینا . ۴۰۶
- ۹۵۲۴ زندگی میں بیٹے پوتے اور بہو کو کچھ دینا ۴۰۷

- ۹۵۲۵ زندگی میں جائیداد بھانجی بھانجیوں کو ہبہ کرنا ۴۰۹
- ۹۵۲۶ زندگی میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۴۱۲
- زندگی میں تقسیم میراث اور وراثہ کے حق میں وصیت کیسے ہو؟ ۴۱۵
- زندگی میں ترکہ تقسیم کرنا ۴۱۵
- (۱) ہبہ کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے مالک بنا دینا ۴۱۵
- پہلی بات: یہ حکم مستحب ہے یا واجب؟ ۴۱۶
- دوسری بات: زندگی میں اولاد کو ہبہ کرنے میں مساوات ۴۱۸
- مذکر و مؤنث کے درمیان مساوات ۴۲۰
- (۲) وصیت کی شکل: زندگی میں تقسیم کر کے وصیت کر دینا ۴۲۳
- مسلمان غیر مسلم کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں؟ ۴۲۶
- وارث کے لئے دیگر وراثہ کی مرضی سے وصیت ۴۳۰
- موت کے بعد کی اجازت پر فقہاء کی وضاحت ۴۳۱
- وارث کے حق میں وصیت کے عدم جواز کی حکمت ۴۳۳
- بعض نے اجازت دی بعض نے نہیں دی ۴۳۵
- بیوہ کے لئے شوہر کی وصیت ۴۳۶
- وارث اور اجنبی کے حق میں ایک ساتھ وصیت ۴۳۸
- ایک تہائی سے زائد کی وصیت ۴۴۰
- ضروری وضاحت ۴۴۱
- مقالہ کا خلاصہ ۴۴۲

۴۴۴	موہوبہ مقبوضہ میں وراثت کا شرعی حکم	۹۵۲۷
۴۴۵	شیء موہوبہ میں وراثت کی شرعی حیثیت	۹۵۲۸
۴۴۷	شیء موہوبہ میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟	۹۵۲۹
۴۴۸	ہبہ مکمل ہونے کے بعد وہ ترکہ میں شامل نہ ہوگا	۹۵۳۰
۴۴۹	ہبہ تام میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۹۵۳۱
۴۵۱	شیء موہوبہ میں موہوب لہ کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں	۹۵۳۲
۴۵۲	شیء موہوبہ پر قبضہ کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۹۵۳۳
۴۵۴	پوتے کے نام کردہ زمین میں وراثت کا حکم	۹۵۳۴
۴۵۶	بیوی کو ہبہ کئے گئے مکان میں لڑکے کا حصہ مانگنا	۹۵۳۵
۴۵۷	تکمیل ہبہ کے ثبوت سے قبل اپنے حصہ کا مطالبہ کرنا	۹۵۳۶
۴۵۸	ہبہ تام ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کا حصہ طلب کرنا	۹۵۳۷
۴۵۹	نابالغ کے ہبہ والی رقم میں تصرف کرنا	۹۵۳۸
۴۶۰	موہوبہ شیء میں حق کا دعویٰ کرنا	۹۵۳۹
۴۶۲	شیء موہوبہ کو واہب کے مقصد میں صرف کرنا	۹۵۴۰

۴۶۳	۷ / باب الہبۃ للصغیر	□
-----	----------------------	---

۴۶۳	خدمت گزار لڑکے کو جائیداد زیادہ دینا	۹۵۴۱
۴۶۴	خدمت گزار اولاد کو ہبہ میں زیادہ دینا	۹۵۴۲
۴۶۵	دارالافتاء نعیمیہ کا جواب	
۴۶۶	دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب	
۴۶۶	خدمت گزار اولاد کو زیادہ حصہ دینا	۹۵۴۳
۴۶۹	نافرمان بیٹے کو جائیداد نہ دے کر فرماں بردار لڑکے کو دینا	۹۵۴۴

- ۹۵۴۵ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بحالت صحت جائیداد بیوی کو ہبہ کرنا ۴۷۰
- ۹۵۴۶ لڑکا بدکردار ہو تو اپنی جائیداد لڑکی کو ہبہ کرنے کا حکم ۴۷۲
- ۹۵۴۷ زندگی میں ایک اولاد کو کل جائیداد کا مالک بنا کر بقیہ کو محروم کر دینا ۴۷۲
- ۹۵۴۸ اولاد کے درمیان ہبہ میں تفریق کا حکم ۴۷۴
- ۹۵۴۹ لڑکے کو الگ کرنے کی صورت میں جائیداد کی تقسیم ۴۷۶
- ۹۵۵۰ کیا والد کو نافرمان لڑکوں کو محروم کرنے کا حق ہے؟ ۴۷۷
- ۹۵۵۱ نافرمان اولاد کو محروم کرنے سے والدین گنہگار نہیں ہوں گے ۴۷۹
- ۹۵۵۲ نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۰
- ۹۵۵۳ نافرمان بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنے کا شرعی حکم ۴۸۲
- ۹۵۵۴ نافرمان لڑکے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۴
- ۹۵۵۵ نافرمان بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی شرعی حیثیت ۴۸۵
- ۹۵۵۶ نافرمان اولاد کو زندگی میں تقسیم جائیداد سے محروم کرنا ۴۸۷
- ۹۵۵۷ نافرمان اولاد کو محروم کرنے کا شرعی حکم ۴۸۸
- ۹۵۵۸ نافرمان اولاد کو محروم کرنے کی شرعی حیثیت ۴۹۰
- ۹۵۵۹ زندگی میں تقسیم کرنے پر نافرمان بیٹے کو محروم کرنا ۴۹۲
- ۹۵۶۰ زندگی میں نافرمان اولاد کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۹۴
- ۹۵۶۱ کلمات کفر بکنے والے کو جائیداد سے محروم کرنا ۴۹۶
- ۹۵۶۲ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں لڑکیوں کو نہ دینا ۴۹۸
- ۹۵۶۳ باپ کا لڑکیوں کو حصہ نہ دے کر صرف لڑکوں کو دینا ۵۰۰
- ۹۵۶۴ لڑکیوں کو محروم کر کے تمام جائیداد لڑکوں کے درمیان ہبہ کرنے کا حکم ۵۰۱

۹۵۶۵ لڑکیوں کو شادی میں جہیز دینے کی بنا پر جائیداد سے محروم کرنا ۵۰۳

۵۰۶	۸ / باب ہبۃ المریض	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------	--------------------------

۹۵۶۶ مرض الموت میں ہبہ کا حکم ۵۰۶

۹۵۶۷ حالت مرض میں وارث کو ہبہ ۵۰۹

۹۵۶۸ چند اولاد کو جائیداد دے کر بقیہ کو محروم کر کے مرض الموت میں ان کے لئے

وصیت کرنے کا حکم ۵۱۰

۳۱ / کتاب الإجارة

۵۱۲	۱ / باب الإجارة الصحيحة	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------	--------------------------

۹۵۶۹ اجیر خاص اور اجیر مشترک کا فرق ۵۱۲

۹۵۷۰ سرکاری و پرائیویٹ ملازمین اجیر خاص ہوتے ہیں یا اجیر مشترک ۵۱۳

۹۵۷۱ ٹھیکہ دار اجیر مشترک ہے یا خاص؟ ۵۱۴

۹۵۷۲ کیا ملازم پر اوقات کی پابندی لازم ہے؟ ۵۱۵

۹۵۷۳ مالک نماز نہ پڑھنے دے تو کیا حکم ہے؟ ۵۱۷

۹۵۷۴ کیا ملازم دوران ملازمت نوافل ادا کر سکتا ہے؟ ۵۱۸

۹۵۷۵ ملازمت کے وقت میں اپنا کاروبار کرنا ۵۱۹

۹۵۷۶ ملازم غلطی کی معافی منبج سے مانگے یا مالک سے؟ ۵۲۰

۹۵۷۷ کیا مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی زمین جسے چاہے کرایہ پر دیدے؟ ۵۲۲

۹۵۷۸ مالک کو اختیار ہے جس کو چاہے دوکان کرایہ پر دے ۵۲۲

۹۵۷۹ شوہر کے کرایہ کی دوکان میں کس کا حصہ ہے خسر کا یا بیوی کا؟ ۵۲۴

- ۹۵۸۰ حکومت کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک میں تجارت کرنا ۵۲۶
- ۹۵۸۱ زمین کو بوقت ضرورت واپسی کی شرط پر کرائے پر دینا ۵۲۷
- ۹۵۸۲ مالک کا پانچ ہزار روپیہ پیشگی یا ستر لگوانے کی شرط لگانا ۵۲۸
- ۹۵۸۳ کرایہ پر مکان دے کر ہر سال دس فیصد بڑھانے کی شرط ۵۲۹
- ۹۵۸۴ کرایہ دار کب بجلی اور پانی کے بل کی ادائے گی کا ذمہ دار ہوگا؟ ۵۳۱
- ۹۵۸۵ کرایہ دار کا مالک سے مرمت کا خرچ وصول کرنے کا حکم ۵۳۳
- ۹۵۸۶ مالک مکان کا کرایہ دار کا سامان فروخت کرنا ۵۳۴
- ۹۵۸۷ آپسی رضامندی کی بنا پر کاروبار کی دو جائز شکلیں ۵۳۶
- ۹۵۸۸ اجارہ مشترکہ کی صورت میں کچھ ضائع ہو جائے تو ضامن کون ہوگا؟ .. ۵۳۸
- ۹۵۸۹ کرایہ پر لی ہوئی زمین پر مالک کی اجازت سے عمارت تعمیر کر لی تو
اب کیا کرے؟ ۵۳۹
- ۹۵۹۰ جس شخص نے تنہا اپنی کمائی سے کاروبار بڑھایا اس میں دوسرے بھائی
کی حصہ داری نہ ہوگی ۵۴۰
- ۹۵۹۱ بونس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ۵۴۲
- ۹۵۹۲ ملازم فسادات کے دوران کی تنخواہ کا مستحق ہے یا نہیں؟ ۵۴۲
- ۹۵۹۳ کرفیو کے دوران بند مدرسوں اور کارخانوں کے ملازموں کی تنخواہ ۵۴۴
- ۹۵۹۴ سرکاری ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟ ۵۴۵
- ۹۵۹۵ سرکاری مدرس کا عذر کی بنا پر لڑکے کو نائب بنانا ۵۴۶
- ۹۵۹۶ ریلوے میں ملازم باپ کی جگہ متبنی کی نوکری کا حکم ۵۴۷
- ۹۵۹۷ ڈاکخانہ سے روپے لاکر لوگوں کو دینے کی اجرت لینا ۵۴۸
- ۹۵۹۸ خلاف شرع کام ہونے والے ہوٹل کی ملازمت کا حکم ۵۴۹
- ۹۵۹۹ کیمروں کے مرمت کی اجرت کا حکم ۵۵۱

۵۵۳	جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ نوکری کرنا	۹۶۰۰
۵۵۵	جھوٹ اور جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعہ نوکری حاصل کرنا	۹۶۰۱
۵۵۶	ٹھیکیدار کے پاس بچے ہوئے پیسے کے استعمال کا حکم	۹۶۰۲
۵۵۸	لڑکیوں کے لئے ہاف آستین اور چست کپڑے سل کر دینا	۹۶۰۳
۵۵۹	عورتوں کے نیم عریاں لباس تیار کرنے والی کمپنی میں کام کرنا	۹۶۰۴
۵۶۰	درزی کے پاس بچے ہوئے کپڑا کا حکم	۹۶۰۵
۵۶۱	تین ماہ بعد فونوگر کا کپڑے کو بیچ کر اپنی اجرت وصول کرنا	۹۶۰۶
۵۶۳	قالین بننے والے کا مقدار معین سے زائد بننے کی اجرت نہ لینا	۹۶۰۷
۵۶۴	مسلمانوں کا کرایہ پردینے کے لئے ”شادی ہال“ بنانا	۹۶۰۸
۵۶۵	سودی قرض لے کر کاروبار کرنے کی آمدنی کا حکم	۹۶۰۹
۵۶۶	وکیل کی کمائی کا حکم	۹۶۱۰
۵۶۷	وکیلوں کی کمائی سے انشعاع اور صدقہ و خیرات	۹۶۱۱
۵۶۸	ڈاکٹر اور وکیل کی فیس کا حکم	۹۶۱۲
۵۶۹	بیٹری بھرنے اور کرائے پردینے کا حکم	۹۶۱۳
۵۷۰	معصیت والے امور میں لاؤڈ اسپیکر کرائے پردینا	۹۶۱۴
۵۷۲	فلم کی شوٹنگ ہونے والے ہال کی چوکیداری کا حکم	۹۶۱۵
۵۷۳	مورتی اور مزار پر کپڑا چڑھانے کے لئے فروخت کرنا	۹۶۱۶
۵۷۵	مسلم ٹھیکیدار کا مندر تعمیر کرنا	۹۶۱۷
۵۷۶	کمپنی کا تصویر والا لیبل شائع کرنا	۹۶۱۸
۵۷۷	تمباکو گٹکا وغیرہ کی تجارت اور اس کی آمدنی	۹۶۱۹

۵۷۸ غیر مسلم کو فوٹو گرافی کے لئے کرائے پر مکان دینا	۹۶۲۰
۵۷۹ بینک کو مکان کرایہ پر دینا	۹۶۲۱
۵۸۰ بینک کو زمین کرائے پر دینا	۹۶۲۲
۵۸۲ بینک کو دوکان کرائے پر دینا	۹۶۲۳
۵۸۳ بینک کو مکان کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز؟	۹۶۲۴
۵۸۳ بینک سے کرایہ لے کر اپنی ضروریات میں استعمال کرنا	۹۶۲۵
۵۸۴ بلڈنگ بینک کو کرایہ پر دینا	۹۶۲۶
۵۸۵ پوسٹ بکس رکھوانے کے عوض دوکان ٹیپ ٹاپ کروانا	۹۶۲۷
۵۸۷ اپنی دوکان میں کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھنے کا کرایہ وصول کرنا	۹۶۲۸
۵۸۸ ندی فروخت کرنا	۹۶۲۹
۵۸۹ ندی کو چند سالوں کے لئے کرایہ پر لینا	۹۶۳۰
۵۹۲ سمندر کا ایک مخصوص حصہ ٹھیکہ پر لینا	۹۶۳۱
۵۹۳ کافر کو شامیانہ اور کھانے کے برتن کرایہ پر دینا	۹۶۳۲
۵۹۴ زمین کو کرایہ پر دینا	۹۶۳۳
۵۹۶ خالی زمین کرایہ پر لینا	۹۶۳۴
۵۹۷ قرض لے کر زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۵
۵۹۸ باغ کو ٹھیکے پر دینا	۹۶۳۶
۵۹۹ ٹھیکے پر زمین دینا	۹۶۳۷
۶۰۱ درختوں کے ساتھ زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۸
۶۰۱ سالانہ دو من غلہ پر زمین کرایہ پر دینا	۹۶۳۹
۶۰۲ باغات کو فروخت کرنے کی جائز شکل	۹۶۴۰
۶۰۵ کھیت اور باغات کو ٹھیکہ پر دینا اور گروی رکھنا	۹۶۴۱

۶۰۶ عمارت بنانے کے لئے زمین کرایہ پر دینا	۹۶۴۲
۶۰۸ زمین کو کرایہ پر دینے کی چند شکلیں	۹۶۴۳
۶۰۹ ”کوٹو“ اور ”ڈیڑھا“ کا حکم	۹۶۴۴
۶۱۰ زمین کو ”کٹ بھرنے“ پر دینا	۹۶۴۵

۶۱۲	۲ / باب الإجارة الفاسدة	□
-----	-------------------------	---

۶۱۲ اجارہ میں اجرت کے مجہول ہونے کی شرعی حیثیت	۹۶۴۶
۶۱۳ بلا تعین اجرت اجیر کی مزدوری کا مسئلہ	۹۶۴۷
۶۱۶ کم کرایہ پر لے کر زیادہ کرایہ پر دینا	۹۶۴۸
۶۱۹ مزدوری متعین کئے بغیر ٹھیکہ پر کام کرنے کی اجرت کا حکم	۹۶۴۹
۶۲۰ مدت متعینہ تک کام مکمل نہ ہونے پر ہر ہفتہ پانچ سو روپے واپسی کی شرط کا حکم	۹۶۵۰
۶۲۱ تالاب کو کرائے پر دینا	۹۶۵۱
۶۲۳ گائے کا بچہ ادھیہ پر دینا	۹۶۵۲
۶۲۴ جانور کو ادھیہ پر دینا	۹۶۵۳
۶۲۵ ادھیہ پر جانور دینے کے ناجائز ہونے کی علت	۹۶۵۴
۶۲۷ ادھیہ پر دیئے گئے جانور کے جواز کی شکل	۹۶۵۵
۶۲۸ گابھن کرانے کی اجرت لینا	۹۶۵۶
۶۲۹ گائے بھینس جفتی کرانے کی اجرت لینا	۹۶۵۷
۶۳۰ کمپنی کا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے ممبر درممبر بنانا	۹۶۵۸
۶۳۴ ”ایم وے“ کمپنی کی اسکیم کا حکم	۹۶۵۹
۶۳۶ ”ہیلوانڈیا“ کا ممبر بننا	۹۶۶۰

۹۶۶۱ ”گلینڈ ٹریڈنگ انڈیا“ کی ممبری کا شرعی حکم ۶۳۹

□	۳ / باب أجرة الدلال و السمسار	۶۴۲
---	-------------------------------	-----

۹۶۶۲ دلال مستحق اجرت کب ہوتا ہے؟ ۶۴۲

۹۶۶۳ کسی چیز کی دلالی پر اجرت لینے کا شرعی حکم ۶۴۵

۹۶۶۴ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ ۶۴۶

۹۶۶۵ جانین سے دلالی کی اجرت کا حکم ۶۴۸

۹۶۶۶ کیا دلال بائع و مشتری دونوں سے دلالی وصول کر سکتا ہے؟ ۶۴۹

۹۶۶۷ ”بروکروی“ سے متعلق چند سوالات و جوابات ۶۵۰

۹۶۶۸ زمین خریدوانے کی دلالی لینا ۶۵۳

۹۶۶۹ زمین کی خرید و فروخت کرانے میں دلالی کی اجرت لینا ۶۵۷

۹۶۷۰ انجینئر کا ٹھیکیدار سے کمیشن لینا ۶۵۹

۹۶۷۱ ٹھیکیدار یا مستری وغیرہ کا کمیشن لینا ۶۶۰

۹۶۷۲ بولی لگانے کے درمیان آڑھت والے کا بیع میں سے کچھ نکال لینا ... ۶۶۲

۹۶۷۳ ہسپتال کا مریض بھیجنے والے ڈاکٹر کو تحفہ دینا ۶۶۳

۹۶۷۴ آنکھوں کے ڈاکٹروں کا چشموں کی دوکان والوں سے کمیشن لینا ۶۶۴

۹۶۷۵ ڈاکٹر کا خون یا پیشاب جانچ کرانے کے لئے بھیجنے کی اجرت لینے کا حکم ۶۶۵

۹۶۷۶ ڈاکٹر کا لٹراساؤنڈ اور ایکسرے والوں سے کمیشن لینا ۶۶۶

۹۶۷۷ ڈاکٹر کے پاس بھیجنے اور دو فروخت کرنے پر کمیشن لینے کی شرعی حیثیت ۶۶۸

۹۶۷۸ حج کا وکیل کے پاس مقدمہ بھیجنے پر اس سے رقم لینے کا حکم ۶۷۰

۹۶۷۹ اقامہ بنانے کی اجرت لینا ۶۷۲

۹۶۸۰ ہوٹل والوں کا رکشہ یا ٹیکسی ڈرائیور کو کمیشن دینا ۶۷۳

۶۷۵ رقم پہنچانے کے فی سیکڑہ پانچ سو روپے لینا	۹۶۸۱
۶۷۶ گراہک بڑھانے کی اجرت	۹۶۸۲
۶۷۷ کمپنی کا گراہک کو بڑھانے پر اجرت دینے کا حکم	۹۶۸۳
۶۷۹ ممبر سازی پر ملنے والا کمیشن جائز ہے یا ناجائز؟	۹۶۸۴
۶۸۲ کمپنی کا ممبر بنانے پر ملنے والی اجرت کا حکم	۹۶۸۵
۶۸۵ ’انڈیا روز‘ کمپنی کا ممبر بننا	۹۶۸۶
۶۸۶ دوسرے شخص کی ممبر سازی کا کمیشن لینا	۹۶۸۷
۶۸۸ ایجنٹ کے ذریعہ سے سرکاری دفاتر کا کام کرانا	۹۶۸۸
۶۹۰ دو فیصد پر پلاٹ بکوانے کے معاملہ کا حکم	۹۶۸۹
۶۹۱ ’تم میرے لئے کوئی زمین تلاش کرو‘ کہنے کا حکم	۹۶۹۰

۶۹۳	۴/ باب فی فسخ الإجارة	□
-----	-----------------------	---

۶۹۳ بوقت ضرورت مالک کرایہ داری ختم کر سکتا ہے	۹۶۹۱
۶۹۴ کیا مالک کو کرایہ کی دوکان وقت سے پہلے لینے کا حق ہے؟	۹۶۹۲
۶۹۵ کرایہ داری کی مدت ختم ہونے سے قبل مالک کا دوکان خالی کرانا	۹۶۹۳
۶۹۶ اپنی ذاتی دوکان کرایہ دار سے جبراً خالی کرانا	۹۶۹۴
۶۹۷ کرایہ دار پر مدت کرایہ داری پوری ہونے پر دوکان خالی کرنا لازم ہے	۹۶۹۵
۶۹۹ مالک مکان کا بخوشی کرایہ دار کو دوسری جگہ انتظام کرنے کے لئے روپے دینا	۹۶۹۶
۷۰۱ کرایہ دار کا مکان میں لگایا ہوا پیسہ مکان مالک سے وصول کرنا	۹۶۹۷
۷۰۱ کیا کرایہ دار کے مرنے سے کرایہ داری ختم ہو جاتی ہے؟	۹۶۹۸
۷۰۳ کرایہ دار کا انتقال ہونے کی صورت میں کرایہ داری کا حکم	۹۶۹۹
۷۰۴ کیا کرایہ دار کے مرتے ہی معاملہ اجارہ فسخ ہو جاتا ہے	۹۷۰۰

۷۰۶	۵ / باب الاستئجار علی الطاعات	□
-----	-------------------------------	---

۷۰۶	اجرت لے کر دینی تعلیم دینا اور طلبہ کی غیر حاضری پر مالی جرمانہ وصول کرنا	۹۷۰۱
۷۰۷	امامت کی اجرت طے کرنا	۹۷۰۲
۷۰۸	ائمہ مساجد و مؤذنین کے لئے حکومت سے ملنی والی تنخواہ لینا کیسا ہے؟	۹۷۰۳
۷۰۹	آدمی کا لڑکیوں کو اور خاتون کا لڑکوں کو تعلیم دینا	۹۷۰۴
۷۱۰	ٹیوشن کی اجرت کا شرعی حکم	۹۷۰۵
۷۱۱	حرام کاروباری کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا	۹۷۰۶
۷۱۲	قبروں پر قرآن پڑھنے کے عوض جوڑا ہدیہ قبول کرنا	۹۷۰۷
۷۱۳	مقرر کا وعظ کے لئے رقم طے کرنا	۹۷۰۸
۷۱۵	مقررین حضرات کا تقریروں پر اجرت لینا	۹۷۰۹
۷۱۶	نعت و تقریر، قوالی اور تراویح کی اجرت کا حکم	۹۷۱۰
۷۱۸	فاتحہ خانی، تقریر بموقع عید میلاد النبی اور جھاڑ پھونک کی اجرت لینا	۹۷۱۱
۷۲۰	قبر کھودنے، کفن کی سلائی، میت کے غسل کی اجرت کا حکم	۹۷۱۲

۷۲۲	۶ / باب الاستئجار علی المعصیة	□
-----	-------------------------------	---

۷۲۲	شراب، مہیتہ وغیرہ کو ٹرک پر لادنے کی اجرت لینا	۹۷۱۳
۷۲۳	نائی کی کمائی کا حکم	۹۷۱۴
۷۲۴	مورتیوں کی تجارت کا حکم	۹۷۱۵
۷۲۶	لکڑی کے مندر بنا کر فروخت کرنا	۹۷۱۶
۷۲۷	خود نہ بنا کر غیر مسلم سے تصویر والے آرڈر بنوانے کی اجرت کا حکم	۹۷۱۷
۷۲۸	جاندار کی تصویر کی ڈھلائی کا آرڈر لینا	۹۷۱۸

۷۲۹	تصویریں اور مجسمے بنانا	۹۷۱۹
۷۳۱	فوٹو کھینچنے کی اجرت کا حکم	۹۷۲۰
۷۳۲	فوٹو گرائی اور اس کی اجرت	۹۷۲۱
۷۳۳	”فوٹو گرائی“ اور ”ویڈیو سازی“ کا حکم	۹۷۲۲
۷۳۵	فوٹو گرائی اور اس کے رول کا کاروبار کرنا	۹۷۲۳
۷۳۶	”ڈش انٹینا“ کا کاروبار کرنے کا حکم	۹۷۲۴
۷۳۸	حرام اور جائز پروگرام والے چینل کی آمدنی کا حکم	۹۷۲۵
۷۴۰	”ٹی وی“ مرمت کرنے کی اجرت	۹۷۲۶
۷۴۱	”ٹی وی“، ”وی سی آر“ کی فلمیں بنانا اور اس کی اجرت	۹۷۲۷
۷۴۲	”ٹی وی“، ”سی ڈی“ کی مرمت کی اجرت	۹۷۲۸
۷۴۴	ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کی مرمت اور اس کی اجرت	۹۷۲۹
۷۴۵	ٹی وی کی مرمت پر اجرت لینا اور اس کے استعمال کا حکم	۹۷۳۰
۷۴۶	مندرجہ کی تعمیر میں مزدوری کرنا	۹۷۳۱
۷۴۷	انشورنس کمپنی یا بینک کی ملازمت	۹۷۳۲
۷۴۹	پتنگ بنانے کی اجرت	۹۷۳۳
۷۵۰	”ویڈیو گیم“ کرایہ پر چلانا	۹۷۳۴
۷۵۱	چاول میں ملاوٹ کرنے والے مزدوروں کی مزدوری کا حکم	۹۷۳۵



فہرست عناوین

صفحہ	۳۲ کتاب الغصب	مسئلہ نمبر
۳۲ کاغذ میں ناحق اندراج کرانے کی شرعی حیثیت	۹۷۳۶
۳۳ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے مکان کو اپنے نام کرا لیا	۹۷۳۷
۳۴ دعا تعویذ کرا کے دو بھائی کی زمین پر قبضہ کرنے کا حکم	۹۷۳۸
۳۵ بھانجے کی جائیداد پر ماموں کا ناحق قبضہ	۹۷۳۹
۳۷ دوسرے کی زمین ہڑپنے کا حکم	۹۷۴۰
۳۸ دوسروں کی زمین پر ناحق قبضہ کا حکم	۹۷۴۱
۳۹ بیوی سے زبردستی اس کا زیور لینا	۹۷۴۲
۳۹ سالے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا	۹۷۴۳
۴۰ بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا حصہ فروخت کرنا	۹۷۴۴
۴۱ مشترکہ زمین پر کسی ایک شریک کے تنہا قبضہ کرنے کا حکم	۹۷۴۵
۴۳ کرایہ دار کا مطالبہ کے باوجود دوکان خالی نہ کرنا اور نفع کا حکم	۹۷۴۶
۴۸ کرایہ دار کا مکان خالی نہ کرنا ظلم اور گناہ ہے	۹۷۴۷
۴۹ چوری کی بجلی کرایہ پر لینا	۹۷۴۸
۵۰ سرکاری زمین میں مکان تعمیر کرنا	۹۷۴۹
۵۲ کسی شخص کی مقبوضہ سرکاری زمین کو خفیہ طور پر اپنے نام کرانے کا حکم	۹۷۵۰
۵۳ سرکار کی طرف سے بھائی کو دی گئی زمین پر بہن کا قبضہ	۹۷۵۱
۵۴ جنگلات کی لکڑیاں سرکاری اجازت کے بغیر استعمال کرنا	۹۷۵۲
۵۵ انجانے میں دوسرے کی زمین میں لگائے گئے درخت کا حکم	۹۷۵۳
۵۶ غاصب کے مال سے اپنے حصہ کی مقدار وصول کرنا	۹۷۵۴

- ۹۷۵۵ دوسرے کی زمین پر مکان تعمیر کر لیا تو اب کیا کرے؟ ۵۷
- ۹۷۵۶ ایک شخص نے دوسرے کی زمین زبردستی جوت لی تو کیا کرے؟ ۵۸
- ۹۷۵۷ دوسرے کی مملوکہ زمین پر عرس کے لیے مزار تعمیر کرنا ۶۰
- ۹۷۵۸ غیر کی آراضی میں اس کی اجازت کے بغیر قبریں بنانا اور مردے دفن کرنا ۶۱
- ۹۷۵۹ تعزیہ رکھنے کے لیے کسی کا گھر چھیننا ۶۲
- ۹۷۶۰ ناجائز طریقہ سے حاصل شدہ زمین سے انتفاع اور صدقہ و خیرات کرنا ۶۳

۶۵	۳۳ کتاب الرهن	
----	----------------------	--

- ۹۷۶۱ زمین کو رہن پر رکھنا ۶۵
- ۹۷۶۲ والد کے رہن میں رکھے ہوئے مکان کو لڑکا چھڑالے تو کیا حکم ہے؟ ۶۶
- ۹۷۶۳ رہن بالدرک باطل کیوں؟ جبکہ کفالت بالدرک باطل نہیں؟ ۶۷
- ۹۷۷۴ شئی مرہون کے چھڑانے میں لگی رقم سے زائد رقم وصول کرنا ۶۹
- ۹۷۶۵ شئی مرہونہ کے حفاظت کی اجرت ۷۰
- ۹۷۶۶ مرہون کے پاس شئی مرہون ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ۷۱
- ۷۱ دارالعلوم دیوبند کا جواب ۷۱
- ۹۷۶۷ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب ۷۲
- ۹۷۶۸ شئی مرہون کی ہلاکت کے ضمان میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ ۷۴
- ۹۷۶۹ مرہون مرہونہ سونے کو فروخت کر دے تو کس قیمت سے واپس کریگا ۷۷
- ۹۷۷۰ گروی رکھی زمین سے نفع اٹھانا ۷۹
- ۹۷۷۱ ارض مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کی شرط ۸۰
- ۹۷۷۲ مرہون زمین میں راہن و مرہون کا غلہ پیدا کرنا ۸۱
- ۹۷۷۳ مرہون کا شئی مرہون سے فائدہ اٹھانا ۸۲
- ۹۷۷۴ مسلم فنڈ کا تین مہینے زور رکھنے کے عوض رقم وصول کرنا ۸۳

۸۴	ارض مرہونہ سے استفادہ کی متبادل شکل	۹۷۷۵
۸۵	زمین سے فائدہ اٹھانے کی شرط پر قرض لینا	۹۷۷۶
۸۶	ارض مرہونہ سے فائدہ اٹھانا	۹۷۷۷
۸۷	ارض مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حیلہ	۹۷۷۸
۸۹	ارض مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کی شکل	۹۷۷۹
۹۰	شیء مرہون سے نفع اٹھانے کا عدم جواز	۹۷۸۰
۹۱	گروی رکھے ہوئے مکان کو چھڑانے کے بعد کون مالک ہوگا؟	[۹۷۸۱]

۹۳	۳۴ کتاب الصيد		
----	----------------------	--	--

۹۳	شکار کا مسنون طریقہ	۹۷۸۲
۹۴	بندوق کے شکار کا شرعی حکم	۹۷۸۳
۹۵	چھری پھینکنے سے ٹڈی کی حلت اور نیچے پھینکنے سے مچھلی کی حلت کا حکم	۹۷۸۴
۹۶	غیر مسلم کے گولی مارنے کے بعد مسلم کا شرعی طریقہ سے ذبح کرنا	۹۷۸۵
۹۷	دوا کے ذریعہ مچھلی پکڑنا یا پکچی مچھلی کھانا کیسا ہے؟	۹۷۸۶
۹۸	پھینگر، چھوٹی مچھلی وغیرہ لگا کر بڑی مچھلی کا شکار کرنا	۹۷۸۷
۹۹	جالی پھندا لگا کر جانور اور گھسیسا سے مچھلی کے شکار کا حکم	۹۷۸۸
۱۰۰	زندہ جانور کو کانٹے میں پھنسا کر مچھلی کا شکار کرنا	۹۷۸۹
۱۰۱	سیلاب سے آئی ہوئی مچھلیوں کو پکڑنا	۹۷۹۰
۱۰۲	زندہ مینڈک، چوہیہ، کانٹے میں پھنسا کر مچھلی کا شکار کرنا	۹۷۹۱
۱۰۳	نیل گائے کا شکار کرتے وقت دماغ پھاڑ ڈالنا	۹۷۹۲
۱۰۴	گھر کی حفاظت کے لیے کتابالنا	۹۷۹۳
۱۰۵	جانی مالی حفاظت کی غرض سے کتابالنا	۹۷۹۴
۱۰۶	شکاری کتے کا ہرن کو مار ڈالنا	۹۷۹۵

۹۷۹۶	مسلمان کے لیے خنزیر کے شکار کی صورت میں قیمت لینے کا حکم	۱۰۷
۹۷۹۷	ایذا پہنچانے والی چیونٹیوں کو مارنا	۱۰۹
۹۷۹۸	شوقیہ کتاب لانا کیسا ہے؟	۱۱۰

۳۵ کتاب الذبائح	
۱۱۲	(۱) باب شرائط الذبح و سننہ و آدابہ

۹۷۹۹	ذبح کرنے کا مسنون طریقہ	۱۱۲
۹۸۰۰	بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا	۱۱۳
۹۸۰۱	کیا بوقت ذبح بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مکروہ ہے؟	۱۱۴
۹۸۰۲	بسم اللہ کے علاوہ اللہ کے اسماء حسنیٰ اور حمد و ثنا کے ذریعہ ذبح کرنا	۱۱۶
۹۸۰۳	قربانی اور عقیدہ کے مشترک جانور میں دعاؤں کی ترتیب کیا ہو؟	۱۱۶
۹۸۰۴	بڑے جانور کو بیٹھے بیٹھے ہی قربان کر دینے کا حکم	۱۱۷
۹۸۰۵	قربانی کے جانور کی تین ٹانگیں باندھ کر گرانا	۱۱۸
۹۸۰۶	اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنے کے بجائے نحر کرنا	۱۱۹
۹۸۰۷	اونٹ کی گردن تین جگہ سے کاٹنا ممنوع	۱۲۰
۹۸۰۸	ذبح میں کتنی نسوں کا کٹ جانا لازم ہے؟	۱۲۱
۹۸۰۹	دو آدمیوں نے ذبح کیا تین نسوں میں سے ایک یا دو بغیر بسم اللہ کے کاٹیں ..	۱۲۲
۹۸۱۰	حلقوم اور مری کٹ جانا اور دونوں شہرگوں میں سے اکثر کا کٹ جانا لازم	۱۲۴
۹۸۱۱	گردن کے اوپر سے مذبحہ جانور کا شرعی حکم	۱۲۴
۹۸۱۲	بوقت ذبح غیر مسلم کا جانوروں کو پکڑنا	۱۲۵
۹۸۱۳	مدینہ کس کو کہتے ہیں؟	۱۲۶
۹۸۱۴	ٹڈی اور مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہیں یا حرام؟	۱۲۶
۹۸۱۴	مذبحہ جانور کو الٹا لٹکانا	۱۲۷

- ۹۸۱۶ مذبو ح جانور کو ٹھنڈا ہونے تک چھوڑے رکھنا ۱۲۸
- ۹۸۱۷ گابھن گائے ذبح کرنا ۱۲۹
- ۹۸۱۸ ذبح شدہ گائے کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کریں؟ ۱۳۰
- ۹۸۱۹ مسلم شرابی کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟ ۱۳۰
- ۹۸۲۰ شیعوں کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ ۱۳۱
- ۹۸۲۱ بیمار گائے کا گوشت کھانا ۱۳۲
- ۹۸۲۲ مرغی کو بلی کے منہ سے چھڑا کر فوراً ذبح کرنا ۱۳۳
- ۹۸۲۳ کنویں میں افتادہ بھینس کا ذبح ۱۳۴
- ۹۸۲۴ مرغ کے پر چھڑانے کے لیے گرم پانی میں ڈالنا ۱۳۵
- ۹۸۲۵ بجلی کرنٹ کا شاٹ لگا کر ذبح کرنا ۱۳۵
- ۹۸۲۶ مشینی ذبح ۱۳۷
- ۹۸۲۷ چار پانچ مرغیوں پر ایک ساتھ صرف ایک مرتبہ چھری پھیرنا ۱۳۸
- مشینی ذبح کا شرعی حکم ۱۳۹
- ذبح کی حقیقت ۱۴۰
- ذبح کے اقسام و شرائط ۱۴۰
- (۱) ذبح اختیاری ۱۴۰
- اختیاری ذبح کے شرائط ۱۴۱
- (۲) ذبح اضطراری ۱۴۳
- ذبح اضطراری کے اقسام ۱۴۳
- مشینی ذبیحہ ۱۴۵
- مسائل ذبح اور شرعی اصول ۱۴۸
- درمیان میں شئی بے اختیاری کا واسطہ ۱۴۹
- قانونی مجبوری ۱۵۰

- ۱۵۰ مشین سے صرف مرغ ذبح ہوتا ہے۔
- ۱۵۱ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ
- ۱۵۲ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب کا رجوع

۱۵۴	(۲) باب ما اهل لغير الله	
-----	--------------------------	--

- ۱۵۴ ۹۸۲۸ سائبہ کا گوشت مسلمانوں کے لیے کب حلال ہے؟
- ۱۵۵ ۹۸۲۹ مندروں اور مزاروں پر چھوڑے جانے والے جانوروں کا حکم
- ۱۵۶ ۹۸۳۰ بزرگوں کے نام پر چھوڑے ہوئے بکرے کو ذبح کرنا
- ۱۵۷ ۹۸۳۱ مہمان نوازی کے طور پر جانور ذبح کرنا
- ۱۵۸ ۹۸۳۲ صدقہ کی بکری میں کفار کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم
- ۱۵۹ ۹۸۳۳ کاروبار میں برکت کے لیے بکر ذبح کرنا
- ۱۶۰ ۹۸۳۴ بیماری کے لیے بکر ذبح کرنا
- ۱۶۱ ۹۸۳۵ بیماری کا بکرا
- ۱۶۳ ۹۸۳۶ مکان کی تعمیر پر بکر ذبح کرنا
- ۱۶۴ ۹۸۳۷ پیر یا دیوتا کے نام پر نیاز دیئے گئے جانور کا گوشت کھانا
- ۱۶۴ ۹۸۳۸ غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ مذبحہ کا کھانا
- ۱۶۵ ۹۸۳۹ اللہ کے نام پر منت یا صدقہ کا جانور ذبح کرنا

	۳۶ کتاب الاضحیة	
۱۶۷	(۱) باب : قربانی کے مسنون اعمال	

- ۱۶۷ ۹۸۴۰ قربانی کرنے والے کا بال و ناخن وغیرہ نہ کٹوانا فقیر کے لیے یہ حکم نہ ہونا
- ۱۶۸ ۹۸۴۱ قربانی کے دن کس کی قربانی سے گوشت کھانا افضل؟
- ۱۶۹ ۹۸۴۲ کیا عورت کا بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے؟

۹۸۴۳ قربانی کرنے والے کے ہر بال یا قربانی کے جانور کے ہر بال کے
برابر ثواب ملے گا؟..... ۱۷۰

۱۷۱	(۲) باب فی آیام الأضحیة و وقتہا و قضائہا	
۱۷۱	۹۸۴۴
۱۷۲	۹۸۴۵
۱۷۲	۹۸۴۶
۱۷۳	۹۸۴۷
۱۷۴	۹۸۴۸
۱۷۶	۹۸۴۹
۱۷۷	۹۸۵۰
۱۷۸	۹۸۵۱
۱۷۹	۹۸۵۲
۱۸۰	۹۸۵۳
۱۸۱	۹۸۵۴
۱۸۱	۹۸۵۵
۱۸۲	۹۸۵۶
۱۸۳	۹۸۵۷
۱۸۴	۹۸۵۸
۱۸۶	۹۸۵۹
۱۸۷	۹۸۶۰
۱۸۹	۹۸۶۱
۱۹۰	۹۸۶۲
۱۹۲	۹۸۶۳

- ۹۸۶۳ قربانی کرنے میں مکان اضحیہ کا اعتبار ہے یا مکانِ مضحیٰ کا؟ ۱۹۵
- ۹۸۶۴ قربانی میں کس جگہ کا اعتبار ہے مقام ذبح یا مقام مالک؟ ۱۹۹
- ۹۸۶۵ مقام مرسل اور مقام اضحیہ دونوں جگہ سبب وجوب ضروری ہے ۲۰۱
- ۹۸۶۶ ”قربانی میں مقام ذبح کا اعتبار ہے یا مقام مالک کا“ سے متعلق چند فتاویٰ ... ۲۰۳
- دارالعلوم دیوبند کا جواب ۲۰۴
- دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب ۲۰۵
- ۹۸۶۷ قربانی میں مکانِ ذبح کا اعتبار ہے یا مکان مالک کا؟ مفصل فتویٰ .. ۲۰۸
- دارالعلوم کراچی پاکستان کا فتویٰ ۲۰۹
- ۹۸۶۸ فتویٰ منجانب دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۱۳
- فتویٰ منجانب دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۱۷
- ۹۸۶۹ قربانی میں کس جگہ کا اعتبار ہے؟ ۲۱۷
- دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ۲۱۸
- فتویٰ مدرسہ شاہی ۲۱۹
- ۹۸۷۰ کیا تاریخ کے اختلاف کے باوجود وکیل قربانی کر سکتا ہے؟ ۲۲۱
- قربانی کا سبب نفس وجوب وقت ہے یا نصاب؟ ۲۲۲
- ذبح کے قربت بننے اور قربت باقی رہنے اور درست ہونے میں کس کے مقام کا اعتبار ہے؟ ۲۲۴
- ایک غلطی کا ازالہ ۲۲۶
- شہری اور دیہاتی کے حق میں قربانی کا وقت ادا کب شروع ہوتا ہے؟ ... ۲۲۷
- اور شہر اور دیہات میں قربانی کا وقت ادا کب شروع ہوتا ہے؟ ۲۲۷
- قربانی کے وقت ادا شروع و ختم ہونے میں کس کے مقام کا اعتبار ہے؟ ۲۲۸
- مضبوط دلیل کا جائزہ ۲۲۹

۲۳۳	لمحہ بر فکر یہ	
۲۳۳	ایک اور غلط فہمی یا مغالطہ	
۲۳۴	قربانی کا جواز مفاسد پر مشتمل ہے	
۲۳۵	دفع شہادت	
۲۳۷	عدم قائل بالفصل	
۲۳۷	خلاصہ بحث	
۲۳۸	تصدیق: مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند	
۲۴۰	دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد کا جواب	
۲۴۲	جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا نام لینا ضروری نہیں	۹۸۷۱
۲۴۳	قربانی کی قضا میں بڑے جانور کا حصہ صدقہ کرنے کا حکم	۹۸۷۲
۲۴۴	کتابچہ ”مسائل قربانی“ کے ایک مغالطہ کا حل	۹۸۷۳
۲۴۵	قصاب کے گھر جانور مرنے سے قربانی ادا نہ ہوگی	۹۸۷۴
۲۴۶	وکیل قربانی کرنا بھول گیا	۹۸۸۵
۲۴۸	غفلت کی بناء پر قربانی نہیں کی تو کیا حکم ہے؟	۹۸۷۶
۲۴۸	قربانی و عقیقہ کا جانور اگر ضائع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۹۸۷۷
۲۴۹	ایام اضحیہ کے بعد گم شدہ جانور مل جانے پر اسی کا تصدق لازم	۹۸۷۸
۲۵۰	جانور گم ہو جانے پر دوسرے کی قربانی کر دی پھر گم شدہ مل گیا تو کیا کرے؟	۹۸۷۹
۲۵۲	تیسرے دن قربانی نہ کر سکا تو قیمت کا تصدق لازم	۹۸۸۰
۲۵۳	بعد تصدق گم شدہ جانور ایام قربانی کے بعد مل گیا	۹۸۸۱
۲۵۴	بڑے جانور کے حصہ کے ذریعہ قربانی کی قضاء کرنے کا حکم	۹۸۸۲
۲۵۵	ایام قربانی گزر جانیکے بعد بڑے جانور کے ساتویں حصہ کی قیمت کا صدقہ	۹۸۸۳
۲۵۶	قربانی کے حصہ کی قیمت مدرسہ میں دینا	۹۸۸۴

۲۵۷	(۳) باب من يجب عليه الأضحیة ومن لا يجب	
۲۵۷ قربانی کس پر واجب ہے؟	۹۸۸۵
۲۵۸ قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود قربانی کرنے کا حکم	۹۸۸۶
۲۵۸ قربانی کے وجوب کی شرط	۹۸۸۷
۲۵۹ صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کا لزوم اور سات کی تحدید کا حکم	۹۸۸۸
۲۶۰ جائیداد کی پیداوار بقدر نصاب ہو تو قربانی واجب ہے یا نہیں؟	۹۸۸۹
۲۶۱ کیا چھ ہزار کی مالیت رکھنے والے شخص پر قربانی واجب ہے؟	۹۸۹۰
۲۶۲ بے نمازی کی قربانی کا حکم	۹۸۹۱
۲۶۳ داڑھی کٹانے والے کی قربانی صحیح ہے یا نہیں؟	۹۸۹۲
۲۶۴ غریب پر کس جانور کی قربانی لازم ہے؟	۹۸۹۳
۲۶۵ کیا آٹورکشہ کر ایہ پر لگانے والے پر قربانی واجب ہے؟	۹۸۹۴
۲۶۶ ذمہ داران مدرسہ کا مدرسہ سے قرض لے کر قربانی کرنا	۹۸۹۵
۲۶۷ جس کا عقیدہ نہ ہوا ہواس کی طرف سے قربانی کرنا	۹۸۹۶
۲۶۸ جس نے عقیدہ نہ کیا ہو، کیا وہ قربانی میں حصہ لے سکتا ہے؟	۹۸۹۷
۲۶۸ قربانی میں دی ہوئی رقم بچ جائے یا گھٹ جائے تو کیا کریں؟	۹۸۹۸
۲۷۰ صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدین کی طرف سے؟	۹۸۹۹
۲۷۱ شوہر کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے بیوی پر قربانی وغیرہ کا حکم	۹۹۰۰
۲۷۲ شوہر کا اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے بیوی کی طرف سے کرنے کا حکم	۹۹۰۱
 صاحب نصاب کا اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے میت کی طرف سے قربانی کرنا	۹۹۰۲
۲۷۳	
۲۷۴ مرحوم والد کی طرف سے کی گئی قربانی سے واجبی قربانی ساقط	۹۹۰۳
۲۷۶ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپنا واجب ساقط نہ ہوگا	۹۹۰۴

- ۹۹۰۵ کیا صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے؟ ۲۷۶
- ۹۹۰۶ جس پر قربانی واجب ہے اس کا دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا .. ۲۷۷
- ۹۹۰۷ غریب کے قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کا حکم ۲۷۸
- ۹۹۰۸ فقیر کا پورے جانور کی قربانی کی نیت کرنا ۲۷۹
- ۹۹۰۹ میت کی طرف سے واجب قربانی کرنے میں کسی اور کو شریک کرنے کا حکم ... ۲۸۰
- ۹۹۱۰ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ۲۸۱
- ۹۹۱۱ کیا مالدار کی غریب لڑکی پر قربانی واجب ہے؟ ۲۸۲
- ۹۹۱۲ شوہر کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے بیوی پر قربانی کے وجوب کا حکم .. ۲۸۲
- ۹۹۱۳ مشترکہ خاندان کے بالغ غیر مستطیع کی قربانی کس پر واجب؟ ۲۸۳
- ۹۹۱۴ باپ بیٹے کا مال مشترک ہو تو قربانی کس پر؟ ۲۸۴
- ۹۹۱۵ بیٹے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں تو بیٹوں پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ ۲۸۵
- ۹۹۱۶ صاحب نصاب پر قربانی نہ کرنے کی وجہ سے کیا واجب ہے؟ ۲۸۶
- ۹۹۱۷ غیر موجود شخص کی طرف سے قربانی کرنا ۲۸۷
- ۹۹۱۸ غلطی سے زید نے بکر کا جانور قربانی میں ذبح کر دیا ۲۸۷
- ۹۹۱۹ ناقص مکان اور وطن کا مکان حاجتِ اصلیہ میں داخل ہے یا نہیں؟ ... ۲۸۹
- ایک ضروری وضاحت ۲۹۰
- پہلا مسئلہ ۲۹۱
- دوسرا مسئلہ ۲۹۴
- ذاتی مکان کا ہونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے ۲۹۶
- کیا کرایہ کے مکان سے سکونت کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ ۲۹۹
- ایک شبہ کا ازالہ ۳۰۲
- خلاصہ بحث ۳۰۴
- تنبیہ ۳۰۴

۹۹۲۰ صاحب نصاب ہونے کے لیے کیا کاشت کی زمین کا اعتبار ہے؟ .. ۳۰۷

۳۰۹	(۴) باب التضحیۃ عن الغیر	
-----	--------------------------	--

۹۹۲۱ زندہ اور مردہ دونوں کی طرف سے قربانی کا جواز ۳۰۹

۹۹۲۲ ”وقد صح أن رسول الله ﷺ ضحى بکبشین أحدهما

عن نفسه“ حدیث کا مطلب ۳۱۰

۹۹۲۳ حضور پاک ﷺ کی طرف سے قربانی ۳۱۱

۹۹۲۴ مردے کی طرف سے قربانی کرنا ۳۱۲

۹۹۲۵ میت کی طرف سے قربانی کا حکم ۳۱۲

۹۹۲۶ ایک حصہ چار مرحومین اور امت محمدیہ کی طرف سے کرنا ۳۱۴

۹۹۲۷ ایک حصہ قربانی متعدد اموات کی طرف سے کرنا ۳۱۵

۹۹۲۸ نقلی قربانی کر کے سب کو ثواب پہنچانا ۳۱۶

۹۹۲۹ بڑے جانور میں تین لوگوں کا مل کر ایک حصہ میت کی طرف سے قربانی

کر نیک حکم ۳۱۷

۹۹۳۰ چند آدمیوں کا ایک دنبہ حضور ﷺ کی طرف سے قربانی کرنا ۳۱۸

۹۹۳۱ ایک قربانی پوری امت محمدیہ کی طرف سے کرنے کا حکم ۳۱۸

۳۲۱	(۵) باب الشریکۃ فی الأضحیۃ	
-----	----------------------------	--

۹۹۳۲ اجتماعی قربانی ۳۲۱

۹۹۳۳ اجتماعی قربانی میں نیت کا حکم ۳۲۲

۹۹۳۴ بڑے جانور میں عین قربانی کے وقت شریک ہونا ۳۲۳

۹۹۳۵ دو، تین یا چار افراد ایک بڑے جانور میں برابر شریک ہو سکتے ہیں؟ .. ۳۲۳

۹۹۳۶ بڑے جانور میں صرف پانچ یا دو آدمیوں کا قربانی کرنا ۳۲۴

- ۹۹۳۷ ایک جانور کے چھ شرکاء کا ساتویں حصہ میں برابر کا شریک ہونا؟ ... ۳۲۵
- ۹۹۳۸ قربانی کے جانور میں آٹھ لوگوں کا شرکت کرنا ۳۲۷
- ۹۹۳۹ سات سو افراد کی طرف سے لاعلیٰ التعین سو بڑے جانور کی قربانی .. ۳۲۸
- ۹۹۴۰ پانچ بڑے جانوروں میں ۳۵ لوگوں کا حضور ﷺ کی طرف سے ۳۲۹
- ۹۹۴۱ سو آدمیوں کی طرف سے لاعلیٰ التعین سو بکرے قربان کر دینا ۳۳۱
- ۹۹۴۲ نائی کی شرکت کے ساتھ دوسرے شرکاء کی قربانی بلا کراہت درست ... ۳۳۲
- ۹۹۴۳ سات شرکاء میں سے ایک کا پیسہ سو دیا صدقہ کا ہے ۳۳۳
- ۹۹۴۴ بینک کے ملازم کو قربانی میں شریک کرنے کا حکم ۳۳۴
- ۹۹۴۵ مالداروں کے ساتھ فقیروں کی قربانی ۳۳۶
- ۹۹۴۶ سات شرکاء میں سے کسی کی نیت گوشت خوری کی ہو تو کیا حکم ہے؟ . ۳۳۷
- ۹۹۴۷ گوشت خوری کی نیت تھی مگر ذبح سے قبل قربانی کی نیت کر لی ۳۳۸
- ۹۹۴۸ مختلف جہات کی نیت ایک جانور میں کرنے کا حکم ۳۳۹
- ۹۹۴۹ بڑے جانور کی قربانی میں مختلف جہات کا حکم ۳۴۰
- ۹۹۵۰ ایک شخص نے بڑے جانور میں واجب، نفلی قربانی، عقیقہ کی نیت کی ہو تو؟ ... ۳۴۱
- ۹۹۵۱ شخص واحد کا بڑے جانور میں جہات متعددہ کی نیت کرنا ۳۴۲
- ۹۹۵۲ بڑے جانور میں شخص واحد کی طرف سے متعدد جہات قربت کی نیت ۳۴۴
- ۹۹۵۳ بڑے جانور میں ایک نے واجب، دو نے نذر، ایک نے مرحوم اور ایک ۳۴۹
- ۹۹۵۴ واجب قربانی میں نفلی قربانی کی نیت کرنا ۳۵۰
- ۹۹۵۵ بڑے جانور میں قربانی کرنے والوں کے ساتھ عقیقہ کرنے والے کی ۳۵۱
- شرکت کا حکم

۳۵۲ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لینا	۹۹۵۶
۳۵۳ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے کا حکم	۹۹۵۷
۳۵۴ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لینا	۹۹۵۸
۳۵۵ قربانی کے جانور میں ولیمہ کا حصہ لینا	۹۹۵۹
۳۵۶ ایک بڑے جانور میں قربانی، صدقہ، نذر وغیرہ کی نیت کرنا	۹۹۶۰
۳۵۷ غریب شریک کا درمیان سے نکل جانے کا حکم	۹۹۶۱
	فقیر نے قربانی کا بکرا خریدنے کے بعد فروخت کر دیا اور بڑے جانور	۹۹۶۲
۳۵۸ میں حصہ لے لیا	
۳۵۹ سات شرکاء میں سے دو فقیر ہیں اور جانور گم ہو کر ملا ہی نہیں تو کیا کریں؟	۹۹۶۳
۳۶۰ بڑے جانور میں غیر مسلم کی شرکت	۹۹۶۴
۳۶۱ مابقیہ رقم غرباء کو دینے کا وکیل بنانا	۹۹۶۵

۳۶۳	باب (۶) : قربانی کے جانور اور ان کی عمروں کا بیان	
-----	---	--

۳۶۳ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟	۹۹۶۶
۳۶۴ گائے کی قربانی کا شرعی حکم	۹۹۶۷
۳۶۵ خصی کی قربانی	۹۹۶۸
۳۶۶ خصی بکرے کی قربانی	۹۹۶۹
۳۶۷ ایک بکرا ایک فرد کی طرف سے اور گائے بھینس، اڈٹ سات کی طرف سے	۹۹۷۰
۳۶۸ ایک بڑے جانور کو ایک آدمی تھا اپنی طرف سے قربان کر دے تو؟	۹۹۷۱
۳۶۹ بڑے جانور میں سات، اور چھوٹے میں ایک کا حکم زندہ اور مردہ دونوں کیلئے	۹۹۷۲
 ۸/۷ ماہ کے فربہ بکرے کی قربانی درست ہے یا نہیں؟	۹۹۷۳
 کیا تیرہویں ذی الحجہ کو پیدا ہونے والے بکرے کی آئندہ سال قربانی	۹۹۷۴
۳۷۱ درست ہے؟	

- ۹۹۷۵ بغیر دانٹے ایک سالہ بکرے کی قربانی ۳۷۲
- ۹۹۷۶ کیا ایک موٹھ سے بڑی سینگ کا جانور دو سال کا ہے؟ ۳۷۳
- ۹۹۷۷ بڑے جانور کی عمر کتنی ہو؟ ۳۷۳
- ۹۹۷۸ بڑے جانور کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے یا چار دانٹ ۳۷۴
- ۹۹۷۹ اونا جانور کی قربانی ۳۷۶
- ۹۹۸۰ فقیر نے بنیت قربانی ایک سال سے کم عمر کا بکرا خرید لیا ۳۷۷
- ۹۹۸۱ قربانی کی نیت سے پالے گئے جانور کی ہی قربانی واجب ہے یا دوسرے کی بھی؟ ۳۷۸
- ۹۹۸۲ قربانی کی نیت سے پالے ہوئے جانور کی قربانی کا حکم ۳۷۹
- ۹۹۸۳ کیا بنیت قربانی خریدنے سے جانور متعین ہو جاتا ہے؟ ۳۸۰
- ۹۹۸۴ متعینہ جانور دوسرے کے نام سے ذبح کرنا ۳۸۱
- ۹۹۸۵ دودھ دوہنے اور قربانی کی نیت سے خریدے گئے جانور کا حکم ۳۸۲
- ۹۹۸۶ قربانی کی نیت سے خریدے گئے بکرے کو عقیقہ کے لیے رکھنے کا حکم .. ۲۸۴
- ۹۹۸۷ فقیر کا ایام نحر سے قبل خرید کردہ جانور کو بدلنا ۳۸۴
- ۹۹۸۸ ایام نحر میں فقیر کا خریدے ہوئے جانور کو بدلنا ۳۸۸
- ۹۹۸۹ قربانی کے ارادے سے خریدے گئے جانور کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرنا ۳۸۹
- ۹۹۹۰ عید گاہ میں قربانی کرنا ۳۹۰
- ۹۹۹۱ قربانی کے جانور پر کفن رکھ کر ذبح کرنا ۳۹۱
- ۹۹۹۲ ناجائز اور حرام رقم سے قربانی کرنا ۳۹۲
- ۹۹۹۳ شیعوں سے قربانی کا جانور خریدنا ۳۹۲

۳۹۳	قربانی کے جانور کو ذریعہ آمدنی بنانا	۹۹۹۴
۳۹۶	(۷) باب ما یكون عیبا فی الأضحیة.....		
۳۹۶	کون سا عیب مانع قربانی ہے؟	۹۹۹۵
۳۹۷	کیا ادھیا پردی ہوئی بکری کے بچوں کی قربانی درست ہے؟	۹۹۹۶
۳۹۸	بٹائی پردی ہوئی بکری کے بچے کی قربانی	۹۹۹۷
۳۹۹	ادھیا پر پالنے والے کمالک کے بکری کی قربانی کرنے کا حکم	۹۹۹۸
۴۰۰	ادھیا پر دیئے ہوئے جانور کے بچوں کی قربانی کا حکم	۹۹۹۹
۴۰۲	ادھیا پردی ہوئی بکری سے پیدا شدہ بچے کی قربانی	۱۰۰۰۰
۴۰۳	مخنت اور خنثی بکرے کی قربانی	۱۰۰۰۱
۴۰۴	خنثی جانور کی قربانی کیوں ممنوع؟	۱۰۰۰۲
۴۰۵	باؤ لے جانور کی قربانی	۱۰۰۰۳
۴۰۶	بانجھ جانور کی قربانی	۱۰۰۰۴
۴۰۷	بانڈھے جانور کی قربانی	۱۰۰۰۵
۴۰۸	دواء شراب پلائے گئے جانور کی قربانی	۱۰۰۰۶
۴۰۹	بازاری ٹیکس کی رسید کٹائے بغیر خرید شدہ جانور کی قربانی کا حکم	۱۰۰۰۷
۴۱۰	دودھ پیتے بچہ والی گائے کی قربانی	۱۰۰۰۸
۴۱۰	گابھن جانور کی قربانی یا عقیقہ کرنا	۱۰۰۰۹
۴۱۲	چوروں سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی	۱۰۰۱۰
۴۱۴	چوری کا چارہ کھانے والے جانور کی قربانی	۱۰۰۱۱
۴۱۵	امرکین اور جرسی گائے کی قربانی	۱۰۰۱۲
۴۱۶	دوسرے کے کھیت سے چرنے والے جانوروں کی قربانی	۱۰۰۱۳
۴۱۶	عورت کا دودھ پینے والے بکرے کی قربانی	۱۰۰۱۴

۴۱۷	قربانی کا بکر تبدیل کرنا	۱۰۰۱۵
۴۱۸	سرٹکوں پر پھرنے والے سانڈ کی قربانی	۱۰۰۱۶
۴۱۹	ناک میں ناتھ والے جانور کی قربانی	۱۰۰۱۷
۴۲۰	عینین جانور کی قربانی کا حکم	۱۰۰۱۸
۴۲۲	بیمار جانور کی قربانی کا حکم	۱۰۰۱۹
۴۲۳	بیمار جانور کی قربانی	۱۰۰۲۰
۴۲۳	ہتھیلی سے بڑے زخم والے جانور کی قربانی	۱۰۰۲۱
۴۲۵	جس بکرے کا نیچے کا ہونٹ چھوٹا ہو اس کی قربانی کا حکم	۱۰۰۲۲
۴۲۵	جو جانور ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا اس کی قربانی	۱۰۰۲۳
۴۲۶	جس جانور کی ٹگت سے زیادہ بینائی چلی گئی اس کی قربانی	۱۰۰۲۴
۴۲۸	کان کٹے جانور کی قربانی	۱۰۰۲۵
۴۲۹	جس جانور کے دانت نہیں اس کی قربانی	۱۰۰۲۶
۴۳۰	دم کٹے جانور کی قربانی	۱۰۰۲۷
۴۳۱	مذبح تک جاسکتے والے مریض بکرے کی قربانی	۱۰۰۲۸
۴۳۲	تین پیروں سے چلنے والے جانور کی قربانی	۱۰۰۲۹
۴۳۳	بدکنے والے جانور کی ٹانگ کاٹ دی کیا اس کی قربانی درست ہے؟	۱۰۰۳۰
۴۳۴	اسکوٹھ سے ٹکڑھا کر جانور کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا کریں؟	۱۰۰۳۱
۴۳۵	جانور قربانی کے لیے گراتے وقت ٹانگ ٹوٹ کر عیب دار ہو گیا	۱۰۰۳۲
۴۳۷	جس جانور کو کتے نے کاٹ لیا ہو اس کی قربانی	۱۰۰۳۳
۴۳۷	جس جانور کے کو لہے گراتے وقت اتر گئے اس کی قربانی	۱۰۰۳۴
۴۳۸	ایک خصیہ والے بکرے کی قربانی کا حکم	۱۰۰۳۵
۴۳۹	جس جانور کا خصیہ پیدائشی طور پر نہ ہو اس کی قربانی	۱۰۰۳۶

۴۴۰	جس بکرے کا عضو تناسل ایک دوانچ پیچھے ہو اس کی قربانی کا حکم ...	۱۰۰۳۷
۴۴۱	جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی قربانی	۱۰۰۳۸
۴۴۲	سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی	۱۰۰۳۹
۴۴۳	خول اترے ہوئے جانور کی قربانی کا حکم	۱۰۰۴۰
۴۴۴	جس جانور کے سینگ کیمیکل کی بنا پر اندر ہی رہ گئے ہوں اس کی قربانی ...	۱۰۰۴۱
۴۴۵	سینگ نیچے لٹکے ہوئے اور ہلنے والے جانور کی قربانی	۱۰۰۴۲
۴۴۵	قدرتی طور پر ایک تھن والی بکری کی قربانی	۱۰۰۴۳
۴۴۶	گائے یا بھینس کے چار تھنوں میں سے دو نہ ہوں تو اس کی قربانی ...	۱۰۰۴۴
۴۴۷	دو تھن والی گائے کی قربانی	۱۰۰۴۵
۴۴۸	دو تھن والی بھینس کی قربانی	۱۰۰۴۶
۴۴۹	تین تھن والے جانور کی قربانی	۱۰۰۴۷
۴۵۰	گائے یا بھینس کے دو تھنوں سے دو دھ نہیں نکلتا تو اس کی قربانی	۱۰۰۴۸
۴۵۰	ایک تھن سوکھے ہوئے بکری کی قربانی	۱۰۰۴۹

۴۵۲	(۸) باب فی مصرف جلد الأضحیة	
-----	-----------------------------	--

۴۵۲	چرم قربانی	۱۰۰۵۰
۴۵۴	چرم قربانی کا مصرف	۱۰۰۵۱
۴۵۵	چرم قربانی کہاں دیں؟	۱۰۰۵۲
۴۵۶	چرم قربانی کا مصرف اور تملیک کا طریقہ	۱۰۰۵۳
۴۵۷	چرم قربانی کی رقم کہاں کہاں دی جاسکتی ہے؟	۱۰۰۵۴
۴۵۸	کھال کا معاملہ قصاب کے حوالہ کرنا	۱۰۰۵۵
۴۵۹	شریک قصاب کا شرکاء سے اجرت لینا کیسا ہے؟	۱۰۰۵۶
۴۶۱	قربانی کا جانور زبح ہونے سے قبل کھال کی رسید کاٹ لینا	۱۰۰۵۷

- ۱۰۰۵۸ قربانی کی کھال گم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ۴۶۱
- ۱۰۰۵۹ قربانی کی کھال گم ہونے کی صورت میں کیا کریں؟ ۴۶۲
- ۱۰۰۶۰ قربانی کی کھال کو بیع نہ اپنے استعمال میں لانا یا مالدار کو دینا ۴۶۳
- ۱۰۰۶۱ چرم قربانی یا اس کی رقم کے استعمال کا حکم ۴۶۴
- ۱۰۰۶۲ قربانی کی کھال سے چھنی، مشک یا ڈول بنانا ۴۶۵
- ۱۰۰۶۳ گوشت لے جانے والوں کا ہڈی کو فروخت کرنے کا حکم ۴۶۶
- ۱۰۰۶۴ ڈاکٹر کا فی کھال پانسنگ کے نام سے ۲۵ روپے لینا ۴۶۷
- ۱۰۰۶۵ میونسپلٹی والوں نے چرم قربانی جبراً لے لی تو کیا حکم ہے؟ ۴۶۸
- ۱۰۰۶۶ چرم قربانی کا پیسہ قبرستان کی چہاردیواری میں لگانا ۴۶۹
- ۱۰۰۶۷ قصاب کو اجرت میں کھال دینا ۴۷۰
- ۱۰۰۶۸ قربانی کی کھال فروخت ہو جانے کے بعد قیمت کا تصدق لازم ... ۴۷۱
- ۱۰۰۶۹ مدارس والوں کا قربانی کے جانور گاؤں بھیجنا ۴۷۲
- ۱۰۰۷۰ چرم قربانی کی رقم سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار خریدنا ۴۷۳
- ۱۰۰۷۱ چرم قربانی کا پیسہ فنڈ میں جمع کر کے وقتاً فوقتاً ضرورت مندوں کو دینا ۴۷۴
- ۱۰۰۷۲ چرم قربانی کی رقم سے میت کی چارپائی خریدنا ۴۷۴
- ۱۰۰۷۳ چرم قربانی کی رقم سے غرباء کو رضائی بنوا کر دینا ۴۷۵
- ۱۰۰۷۴ چرم قربانی کی رقم مسجد کی ضروریات میں صرف کرنا ۴۷۶
- ۱۰۰۷۵ چرم قربانی کی رقم سے مسجد و مدرسہ کا گیٹ بنانا ۴۷۸
- ۱۰۰۷۶ چرم قربانی کی رقم مسجد میں لگانا ۴۷۹
- ۱۰۰۷۷ کھال کا پیسہ مدرسہ یا مسجد کی تعمیر میں لگانا ۴۷۹
- ۱۰۰۷۸ مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنے کیلئے متولی کو چرم قربانی ہدیہ کرنا ۴۸۰
- ۱۰۰۷۹ چرم قربانی کی رقم امام صاحب کو دینا ۴۸۱

- ۱۰۰۸۰ چرم قربانی کی قیمت سے مدرسہ تعمیر کرنا ۴۸۲
- ۱۰۰۸۱ چرم قربانی کی قیمت مدرسہ کی تعمیر میں استعمال کرنا ۴۸۳
- ۱۰۰۸۲ چرم قربانی کی رقم سے مدرسہ کے برتن اور تپائی خریدنا ۴۸۳
- ۱۰۰۸۳ چرم قربانی کی رقم مدرس کو تنخواہ میں دینا ۴۸۵
- ۱۰۰۸۴ طالب علم کو چرم قربانی کی رقم دینا ۴۸۶
- ۱۰۰۸۵ چرم قربانی کی رقم اپنے طالب علم بیٹے کو دینے کا حکم ۴۸۶
- ۱۰۰۸۶ کیا مدرسہ کو دی گئی کھال کی رقم طالب علم استعمال کر سکتا ہے؟ ۴۸۷
- ۱۰۰۸۷ چرم قربانی کی رقم مکتب میں صرف کرنا ۴۸۸
- ۱۰۰۸۸ چرم قربانی کی رقم مکتب کی تعمیر میں لگانا ۴۸۹
- ۱۰۰۸۹ چرم قربانی غنی کو بطور ہدیہ دینے کے بعد فروخت کروا کر روپیہ مکتب میں لگانا ۴۹۰
- ۱۰۰۹۰ گائے رونا کا حکم ۴۹۱
- ۱۰۰۹۱ سماں والوں کا دو ٹکٹ قربانی کا گوشت جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم ۴۹۲
- ۱۰۰۹۲ کیا چرم قربانی کے روپیہ سے جنازہ کی چوکی بنوائی جاسکتی ہے؟ ۴۹۳
- ۱۰۰۹۳ گائے رونا کا شرعی حکم ۴۹۴
- ۱۰۰۹۴ اضحیہ منڈورہ کا گوشت کھانا جائز اور ذبیحہ منڈورہ کا جائز نہیں ۴۹۵
- ۱۰۰۹۵ فقیر اپنی قربانی کا گوشت خود بھی اور مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے ۴۹۶
- ۱۰۰۹۶ مرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت کا مصرف ۴۹۷
- ۱۰۰۹۷ قربانی کے وکیل کو گوشت پر ہر طرح سے اختیار ۴۹۸
- ۱۰۰۹۸ ایام نحر میں فقیر کے خریدے ہوئے جانور کا گوشت خود اور غنی کا کھانا ۴۹۹
- ۱۰۰۹۹ قربانی کا گوشت کس حساب سے تقسیم کریں؟ ۵۰۰

۵۰۱	قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ	۱۰۱۰۰
۵۰۲	ایک حصہ دار کو اس کے حصہ سے زیادہ گوشت دینا	۱۰۱۰۱
۵۰۳	گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا	۱۰۱۰۲
۵۰۴	قربانی کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا	۱۰۱۰۳
۵۰۵	قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرنے کا حکم	۱۰۱۰۴
۵۰۶	قربانی کا گوشت تول کر اور اندازے سے تقسیم کرنا	۱۰۱۰۵
۵۰۸	قربانی کی کھال اور گوشت کا حکم فروختگی میں یکساں	۱۰۱۰۶
۵۰۹	قربانی کے گوشت کو شادی میں کھلانا	۱۰۱۰۷
۵۱۰	قصاب کا جانوروں کی ہڈیاں اور پوٹری لے جانے کا حکم	۱۰۱۰۸
۵۱۱	قربانی کی ہڈیاں اور سینگ فروخت کرنا اور قیمت کا تصدق	۱۰۱۰۹
۵۱۲	جانور کی چربی سے صابن بنا کر خود استعمال کرنا	۱۰۱۱۰
۵۱۲	قربانی کی ہڈی نمک سے بدلنا	۱۰۱۱۱
۵۱۳	قربانی کے جانور کی ہڈی کتے کو ڈالنا	۱۰۱۱۲
۵۱۴	قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا	۱۰۱۱۳
۵۱۴	قربانی کا گوشت مسلم یا غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرنا	۱۰۱۱۴
۵۱۵	قربانی کے جانوروں کے خون کی رقم مدرسہ یا مسافر خانہ میں لگانا	۱۰۱۱۵

۵۱۷	۳۷ کتاب العقیقہ	
-----	-------	-----------------	--

۵۱۷	عقیقہ کا مقصد اور ثبوت	۱۰۱۱۶
۵۱۷	عقیقہ کا شرعی حکم	۱۰۱۱۷
۵۱۹	عقیقہ مسنون ہے یا واجب؟	۱۰۱۱۸
۵۱۹	کیا عقیقہ صرف لڑکے کے لیے مسنون ہے؟	۱۰۱۱۹
۵۲۰	بچہ پیدا ہونے کے وقت کے مسنون اعمال	۱۰۱۲۰

- ۱۰۱۲۱ عقیقہ کے وقت بال کے برابر چاندی صدقہ نہ کر سکا تو؟ ۵۲۲
- ۱۰۱۲۲ دو سال میں کیے گئے عقیقہ میں بالوں کی مقدار چاندی کے تصدق کا حکم ۵۲۳
- ۱۰۱۲۳ عقیقہ کا مسنون طریقہ ۵۲۴
- ۱۰۱۲۴ عقیقہ کا وقت اور طریقہ ۵۲۵
- ۱۰۱۲۵ عقیقہ کب کیا جائے؟ نیز عقیقہ کے بکروں کا الگ الگ جگہ پر ذبح کرنا ۵۲۶
- ۱۰۱۲۶ بلوغ کے بعد عقیقہ اور سر منڈانے کا حکم ۵۲۸
- ۱۰۱۲۷ بچہ کا عقیقہ کب کریں؟ ۵۲۸
- ۱۰۱۲۸ کیا پانچویں دن عقیقہ کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ ۵۲۹
- ۱۰۱۲۹ تاریخ پیدائش یا دنہ ہو تو عقیقہ کب کریں؟ ۵۳۰
- ۱۰۱۳۰ عقیقہ کون کرے؟ ۵۳۱
- ۱۰۱۳۱ اپنا عقیقہ خود کرنا ۵۳۲
- ۱۰۱۳۲ کیا شوہر بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ ۵۳۳
- ۱۰۱۳۳ عقیقہ کے جانور کی شرطیں ۵۳۴
- ۱۰۱۳۴ عقیقہ میں کون کون سے جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں؟ ۵۳۵
- ۱۰۱۳۵ شراء کے وقت کی نیت معتبر ہے نہ کہ ذبح کے وقت کی ۵۳۶
- ۱۰۱۳۶ کیا عقیقہ کا جانور خریدنے سے متعین ہو جاتا ہے؟ ۵۳۷
- ۱۰۱۳۷ کسی عذر کی بناء پر عقیقہ کے جانور کو بیچنا ۵۳۸
- ۱۰۱۳۸ ایک بھینس میں سات عقیقہ کرنا ۵۳۹
- ۱۰۱۳۹ قربانی کے علاوہ دنوں میں عقیقہ کا حکم ۵۳۹
- ۱۰۱۴۰ غیر مستطیع شخص کا کٹرہ میں یا شادی میں کئی بچیوں کا عقیقہ ۵۴۰
- ۱۰۱۴۱ ولیمہ کے لیے لائے گئے جانور میں عقیقہ کی نیت کرنا ۵۴۲
- ۱۰۱۴۲ ولیمہ کے ساتھ عقیقہ کرنا ۵۴۳
- ۱۰۱۴۳ ایام قربانی کے علاوہ ایک بڑے جانور میں چند بچوں کا عقیقہ ۵۴۳
- ۱۰۱۴۴ بڑے جانور میں ایک ساتھ دو ٹرکیوں کا عقیقہ کرنا ۵۴۴

- ۱۰۱۴۵ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے دواور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ .. ۵۴۵
- ۱۰۱۴۶ عقیقہ کے گوشت کا حکم ۵۴۶
- ۱۰۱۴۷ کیا عقیقہ کا گوشت دادا، دادی اور ماں، باپ نہیں کھا سکتے؟ ۵۴۷
- ۱۰۱۴۸ عقیقہ میں گوشت پکا کر کھلانے کا حکم ۵۴۷
- ۱۰۱۴۹ عقیقہ کا کھانا کون لوگ کھا سکتے ہیں؟ ۵۴۸
- ۱۰۱۵۰ عقیقہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۵۴۹
- ۱۰۱۵۱ نومولود کے کان میں اذان دینا مشروع ہے ۵۵۲
- ۱۰۱۵۲ نومولود کے کان میں اذان و اقامت کا طریقہ ۵۵۳
- ۱۰۱۵۳ نومولود بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ ۵۵۴
- ۱۰۱۵۴ بچے کے کان میں اذان و اقامت کیسے کہیں؟ ۵۵۵
- ۱۰۱۵۵ کیا بچے کے کان میں اذان غسل سے قبل دے سکتے ہیں؟ ۵۵۶
- ۱۰۱۵۶ بچوں کے کان میں اذان و تکبیر تاخیر سے دینا ۵۵۸
- ۱۰۱۵۷ پیدائش کے کئی سالوں کے بعد اذان دینے سے کیا سنت ادا ہو جائیگی؟ ۵۵۸
- ۱۰۱۵۸ آٹھ سال کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا ۵۵۹
- ۱۰۱۵۹ عورت کا نومولود بچے کے کان میں اذان دینا ۵۶۰
- ۱۰۱۶۰ عورت کی ختنہ کا حکم ۵۶۱
- ۱۰۱۶۱ محتون پیدا شدہ بچے کی ختنہ کا حکم ۵۶۲
- ۱۰۱۶۲ ختنہ نہ کرانے والا کیا مستحق عذاب ہے؟ ۵۶۳
- ۱۰۱۶۳ کیا عقیقہ میں متعین جانور ذبح کرنا لازم ہے؟ ۵۶۴

	۳۸ کتاب الحقوق	
۵۶۵	(۱) باب ما يتعلق بنفس الحق	

- ۱۰۱۶۴ حق کی واپسی کا شرعی حکم ۵۶۵

۱۰۱۶۵	حقدار کو اس کا حق لوٹانا واجب ہے	۵۶۶
۱۰۱۶۶	اپنا حق دوسرے سے وصول کرنا	۵۶۷
۱۰۱۶۷	حقدار اپنا اپنا حصہ نہ لیں تو کیا حکم ہے؟	۵۶۹
۱۰۱۶۸	مالی حقوق کے اثبات کے لیے شرعی شہادت کا لزوم	۵۷۱
۱۰۱۶۹	مال جس کے قبضہ میں ہو اس کی ملکیت مانی جائے گی	۵۷۷
۱۰۱۷۰	مظلوم کا حق ضائع نہیں ہوگا	۵۷۸
۱۰۱۷۱	حق تلفی کرنے کا حکم	۵۷۹
۱۰۱۷۲	اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حکم	۵۷۹
۱۰۱۷۳	سالوں سے جاری نالی کو مالک زمین کا بند کروانا	۵۸۱
۱۰۱۷۴	مالک کا اپنی زمین میں راستہ بنانے سے روکنے کا حکم	۵۸۲
۱۰۱۷۵	جائیداد بیچنے پر لڑکوں کا اعتراض کرنا	۵۸۳
۱۰۱۷۶	مالک کا کنویں کی زمین کو اپنے استعمال میں لانا	۵۸۴
۱۰۱۷۷	قانون کے تحت جو حقوق ہیں وہ خود بخود لازم ہو جاتے ہیں	۵۸۶
۱۰۱۷۸	تنگ دست ہو جانے کی صورت میں ادائے حقوق کی شکل	۵۸۷
۱۰۱۷۹	صلوٰۃ الحاجتہ پڑھ کر اللہ سے حقوق العباد معاف کرانے کا حکم	۵۸۸
۱۰۱۸۰	کسی وجہ سے ایک ہزار روپیہ بینک میں رہ جائے تو کیا حکم ہے؟	۵۸۹
۱۰۱۸۱	گرام سماج کی زمین پر مکان بنانے کا حکم	۵۹۰
۱۰۱۸۲	ایک امام صاحب سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۵۹۲

۵۹۶	(۲) باب حقوق الوالدین	
-----	-----------------------	--

۱۰۱۸۳	ماں باپ اور اولاد کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟	۵۹۶
۱۰۱۸۴	باپ کے حقوق بیٹوں پر	۵۹۸
۱۰۱۸۵	والد کے ذمہ بیٹوں کے کتنے حقوق ہیں	۵۹۹

- ۱۰۱۸۶ بیٹی پر والد کے حقوق کیا کیا ہیں؟ ۶۰۱
- ۱۰۱۸۷ ماں کی خدمت کس کے سپرد ہے لڑکوں یا لڑکیوں کے؟ ۶۰۳
- ۱۰۱۸۸ ماں کی خدمت کی وجہ سے نکاح نہ کرنے کا حکم ۶۰۴
- ۱۰۱۸۹ قوانین شریعت میں والدین کے حکم پر پابندی کا لزوم ۶۰۵
- ۱۰۱۹۰ کیا ماں کا نان و نفقہ اولاد پر ضروری ہے؟ ۶۰۷
- ۱۰۱۹۱ کیا نادار والدین کا خرچہ اولاد کے ذمہ واجب ہے؟ ۶۰۹
- ۱۰۱۹۲ کمزور والدین اور بھائی بہن کا خرچہ بھی واجب ہے ۶۱۰
- ۱۰۱۹۳ اولاد کا والد کے ساتھ بدکلامی اور مار پیٹ کرنا ۶۱۱
- ۱۰۱۹۴ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک لازم ۶۱۲
- ۱۰۱۹۵ والد کے فاسد العقیدہ ہونے کے باوجود ان کا احترام ضروری ۶۱۴
- ۱۰۱۹۶ باپ کی شان میں گستاخی، اور نافرمان اولاد کو محروم کرنا ۶۱۵
- ۱۰۱۹۷ والد صاحب کی نافرمانی و بے عزتی کرنا اور ان کے مال پر قبضہ کرنا ۶۱۷
- ۱۰۱۹۸ والدین کی ناراضگی میں عبادات کی قبولیت کا حکم ۶۱۸
- ۱۰۱۹۹ گستاخ لڑکا اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی گستاخی کا ازالہ کیسے کرے؟ ۶۲۰
- ۱۰۲۰۰ مطلقہ کو ساتھ نہ رکھ کر دوسری شادی کرنے پر اولاد کی ناراضگی ۶۲۱
- ۱۰۲۰۱ والد صاحب کے کہنے پر بیوی کو طلاق دیں یا نہ دیں؟ ۶۲۲
- ۱۰۲۰۲ ماں و بہنوں کے دباؤ سے بیوی کو طلاق دینا ۶۲۴
- ۱۰۲۰۳ والدین کو راضی کرنے کیلئے بیوی کو ملنے اور طلاق دینے کی شرعی حیثیت ۶۲۵
- ۱۰۲۰۴ والدین کا دوسری بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کرنا ۶۲۷
- ۱۰۲۰۵ حصول رزق کی خاطر والدین کو چھوڑنا ۶۲۷
- ۱۰۲۰۶ اولاد پر والد کا خرچ غرائب پر صدقہ کرنے سے مقدم اور لازم ۶۲۸
- ۱۰۲۰۷ تمام اولاد پر والد کی ضروریات کا خرچ دینا واجب ۶۲۹
- ۱۰۲۰۸ والد کے قرض کا مطالبہ اولاد سے کرنے کی شرعی حیثیت ۶۳۰

- ۱۰۲۰۹ کیا باپ اپنی اولاد کو دیئے ہوئے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ ۶۳۲
- ۱۰۲۱۰ لڑکے کا والد کی اجازت کے بغیر ان کا مال خفیہ طریقے سے لینے کا حکم ... ۶۳۳
- ۱۰۲۱۱ باپ کی زندگی میں اس کی جائیداد میں اولاد کا حق نہیں ۶۳۴
- ۱۰۲۱۲ والد کی فیملی میں رہ کر کمائی گئی جائیداد کا مالک کون؟ ۶۳۵
- ۱۰۲۱۳ زندگی میں والد کے مکان میں لڑکوں کا کوئی حق نہیں ۶۳۷
- ۱۰۲۱۴ باپ کو قتل کی دھمکی اور مار پیٹ کرنے والے کا باپ کی جائیداد میں حصہ ۶۳۸
- ۱۰۲۱۵ والدہ نے اپنی کمائی سے مکان تعمیر کرایا تو اس میں لڑکا حقدار ہے یا نہیں؟ ... ۶۳۹
- ۱۰۲۱۶ والد کو مکان کے لیے بطور قرض دی ہوئی رقم سے کیا لڑکا مکان کا مالک ہو جائے گا؟ ۶۴۰
- ۱۰۲۱۷ کیا بیٹے بہو پر ساس سسر کا نفقہ لازم ہے؟ ۶۴۳
- ۱۰۲۱۸ اولاد کی جائیداد میں والدین کا حق ۶۴۵
- ۱۰۲۱۹ بھائی اور والدہ کا اولاد کا حق مارنا ۶۴۶

۶۴۸	(۳) باب حقوق الأقارب	
۶۴۸ اہل خانہ کے حقوق کی ترتیب	۱۰۲۲۰
۶۴۹ یتیم بچوں کی کفالت کا حق	۱۰۲۲۱
۶۵۰ نابالغ بچوں کے مال کو ماں کا فروخت کرنا	۱۰۲۲۲
۶۵۰ بیوہ اور یتیم بچوں کے مکان پر قبضہ کرنا	۱۰۲۲۳
۶۵۱ شریعت اسلامی میں متبنی کو بیٹا تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں؟	۱۰۲۲۳
۶۵۳ متبنی سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۰۲۲۴
۶۵۵ مرحوم کے نام سے آنے والے رسالے کس کی ملکیت ہوں گے؟ ..	۱۰۲۲۵
۶۵۶ بہن کے بھائی پر کتنے حقوق ہیں؟	۱۰۲۲۶
۶۵۷ بعض ورثاء کا اپنی جائیداد پر دوسرے وارث کو قبضہ دینا	۱۰۲۲۷

۶۵۹ ہر بھائی اپنی ملکیت میں خود مختار ہے	۱۰۲۲۸
	ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی بجلی استعمال	۱۰۲۲۹
۶۶۰ کرنے کا حکم	
۶۶۲ بھائی کا بہنوں کے حقوق دبا کر رکھنے اور ان کو محروم کرنے کا حکم	۱۰۲۳۰
۶۶۴ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کی کمائی سے فائدہ اٹھانا	۱۰۲۳۱
۶۶۶ ایک بھائی کا دوسرے کو جائیداد سے محروم کرنا	۱۰۲۳۲
۶۶۷ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی آمدنی میں حق	۱۰۲۳۳
۶۶۸ بھائی کے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا	۱۰۲۳۴
۶۷۰ لڑکے کی کمائی میں کیا اس کے بھائیوں کا حق ہوگا	۱۰۲۳۵
۶۷۱ گھر کا چھجھ سڑک پر نکال سکتے ہیں یا نہیں؟	۱۰۲۳۶
۶۷۲ کیلیمیکہ والوں کو اپنی لڑکی اور اس کی اولاد کے خرچے کے مطالبہ کا حق ہے؟	۱۰۲۳۷
۶۷۳ دو منزلہ مکان کی تقسیم	۱۰۲۳۸

۶۷۵	(۴) باب النفقة	
-----	----------------	--

۶۷۵ کئی سالوں سے معلق بیوی کے نان و نفقہ کا حکم	۱۰۲۳۹
۶۷۶ ناشزہ، والدہ، بہن اور چھوٹے بھائی کے نفقہ کا حکم	۱۰۲۴۰

۶۸۰	(۵) باب الحضانه	
-----	-----------------	--

۶۸۰ کیا نافرمان بالغ لڑکیوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری والد پر ہے	۱۰۲۴۱
۶۸۱ وضع حمل کا خرچ اور بچہ کے نان و نفقہ کا حکم	۱۰۲۴۲
۶۸۳ نابالغ لڑکیوں کا خرچ اور شادی باپ پر لازم ہے کہ بالغ لڑکوں کا	۱۰۲۴۳
۶۸۵ میکہ میں رہنے والی بیوی کا خرچ شوہر پر لازم نہیں	۱۰۲۴۴
۶۸۶ الگ رہنے والی بیوی کا ۱۴/۱۲ سالہ بچوں کا خرچ شوہر سے وصول کرنا	۱۰۲۴۵



فہرست مضامین

۳۸ / بقیۃ کتاب الحقوق

مسئلہ نمبر	۴ / باب حقوق الزوجین	۳۱
۱۰۲۴۶ میاں بیوی کے حقوق	۳۱
۱۰۲۴۷ کیا بیوی شوہر کی ملکیت ہوتی ہے؟	۳۲
۱۰۲۴۸ زوجین ایک دوسرے کو کیا کہہ کر پکاریں؟	۳۳
۱۰۲۴۹ شوہر کو تعظیماً بھائی کہنا	۳۴
۱۰۲۵۰ کیا بیوی کے گناہ میں شوہر بھی شریک ہے؟	۳۵
۱۰۲۵۱ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا اس کے جیب سے روپیہ نکالنا	۳۶
۱۰۲۵۲ نکاح کے بعد بیوی سے بات چیت کرنے کا حق	۳۶
۱۰۲۵۳ بیوی کی غیر شرعی شرائط پر عمل کرنا لازم نہیں	۴۰
۱۰۲۵۴ بیویوں کے درمیان مساوات کا حکم	۴۱
۱۰۲۵۵ کیا شوہر کیلئے اپنی بیوی کے حصے کے مطالبہ کا حق ہے؟	۴۲
۱۰۲۵۶ شوہر بیوی کے کتنے جسم کا حقدار ہوتا ہے	۴۳
۱۰۲۵۷ شب زفاف میں بیوی سے ملاقات کے وقت دو رکعت نماز	۴۴
۱۰۲۵۸ شب زفاف میں بیوی کے دوپٹہ پر نماز پڑھنا	۴۵
۱۰۲۵۹ ہمبستری کے وقت قبلہ رو ہونے کا حکم	۴۶
۱۰۲۶۰ دوران حمل جمع کا حکم	۴۷
۱۰۲۶۱ حالت حیض میں جماع	۴۸

۲۸	زوجین کا آپس میں برہنہ جسم دیکھنا۔	۱۰۲۶۲
۲۹	بیوی کا پستان منہ میں لینا۔	۱۰۲۶۳
۵۰	بیوی کا دودھ پینا۔	۱۰۲۶۴
۵۱	صحبت کے دوران بیوی کا دودھ پینا۔	۱۰۲۶۵
۵۲	بیوی کی شرم گاہ کو بوسہ دینا۔	۱۰۲۶۶
۵۳	کیا عزل بالحرۃ جائز ہے؟	۱۰۲۶۷
۵۴	بیوی کی اجازت سے نرودھ کا استعمال۔	۱۰۲۶۸
۵۵	عذر شدید کی بنا پر نرودھ کا استعمال۔	۱۰۲۶۹
۵۶	بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر میکہ جانا۔	۱۰۲۷۰
۵۷	شوہر کی اجازت کے بغیر میکہ جانے والی عورت معلقہ ہے یا ناشزہ؟	۱۰۲۷۱
۵۸	والدین کا لڑکی کو اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر بلانا۔	۱۰۲۷۲
۵۹	شوہر کا بیوی کو نوکری کرنے سے روکنا۔	۱۰۲۷۳
۶۰	شوہر کے کہنے پر کیا نوکری چھوڑنا لازم ہے؟	۱۰۲۷۴
۶۳	صحت مند آدمی پر بیوی کے حقوق کتنے دنوں میں ادا کرنا واجب ہے	۱۰۲۷۵
۶۴	بیوی کا شوہر سے برے الفاظ سے بات کرنا گستاخی ہے۔	۱۰۲۷۶
۶۵	شوہر کی نافرمانی کرنا۔	۱۰۲۷۷
۶۷	عورت کا بغیر شوہر کے زیادہ دنوں تک میکہ میں رہنا۔	۱۰۲۷۸
۶۸	ناراضگی کی وجہ سے علیحدہ رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔	۱۰۲۷۹
۶۹	شوہر کے بلانے پر بیوی کا اس کے پاس نہ جانا۔	۱۰۲۸۰
۷۰	بیوی کا شوہر و بچوں کو چھوڑ کر غیر مرد کے ساتھ رہنا۔	۱۰۲۸۱
۷۱	حقیقی اولاد کے بارے میں بیوی سے شبہ کرنا۔	۱۰۲۸۲
۷۳	عورت عیسائی ہوگی..... تو شوہر پر کوئی مواخذہ نہیں	۱۰۲۸۳
۷۳	نافرمان بیوی کا شوہر کے حقوق ادا نہ کرنا۔	۱۰۲۸۴

- ۱۰۲۸۵ کیا بیوی میکے میں شوہر کی مرضی کے مطابق قیام کرے گی؟..... ۷۵
- ۱۰۲۸۶ بیوی کا شوہر کو چھوڑ کر اس کی مرضی کے بغیر خالو کے ساتھ رہنا..... ۷۶
- ۱۰۲۸۷ نافرمان بیوی اور اولاد کے نفقہ کا حکم..... ۷۸
- ۱۰۲۸۸ مطلقہ کے لئے شوہر سے کن کن چیزوں کے مطالبہ کا حق ہے؟..... ۸۰
- ۱۰۲۸۹ مطلقہ معتدہ کے شوہر پر حقوق..... ۸۴
- ۱۰۲۹۰ تکمیل عدت کے بعد بیوی کا شوہر کے گھر رہنا..... ۸۶
- ۱۰۲۹۱ وقت گزرنے کے بعد عدت اور بچوں کا خرچہ شوہر سے ساقط ہو جاتا ہے ۸
- ۱۰۲۹۲ طلاق کے بعد شوہر سے اپنا قرض مانگنا..... ۹۰
- ۱۰۲۹۳ داماد اور خسر کی ذمہ داری..... ۹۱
- ۱۰۲۹۴ بہو کا ساس و خسر کی خدمت کرنا..... ۹۲
- ۱۰۲۹۵ شوہر کا بیوی کو اہل خانہ کی خدمت پر مجبور کرنا..... ۹۳
- ۱۰۲۹۶ بہو کا ساس و خسر کے ساتھ گستاخی کرنا..... ۹۴
- ۱۰۲۹۷ خسر کا بہو پر ظلم کرنا..... ۹۶
- ۱۰۲۹۸ بہنوئی پر جھوٹا الزام قائم کر کے بہن کے نام جائیداد کرانا..... ۸۹

۱۰۲

۵ / باب الحضانة

- ۱۰۲۹۹ دوسروں کے بچے کی پرورش کرنا..... ۱۰۲
- ۱۰۳۰۰ ناجائز حمل خرید کر پرورش کرنا..... ۱۰۳
- ۱۰۳۰۱ شرعی عذر کے بغیر طلاق کا مطالبہ نیز شوہر کی اجازت کے بغیر لڑکے کو گود دینا..... ۱۰۵
- ۱۰۳۰۲ کافرہ زانیہ کا بچہ مسلمان پال سکتا ہے یا نہیں؟..... ۱۰۶
- ۱۰۳۰۳ بچیوں کی پرورش کا حقدار اور خرچہ کا ذمہ دار کون ہے؟..... ۱۰۹

- ۱۱۰ الف: ۴: ۱۰۳۰ بچہ کی پرورش کا حقدار کون؟
- ۱۱۲ ب: ۴: ۱۰۳۰ لڑکی کی پرورش کا حق کس کو ہے؟
- ۱۱۳ ۵: ۱۰۳۰ سوا ماہ کی بچی کی پرورش کا حقدار کون ہے؟
- ۱۱۵ ۶: ۱۰۳۰ تین ماہ کی لڑکے کی پرورش کا حق ماں کو ہے یا باپ کو۔
- ۱۱۶ ۷: ۱۰۳۰ ایک سالہ بچہ کی پرورش کا حقدار کون؟
- ۱۱۸ ۸: ۱۰۳۰ دو سال دس مہینہ کا بچہ کس کے پاس رہے گا؟
- ۱۱۹ ۹: ۱۰۳۰ ۴ سالہ بچی کی پرورش کا حق دادی کو ہے یا نانی کو؟
- ۱۲۱ ۱۰: ۱۰۳۰ سات سال سے کم عمر کے بچے کی پرورش کا حق کسے ہے؟
- ۱۲۳ ۱۱: ۱۰۳۰ ۷ سالہ بچہ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار کون؟
- ۱۲۶ ۱۲: ۱۰۳۰ ۷ سال تک لڑکے اور نو سال تک لڑکی کی پرورش کا حق ماں کو ہے
- ۱۲۷ ۱۳: ۱۰۳۰ آٹھ سال کے بچہ کی پرورش کا حق
- ۱۲۹ ۱۴: ۱۰۳۰ ماں کے انتقال کے بعد بچہ کی پرورش کا حق کس کو ہے؟
- ۱۳۰ ۱۵: ۱۰۳۰ بھائی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی بچہ کا ذمہ دار کون؟
- ۱۳۱ ۱۶: ۱۰۳۰ علیحدگی کی صورت میں بچہ کی پرورش کا حق
- ۱۳۲ ۱۷: ۱۰۳۰ طلاق کے بعد عدت اور لڑکے کی پرورش کا حکم
- ۱۳۴ ۱۸: ۱۰۳۰ ماں کی دماغی حالت خراب ہونے کی صورت میں پرورش کا حق
- ۱۳۶ ۱۹: ۱۰۳۰ بچوں کی پرورش کا حق دادا دادی کو ہے یا نانا نانی کو۔
- ۱۳۸ ۲۰: ۱۰۳۰ والد مفلس ہو تو بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے؟
- ۱۴۰ ۲۱: ۱۰۳۰ نو اسی کی پرورش سے متعلق چند سوالات و جوابات
- ۱۴۲ ۲۲: ۱۰۳۰ بالغ لڑکی کی پرورش کا حکم
- ۱۴۳ ۲۳: ۱۰۳۰ بدچلن بیوی کو طلاق دینے کے بعد بچی کی پرورش کا حق
- ۱۴۵ ۲۴: ۱۰۳۰ تین طلاق کے بعد نابالغ اولاد کی پرورش کا حق

۱۴۷	۶ / باب حق الجوار	
-----	-------------------	--

۱۴۷	مسجد والوں کا پڑوسی کی چھت توڑ کر مسجد کی دیوار میں جھنگل کھولنا ...	۱۰۳۲۵
۱۴۸	درمیانی چھت گرنے کی صورت میں سفلی و علوی دونوں تعمیر خرچ میں شریک ہوں گے	۱۰۳۲۶
۱۴۹	پہلی اور دوسری منزل والوں کے حقوق	۱۰۳۲۷
۱۵۱	درمیانی چھت کی مرمت کا خرچہ کس پر لازم ہے؟	۱۰۳۲۸
۱۵۲	فریقین کی زمین کی پیمائش میں غلطی اور اس سے متعلق چند سوالات ...	۱۰۳۲۹
۱۵۳	قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ دروازہ کھلا رکھنے کا حق حاصل کرنا ...	۱۰۳۳۰
۱۵۵	پڑوسی سے تکلیف کی بناء پر مقدمہ دائر کرنا	۱۰۳۳۱
۱۵۷	اپنی زمین میں آنے والی غیر کے درخت کی شاخ کاٹنے کا حق ہے ...	۱۰۳۳۲
۱۵۸	دوسرے کی زمین میں غلطی سے لگائے گئے درخت کا مالک کون؟	۱۰۳۳۳
۱۵۹	زمین کا کچھ حصہ ٹرک میں آنے کی وجہ سے دوسرے خریدار سے مطالبہ کرنا	۱۰۳۳۴

۱۶۲	۷ / باب بیع الحقوق	
-----	--------------------	--

۱۶۲	حق تصنیف اور حق طبع کی حیثیت	۱۰۳۳۵
۱۶۳	معاملہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ رقم کا مطالبہ کرنا	۱۰۳۳۶
۱۶۴	رجسٹری بیع نامہ خریدار کے نام پر ہو گا نہ کہ سوسائٹی کے نام پر	۱۰۳۳۷
۱۶۵	ڈپوزٹ کا شرعی حکم	۱۰۳۳۸
۱۶۶	کرایہ دار کا حق قرار لینا	۱۰۳۳۹
۱۶۷	کرایہ دار کا مکان خالی کرنے کے لیے رقم کا مطالبہ کرنا	۱۰۳۴۰

- ۱۰۳۴۱ پگڑی کا حکم ۱۷۰
- حقوقِ مجردہ کا عوض لینا ۱۷۲
- حق کسے کہتے ہیں؟ ۱۷۲
- مال اور حقوقِ مجردہ کی حقیقت ۱۷۳
- مال کی تعریف ۱۷۴
- حقوقِ مجردہ کی بیع ۱۷۵
- حقِ مرور کی بیع کا جواز ۱۷۵
- حقِ تسبیل کی بیع کا جواز ۱۷۶
- تعاملِ ناس کی وجہ سے حقِ شرب کی بیع کا جواز ۱۷۷
- حقِ اسبقیت ۱۷۸
- حقوقِ مجردہ کی دو قسموں میں سے کس کا مالی عوض جائز؟ ۱۷۰
- سوال میں ذکر کردہ حقوقِ مجردہ سے دست برداری کا مالی عوض لینا ۱۸۰
- حقوقِ مجردہ کا عوض لینے کا اصولی ضابطہ ۱۸۳
- حقوقِ مجردہ کی بیع کا مختصر خلاصہ ۱۸۳
- مروجہ پگڑی کا مسئلہ ۱۸۴
- حقوقِ طبع ۱۸۵
- ٹریڈ مارک اور کمپنی و تجارتی فرم کے نام کی فروختگی ۱۸۵
- لائسنس کی خرید و فروخت ۱۸۶
- حقِ تعلیٰ کی بیع ۱۸۷
- پیش کی فروختگی ۱۸۸
- سوال نامہ کا خلاصہ ۱۸۹

۱۹۲	۳۹ / کتاب الرؤیا	
۱۹۲ خواب میں سورہ نوح کی تلاوت	۱۰۳۴۲
۱۹۲ خواب میں حج بیت اللہ کا سفر کرنا	۱۰۳۴۳
۱۹۴ خواب میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا	۱۰۳۴۴
۱۹۵ خواب میں علماء کی زیارت کرنا	۱۰۳۴۵
۱۹۶ خواب میں مزار وغیرہ دیکھنا	۱۰۳۴۶
۱۹۷ خواب میں غیر نبی کا کلمہ پڑھنا اور اس کی تعبیر	۱۰۳۴۷
۲۰۱ خواب میں دودھ کو دیکھنا	۱۰۳۴۸
۲۰۲ خواب میں مچھلیاں دیکھنا	۱۰۳۴۹
۲۰۳ خواب میں کبوترنی دیکھنا	۱۰۳۵۰
۲۰۴ خواب میں بندر دیکھنا	۱۰۳۵۱
۲۰۶ خواب میں شیر دیکھنا	۱۰۳۵۲
۲۰۷ خواب میں شیر اور خود کو امانت کرتے دیکھنا	۱۰۳۵۳
۲۰۹ خواب میں کتے کو سانپ کھاتے دیکھنا	۱۰۳۵۴
۲۰۹ خواب میں سانپ کو دیکھنا	۱۰۳۵۵
۲۱۰ خواب میں کالا اور سفید سانپ دیکھنا	۱۰۳۵۶
۲۱۱ خواب میں دیکھنا کہ گھر میں خنزیر ذبح کیا جانے والا ہے	۱۰۳۵۷
۲۱۲ خواب میں بیت الخلاء کی عمارت منہدم ہو جانا	۱۰۳۵۸
۲۱۳ خواب میں سیب، مور اور آم دیکھنا	۱۰۳۵۹
۲۱۴ خواب میں خود کو حاملہ دیکھنا	۱۰۳۶۰
۲۱۵ بچہ کا ماں کو ذبح کرنا	۱۰۳۶۱

۲۱۶	خواب میں بچے کی پیدائش دیکھنا	۱۰۳۶۲
۲۱۶	خواب میں اپنے گھر پر غیروں کا قبضہ دیکھنا	۱۰۳۶۳
۲۱۷	خواب میں کسی لڑکی کے سامنے پیشاب کرنا	۱۰۳۶۴

۴۰ / کتاب الطب والرقي

۱/ باب ما يتعلق بالطب وغيره

۲۱۹	علم طب حاصل کیے بغیر علاج و معالجہ کرنا	۱۰۳۶۵
۲۲۰	دائی کا کام کرنا کیسا ہے؟	۱۰۳۶۶
۲۲۱	دوا کھاتے وقت کیا پڑھا جائے؟	۱۰۳۶۷
۲۲۲	غیر مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کروانا	۱۰۳۶۸
۲۲۲	سرکاری ہسپتال کی دواؤں کو بازار میں فروخت کرنا	۱۰۳۶۹
۲۲۳	پولیو کی دوائی پلانا	۱۰۳۷۰
۲۲۵	پوسٹ مارٹم	۱۰۳۷۱
۲۲۶	انتقال کے بعد سینہ چیر کر مشین نکالنا	۱۰۳۷۲
۲۲۶	کیا سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے آدمی مرتا نہیں ہے؟	۱۰۳۷۳
۲۲۷	عذر کی بنا پر کان میں سوراخ کرانا	۱۰۳۷۴
۲۲۸	بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ میں چین پہننا	۱۰۳۷۵
۲۲۹	چہرے پر دانوں کے علاج کے لیے تانبے کا چھلہ پہننا	۱۰۳۷۶
۲۹۹	ہاتھی کا دانت، گھٹلی ہلٹری، دھات کے چھلے وغیرہ بطور علاج استعمال کرنا	۱۰۳۷۷
۲۳۰	ایک ساتھ کتنے کیلے کھائیں؟	۱۰۳۷۸

صفحہ	۲ / باب اعضاء الإنسان و اجزائه	
۲۳۱ بلڈ ڈونیشن کی شرعی حیثیت	۱۰۳۷۹
۲۳۲ مسلمان مریض کو خون دینا کیسا ہے؟	۱۰۳۸۰
۲۳۳ بلڈ بینک کا حکم	۱۰۳۸۱
۲۳۵ انسانی اعضاء کا قیمتاً یا ہدیاً دینا	۱۰۳۸۲
۲۳۶ مرنے کے بعد اپنے اعضاء کی عوض یا بلا عوض اسپتال میں دینے کی وصیت	۱۰۳۸۳
۲۳۸ بیمار کو گروہ دینا	۱۰۳۸۴
۲۳۹ گردوں کی تبدیلی اور ہبہ کا حکم	۱۰۳۸۵
۲۴۱ اعضاء و اجزاء انسانی کا عطیہ	
۲۴۱ مقالہ خلاصہ	
۲۴۳ اعضاء و اجزاء انسانی کا عطیہ	۱۰۳۸۶
۲۴۴ (۱) ”ماکول اللحم حیوانات“ کے اعضاء سے علاج	
۲۴۵ (۲) غیر ماکول اللحم حیوانات کے اعضاء سے علاج	
۲۴۵ (۳) انسانی اعضاء کا استعمال	
۲۴۶ پہلی قسم	
۲۴۶ دوسری قسم کے اجزاء	
۲۴۷ انسانی خون کا عطیہ	
۲۴۸ جگر کی پیوند کاری اور اس کا عطیہ	۱۰۳۹۰
۲۵۱ ”آئی بینک“ (آنکھوں کا عطیہ)	۱۰۳۹۱
۲۵۳ ”دودھ بینک“ اور اس کا عطیہ	۱۰۳۹۳-۱۰۳۹۲
۲۵۸ تجاویز برائے چومیسواں فقہی سیمینار	
۲۵۸ اعضاء و اجزاء انسانی کے عطیہ سے متعلق تجاویز	

۳ / باب ما يتعلق بحمل المرأة و موانعه		
۲۶۰ نسبندی اور اسقاط حمل کی شرعی حیثیت	۱۰۳۹۴
۲۶۲ دائمی نسبندی	۱۰۳۹۵
۲۶۳ دائمی نسبندی کرانا	۱۰۳۹۶
۲۶۴ دائمی طور پر قوت تو لید ختم کرنا	۱۰۳۹۷
۲۶۵ جان تلف ہونے کے اندیشہ سے بچہ دانی نکلوانا	۱۰۳۹۸
۲۶۶ بیوی کی جان تلف ہونے کے اندیشہ سے نسبندی کرانا	۱۰۳۹۹
۲۶۸ عورت کی جان تلف ہونے کے اندیشہ سے بچہ دانی نکلوانا	۱۰۴۰۰
۲۶۹ کیا جان کے خطرہ کی وجہ سے نسبندی کر سکتے ہیں؟	۱۰۴۰۱
۲۷۱ کیا تو والد و تناسل کا سلسلہ ختم کرنے کا کوئی جائز طریقہ ہے؟	۱۰۴۰۲
۲۷۱ احتیاطاً مانع حمل ذرائع کا استعمال	۱۰۴۰۳
۲۷۲ کن حالتوں میں وقتی طور پر مانع حمل کی گنجائش ہے؟	۱۰۴۰۴
۲۷۴ بچہ دانی نکلوانا	۱۰۴۰۵
۲۷۵ نسبندی کرانا جائز نہیں، چاہے ملازمت گنوا نی پڑے	۱۰۴۰۶
۲۷۶ نطفہ جاندار ہے یا غیر جاندار؟ اور اس کو ضائع کرنے کا حکم	۱۰۴۰۷
۲۷۷ ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اسقاط اور وقفہ کی گنجائش	۱۰۴۰۸
۲۷۹ اسقاط حمل کا حکم	۱۰۴۰۹
۲۸۰ حمل گرانے کا حکم	۱۰۴۱۰
۲۸۱ کن حالتوں میں اسقاط حمل جائز ہے؟	۱۰۴۱۱
۲۸۲ حج میں جانے کے لیے حمل ساقط کرانا	۱۰۴۱۲
۲۸۳ حمل ساقط کرنے کا حکم	۱۰۴۱۳

۲۸۳ کیا چار ماہ سے قبل اسقاط حمل مباح ہے؟	۱۰۴۱۴
۲۸۴ لاغر عورت کی گود میں چار ماہ کا بچہ ہو تو اسقاط حمل جائز ہے یا نہیں؟	۱۰۴۱۵
۲۸۵ ۶ ماہ کا حمل ساقط کرانا	۱۰۴۱۶
۲۸۶ چھ ماہ کا حمل ساقط کرانا	۱۰۴۱۷
۲۸۷ پیدائش کے وقت موت کے اندیشہ سے وضع حمل	۱۰۴۱۸
۲۸۹ بچہ کی پرورش کی خاطر مانع حمل تدابیر اختیار کرنا	۱۰۴۱۹
۲۸۹ مانع حمل دواؤں کا استعمال	۱۰۴۲۰
۲۹۰ مانع حمل ادویہ کا استعمال	۱۰۴۲۱
۲۹۲ مانع حمل دوائیں یا آپریشن کرانے کا حکم	۱۰۴۲۲
۲۹۳ موجودہ دور میں عزل کا حکم	۱۰۴۲۳
۲۹۴ حالت حمل یا ایام رضاعت میں عزل کرنا	۱۰۴۲۴
۲۹۵ نیرودھ اور مانع حمل ادویہ کا استعمال	۱۰۴۲۵
۲۹۶ بلا عذر مانع حمل طریقہ اختیار کرنا	۱۰۴۲۶
۲۹۷ بلا عذر شدید کے نیرودھ یا گولی استعمال کرنا	۱۰۴۲۷
۲۹۸ بغیر کسی عذر کے حمل گرانا نیز حمل کو کتنی مدت کا اندر گرائینی گنجائش ہے؟	۱۰۴۲۸
۲۹۹ سخت کمزوری میں مانع حمل ادویہ کا استعمال	۱۰۴۲۹
۳۰۰ کمزوری کے خوف سے اسقاط حمل	۱۰۴۳۰
۳۰۱ عدت کی کمزوری کی وجہ سے مانع حمل تدبیر اپنانا	۱۰۴۳۱
۳۰۲ شدید ضرورت میں وقتی طور پر مانع حمل دواؤں کا استعمال	۱۰۴۳۲
۳۰۳ مانع حمل کے لیے نیرودھ کا استعمال	۱۰۴۳۳
۳۰۴ بیماری کے اندیشہ سے کنڈوم استعمال کرنا	۱۰۴۳۴
۳۰۶ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا حکم	۱۰۴۳۵

۳۰۶ ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا شرعی حکم	۱۰۴۳۶
۳۰۷ مشین کے ذریعہ استقرِ حمل کا حکم	۱۰۴۳۷
۳۰۹ استقرِ حمل کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹری معائنہ	۱۰۴۳۸
۳۰۹ انتقال شدہ حاملہ کے بچہ کا حکم	۱۰۴۳۹

	۴ / باب التداوی بالمحرم	
--	--------------------------------	--

۳۱۱ آپریشن سے بچنے کے لیے تداوی بالمحرم کا حکم	۱۰۴۴۰
۳۱۲ بطور دوا شراب کے استعمال کا حکم	۱۰۴۴۱
۳۱۳ الکحل ملائی ہوئی دوا کا حکم	۱۰۴۴۲
۳۱۴ الکحل ملی ہوئی دوا استعمال کرنے کا حکم	۱۰۴۴۳
۳۱۵ ماکول اللحم جانور کے پیشاب سے علاج	۱۰۴۴۴
۳۱۶ گائے کا پیشاب اور ایون ملی ہوئی دواؤں کا استعمال و تجارت	۱۰۴۴۵
۳۱۸ تیل میں گائے کا پیشاب ملا کر بطور دوا استعمال کرنا	۱۰۴۴۶
۳۲۰ گائے کے پیشاب میں مخلوط دوا کے استعمال کرنے کا حکم	۱۰۴۴۷
۳۲۱ ایسی دوا کا استعمال جس میں گائے کا پیشاب ڈالا گیا ہو	۱۰۴۴۸
۳۲۲ شدت ضرورت کی بناء پر گائے کے پیشاب سے علاج کرنا	۱۰۴۴۹
۳۲۳ شراب کی عادت چھڑانے کے لیے کوئے کا خون پلانا	۱۰۴۵۰
۳۲۴ بکرے کے حصیے بطور علاج کھانا	۱۰۴۵۱
۳۲۵ گدھی کے دودھ سے علاج	۱۰۴۵۲
۳۲۶ مرنے کے خون کا سفوف دوا کے طور پر استعمال کرنا	۱۰۴۵۳
۳۲۷ جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا	۱۰۴۵۴

۵/باب الرقية		
۳۲۸ نظر کی حقیقت	۱۰۴۵۵
۳۲۹ کیا تعویذ پہننا حرام ہے؟	۱۰۴۵۶
۳۳۰ کیا تعویذ پہننا بدعت ہے؟	۱۰۴۵۷
۳۳۱ گلے میں تعویذ لٹکانا	۱۰۴۵۸
۳۳۲ تعویذ گنڈے کا حکم	۱۰۴۵۹
۳۳۳ تعویذ گنڈا کرنا	۱۰۴۶۰
۳۳۵ تعویذ گنڈے کو کمائی کا ذریعہ بنانا	۱۰۴۶۱
۳۳۶ مؤکلوں کے ذریعہ علاج کرنا	۱۰۴۶۲
۳۳۸ مجہول العقیدہ والے سے تعویذ گنڈا کرانے کا حکم	۱۰۴۶۳
۳۴۰ مزاروں سے علاج کرانا	۱۰۴۶۴
۳۴۱ وبائی امراض کے ازالہ کے لیے تعویذ دینا	۱۰۴۶۵
۳۴۲ ناپاکی کی حالت میں تعویذ پہنے رہنا	۱۰۴۶۶
۳۴۳ پانی پر دم کرا کے درود یوار پر چھڑکنا	۱۰۴۶۷
۳۴۳ تعویذ لکھنے میں دھوکہ دینا	۱۰۴۵۳
۳۴۴ تعویذ سے متعلق چند سوالات	۱۰۴۶۹
۳۴۶ موذی چیزوں کو بھگانے کے لیے حضرت سلیمان کی قسم دینا	۱۰۴۷۰
۳۴۷ نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کو کالا ٹیکہ لگانا	۱۰۴۷۱
۳۴۷ کافر عامل سے سحر کا علاج کرانا	۱۰۴۷۲
۳۴۸ جھاڑ پھونک کے معاملہ پر عورت سے بدگمان ہونا	۱۰۴۷۳

۳۴۹	تعوید کے ذریعہ کسی کو ملزم یا چور ثابت کرنے کی شرعی حیثیت	۱۰۴۷۴
۳۵۰	سامان چوری ہونے پر نام نکلوانا	۱۰۴۷۵

(۶) باب الأجرة على الرقية

۳۵۲	تعوید پر اجرت لینا	۱۰۴۷۶
۳۵۲	تعوید کے عوض روپیہ لینا	۱۰۴۷۷
۳۵۳	تعوید گنڈے کی اجرت کا حکم	۱۰۴۷۸
۳۵۴	تعوید لکھنے اور اس کی اجرت کا حکم	۱۰۴۷۹
۳۵۵	درس کو منقطع کر کے تعوید لکھ کر اجرت لینا	۱۰۴۸۰
۳۵۶	قرآنی آیات شفا و نقوش لکھ کر مریض کو پلانا اور اس کی اجرت لینا	۱۰۴۸۱
۳۵۷	تعویدات کے ذریعہ علاج اور اس کی اجرت کا حکم	۱۰۴۸۲
۳۵۸	مؤکل کے ذریعہ علاج اور اس کی اجرت کا شرعی حکم	۱۰۴۸۳
۳۶۰	تعوید پر اجرت لینے والے امام کے پیچھے نماز کا حکم	۱۰۴۸۴

۴۱ / کتاب الحظر والإباحة

(۱) باب السلام، والمصافحة والمعانقة

۳۶۲	فرد واحد کو السلام علیکم کہنے کا حکم	۱۰۴۸۵
۳۶۳	سلام میں مغفرت کے اضافہ کا حکم	۱۰۴۸۶
۳۶۶	محفل میں آکر سلام علیکم کہنا	۱۰۴۸۷
۳۶۷	غیر محرم مرد و عورت کو سلام کرنا	۱۰۴۸۸
۳۶۸	اجنبی کے گھر میں دخول کے لیے سلام اور اجازت دونوں ضروری	۱۰۴۸۹

- ۱۰۴۹۰ کیا مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا مسنون ہے؟ ۳۶۹
- ۱۰۵۰۵ سلام، مصافحہ و معانقہ کا مسنون طریقہ ۳۷۰
- ۱۰۵۰۶ مصافحہ کا صحیح طریقہ ۳۷۰
- ۱۰۵۰۷ مصافحہ کا سنت طریقہ ۳۷۱
- ۱۰۵۰۸ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی حدیث ۳۷۳
- ۱۰۵۰۹ مصافحہ کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا ۳۷۳
- ۱۰۵۱۰ مصافحہ کر کے سینہ پر ہاتھ رکھنا ۳۷۴
- ۱۰۵۱۱ رخصتی مصافحہ کا ثبوت ۳۷۵
- ۱۰۵۱۲ عورت مرد کا آپس میں مصافحہ کرنا ۳۷۶
- ۱۰۵۱۳ عیدین اور دیگر نمازوں کے بعد مصافحہ یا معانقہ ۳۷۷
- ۱۰۵۱۴ معانقہ کرنے کا سنت طریقہ ۳۷۸
- ۱۰۵۱۵ معانقہ کا سنت طریقہ ۳۷۹
- ۱۰۵۱۶ معانقہ کب مسنون ہے؟ اور معانقہ کا سنت طریقہ؟ ۳۸۱
- ۱۰۵۱۷ تین مرتبہ معانقہ کی شرعی حیثیت ۳۸۲
- ۱۰۵۱۸ خط میں سلام مسنون لکھنا ۳۸۳
- ۱۰۵۱۹ فون پر سلام و جواب کے سلسلے میں تفصیلی مسائل ۳۸۵
- ۱۰۵۲۰ ٹیلیفون پر ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہنے سے متعلق مفصل فتویٰ ... ۳۸۶
- ۳۸۷ ایک شبہ
- شبہ کا ازالہ
- ایک دوسرا شبہ
- شبہ کا ازالہ

رقم المسئلة	۲ / باب الصلوة و المقاطعة	صفحة
۱۰۵۲۱	قاتل کے اہل خانہ کا مقتول کے ورثہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی شکل	۴۱۷
۱۰۵۲۲	معافی طلب کرنے والے کو معاف کر دینا چاہئے	۴۱۹
۱۰۵۲۳	غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگنے والے سے قطع تعلق کرنا	۴۲۰
۱۰۵۲۴	والد کی مرضی کے مطابق بیٹے کا رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے والد کی اس سے ناراضگی	۴۲۲
۱۰۵۲۵	قطع تعلق کرنا	۴۲۴
۱۰۵۲۶	قطع تعلق کی شکل اختیار کرنا	۴۲۵
۱۰۵۲۷	مقاطعة ختم کرنے کے لئے شرطیں لگانا	۴۲۷
۱۰۵۲۸	گناہ کی بنا پر والدہ سے قطع تعلق کرنا	۴۲۷
۱۰۵۲۹	اسلام کا مذاق اڑانے اور ماڈرن طریقہ کو پسند کرنے والے سے قطع تعلق کرنا	۴۲۹
۱۰۵۳۰	بیٹے کی زبان درازی پر اس سے اور بیوی سے قطع تعلق کرنا	۴۳۰
۱۰۵۳۱	بالغ نامحرم کو متبہی بنا کر رکھنے والی عورت سے قطع تعلق کرنا	۴۳۲
۱۰۵۳۲	دوستی و دشمنی میں مبالغہ کرنا	۴۳۳
۱۰۵۳۳	بغض و کینہ کے بغیر قطع تعلق کا حکم	۴۳۵
۱۰۵۳۴	لڑکی کے جرم کی وجہ سے والد کا بائیکاٹ کرنا	۴۳۶
۱۰۵۳۵	ناراضگی میں فون پر بات نہ کرنا	۴۳۷
۱۰۵۳۶	محض میٹنگ میں شرکت کرنے کی وجہ سے مقاطعہ	۴۳۸
۱۰۵۳۷	آپسی رنجش کی وجہ سے ترک کلام	۴۳۹
۱۰۵۳۸	تین دن سے زائد قطع تعلق کر لینا جائز ہے؟	۴۴۱

- ۱۰۵۳۹ بے نمازی سے ترک تعلق کرنا ۴۴۲
- ۱۰۵۴۰ مسلمانوں کی آبروریزی کرنے والے سے قطع تعلق کرنا ۴۴۳
- ۱۰۵۴۱ راستہ تنگ کرنے کی وجہ سے ترک کلام ۴۴۵
- ۱۰۵۴۲ سود پر قرض دینے والوں سے قطع تعلق کرنا ۴۴۶
- ۱۰۵۴۳ منکرات والی شادی میں عدم شرکت اور داعی کا بائیکاٹ ۴۴۷
- ۱۰۵۴۴ لاعلمی میں خنزیر کا گوشت کھانے والے سے قطع تعلق ۴۴۹
- ۱۰۵۴۶ خنزیر کے بالوں کا برش بنانا ہوالے سے قطع تعلق کرنا ۴۵۰
- ۱۰۵۴۷ بدکار بہن سے قطع تعلق اور وراثت سے محروم کرنا ۴۵۱
- ۱۰۵۴۸ بھانجی سے ناجائز تعلق قائم کرنے والے سے قطع تعلق ۴۵۲
- ۱۰۵۴۹ مطلقہ بیوی کو ساتھ رکھنے والے سے قطع تعلق کرنا ۴۵۴
- ۱۰۵۵۰ مطلقہ ثلثہ کو ساتھ رکھنے والے سے قطع تعلق کرنا ۴۵۵
- ۱۰۵۵۱ طلاق ثلاثہ کے بعد حلالہ کے بغیر ساتھ رہنے والے سے قطع تعلق کرنا ۴۵۶

□	۳/ باب اللباس	□
---	---------------	---

- ۱۰۵۵۲ اسلام میں ٹوپی پہننا کیسا ہے ۴۵۸
- ۱۰۵۵۳ ٹوپی پہننے کا ثبوت حدیث شریف سے ۴۵۹
- ۱۰۵۵۴ کیا حضور ﷺ کی ٹوپی گول تھی؟ ۴۶۰
- ۱۰۵۵۵ اسلامی ٹوپی کیسی ہو اور حضور ﷺ کی ٹوپی کیسی تھی؟ ۴۶۱
- ۱۰۵۵۶ اکابر دارالعلوم دیوبند کی ٹوپیاں کیسی تھیں؟ ۴۶۱
- ۱۰۵۵۷ دیوبندی ٹوپی سے متعلق چند سوال و جواب ۴۶۳

- ۱۰۵۵۸ گول ٹوپی اور لمبی ٹوپی کا ثبوت ۴۶۵
- ۱۰۵۵۹ کن کن اوقات میں ٹوپی پہننا مسنون ہے؟ ۴۶۶
- ۱۰۵۶۰ عام حالات و مجالس میں ٹوپی پہننے کا حکم ۴۶۷
- ۱۰۵۶۱ بلاعذر عام حالات میں ننگے سر رہنا ۴۶۸
- ۱۰۵۶۲ گنبد خضریٰ یا غلاف کعبہ کے رنگ کی ٹوپی پہننا ۴۶۹
- ۱۰۵۶۳ کسی قوم سے مشابہت کا مطلب ۴۷۰
- ۱۰۵۶۴ مسنون لباس ۴۷۱
- ۱۰۵۶۵ ٹائی باندھنا ۴۷۲
- ۱۰۵۶۶ ٹائی باندھنا ۴۷۵
- ۱۰۵۶۷ کلی دار کرتا ۴۷۶
- ۱۰۵۶۸ نصف ساق یا ٹخنوں تک کرتا پہننے کا حکم ۴۷۶
- ۱۰۵۶۹ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم ۴۷۸
- ۱۰۵۷۰ ٹخنے کے نیچے لگی یا پا جامہ پہننا ۴۷۸
- ۱۰۵۷۱ کیا موزے ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہننے کی وعید میں شامل نہیں؟ ۴۷۹
- ۱۰۵۷۲ نیچے چاک والا کرتا پہننا کیا خلاف سنت ہے؟ ۴۸۰
- ۱۰۵۷۳ گریبان کے بٹن کھلے رکھنا ۴۸۳
- ۱۰۵۷۵ مردوں کے لئے پھول بوٹے والے کپڑے استعمال کرنے کا حکم ۴۸۵
- ۱۰۵۷۶ پینٹ پتلون پہننا کیسا ہے؟، اسکو چھڑانے کا طریقہ اور شرعی لباس ۴۸۶
- ۱۰۵۷۷ مردوں کے لئے چست لباس پہننے سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۴۸۹
- ۱۰۵۷۸ مردوں کے لئے کالا لباس پہننا ۴۹۱
- ۱۰۵۷۹ سرخ کپڑا پہننے اور حدیث کونہ ماننے کا حکم ۴۹۲

- ۱۰۵۸۰ پنجابی سوٹ پہننے کا حکم ۴۹۴
- ۱۰۵۸۱ عورتوں کے لئے شوہر و باپ، بھائی کا چست لباس لا کر دینا ۴۹۵
- ۱۰۵۸۲ عورتوں کا کالا برقعہ اور کالا کپڑا پہننا ۴۹۶
- ۱۰۵۸۳ مزین برقعوں کے استعمال کی شرعی حیثیت ۴۹۸
- ۱۰۵۸۴ ڈیزائن والے برقعے پہننے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا حکم ۴۹۹
- ۱۰۵۸۵ بحالت حیض و نفاس مہندی و سناگ کرنا، نیز شادی شدہ کے لئے سفید کپڑے پہننے کا حکم ۵۰۰
- ۱۰۵۸۶ قیمتی کپڑے کو بطور زینت یا پوش کے لئے استعمال کرنا ۵۰۱
- ۱۰۵۸۷ درزی کا مختلف نوع کے لباس سینا ۵۰۲
- ۱۰۵۸۸ مور کی تصویر بنے ہوئے کپڑے کو کیا کریں؟ ۵۰۳

□	۴ / باب الزینة	□
---	----------------	---

- ۱۰۵۸۹ عطر لگانے کا مسنون طریقہ ۵۰۵
- ۱۰۵۹۰ پرفیوم کا استعمال ۵۰۵
- ۱۰۵۹۱ سینٹ کا استعمال کیسا؟ ۵۰۶
- ۱۰۵۹۲ مرد کا ہاتھوں اور بالوں میں مہندی لگانا ۵۰۸
- ۱۰۵۹۳ سر، داڑھی، ہاتھ، پیر میں مہندی لگانے کا حکم ۵۰۹
- ۱۰۵۹۴ ٹیٹو کا شرعی حکم ۵۱۰
- ۱۰۵۹۵ کیا زندگی میں سواکلویا سوا سیر سر مد لگانا سنت ہے؟ ۵۱۱
- ۱۰۵۹۶ عورتوں کا فیشن کرنا ۵۱۲
- ۱۰۵۹۷ عورتوں کی فیشن ایبل جوتیوں کا حکم ۵۱۳

۵۱۴	سینٹ اور چمکدار ہونٹ پالش کا حکم	۱۰۵۹۸
۵۱۵	عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا	۱۰۵۹۹
۵۱۶	عورتوں کا لپ اسٹک لگا کر باہر نکلتا	۱۰۶۰۰
۵۱۷	عورتوں کے لئے لپ اسٹک کے استعمال کا حکم	۱۰۶۰۱
۵۱۸	عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟	۱۰۶۰۲
۵۱۹	شوہر کو خوش کرنے کے لئے کالا خضاب لگانا	۱۰۶۰۳
۵۲۱	لڑکیوں کے لئے مردانہ جوتے پہننے کا حکم	۱۰۶۰۴
۵۲۲	بیوی کا شوہر کے لئے زینت کرنے کا حکم	۱۰۶۰۵
۵۲۳	مسلمان عورتوں کا سندور لگانا	۱۰۶۰۷
۵۲۴	عورتوں کے لئے مہندی لگانا	۱۰۶۰۸
۵۲۵	مرد و عورت کو مہندی لگانے کا حکم	۱۰۶۰۹
۵۲۵	پیشانی پر مہندی لگانا، چوڑی اور لونگ پہننا کیسا ہے؟	۱۰۶۱۰
۵۲۷	عورت کا کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال صاف کرنا	۱۰۶۱۱
۵۲۸	ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنے کا حکم	۱۰۶۱۲

□	۵ / باب الحجاب	□
---	----------------	---

۵۲۹	شرعی پردہ اور محرم شرعی کی تفصیل	۱۰۶۱۳
۵۳۱	پردہ کا شرعی حکم اور اس میں سختی برتنا	۱۰۶۱۴
۵۳۳	پردہ کے چاروں اقسام کے احکام	۱۰۶۱۵
۵۳۶	پردہ کے کتنے درجات ہیں؟	۱۰۶۱۶
۵۳۸	عورت کے ستر کی حد اور محارم سے پردہ کا حکم	۱۰۶۱۷

- ۱۰۶۱۸ عورت پر کن کن سے پردہ لازم ہے؟ ۵۳۹
- ۱۰۶۱۹ شریعت میں کن کن لوگوں سے پردہ کا حکم ہے؟ ۵۴۱
- ۱۰۶۲۰ کتنے سال کی عمر سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ ۵۴۳
- ۱۰۶۲۱ ستر عورت سے متعلق حدیث ۵۴۴
- ۱۰۶۲۲ الحمو الموت کی تشریح ۵۴۶
- ۱۰۶۲۳ گھر کے اندر پردے سے متعلق تفصیلی مسئلہ ۵۴۸
- ۱۰۶۲۴ محرم وغیر محرم رشتہ دار سے پردہ کا حکم ۵۵۰
- ۱۰۶۲۵ سوتیلی ماں اور اس کے رشتہ داروں سے پردہ ہے یا نہیں؟ ۵۵۲
- ۱۰۶۲۶ مرد کا مرد کے سامنے ستر عورت کھولنے کا حکم ۵۵۳
- ۱۰۶۲۷ کیا برقعہ ہی سے پردہ ہوتا ہے؟ ۵۵۶
- ۱۰۶۲۸ برقعہ میں ہاتھ اور آنکھوں کو کھلا رکھنا ۵۵۷
- ۱۰۶۲۹ سر پر دوپٹہ اوڑھنا ۵۵۷
- ۱۰۶۳۰ لڑکیوں کا ننگے سر رہنے اور دوپٹہ کندھے پر رکھنے کا حکم ۵۵۸
- ۱۰۶۳۱ دوران سفر عورتوں کا ہتھیلیوں اور قدمین کو کھلا رکھنا ۵۵۹
- ۱۰۶۳۲ ساس کا داماد سے پردہ نہیں ۵۶۰
- ۱۰۶۳۳ کیا ساس کو داماد سے پردہ کا حکم ہے؟ ۵۶۱
- ۱۰۶۳۴ چچی سے پردہ ہے یا نہیں؟ ۵۶۲
- ۱۰۶۳۵ بھابھی دیور کا پردہ ہے یا نہیں؟ ۵۶۳
- ۱۰۶۳۶ خسر اور بہو کا نمائشوں و بازاروں میں ایک ساتھ گھومنا ۵۶۴
- ۱۰۶۳۷ نامحرم لڑکیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا حکم ۵۶۶

- ۱۰۶۳۸ دفتر میں کام کرنے والی عورتوں پر نظر پڑ جانا کیسا؟ ۵۶۷
- ۱۰۶۳۹ عورتوں کا بغیر محرم کے اجتماعات، قرآن خوانی و نشر کی مجلس میں جانا۔ ۵۶۹
- ۱۰۶۴۰ عورتوں کا بازار جانا۔ ۵۷۰
- ۱۰۶۴۱ بلا محرم عورت کے لئے جہاز کا سفر۔ ۵۷۱
- ۱۰۶۴۲ نا محرم کے ساتھ غیر شرعی سفر کرنا۔ ۵۷۳
- ۱۰۶۴۳ بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو دیکھنا۔ ۵۷۴
- ۱۰۶۴۴ عورتوں کی ملازمت کا شرعی حکم۔ ۵۷۵
- ۱۰۶۴۵ عورتوں کا گاڑی چلانا۔ ۵۷۶
- ۱۰۶۴۷ ملازم سے پردہ واجب ہے یا نہیں؟ ۵۷۷
- ۱۰۶۴۸ غیر محرم عورتوں کو چوڑی پہنانا۔ ۵۷۸

□	۶ / باب ما يتعلق بالشعر (بالوں سے متعلق)	□
---	--	---

- ۱۰۶۴۹ بال رکھنے کا مسنون طریقہ۔ ۴۸۰
- ۱۰۶۵۰ کیا بیچ سر میں مانگ نکالنا مرد و عورت دونوں کے لئے سنت ہے۔ ۵۸۱
- ۱۰۶۵۱ زیب و زینت کے لئے بار بار مانگ نکالنا اور مانگ نکالنے کا سنت طریقہ۔ ۵۸۲
- ۱۰۶۵۲ عورت مانگ کس طرح نکالے؟ ۵۸۴
- ۱۰۶۵۳ لڑکیوں کے بال کس عمر تک موٹڈ نے کی اجازت ہے؟ ۵۸۵
- ۱۰۶۵۴ سفید بال مؤمن کا نور۔ ۵۸۶
- ۱۰۶۵۵ سفید بال والے اور تین قسم کے لوگوں کے اعزاز و اکرام کا لزوم۔ ۵۸۷
- ۱۰۶۵۶ غیر مجاہدین کے لئے مونچھیں بڑھانا۔ ۵۸۸
- ۱۰۶۵۷ سر پر دو چوٹیاں باندھنا۔ ۵۸۹

- ۱۰۶۵۸ عورتوں کا دو چوٹیاں باندھنا ۵۹۱
- ۱۰۶۵۹ مسلم عورتوں کا مانگ میں افسالگانا ۵۹۲
- ۱۰۶۶۰ بچیوں کے سروں پر پھول باندھنے اور دو چوٹیوں کا حکم ۵۹۲
- ۱۰۶۶۱ گدی یا گردن کے بال استرے سے صاف کرنا کیسا؟ ۵۹۳
- ۱۰۶۶۲ سینہ کا بال صاف کرنا کیسا؟ ۵۹۴
- ۱۰۶۶۳ عورت کا شوہر کو خوش کرنے کے لئے بدن کے بال صاف کروانا ۵۹۵
- ۱۰۶۶۴ بیوی کو خوش کرنے کے لئے سینہ کے بال صاف کرنا ۵۹۶
- ۱۰۶۶۵ بال کٹوانے کے بعد سر پر استرہ پھیرنا ۵۹۷
- ۱۰۶۶۶ سرمنڈانا کیسا ہے؟ ۵۹۸
- ۱۰۶۶۷ سفید بالوں پر پیلا خضاب لگانا زیادہ بہتر ہے یا سفید حالت میں چھوڑ دینا؟ ۶۰۱
- ۱۰۶۶۸ سیاہ خضاب کی شرعی حیثیت ۶۰۳
- ۱۰۶۶۹ بیوی کو خوش کرنے کے لئے امام صاحب کا خضاب لگانا ۶۰۸
- ۱۰۶۷۰ داڑھی پر سیاہ خضاب لگانے کا حکم ۶۰۹
- ۱۰۶۷۱ بیوی کی خوشنودی کے لئے کالا خضاب لگانا ۶۱۰
- ۱۰۶۷۲ شوہر کو خوش کرنے کے لئے بیوی کا خضاب لگانا ۶۱۱
- ۱۰۶۷۳ سخت کھجلی کی بناء پر سر میں کالا خضاب لگانا ۶۱۲
- ۱۰۶۷۴ کیا غیر شادی شدہ نوجوان کالا خضاب لگا سکتا ہے؟ ۶۱۳
- ۱۰۶۷۵ رشتہ کی غرض سے داڑھی اور بالوں میں کالا خضاب لگانا ۶۱۴
- ۱۰۶۷۶ کن چیزوں سے موئے زیر ناف کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ ۶۱۵
- ۱۰۶۷۷ مرد کے لئے بال صفا اشیاء استعمال کرنے کا حکم ۶۱۶
- ۱۰۶۷۸ مردوں کے لئے زیر ناف بال صاف کرنے کے لئے کیمیکل استعمال کرنے کا حکم ۶۱۷

- ۱۰۶۷۹ عورت موئے زیر ناف کیسے صاف کرے؟ ۶۱۸
- ۱۰۶۸۰ زیر ناف و نعل کے بال نندی نالے میں پھینکنا ۶۱۸
- ۱۰۶۸۱ بچہ کے سر پر جو بال ماں کے پیٹ سے آتے ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ ۶۱۹
- ۱۰۶۸۲ عورتوں کے بال خرید کر چوٹی بنا کر بیچنا ۶۲۰
- ۱۰۶۸۳ وگ لگانے کا شرعی حکم ۶۲۱

□	۷ / باب ما يتعلق باللحیة	□
---	--------------------------	---

- ۱۰۶۸۴ داڑھی کی شرعی حیثیت اور اس کی حد ۶۲۵
- ۱۰۶۸۵ داڑھی کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ ۶۲۷
- ۱۰۶۸۶ ایک مشمت داڑھی رکھنا واجب ہے یا سنت؟ ۵۲۹
- ۱۰۶۸۷ داڑھی کی واجب مقدار ۵۳۰
- ۱۰۶۸۸ کیا داڑھی رکھنا دلیل قطعی سے ثابت ہے؟ ۶۳۲
- ۱۰۶۸۹ داڑھی کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ ۶۳۳
- ۱۰۶۹۰ داڑھی کی حد بندی کا حدیث سے ثبوت ۶۳۵
- ۱۰۶۹۱ کیا حدیث شریف میں داڑھی کی مقدار کی کوئی حد بندی نہیں ہے؟ ۵۳۶
- ۱۰۶۹۲ شرعی داڑھی کی تحقیق ۶۳۷
- ۱۰۶۹۳ داڑھی کی شرعی مقدار اور اس میں خضاب کا مسئلہ ۶۴۰
- ۱۰۶۹۴ صرف ہڈی پر داڑھی رکھنے کا حکم ۶۴۲
- ۱۰۶۹۵ داڑھی بچہ کے کاٹنے کا حکم ۶۴۴
- ۱۰۶۹۶ داڑھی بھر کر آئے اس نیت سے کترنا کیسا ہے؟ ۶۴۵
- ۱۰۶۹۷ داڑھی کے بال اگانے کے لئے استرا پھرانا ۶۴۵

- ۱۰۶۹۸ عورتوں کو داڑھی یا موچ نکل آئے تو کاٹنا کیسا ہے؟ ۶۴۶
- ۱۰۶۹۹ داڑھی ایک مشمت سے زائد کاٹنا اور گولائی کرنا ۶۴۷
- ۱۰۷۰۰ داڑھی کے بال توڑ کر پھینکنے کی حکمت ۶۴۹
- ۱۰۷۰۱ رخسار اور حلق کے بال منڈانا ۶۵۰
- ۱۰۷۰۲ داڑھی موٹو وانا کیسا ہے؟ ۶۵۰
- ۱۰۷۰۳ داڑھی ہوتے ہوئے کوئی غلط کام ہو جانے کے خوف سے داڑھی نہ رکھنا ۶۵۱
- ۱۰۷۰۴ جس کمپنی میں داڑھی کی اجازت نہ ہو، اس میں ملازمت ۶۵۳
- ۱۰۷۰۵ داڑھی رکھنے کی وجہ سے نوکری سے نکالنے لگے تو کیا حکم ہے؟ ۶۵۴
- ۱۰۷۰۵ سرحد پار کرنے کے لئے داڑھی منڈوانے کی گنجائش ۶۵۵
- ۱۰۷۰۵ داڑھی موٹو وانا لے نائی کی اجرت کا جواز ۶۵۶



فہرست مضامین

۴۱/ بقیۃ کتاب الحظر والإباحۃ

□	۸/ باب: کھانے کی سنتوں اور آداب وغیرہ کا بیان	□
صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۷ کھانا کھانے کے لئے بیٹھنے کا سنت طریقہ	۱۰۷۰۶
۳۸ کھانا کھانے کا مسنون طریقہ	۱۰۷۰۷
۳۹ کیا اکڑ و بیٹھ کر کھانا حضور ﷺ سے ثابت ہے؟	۱۰۷۰۸
۴۱ حضور ﷺ کھانے میں پانی کس وقت پیتے تھے؟	۱۰۷۰۹
۴۲ میز و کرسی پر کھانا، کھانا	۱۰۷۱۰
۴۵ کھڑے ہو کر کھانا پینا	۱۰۷۱۱
۴۶ کھڑے ہو کر کھانا پینا کیسا ہے؟	۱۰۷۱۲
۵۰ تین انگلیوں سے کھانا کب مسنون؟	۱۰۷۱۳
۵۱ کیا کھانے کی ابتداء و انتہا نمک پر کرنا مسنون ہے؟	۱۰۷۱۴
۵۲ نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک سے ختم کرنے کا حکم	۱۰۷۱۵
۵۳ سر ڈھانک کر کھانا کھانا کیسا ہے؟	۱۰۷۱۶
۵۴ کھاتے وقت سر ڈھانکنا کیسا ہے؟	۱۰۷۱۷
۵۵ ٹوپی پہن کر کھانا کھانا	۱۰۷۱۸

- ۱۰۷۱۹ خور و نوش کے وقت سر ڈھا تکنا ۵۵
- ۱۰۷۲۰ کھانا کھانے اور پانی پینے کے وقت سر ڈھا تکنا ۵۶
- ۱۰۷۲۱ پانچوں انگلیوں سے کھانا کھانے کی صورت میں چاٹنے کی ترتیب ۵۷
- ۱۰۷۲۲ کھانے کے بعد دانتوں کو صاف کر کے اس پانی کو نگلنا ۵۸
- ۱۰۷۲۳ کھانے کے بعد پلیٹ میں کھانا چھوڑنا ۵۹
- ۱۰۷۲۴ کھائے ہوئے برتن میں ہاتھ دھونے کا حکم ۶۰
- ۱۰۷۲۵ کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے؟ ۶۲
- ۱۰۷۲۶ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ۶۳
- ۱۰۷۲۷ سب سے افضل ترین پانی کونسا ہے؟ ۶۵
- ۱۰۷۲۸ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ۶۶
- ۱۰۷۲۹ دایاں ہاتھ شربہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانا نکالنا .. ۶۷
- ۱۰۷۳۰ پھل وغیرہ کو چاقو سے کاٹ کر کھانا ۶۸
- ۱۰۷۳۱ بائیں ہاتھ سے کھانا ۶۹

□	۹ باب: حلال و حرام اشیاء کا بیان	□
---	----------------------------------	---

- ۱۰۷۳۲ کونسا سرکہ کھانا سنت ہے؟ ۷۰
- ۱۰۷۳۳ ڈالڈالگی کا استعمال ۷۱
- ۱۰۷۳۴ کولگیٹ کا استعمال کرنا ۷۱
- ۱۰۷۳۵ پارلے جی بسکٹ کا کھانا ۷۲
- ۱۰۷۳۶ اجیر کی مٹھائی کا حکم ۷۳

- ۱۰۷۳۷ دودھ پھاڑ کر گلاب جامن بنانا ۷۴
- ۱۰۷۳۸ اللہ لکھے ہوئے آلو کا کیا کریں؟ ۷۵
- ۱۰۷۳۹ گھر کا بچا ہوا کھانا خا کر وب کو دینا ۷۶
- ۱۰۷۴۰ کھانے میں کیڑے یا میٹھی کا نکلنا ۷۷
- ۱۰۷۴۱ کھانے کی چیز میں جانفل اور دیگر نشہ آور چیز ڈالنا ۷۸
- ۱۰۷۴۲ مضطر نے اگر اکل حرام کے ذریعہ جان نہیں بچائی، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ .. ۷۹
- ۱۰۷۴۳ ہوائی جہاز کی چیزوں کا کھانا کیسا ہے؟ ۸۰
- ۱۰۷۴۴ ہوائی جہاز کی طرف سے ملنے والے ہوٹلوں کے کھانے کا حکم ۸۱
- ۱۰۷۴۵ غیر ممالک کے پیکٹ کا گوشت ۸۲
- ۱۰۷۴۶ تمباکو استعمال کرنے والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حلال ہے؟ ... ۸۳
- ۱۰۷۴۷ مدارس اسلامیہ میں آنے والے گوشت کا کھانا ۸۴
- ۱۰۷۴۸ یتیم خانے کا کھانا خرید کر کھانا ۸۵
- ۱۰۷۴۹ غیر مسلم کے یہاں میت کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ ۸۶
- ۱۰۷۵۰ غیر مسلم کا پکایا ہوا گوشت کھانا ۸۶
- ۱۰۷۵۱ غیر مسلم قصاب سے مسلمانوں کا گوشت خرید کر کھانا کیسا ہے؟ ۸۷
- ۱۰۷۵۲ ہندو کی دوکان سے مٹھائی خریدنا ۸۸
- ۱۰۷۵۳ غیر مسلم کے ہوٹل میں گوشت کھانا ۸۹
- ۱۰۷۵۴ غیر مسلم ہوٹل کے مسلم کارندے حلال گوشت کی خریدیں تو؟ ۹۰
- ۱۰۷۵۵ غیر مسلم کے جس ہوٹل میں مسلم وغیر مسلم دونوں کارندے ہوں ۹۰
- ۹۱ وہاں گوشت کھانا ۹۱

- ۱۰۷۵۶ غیر مسلم ہوٹلوں میں گوشت کے علاوہ دیگر اشیاء سبزی وغیرہ کھانا ۹۲
- ۱۰۷۵۷ کھانے پینے کی اشیاء میں سور کی چربی ملی ہونے کے نوٹس کا حکم ۹۴
- ۱۰۷۵۸ E کوڈ کی شرعی حیثیت ۹۶
- ۱۰۷۵۹ E کوڈ کا شرعی حکم ۹۸
- ای-کوڈ (E-Code) میں پوشیدہ ہیں کئی گہرے راز ۱۰۰
- ۱۰۷۶۰ مردار بکری یا مرغی غیر مسلم کو کھانے کے لئے دینے کا حکم ۱۰۳

□	۱۰/ باب: حلال و حرام جانور	□
---	----------------------------	---

- ۱۰۷۶۱ حلال جانوروں کو کھانے کا حکم کب نازل ہوا؟ ۱۰۴
- ۱۰۷۶۲ حلال جانور پر ”جلالہ“ کا حکم کب لگتا ہے؟ ۱۰۵
- ۱۰۷۶۳ جلالہ جانور کو بندر کھ کر پاک غذا کھلانے کا حکم و جو بی ہے یا استخبابی؟ .. ۱۰۷
- ۱۰۷۶۴ طوطا، مینا حلال ہے اور ان کا کھانا جائز ہے ۱۰۹
- ۱۰۷۶۵ امریکن گائے ۱۱۱
- ۱۰۷۶۶ سمک طانی ۱۱۲
- ۱۰۷۶۷ خنزیر کے اجزاء کھا کر پرورش پانے والی مچھلیوں کا حکم ۱۱۳
- ۱۰۷۶۸ ناپاک غذا کھانے والی مچھلی کا حکم ۱۱۵
- ۱۰۷۶۹ گندگی سے پرورش پانے والی مچھلیوں کا کھانا ۱۱۶
- ۱۰۷۷۰ کیا حرام غذا سے پرورش شدہ مچھلیوں کا کھانا حلال ہے؟ ۱۱۷
- ۱۰۷۷۱ لاوارث جانور کا حکم ۱۱۹
- ۱۰۷۷۲ کونسا کو کھانا حلال ہے؟ ۱۲۰

- ۱۲۱ ۱۰۷۷۳ مسلک شافعی میں کچھوا کھانے کا حکم
- ۱۲۲ ۱۰۷۷۴ جھینگا اور کیکڑا حلال ہے یا نہیں؟
- ۱۲۳ ۱۰۷۷۵ مارماہی
- ۱۲۳ ۱۰۷۷۶ ’جھینگا مچھلی نہیں‘ ائمہ اربعہ اور اکابر دیوبند کا کیا موقف ہے؟
- ۱۲۵ ۱۰۷۷۷ جھینگا مچھلی کی حلت و حرمت سے متعلق علماء احناف کا راجح قول
- ۱۲۶ ۱۰۷۷۸ جھینگا مچھلی کا حکم
- ۱۲۷ ۱۰۷۷۹ دریائی جھینگا کا حکم
- ۱۲۹ ۱۰۷۸۰ جھینگہ کے متعلق ایک تحقیقی فتویٰ
- ۱۳۶ ۱۰۷۸۱ خنزیر کے دودھ سے پرورش شدہ بکری کے بچے کا حکم
- ۱۳۸ ۱۰۷۸۲ ناپاک اور پاک چارادونوں کھانے والے جانور کا حکم
- ۱۳۹ ۱۰۷۸۳ بکری اور کتا، اسی طرح سورا اور بکری کا اختلاط سے پیدا شدہ بچے کا حکم
- ۱۴۰ ۱۰۷۸۴ دانہ سے پرورش شدہ مرغیوں کا کھانا
- ۱۴۱ ۱۰۷۸۵ انسان کے براز کھانے والے مرغ کا حکم
- ۱۴۲ ۱۰۷۸۶ ابھی ابھی انسان کا براز جس مرغ نے کھایا اس کا حکم؟
- ۱۴۳ ۱۰۷۸۷ عام غذا دانہ وغیرہ ہوں اور ساتھ میں خنزیر کے اجزاء بھی کھلائے تو کیا حکم؟

□	۱۱ / باب الإنسفاع بالحيوانات	□
---	------------------------------	---

- ۱۴۵ ۱۰۷۸۸ گائے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟
- ۱۴۶ ۱۰۷۸۹ ولادت کے فوراً بعد گائے کے دودھ کا حکم
- ۱۴۶ ۱۰۷۹۰ انجکشن کے ذریعہ جانوروں سے دودھ حاصل کرنا

- ۱۰۷۹۱ انجکشن کے ذریعہ بھینس کا دودھ نکالنا ۱۴۷
- ۱۰۷۹۲ جرسی گائے کا دودھ اور گوشت کھانا ۱۴۷
- ۱۰۷۹۳ امریکن گائے کے دودھ کا حکم ۱۴۸
- ۱۰۷۹۴ امریکن گائے کا دودھ اور گوشت حلال ہے؟ ۱۴۹
- ۱۰۷۹۵ مری ہوئی مرغی کا انڈا ۱۵۰
- ۱۰۷۹۶ جس مرغی کا مرنے کے ساتھ اختلاط نہ ہو اس کا انڈا ۱۵۰
- ۱۰۷۹۷ کتیا کا دودھ پینے والے گائے کے بچے کے گوشت کا حکم ۱۵۱
- ۱۰۷۹۸ جس گائے سے زنا کیا گیا، تو اس کو کیا جائے ۱۵۲
- ۱۰۷۹۹ بکری کا وہ بچہ جس کا سرکتے اور بقیہ دھڑ بکری کی طرح ہو اس کا کھانا ۱۵۳
- ۱۰۸۰۰ حلال جانوروں کے خصیتین کا کھانا ۱۵۵
- ۱۰۸۰۱ بکرے کے خسیوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا ۱۵۶
- ۱۰۸۰۲ چھوٹی مچھلی کو آلائش سمیت بھون کر کھانا ۱۵۷
- ۱۰۸۰۳ مرغ یا بلیخ کی کھال کھانا ۱۵۸
- ۱۰۸۰۴ مرغ یا بلیخ ذبح کرنے کے بعد بال ختم کرنے کے لئے گرم پانی میں ڈالنا ۱۵۸
- ۱۰۸۰۵ مرغی ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالنا ۱۵۹
- ۱۰۸۰۶ جس مرغی کو ذبح کر کے گرم پانی میں ڈال دیا جائے اس کا کھانا ۱۶۰
- ۱۰۸۰۷ جس کھانے میں خنزیر کے بال نکل آئیں وہ حلال ہے یا حرام؟ ۱۶۱
- ۱۰۸۰۸ حرام مغز کا حکم ۱۶۲
- ۱۰۸۰۹ ماء کول اللحم کی اوجھڑی کا حکم ۱۶۳

- ۱۰۸۱۰ حلال جانور کی انتہائی حلال ۱۶۳
- ۱۰۸۱۱ حلال جانور کے حرام اجزاء اور حرام مغز کا حکم ۱۶۵
- ۱۰۸۱۲ مرغ کے اندر کیا کیا چیزیں حرام یا مکروہ ہیں ۱۶۶
- ۱۰۸۱۳ حرام مغز اور پیٹھ کی ہڈی حلال ہے یا حرام ۱۶۷
- ۱۰۸۱۴ حرام مغز اور غدود و ونوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ ۱۶۸
- ۱۰۸۱۵ حلال جانوروں میں کیا کیا حرام ہیں؟ ۱۷۲
- ۱۰۸۱۶ حلال جانوروں کے سات اعضاء کا حکم ۱۷۳
- ۱۰۸۱۷ کرش و امعاء کی حلت و حرمت کا حکم ہے ۱۷۴
- ۱۰۸۱۸ حلال جانور کی کھال گوشت کے ساتھ استعمال کرنا ۱۸۰
- ۱۰۸۱۹ مردار جانور کی ہڈی اور کھال فروخت کرنا ۱۸۰
- ۱۰۸۲۰ حرام جانوروں کے اجزاء سے مرغی کی غذا تیار کرنا ۱۸۱
- ۱۰۸۲۱ مذبوہ جانوروں کے خون سے کھادا اور مچھلیوں کی غذا بنانا ۱۸۲
- ۱۰۸۲۲ خنزیر کے بالوں سے تیار شدہ برش کا استعمال ۱۸۷
- ۱۰۸۲۳ خنزیر کی رقم سے اپنی ضروریات پوری کرنا ۱۸۸

□	۱۲ / باب ما یحل قتله و ما لا یحل	□
---	----------------------------------	---

- ۱۰۸۲۴ کن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے؟ ۱۹۰
- ۱۰۸۲۵ ٹوکری میں بند کرنے کی وجہ سے بلی مرگئی ۱۹۱
- ۱۰۸۲۶ بلا قصد جھاڑو سے چیونٹیاں مرجائیں تو کیا حکم ہے؟ ۱۹۳

- ۱۰۸۲۷ گاندھلی کو آگ سے جلانا ۱۹۳
- ۱۰۸۲۸ مکڑی مارنے کا حکم ۱۹۴
- ۱۰۸۲۹ مچھروں کو الیکٹرک بیٹ سے مارنا کیسا ہے؟ ۱۹۵

□	۱۳ / باب الخمر والدخان	□
---	------------------------	---

- ۱۰۸۳۰ شراب پینا کیسا ہے؟ ۱۹۷
- ۱۰۸۳۱ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام کا مطلب اور بیڑی وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ ... ۱۹۷
- ۱۰۸۳۲ غیر مسکر شراب کے استعمال کا حکم ۱۹۹
- ۱۰۸۳۳ بیڑ بنانے، فروخت کرنے اور پینے کا حکم ۲۰۱
- ۱۰۸۳۴ فروٹ بیڑ کے استعمال کا حکم ۲۰۲
- ۱۰۸۳۵ حلال اشیاء سے بنی ہوئی اسپرٹ کا حکم ۲۰۳
- ۱۰۸۳۶ تاڑی کی حرمت کا ثبوت ۲۰۴
- ۱۰۸۳۷ مسلمان کا اپنے ڈھابہ میں شراب پینے کی اجازت دینے کا حکم ۲۰۵
- ۱۰۸۳۸ الکحل اور سینٹ کا حکم ۲۰۶
- ۱۰۸۳۹ کیا شراب، پیدشاب، سود، اور لحم خنزیر کی حرمت برابر ہے؟ ۲۰۷
- ۱۰۸۴۰ شراب پینا یا خنزیر کا گوشت کھانا ۲۰۸
- ۱۰۸۴۱ شراب کی بوتل بیچنے والے کی آمدنی کا حکم ۲۰۹
- ۱۰۸۴۲ تمباکو و سگریٹ نوشی کا حکم ۲۱۰
- ۱۰۸۴۳ گٹھ کا کھانا ۲۱۱

- ۱۰۸۴۴ گل منجن کرنا ۲۱۲
- ۱۰۸۴۵ پیپسی، تھمس اپ، وغیرہ کو لڈرنگ کا استعمال کیسا ہے؟ ۲۱۲
- ۱۰۸۴۶ موجودہ دور میں پیپسی، کوکا کولا وغیرہ مشروبات کا استعمال ۲۱۳

□	۱۳ / باب في الهدايا والضيافات	□
---	-------------------------------	---

- ۱۰۸۴۷ کھانے کے دوران آنے والے فقیر کی ضیافت ۲۱۵
- ۱۰۸۴۸ شادی کی تقریب میں شرکت ۲۱۶
- ۱۰۸۴۹ شراپیوں کو اپنے ہوٹل میں کھانا کھلانا ۲۱۷
- ۱۰۸۵۰ جھاڑ دینے والے کا جھوٹا کھانا ۲۱۸
- ۱۰۸۵۱ حجام کی دعوت اور قربانی میں شرکت کا حکم ۲۱۸
- ۱۰۸۵۲ نائی کی کمائی سے دعوت قبول کرنا ۲۲۰
- ۱۰۸۵۳ خریداروں کو مدعو کر کے بطور ضیافت مٹھائی اور کلنڈر دینا ۲۲۱
- ۱۰۸۵۴ بقایا رقم کی وصولی کے لئے خریداروں کی دعوت کرنا ۲۲۳
- ۱۰۸۵۵ دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرنے والے کے یہاں کھانا کھانا ۲۲۴
- ۱۰۸۵۶ بینک میں فکس ڈپوزٹ کرنے والوں کی دعوت قبول کرنا ۲۲۶
- ۱۰۸۵۷ جس کی اکثر کمائی حلال ہو اسکے یہاں کھانا کھانا ۲۲۷
- ۱۰۸۵۸ محنت سے تعلق قائم کرنے، اور ان کی دعوت قبول کرنے کا حکم ۲۲۸
- ۱۰۸۵۹ جس کی کمائی حرام ہو اس کے یہاں دعوت کھانا ۲۲۹
- ۱۰۸۶۰ مردار کی کھال و ہڈی فروخت کرنے والے کی دعوت و امامت کا حکم .. ۲۳۱

- ۱۰۸۶۱ متقی شخص کے لئے حرام آمدنی والے کی دعوت قبول کرنا ۲۳۲
- ۱۰۸۶۲ حرام کمائی کرنے والے کا حلال رقم سے مہمان نوازی کرنا ۲۳۳
- ۱۰۸۶۳ سود کھانے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم ۲۳۵
- ۱۰۸۶۴ خنزیر کے بالوں کا برش بنانے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم ۲۳۶
- ۱۰۸۶۵ کیا مسلمان کیلئے غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ۲۳۷
- ۱۰۸۶۶ کیا ہولی اور دیوالی کی مٹھائی مسلمان کھا سکتے ہیں؟ ۲۳۸
- ۱۰۸۶۷ دیوالی میں غیر مسلم کا تحفہ مٹھائی وغیرہ قبول کرنا ۲۳۹
- ۱۰۸۶۸ کیا بھنگی کے گھر کھانا کھانا دھوبی کے گھر کھانا کھانے سے بہتر ہے؟ .. ۲۴۰
- ۱۰۸۶۹ بطور ہدیہ موبائل میں ریچارج کرانا ۲۴۱

□	۱۵ / باب الموالات مع الکفار	□
---	-----------------------------	---

- ۱۰۸۷۰ کفار کے یہاں کون سی چیز حلال یا حرام ہے اس کی تحقیق کا حکم ۲۴۳
- ۱۰۸۷۱ ہندو مسلم کا ایک دوسرے کو تہواروں پر ہدیہ دینا ۲۴۴
- ۱۰۸۷۲ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان سے مٹھائیاں لینا ۲۴۵
- ۱۰۸۷۳ غیر مسلم سے انکے تہوار پر مٹھائی وغیرہ لینا ۲۴۷
- ۱۰۸۷۴ مسلم مزدور کا ہندو مالک سے اس کے تہوار پر ہدیہ قبول کرنا ۲۴۷
- ۱۰۸۷۵ دیوالی کے موقع پر غیر مسلم لڑکی کا مسلم لڑکے کو ٹینکہ لگانا ۲۴۹
- ۱۰۸۷۶ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا ۲۴۹

- ۱۰۸۷۷ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت اور مبارکباد کا حکم ۲۵۰
- ۱۰۸۷۸ انگریزوں کی طرح مکان کے افتتاح میں عالم کی شرکت ۲۵۱
- ۱۰۸۷۹ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ۲۵۲
- ۱۰۸۸۰ کافر کے جھوٹے ٹکے کا حکم ۲۵۵
- ۱۰۸۸۱ قادیانی بھائی سے میل جول رکھیں یا نہیں؟ ۲۵۶
- ۱۰۸۸۲ شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا کیوں ممنوع ہے؟ ۲۵۷
- ۱۰۸۸۳ حنیفوں کا شیعوں کے ساتھ کھانا پینا ۲۵۷
- ۱۰۸۸۴ غیر مسلم کو مستقل باورچی بنانے اور اپنے ساتھ کھلانے کا حکم ۲۵۸
- ۱۰۸۸۵ غیر مسلم کیلئے خنزیر و شراب کی خرید و فروخت کا حکم ۲۵۹
- ۱۰۸۸۶ ہندوؤں کے رہنماؤں کی شان میں کہے گئے اشعار کا حکم ۲۶۰
- ۱۰۸۸۷ غیر مسلموں سے تعلق کی حد ۲۶۲
- ۱۰۸۸۸ کافر کے گھر پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ۲۶۳
- ۱۰۸۸۹ ادھیوگ ویاپار پریشد منڈل سے تعلق رکھنے کا حکم ۲۶۳
- ۱۰۸۹۰ فساق و فجار کے ساتھ رہن سہن کا حکم ۲۶۷
- ۱۰۸۹۱ غیر مسلم کی چیپنگ کا جواب کس وقت دیا جائے گا؟ ۲۶۸
- ۱۰۸۹۲ گر جاگھر اور مندر کی امداد کرنے کا حکم ۲۶۹
- ۱۰۸۹۳ ہندوؤں کو چندہ دینا ۲۷۰
- ۱۰۸۹۴ کیا غیر مسلم مالدار غریب مسلمان کی امداد کر سکتا ہے؟ ۲۷۰
- ۱۰۸۹۵ مسلمان کا پرشاد کے چندہ میں شرکت کرنا ۲۷۱

- ۱۰۸۹۶ پوجا کے لئے چندہ دینا ۲۷۲
- ۱۰۸۹۷ غیر مسلم تنظیم کا مسلم لڑکی کی شادی بیاہ میں امداد کرنا ۲۷۳
- ۱۰۸۹۸ مندر کے لئے چندہ دینا ۲۷۴
- ۱۰۸۹۹ نمائش میں شرکت کا حکم ۲۷۵
- ۱۰۹۰۰ ہندو مسلم تہواروں کے موقعوں پر لگے میلے میں دوکان لگانا ۲۷۶
- ۱۰۹۰۱ غیر مسلم کے مذہبی سامان کی خرید و فروخت کرنا ۲۷۷
- ۱۰۹۰۲ ہندو ملازم کا دوکان میں پوجا کرنا ۲۷۹
- ۱۰۹۰۳ مسلم کا غیر مسلم کی رسومات میں شرکت کرنا ۲۷۹
- ۱۰۹۰۴ غیر مسلموں کی شادی بیاہ یا ان کے جنازہ میں شریک ہونا ۲۸۰
- ۱۰۹۰۵ غیر مسلم کی شادی و غم میں شرکت کرنا ۲۸۱
- ۱۰۹۰۶ غیر مسلم میت کو جلانے کے لئے جانا ۲۸۳
- ۱۰۹۰۷ مسلم و غیر مسلم کا ایک دوسرے کی میت میں شریک ہونا ۲۸۴
- ۱۰۹۰۸ عذر شدید کی بناء پر غیر مسلم کی لاش شمشان لے جانا اور اس کے گھر کھانا بھیجنا ۲۸۴
- ۱۰۹۰۹ غیر مسلم کے چڑھاوے کا حکم ۲۸۶
- ۱۰۹۱۰ میاں بیوی کا غیر مسلم دوستوں کے ساتھ مندر جانا ۲۸۸
- ۱۰۹۱۱ اگر دو وارے وغیرہ پر تیار کیا ہوا حلوہ کھانا کیسا ہے؟ ۲۸۹
- ۱۰۹۱۲ غیر مسلموں کے میلوں میں مسلمان کا دوکان لگانا ۲۹۰

اہل کتاب اور ان سے متعلق احکام کا تحقیقی جائزہ

- اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ ۲۹۱
- صابئین سے کون سی قوم مراد ہے؟ ۲۹۲
- موجودہ دور کے یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے مناکحت .. ۲۹۵
- دین محمدی کے نزول کے بعد پیدا ہونے والی قوم کا حکم ۲۹۸
- نسلی قادیانی بھی زندیق ۳۰۰
- کتابیہ عورت سے مناکحت میں دارالاسلام و دارالحرب کا فرق ۳۰۲
- دعوتی نقطہ نظر سے کتابیہ عورت سے نکاح کرنا ۳۰۵
- کیا ہندوں کے اوتار نبی تھے؟ اور ویدیں آسمانی کتابیں ہیں؟ ۳۰۶
- عیسائی اسکولوں میں تعلیم ۳۰۸
- کتابیہ اور مسلمہ کے درمیان برابری کا فرق ۳۱۰
- عیسائی مشنریز اداروں میں ملازمت ۳۱۲

□	۱۶ / باب المال الحرام و مصرفہ	□
---	-------------------------------	---

- ۱۰۹۱۳ مال حرام کا ایک لقمہ کھانے سے نماز کی قبولیت کا حکم ۳۱۵
- ۱۰۹۱۴ طالب علم کا اپنے ساتھی کی چیز بلا اجازت استعمال کرنا ۳۱۶
- ۱۰۹۱۵ مال حرام میں تعدی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ۳۱۷
- ۱۰۹۱۶ مالک معلوم نہ ہونے کی صورت میں چوری کے مال کا مصرف ۳۱۸
- ۱۰۹۱۷ زائد تول کے ذریعہ جمع شدہ رقم حلال نہیں ۳۱۹
- ۱۰۹۱۸ اسکول میں پروگرام کے حیلہ سے ڈرائیوروں سے جبراً روپیہ وصول کرنا .. ۳۲۰

□	۱۷/باب الأدب	□
۳۲۲	کتے کو بسم اللہ پڑھ کر روٹی دینا.....	۱۰۹۱۹
۳۲۳	امرد سے خدمت لینا.....	۱۰۹۲۰
۳۲۳	اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا.....	۱۰۹۲۱
۳۲۴	رات میں ناخن تراشنے کا حکم.....	۱۰۹۲۲
۳۲۵	کیا مجمع عام میں چھینکنے والے کا جواب دینا لازم ہے؟.....	۱۰۹۲۳
۳۲۶	کیا داہنی کروٹ پر ہی اٹھنا سنت ہے؟.....	۱۰۹۲۴
۳۲۷	قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا.....	۱۰۹۲۵
۳۲۷	غصہ کا علاج.....	۱۰۹۲۶
۳۲۸	دوسروں سے جسمانی خدمت لینے کے احکام.....	۱۰۹۲۷

معذوروں اور بوڑھوں کے حقوق کا تحقیقی جائزہ

- والدین کسی قدر کسب معاش پر قادر ہوں تو ان کا نفقہ اولاد پر لازم ہے یا نہیں؟ .. ۳۳۱
- عمر رسیدہ لوگوں کا نفقہ و علاج دوسروں پر کب واجب ہوگا؟ ۳۳۴
- صاحب ثروت والدین کا خرچہ اولاد پر نہیں..... ۳۳۵
- کسب معاش کے لئے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا .. ۳۳۷
- کیا عورت پر ساس، خسر کی خدمت لازم ہے؟ ۳۳۹
- کیا ماں باپ کی خدمت بیٹوں کی طرح بیٹیوں پر بھی واجب ہے؟ .. ۳۴۰
- نکاح ثانی کرنے پر اولاد کو رکاوٹ بننے کا حق نہیں..... ۳۴۳

- کیا اولاد کو باپ کی زندگی میں اپنے حق کے مطالبہ کا حق ہے؟ ۳۴۵
- عمر رسیدہ لوگوں کو ہسپتال میں داخل کر دینا ۳۴۶
- اجتماعی کفالت کے لئے زکوٰۃ جمع کرنا ۳۴۸
- عمر رسیدہ لوگوں کے لئے سرکاری مراعات سے فائدہ اٹھانا ۳۴۹

□	۱۸/باب اللہو واللعب	□
---	---------------------	---

- ۱۰۹۲۸ چھٹی کس دن منائیں اور کھیل کود کا حکم ۳۵۳
- ۱۰۹۲۹ کبوتر بازی کا حکم ۳۵۷
- ۱۰۹۳۰ پرندہ پالنا کیسا ہے؟ ۳۵۸
- ۱۰۹۳۱ تعلیمی تاش کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ ۳۵۹
- ۱۰۹۳۲ تفریحاً تاش کھیلنا ۳۶۰
- ۱۰۹۳۳ بغرض تفریح لوڈو کھیلنا ۳۶۱
- ۱۰۹۳۴ لوڈو اور کیرم بورڈ کھیلنا ۳۶۲
- ۱۰۹۳۵ کیرم کھیلنا ۳۶۳
- ۱۰۹۳۶ پتنگ بازی جائز ہے یا نہیں؟ ۳۶۴
- ۱۰۹۳۷ پتنگ کٹنے کے بعد اس میں لگے روپیہ کا مالک کون؟ ۳۶۵
- ۱۰۹۳۸ پتنگ کٹ جانے کے بعد اس کا مالک کون ہے؟ ۳۶۶
- ۱۰۹۳۹ مال کی ہارجیت کے بغیر شطرنج اور چوسر کھیلنا ۳۶۷
- ۱۰۹۴۰ کرکٹ، ہاکی، لوڈو، تاش وغیرہ کھیلنا ۳۶۸
- ۱۰۹۴۱ کرکٹ کھیل کا حکم ۳۶۹

- ۱۰۹۴۲ علماء و طلباء کا کرکٹ وغیرہ کھیلنا ۳۷۰
- ۱۰۹۴۳ کرکٹ سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۳۷۱
- ۱۰۹۴۴ انڈیا ٹیم کی جیت کے لئے دعا کرنا ۳۷۶

□	۱۹/باب استعمال الذهب والفضة وغیرها	□
---	------------------------------------	---

- ۱۰۹۴۵ مردوں کے لئے کن چیزوں میں چاندی کا استعمال جائز؟ ۳۷۸
- ۱۰۹۴۶ مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی کے نگینہ پر سونا استعمال کرنا ۳۷۹
- ۱۰۹۴۷ سونے کا ٹنگ لگی ہوئی انگوٹھی کے استعمال کا حکم ۳۸۰
- ۱۰۹۴۸ چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا ۳۸۱
- ۱۰۹۴۹ مرد کے لئے مختلف دھاتوں کی انگوٹھی پہننا ۳۸۲
- ۱۰۹۵۰ مرد کے لئے سونے چاندی کے بٹن کا استعمال ۳۸۳
- ۱۰۹۵۱ ایضاح المسائل کے ایک مسئلہ پر اعتراض کا جواب ۳۸۵
- ۱۰۹۵۲ ایضاح المسائل کے ”سونے چاندی کے بٹن لگانے“ والے مسئلہ پر اعتراض .. ۳۸۷
- ۱۰۹۵۳ جس کرتے میں سونے چاندی کے تار ہوں اس کا استعمال ۳۸۸
- ۱۰۹۵۴ مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا ۳۸۹
- ۱۰۹۵۵ مرد کے لئے سونے کی چیز استعمال کرنے کا حکم ۳۸۹
- ۱۰۹۵۶ عورتوں کا ناک میں زیور پہننا ثابت ہے یا نہیں؟ ۳۹۰
- ۱۰۹۵۷ عورت کے لئے پیر اور کان میں زیور پہننے کا جواز ۳۹۱
- ۱۰۹۵۸ عورتوں کے لئے کالے و سنہرے موتیوں کے ہار کے استعمال کا حکم ... ۳۹۲

۳۹۳	چٹکی اور بچھیا (زیور) پہننا	۱۰۹۵۹
۳۹۴	سونے و چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوٹھی کا حکم	۱۰۹۶۰
۳۹۵	لوہے کی انگوٹھی اور چین کا استعمال	۱۰۹۶۱
۳۹۶	سونے، چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوٹھی اور چین کا مسئلہ	۱۰۹۶۲
۳۹۸	..	سونے، چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی بنی انگوٹھی کے استعمال کا حکم	۱۰۹۶۳
۴۰۲	..	عورت کے لئے سونے، چاندی کے علاوہ دیگر دھات کا زیور استعمال کرنا	۱۰۹۶۴
۴۰۳	آرٹیفیشل زیورات کے استعمال کا حکم	۱۰۹۶۵
۴۰۴	معاشرہ میں رائج مختلف دھاتوں کے زیورات کا حکم	۱۰۹۶۶
۴۰۵	عورتوں کے لئے دیگر دھاتوں کے زیورات پہننا	۱۰۹۶۷
۴۰۷	عورت کے لئے چوڑی و مہندی کا استعمال	۱۰۹۶۸
۴۰۸	کیا بجنے والی چوڑی زیور ہے؟	۱۰۹۶۹
۴۰۹	سونے کا پانی چڑھی ہوئی گھڑی پہننا	۱۰۹۷۰
۴۰۹	سونے، چاندی کے پالش شدہ برتن کا استعمال	۱۰۹۷۱

□	۲۰ باب کسب الحلال والحرام	□
---	----------------------------------	---

۴۱۱	اللہ کے حکم کو توڑ کر روزی کمانا	۱۰۹۷۲
۴۱۲	وکالت کی اجرت حلال ہے یا حرام؟	۱۰۹۷۳
۴۱۲	ملکی قانون کی خلاف ورزی کے ساتھ تجارت	۱۰۹۷۴
۴۱۳	قانون کے خلاف ٹرک میں کیروسین ڈلوانا	۱۰۹۷۵

- ۱۰۹۷۶ گیس سلنڈر کو بلیک میں فروخت کرنا ۴۱۵
- ۱۰۹۷۷ دھوکہ کی تجارت کا حکم ۴۱۷
- ۱۰۹۷۸ سعودیہ عمرہ کی نیت سے جا کر ملازمت کرنے والے کی آمدنی کا حکم .. ۴۱۸
- ۱۰۹۷۹ عورت کی نوکری کا پیسہ شوہر کے لئے استعمال کرنا ۴۱۸
- ۱۰۹۸۰ معاشی تنگی کی وجہ سے عورتوں کا کام کرنا ۴۲۰
- ۱۰۹۸۱ جوان لڑکی کا لڑکے کیوں کو اسکول میں ایک ساتھ پڑھانا ۴۲۰
- ۱۰۹۸۲ پاندان بنانا ۴۲۲
- ۱۰۹۸۳ داڑھی مونڈنے والے نائی کی اجرت ۴۲۳
- ۱۰۹۸۴ نائی کی کمائی کا اخیر میں خرچ کرنے کا حکم ۴۲۴
- ۱۰۹۸۵ شرعی لباس کے ساتھ غیر شرعی لباس کی تجارت ۴۲۶
- ۱۰۹۸۶ درزی کے لئے فساق کا لباس سینا اور اس کی اجرت ۴۲۷
- ۱۰۹۸۷ ڈگری حاصل کئے بغیر ڈاکٹری کا پیشہ کرنا ۴۲۸
- ۱۰۹۸۸ ٹی وی کی مرمت کی اجرت حلال ہے یا حرام ۴۲۹
- ۱۰۹۸۹ ٹیلیوژن کی تجارت کی آمدنی حلال یا حرام؟ ۴۳۰
- ۱۰۹۹۰ ٹی وی، ریڈیو، موبائل وغیرہ کے سامان کا کاروبار کرنا ۴۳۲
- ۱۰۹۹۱ جعلی سرٹیفکیٹ سے حاصل شدہ نوکری کا پیشہ حلال یا حرام؟ ۴۳۳
- ۱۰۹۹۲ تصویر کشی کی اجرت حلال ہے یا نہیں؟ ۴۳۴
- ۱۰۹۹۳ بیڑی، سگریٹ کی تجارت اور اس کا پیشہ ۴۳۵

- ۱۰۹۹۴ جانوروں کو ادھیار پر دینا..... ۴۳۶
- ۱۰۹۹۵ جانوروں کو حاملہ کرانے کے لئے انجکشن لگوانا اور اس کی اجرت لینا... ۴۳۷
- ۱۰۹۹۶ غیر مسلم کی پوجا کی تصویریں فروخت کرنا ۴۳۸
- ۱۰۹۹۷ لہو و لعب کی اشیاء بنا کر کرایہ پر دینا ۴۳۹
- ۱۰۹۹۸ کم تنخواہ دیکر زیادہ پر دستخط کرانا ۴۴۰
- ۱۰۹۹۹ فسادات میں لوٹے ہوئے مال کی خرید و فروخت ۴۴۱
- ۱۱۰۰۰ غیر مسلم، مسلمان کو شراب و خنزیر کا پیسہ تحفہ میں دے تو کیا حکم؟ ۴۴۲
- ۱۱۰۰۱ نشہ آور چیز کا کاروبار و بلیک مارکنگ کا حکم ۴۴۳
- ۱۱۰۰۲ ٹیکسی سے شراہیوں کو شراب خانے لے جانا اور ان کو کمرے کرایہ پر دینا .. ۴۴۴
- ۱۱۰۰۳ مسلم مزدور کا سرکاری دفتر میں پھینکی ہوئی خالی شراب کی بوتل کو
دھل کر استعمال کرنا..... ۴۴۵
- ۱۱۰۰۴ مقدمہ کا خرچ اپنے فریق سے وصول کرنا..... ۴۴۶
- ۱۱۰۰۵ بکرے کے خصیتین کی فروختگی اور اس سے حاصل شدہ آمدنی کا حکم .. ۴۴۷
- ۱۱۰۰۶ حرام کمائی سے زندگی بسر کرنے کا حکم ۴۴۹
- ۱۱۰۰۷ چوری کے مال سے خریدی گئی حلال چیز کا دوسروں کے لئے استعمال
کرنے کا حکم..... ۴۵۰
- ۱۱۰۰۸ جوے کے پیسے سے خریدی گئی زمین کی پیداوار کا حکم ۴۵۱
- ۱۱۰۰۹ بینڈ باجہ فروخت کر کے اس کی رقم سے دوسرا کاروبار کرنا..... ۴۵۲

۴۵۲ غیر مسلم کے ہاتھوں فریم کی فروختگی کا حکم	۱۱۰۱۰
۴۵۳ پھولوں کے کاروبار کا شرعی حکم	۱۱۰۱۱
۴۵۵ کسی شخص کا ضامن بننے پر اجرت لینا	۱۱۰۱۲
۴۵۶ فرضی کارڈوں سے راشن وصول کرنا	۱۱۰۱۳

□	۲۱/باب المعاصی و التوبة	□
---	-------------------------	---

۴۵۸ بار بار گناہ بار بار توبہ	۱۱۰۱۴
۴۵۹ توبہ کے بعد سماج کا گناہ کی عار دلا کر نیچی نگاہ سے دیکھنا	۱۱۰۱۵
۴۶۰ اسراف اور ضرورت کی حد	۱۱۰۱۶
۴۶۱ اپنے پاس کسی کی برائی کرنے والے کو منع نہ کرنے والے کا حکم	۱۱۰۱۷
۴۶۲ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار	۱۱۰۱۸
۴۶۳ جان بوجھ کر نماز ترک کرنا	۱۱۰۱۹
 نکاح نہ کرنے کی وجہ سے معصیت میں مبتلا اولاد کے گناہ میں والدین	۱۱۰۲۰
۴۶۵ شریک ہیں یا نہیں؟	
۴۶۶ خودکشی	۱۱۰۲۱
۴۶۷ خودکشی اکبر الکبائر میں سے ہے	۱۱۰۲۲
۴۶۸ خودکشی کرنے کا گناہ خود اسی پر ہوگا	۱۱۰۲۳
۴۶۹ ڈاڑھی منڈانے اور زنا کرنے میں کونسا بڑا گناہ ہے؟	۱۱۰۲۴
۴۷۰ ثبوت شرعی کے بغیر محض الزام لگانے سے جرم ثابت نہیں ہوگا	۱۱۰۲۵

- ۱۱۰۲۶ مشترک لوگوں کے پیسوں کو اپنی ضروریات میں صرف کرنا ۴۷۲
- ۱۱۰۲۷ کیا دور حاضر کے مانگنے والوں کو دینا اعانت علی الحرام ہے ۴۷۳
- ۱۱۰۲۸ خوشحال کے لئے دست سوال دراز کرنا ۴۷۴
- ۱۱۰۲۹ نوکرانی کو باندی کا درجہ دیکر حلال سمجھنا ۴۷۵
- ۱۱۰۳۰ بچوں کی سال گرہ منانا ۴۷۶
- ۱۱۰۳۱ مختلف احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرنے والی عورت کا حکم ۴۷۷
- ۱۱۰۳۲ مسلم شخص کا ہندو کے ساتھ مندر جانا اور بے شری رام کہنا ۴۷۹
- ۱۱۰۳۳ ماتھے پر ٹیکہ لگانا ۴۸۱

□	۲۲/باب ما يتعلق بالسحر	□
---	------------------------	---

- ۱۱۰۳۴ جادو پر اعتما دکرنا ۴۸۳
- ۱۱۰۳۵ جادو گر ہونے کا الزام لگانا ۴۸۴
- ۱۱۰۳۶ جادو کرنا یا کرانا ۴۸۵
- ۱۱۰۳۷ سفلی عمل کرنا یا کروانا ۴۸۶
- ۱۱۰۳۸ جادو کروا کر دوسروں کو تکلیف پہونچانا ۴۸۷
- ۱۱۰۳۹ سحر کو ساحر پر لوٹانا ۴۸۸
- ۱۱۰۴۰ سحر کرنے کرانے اور سحر سے پیدا ہوئی بیہوشی کی حالت میں ۴۸۹
- دی گئی طلاق کا حکم ۴۸۹

□	۲۳ / باب الشعر و الغناء	□
۴۹۲ شعر و شاعری کا حکم	۱۱۰۴۱
۴۹۳ قوالی کا شرعی حکم	۱۱۰۴۲
۴۹۴ حضرت خواجہ جمیریؒ کی جانب قوالی کی نسبت	۱۱۰۴۳
۴۹۵ مروجہ قوالی اور کیمیائے سعادت کی شرائط	۱۱۰۴۴
۴۹۶ سماع کا جواز اور سیرت فخر العارفین، نامی کتاب کا حکم	۱۱۰۴۵
۴۹۷ غزل و نعت کو گانے کی آواز میں پڑھنا	۱۱۰۴۶
۴۹۸ قوالی یا گانا سننا	۱۱۰۴۷
۴۹۹ قوالی کروانے کا حکم	۱۱۰۴۸
۵۰۰ مزاروں پر عورتوں کا جانا، تو الیاں اور فحش باجے گانے کروانا	۱۱۰۴۹
۵۰۱ ناچنا گانا، ڈھول بجانا	۱۱۰۵۰
۵۰۲ ریڈیو پر گانا سننا	۱۱۰۵۱

□	۲۴ / باب جھوٹ، غیبت، چوری وغیرہ کا بیان	□
۵۰۴ جھوٹ بولنا	۱۱۰۵۲
۵۰۵ جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟	۱۱۰۵۳
۵۰۵ دوسرے کی بیوی سے زنا کرنا اور اس کے شوہر کے سامنے جھوٹی قسم کھانا	۱۱۰۵۴
۵۰۷ بیماری کی جھوٹی سند دکھا کر رخصت لینے اور تنخواہ کا حکم	۱۱۰۵۵
۵۰۸ غیبت کس کو کہتے ہیں؟	۱۱۰۵۶

- ۱۱۰۵۷ چغلی چوری کرنا ۵۰۹
- ۱۱۰۵۸ غیبت کرنے اور سننے والا دونوں گنہگار ہیں ۵۱۰
- ۱۱۰۵۹ انسدادِ فتنہ کے لئے کافر کی غیبت کرنا ۵۱۱
- ۱۱۰۶۰ غیبت کی وجہ سے بدن ہونا ۵۱۱
- ۱۱۰۶۱ علاماتِ نفاق کیا کیا ہیں؟ ۵۱۳
- ۱۱۰۶۲ دارالحرب میں بجلی چوری کرنا ۵۱۳
- ۱۱۰۶۳ بہو کا خسر کے زیورات چرانا ۵۱۴
- منجانب: دارالعلوم دیوبند ۵۱۸
- منجانب: مدرسہ شاہی مراد آباد ۵۱۸
- جواب ثانی استفتاء نمبر الف ۲۵/۱۴۵۲/۱۴۵۲ کا ہے ۵۱۹
- ۱۱۰۶۴ بلا ثبوت چوری کا الزام لگانا ۵۲۰
- ۱۱۰۶۵ خود پسندی اور تکبر کا حکم ۵۲۳
- ۱۱۰۶۶ کسی کے متعلق بدگمانی رکھنا ۵۲۴
- ۱۱۰۶۷ کسی شخص کو اس کی بیوی کے متعلق بدگمانی میں ڈالنا ۵۲۵
- ۱۱۰۶۸ حلف لینے کے بعد بھی بدگمانی کرنا ۵۲۶
- ۱۱۰۶۹ بدعہدی کرنا گناہ کبیرہ ہے ۵۲۷
- ۱۱۰۷۰ وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ ۵۲۹
- ۱۱۰۷۱ مدرسہ کے نام پر کم قیمت پر زمین خرید کر اپنے نام پر زیادہ قیمت میں بیچنا... ۵۳۰

- ۱۱۰۷۲ فراڈ کر کے اسکول کے نام پر حکومت سے رقم لینا ۵۳۲
- ۱۱۰۷۳ فرضی کاغذات رکھوا کر پیسہ لینا اور دھوکہ دینا ۵۳۴
- ۱۱۰۷۴ بیماری کا فرضی سرٹیفکیٹ پیش کرنا ۵۳۶
- ۱۱۰۷۵ ماموں کا وعدہ خلافی کرنا اور بھانجہ کو اس کی دوکان نہ دینا ۵۳۷
- ۱۱۰۷۶ وعدہ پورا نہ کرنے والا خدا کے یہاں مواخذہ دار ہوگا ۵۳۹
- ۱۱۰۷۷ اپنا امتحان دوسرے سے دلوانا ۵۴۰
- ۱۱۰۷۸ جوئے کے پیسے سے خریدی ہوئی اشیاء کا حکم ۵۴۱
- ۱۱۰۷۹ چوری سے جوئے، چپل بیچنا ۵۴۲
- ۱۱۰۸۰ سرکاری لکڑی کا استعمال کرنا ۵۴۴
- ۱۱۰۸۱ اپنے مدرسہ کے علاوہ دوسری جگہ کا کنٹیننٹ استعمال کرنا ۵۴۴
- ۱۱۰۸۲ مالک کا پتہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں روپیہ واپس کرنے کا طریقہ .. ۵۴۵

□	۲۵ / باب التصاویر	□
---	-------------------	---

- ۱۱۰۸۳ محض آنکھ بنانے سے تصویر کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ ۵۴۷
- ۱۱۰۸۴ جانوروں کی عکاسی بھی تصویر کے حکم میں ہے ۵۴۸
- ۱۱۰۸۵ سرکئی تصویر کے ذریعہ نماز کا مسنون طریقہ سکھانے کا حکم ۵۴۹
- ۱۱۰۸۶ اخبارات کی تصاویر کا حکم ۵۵۱
- ۱۱۰۸۷ فوٹو اسٹیٹ میں آنے والی تصویر کی شرعی حیثیت ۵۵۲

- ۱۱۰۸۸ فوٹو کھچوانا کب جائز ہے؟ ۵۵۳
- ۱۱۰۸۹ آئندہ ضرورت کی وجہ سے تصویر سازی کا حکم ۵۵۴
- ۱۱۰۹۰ جلسہ میں علماء کرام کی تصویر کھچوانے کی شرعی حیثیت ۵۵۵
- ۱۱۰۹۱ تقریبات اور جلسہ جلوس کی تصاویر کا حکم ۵۵۶
- ۱۱۰۹۲ نیک کاموں کی تصاویر اخبار میں شائع کرانا ۵۵۹
- ۱۱۰۹۳ داخلہ فارم کے لئے فوٹو بنوانا ۵۶۰
- ۱۱۰۹۴ شناختی کارڈ بنوانے کے لئے فوٹو کھچوانا ۵۶۱
- ۱۱۰۹۵ پاسپورٹ و داخلہ فارم وغیرہ کے لئے فوٹو کھچوانا ۵۶۲
- ۱۱۰۹۶ داخلہ امتحان کیلئے لڑکے و لڑکیوں کا فوٹو کھچوانا ۵۶۴
- ۱۱۰۹۷ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لئے تصویر کشی ۵۶۵
- ۱۱۰۹۸ کارٹون بنانے کا حکم ۵۶۶
- ۱۱۰۹۹ عورت کے نام رجسٹری کرانے میں تصویری اسٹامپ لگوانے کا حکم ... ۵۶۸
- ۱۱۱۰۰ فوٹو گرافی کی اجرت کا حکم ۵۶۹
- ۱۱۱۰۱ گڈے گڑیا کی شرعی حیثیت ۵۷۱
- ۱۱۱۰۲ چہرے والے آرڈر بنانا ۵۷۳
- ۱۱۱۰۳ لوہا، پیتل و دیگر دھات کی مورتیاں بنانے کا حکم ۵۷۳
- ۱۱۱۰۴ آرڈر باقی رکھنے کے لئے ایک آئٹم مجسم بنانا ۵۷۵
- ۱۱۱۰۵ پیتل کے جانور مورتی وغیرہ بنانے اور ان کی تجارت کا حکم ۵۷۵

□	۲۶ باب ٹیلی ویژن اور میڈیا	□
۵۷۷	دور حاضر میں ٹیلی ویژن کا حکم	۱۱۱۰۶
۵۷۸	ٹیلی ویژن کا پروگرام عکس ہے یا تصویر؟	۱۱۱۰۷
۵۷۹	بچوں کو ٹیلی ویژن اور ویڈیو سے منع کرنا	۱۱۱۰۸
۵۸۰	گھر میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن رکھنا	۱۱۱۰۹
۵۸۱	قومی و ملی ضرورت کے لئے ٹیلی ویژن میں پروگرام	۱۱۱۱۰
۵۸۲	دینی پروگرام کے لئے ٹیلی ویژن کا حکم	۱۱۱۱۱
۵۸۳	ٹی وی، میں اسلامی و غیر اسلامی پروگرام دیکھنا	۱۱۱۱۲
۵۸۴	ٹی وی پر حج کا پروگرام دیکھنا	۱۱۱۱۳
۵۸۵	ٹیلی ویژن میں حج کی فلم دیکھنا	۱۱۱۱۴
۵۸۶	کیوٹی وی پر دینی پروگرام دیکھنا	۱۱۱۱۵
۵۸۷	خبریں سننے کے لئے ٹی وی رکھنا	۱۱۱۱۶
۵۸۸	ٹیلی ویژن پر خبریں سننا	۱۱۱۱۷
۵۸۹	محض ڈسکوری کے لئے ٹی وی رکھنا	۱۱۱۱۸
۵۹۰	خبر یا دینی پروگرام کے لئے ٹی وی رکھنا	۱۱۱۱۹
۵۹۱	ٹیلی ویژن میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ دیکھنا	۱۱۱۲۰
۵۹۳	کرایہ دار ٹی وی چلائیں تو کیا اس کا گناہ مالک مکان پر بھی ہوگا	۱۱۱۲۱
۵۹۳	مدارس و مساجد کے پروگرام کی سی ڈی تیار کرنا	۱۱۱۲۲

۱۱۱۲۳	مستورات کو بچوں کا پروگرام اسکرین پر دکھانا	۵۹۵
۱۱۱۲۴	بیٹی کے جہیز میں ٹی وی دینا	۵۹۶
۱۱۱۲۵	تصویر سے متعلق مختلف مسائل کا حل	۵۹۷
۱۱۱۲۶	ٹی وی اور ٹیلیوژن کے گمراہ کن آثار	۵۹۹
۱۱۱۲۷	عکس اور تصویر کا ایک اور شرعی فرق	۶۰۴
۱۱۱۲۷	تصویر اور عکس کا ایک دوسرا فرق	۶۰۶
۱۱۱۲۷	ٹیلیوژن کے ڈبہ میں نظر آنے والی چیزیں تصویر ہیں یا عکس؟	۶۰۷
۱۱۱۲۸	خطیب کی تقریر کی ویڈیو کیسٹ	۶۰۹
۱۱۱۲۹	ویڈیو کیمرے کی کیسٹ	۶۱۱
۱۱۱۲۹	ویڈیو کیمرہ	۶۱۲
۱۱۱۲۹	فرموں اور فیکٹریوں میں کیمرہ	۶۱۳
۱۱۱۳۰	حریم شریفین کے ویڈیو کیمرے	۶۱۴
۱۱۱۳۰	حریم کے ویڈیو پروگرام کو ناجائز کہنے کی وجہ؟	۶۱۵
۱۱۱۳۱	ویڈیو کیمرے اور ویڈیو کیسٹ کا فرق	۶۱۷
۱۱۱۳۲	بغیر پائیلٹ کے ہوائی جہاز	۶۱۸
۱۱۱۳۳	تصویر کی حقیقت اور ٹیلیوژن میں تصویروں کا عکس	۶۱۹
۱۱۱۳۴	انٹرنیٹ اور کمپیوٹر	۶۲۴
۱۱۱۳۵	نصوص سے استدلال کیسے کریں؟	۶۲۴
۱۱۱۳۶	نصوص شرعیہ کی چار قسمیں	۶۲۵

۶۳۱	حدیث تصویر پر ایک نظر	۱۱۱۳۷
۶۳۲	ہر فی نفسہ جائز امر کو بروئے کار لانا جائز نہیں	۱۱۱۳۸
۶۳۴	نگاہوں کا زنا اور گناہ کبیرہ	۱۱۱۳۹
۶۳۷	أهون البلیتین وأخف المفسدین	۱۱۱۴۰
۶۴۰	جائز پروگرام بھی سد باب کے لئے ناجائز ہے	۱۱۱۴۱
۶۴۶	خطیب کی تقریر اور غیروں کے مفسدہ کا معارضہ	۱۱۱۴۲
۶۴۸	ٹیلی ویژن کے جسمانی نقصانات	۱۱۱۴۳
۶۴۹	حیا سوز حرکتوں سے آسمانی آفات	۱۱۱۴۴
۶۵۰	تجاویز: آٹھواں فقہی اجتماع ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیتہ علماء ہند	۱۱۱۴۵

□	۲۷ / باب الأسماء والکنی	□
---	-------------------------	---

۲۵۳	پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر پکارنا	۱۱۱۴۶
۲۵۵	مرحوم کے نام پر اولاد کا نام رکھنا	۱۱۱۴۷
۲۵۶	بچہ کا نام عبداللہ، عبدالرحمن رکھنا	۱۱۱۴۸
۲۵۷	(الف) عبدالسبحان، یا محمد سبحان نام رکھنا	۱۱۱۴۹
۲۵۸	(ب) عبدالسبحان نام رکھنا	۱۱۱۴۹
۲۶۱	’اصلاح الرحمن‘، وزارت اللہ دونوں ناموں کا تحقیقی جائزہ	۱۱۱۵۰
۲۶۲	کیا ارشد اللہ اور ارشد اللہ معنیاً صحیح ہیں؟	۱۱۱۵۱
۲۶۳	احمد نبی اور محمد نبی اور طالب نبی نام رکھنا	۱۱۱۵۲
۲۶۴	احمد نبی، محمد نبی نام رکھنا کیسا ہے؟	۱۱۱۵۳

- ۱۱۱۵۴ ثقلین اور حسنین نام رکھنا کیسا ہے؟ ۶۶۵
- ۱۱۱۵۵ ”محمد بشیر الدین احمد“ نام رکھنا ۶۶۶
- ۱۱۱۵۶ شبیر احمد کے معنی ۶۶۷
- ۱۱۱۵۷ نبیہ سرور نام کے تبدیل کرنے کا حکم ۶۶۸
- ۱۱۱۵۸ عبدالمطلب نام رکھنا ۶۷۰
- ۱۱۱۵۹ لفظ فوزان کی تحقیق ۶۷۰
- ۱۱۱۶۰ عظیم الشان نام رکھنا کیسا ہے؟ ۶۷۱
- ۱۱۱۶۱ صرف الدین، شرف الدین نام رکھنا ۶۷۲
- ۱۱۱۶۲ پرویز نام رکھنا کیسا ہے؟ ۶۷۳
- ۱۱۱۶۳ یزدان نام رکھنا ۶۷۴
- ۱۱۱۶۴ ارم نام رکھنا کیسا ہے؟ ۶۷۵
- ۱۱۱۶۵ آسیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ۶۷۶
- ۱۱۱۶۶ ”خورشیدہ“ نام رکھنا ۶۷۷
- ۱۱۱۶۷ کیا پروین نام اچھا نہیں ہے؟ ۶۷۸
- ۱۱۱۶۸ حافظ صاحب کو امیر حمزہ کے لقب سے پکارنا ۶۷۹
- ۱۱۱۶۹ احمد رضا کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا ۶۷۹
- ۱۱۱۷۰ نام کے ساتھ قاسمی، مظاہری وغیرہ لکھنا ۶۸۰
- ۱۱۱۷۱ نام کے ساتھ عثمانی، فاروقی، علوی وغیرہ لکھنا ۶۸۱
- ۱۱۱۷۲ مولانا احمد رضا اور مولانا مودودی کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا ۶۸۲

- ۱۱۱۷۳ کسی کو پاک یا مقدس کا لقب دینا ۶۸۳
- ۱۱۱۷۴ بچوں کو پیار میں لالہ، منی پیارے وغیرہ کہنا ۶۸۴
- ۱۱۱۷۵ کمہار کا آباء و اجداد کی طرف نسبت کر کے رشیدی، جمیدی لکھنا ۶۸۵
- ۱۱۱۷۶ گوشت کے پیش کی وجہ سے خود کو قریشی کہنا ۶۸۶
- ۱۱۱۷۷ دو مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو فرعون اور ابو جہل کہنا ۶۸۶
- ۱۱۱۷۸ ازراہ تفہیم کسی کو لنگڑا کا نا کہنا ۶۸۷
- ۱۱۱۷۹ لکڑی کا صندوق جس میں نام وغیرہ لکھے ہوں اس پر بیٹھنا ۶۸۸
- ۱۱۱۷۰ مدینہ منورہ کو یشرب کہنا ۶۸۹
- ۱۱۱۸۱ مزارات و شہر وغیرہ کے ساتھ شریف لگانا ۶۸۹
- ۱۱۱۸۲ کسی قوم و برادری کو حقیر سمجھنا ۶۹۰
- ۱۱۱۸۳ مولانا و اچ سروس کا بورڈ لگانا ۶۹۱
- ۱۱۱۸۴ دنیاوی مراعات کی وجہ سے قومیت بدلنا ۶۹۲
- ۱۱۱۸۵ قانونی مجبوری کی بناء پر خود کو دوسرے خاندان کی طرف منسوب کرنا .. ۶۹۳
- ۱۱۱۸۶ لے پالک لڑکی کی ولدیت میں اپنا نام لکھانا ۶۹۴
- ۱۱۱۸۷ یتیم بچی کی پرورش کرنے والے کا باپ کی جگہ اپنا نام لکھنا ۶۹۵

□	۲۸ باب الجوالۃ و الانترنیت	□
---	-----------------------------------	---

- ۱۱۱۸۸ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کے احکام ۶۹۷
- ۱۱۱۸۹ دین کی نشر و اشاعت کے لئے ٹی وی یا انٹرنیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ .. ۶۹۹

- ۱۱۱۹۰ انٹرنیٹ سے کتابیں لوڈ کرنے کا حکم ۷۰۰
- ۱۱۱۹۱ انٹرنیٹ پر کئے گئے نکاح کا حکم ۷۰۱
- ۱۱۱۹۲ موبائل فون سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۷۰۲
- ۱۱۱۹۳ ویڈیو کا لنگ کا شرعی حکم ۷۰۵
- ۱۱۱۹۴ موبائل میں گھنٹی کی جگہ قرأت وغیرہ لگانا ۷۰۶
- ۱۱۱۹۵ موبائل کی گھنٹی میں کلمہ طیبہ سیٹ کرنا ۷۰۷
- ۱۱۱۹۶ موبائل فون پر گھنٹی کے بجائے گانا بجانا ۷۰۸
- ۱۱۱۹۷ اسکرین پر کلمہ لگانے کی حالت میں موبائل بیت الخلاء میں لے جانا .. ۷۰۹
- ۱۱۱۹۸ عورتوں کا ٹیلیفون پر سلام وکلام کا حکم ۷۱۰

□	۲۹ باب المتفرقات	□
---	-------------------------	---

- ۱۱۱۹۹ حساب ۷۱۲
- ۱۱۲۰۰ چیل کو گوشت کھلانا صدقہ ہے؟ ۷۱۳
- ۱۱۲۰۱ وسیع پنجرہ میں کبوتر پالنا ۷۱۴
- ۱۱۲۰۲ اللہ اور رسول کے واسطے مسجد میں مانگنے والے کو ملا ہو مال کس کی ملک؟ ۷۱۴
- ۱۱۲۰۳ کیا ناپاک پانی کی اطلاع دینا ضروری ہے؟ ۷۱۶
- ۱۱۲۰۴ آپسی مسائل کو صلح و صفائی سے حل کرنا ۷۱۶
- ۱۱۲۰۵ نماز اور خارج نماز ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ لٹکانے کا شرعی حکم ... ۷۱۹



فہرست عنواں

صفحہ	۴۲ کتاب الوصیة	مسئلہ نمبر
۲۵	(۱) باب ما يتعلق بنفس الوصیة	
۲۵	وصیت کرنا کب واجب ہے؟ اور کب مستحب؟	۱۱۲۰۶
۲۶	عام حالات میں وصیت کرنے کی حیثیت	۱۱۲۰۷
۲۸	عام حالت میں وصیت کرنے کا حکم	۱۱۲۰۸
۲۹	وصیت کے ثبوت کی شرط	۱۱۲۰۹
۳۰	ضمناً وصیت سے رجوع کرنا	۱۱۲۱۰
۳۲	رضامندی کا اعتبار کس وقت ہے؟	۱۱۲۱۱
۳۳	وصیت نامہ رجسٹری نہ ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟	۱۱۲۱۲
۳۵	زبانی وصیت کی ایک جائز شکل	۱۱۲۱۳
۳۶	جعلی وصیت نامہ کو گرفت کرنے کی ایک شکل	۱۱۲۱۴
۳۸	زندگی میں وصیت کا تبصرہ نہ کرنے کا حکم	۱۱۲۱۵
۴۰	تعلیق بالشرط سے وصیت کا عدم بطلان	۱۱۲۱۶
۴۲	موصی کی زندگی میں موصی لہ کی موت	۱۱۲۱۷
۴۳	شیء موصی بہ کو اپنی ملکیت سے خارج کرنے کا حکم	۱۱۲۱۸
۴۴	قریب المرگ وصیت کرنا	۱۱۲۱۹
۴۶	(۲) باب ما يجوز من الوصایا و مالایجوز	
۴۶	اپنا کل مال فلاحی کاموں میں لگانا	۱۱۲۲۰
۴۶	وصی کا اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں دینا	۱۱۲۲۱

۴۷ جائیداد وقف کرنے کی صورت میں وصیت کا حکم	۱۱۲۲۲
۴۹ متوفیہ کی نماز، روزہ کے فدیہ اور حج بدل کی وصیت کا حکم	۱۱۲۲۳
۵۰ حج کے لیے بطور وصیت دیئے گئے روپیہ سے حج کرنا واجب ہے یا نہیں؟	۱۱۲۲۴
۵۱ وارث مسجد کے حق میں وصیت کا منکر ہوا اور گاؤں والے مدعی ہوں۔	۱۱۲۲۵
۵۲ مسجد کے لیے وصیت کردہ رقم کو مدرسہ میں لگانا	۱۱۲۲۶
۵۲ مسجد کے لیے کل مال کی وصیت کرنا	۱۱۲۲۷
۵۵ مسجد کے لیے کی گئی وصیت کا حکم	۱۱۲۲۸
۵۶ مسجد کے لیے ثلث مال سے زائد کی گئی وصیت کا حکم	۱۱۲۲۹
۵۸ مسجد کے لیے مکان کی وصیت کرنے کا حکم	۱۱۲۳۵
۶۰ عمرہ کرانے کی وصیت کا شرعی حکم	۱۱۲۳۱
۶۱ کنواں بنوانے کی وصیت	۱۱۲۳۲
۶۲ اپنے باغچے میں تدفین کی وصیت	۱۱۲۳۳
۶۳ قبر پر سورہ بقرہ پڑھنے کی وصیت	۱۱۲۳۴
۶۴ قطع تعلق کی وصیت کا شرعی حکم	۱۱۲۳۵
۶۴ والد کا بیٹے کو قطع تعلق کی وصیت کرنا	۱۱۲۳۶

۶۶	(۳) باب الوصیة بالثلث	
----	------------------------------	--

۶۶ ثلث مال میں وصیت کا نفاذ	۱۱۲۳۷
۶۷ وصیت صرف ثلث مال میں واجب العمل ہے	۱۱۲۳۸
۶۹ غیر وارث کے لیے ثلث مال میں وصیت کا نفاذ	۱۱۲۳۹
۷۰ کل جائیداد کی وصیت اپنی زوجہ کے نام	۱۱۲۴۰
۷۱ زندگی میں نوا سے کے نام کل مال کی وصیت کرنا	۱۱۲۴۱
۷۳ پوتوں کے لیے وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی	۱۱۲۴۲

۱۱۲۴۳	زندگی میں کسی ایک وارث کے نام کل ترکہ کی وصیت کر کے قبضہ دے دینے کا حکم	۷۴
(۴) باب الوصیۃ للأقرباء و غیرہم		
۱۱۲۴۴	شرعی حصص کے مطابق جائیداد تقسیم کرنے کی وصیت	۷۷
۱۱۲۴۵	جھگڑے سے بچانے کے لیے وراثت سے متعلق وصیت	۷۸
۱۱۲۴۶	مورث کی وفات کے بعد حصص شرعیہ کے مطابق کی گئی وصیت کا حکم	۷۹
۱۱۲۴۷	وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی	۸۱
۱۱۲۴۸	وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں	۸۲
۱۱۲۴۹	وارث کے لیے کی گئی وصیت کا حکم	۸۴
۱۱۲۵۰	وارث کے حق میں کی گئی وصیت کا شرعی حکم	۸۶
۱۱۲۵۱	اولاد کے حق میں والد کی وصیت	۸۷
۱۱۲۵۲	والدہ کا اپنا مکان کسی ایک اولاد کے نام وصیت کرنا	۸۹
۱۱۲۵۳	وارث بھیجتے کے حق میں وصیت کا حکم	۹۰
۱۱۲۵۴	صحرائی یا سلکنائی جائیداد کو کسی ایک وارث کے لیے وصیت کرنا	۹۱
۱۱۲۵۵	جب دوسرے ورثاء وصیت پر راضی نہ ہوں تو.....؟	۹۲
۱۱۲۵۶	وارث کے حق میں وصیت برضاد دیگر وارثین	۹۳
۱۱۲۵۷	بیوی کو قرضہ اور ادائیگی دین مہر کے لیے مکان کی وصیت	۹۴
۱۱۲۵۸	بیٹیوں کو چھوڑ کر صرف بیٹوں کے لیے وصیت کرنا	۹۵
۱۱۲۵۹	بیٹی کے حق میں وصیت کا حکم	۹۶
۱۱۲۶۰	دیگر ورثاء کی موجودگی میں محض بیٹی کے نام کل جائیداد کی وصیت	۹۸
۱۱۲۶۱	ماں کی وصیت کی بناء پر لڑکے کے کو محروم کرنے کا حکم	۹۹
۱۱۲۶۲	ماں کا کسی وارث کو حصہ نہ دینے کی وصیت کا شرعی حکم	۱۰۰

- ۱۰۱ بعض ورثاء کو بے دخل کر کے بعض کے حق میں وصیت کرنے کا حکم ۱۱۲۶۳
- کُل جائیداد ایک بیوی کی اولاد کے نام کر کے دوسرے کی اولاد کو
 ۱۰۳ محروم کرنے کا حکم ۱۱۲۶۴
- ۱۰۴ وارث کے حق میں وصیت کا مسئلہ اور بہن وراثت کی مستحق ۱۱۲۶۵
- ۱۰۶ تعلق بالوصیہ، نیز بیوی اور بھانجے کے لیے وصیت ۱۱۲۶۶
- ۱۰۸ بہو، لڑکے کو بہو اور وصیت کرنا ۱۱۲۶۷
- ۱۱۰ پوتوں کے حق میں کی گئی وصیت کا حکم ۱۱۲۶۸
- ۱۱۲ پوتوں کے حق میں دادا کی وصیت ۱۱۲۶۹
- ۱۱۶ نانا کی وصیت نواسے کے نام ہوئی یا نہیں؟ ۱۱۲۷۰
- ۱۱۸ نواسے کے نام وصیت ۱۱۲۷۱
- ۱۲۱ مرحوم اولاد کے لیے وصیت کرنے کا حکم ۱۱۲۷۲
- ۱۲۲ پوتی اور نواسی کے حق میں وصیت کا حکم ۱۱۲۷۳
- ۱۲۴ پوتی اور نواسی کے حق میں کی گئی وصیت کا شرعی حکم ۱۱۲۷۴
- ۱۲۵ مکان کے ایک تہائی حصہ کی وصیت بھائی کے نام ۱۱۲۷۵
- ۱۲۷ بھائی کے لیے کی گئی وصیت کا حکم ۱۱۲۷۶
- ۱۲۸ پرورش کرنے والی عورت کا حق دیور کے مال میں ہے یا نہیں؟ ۱۱۲۷۷
- ۱۲۹ وصیت کی ایک شکل کا حکم ۱۱۲۷۸
- ۱۳۱ مرض الموت میں وارث کے لیے وصیت کرنا ۱۱۲۷۹
- ۱۳۲ مرض الوفا میں کی گئی وصیت کا شرعی حکم ۱۱۲۸۰
- ۱۳۳ مرض الموت میں وقف کرنا وصیت کے درجے میں ہے ۱۱۲۸۱
- ۱۳۵ مرحوم کی وصیت صرف ثلث میں نافذ ہوگی بقیہ ترکہ شمار ہوگا ۱۱۲۸۲
- ۱۴۰ مرض الموت میں بہو کرنے کا حکم ۱۱۲۸۳
- ۱۴۲ وصیت سے متعلق چند سوالات کے جوابات ۱۱۲۸۴

۴۳ کتاب الفرائض		
۱۴۴	(۱) باب ما يتعلق بنفس الفرائض	
۱۴۴ شرعی تقسیم کا طریقہ کار	۱۱۲۸۵
۱۴۵ تقسیم وراثت میں امیر بنانے کا حکم	۱۱۲۸۶
۱۴۶ تقسیم شرعی معتبر ہے نہ کہ والد صاحب کی ہدایت تقسیم	۱۱۲۸۷
۱۴۷ غیر شرعی طریقہ پر تقسیم کی گئی جائیداد کا شرعی حکم	۱۱۲۸۸
۱۴۸ خلاف شرع تقسیم کا حکم	۱۱۲۸۹
۱۵۰ غلط تقسیم غیر معتبر ہے	۱۱۲۹۰
۱۵۱ کیا والد صاحب کی زندگی میں اپنی لڑکیوں کو وراثت دے سکتے ہیں؟	۱۱۲۹۱
۱۵۴ جھگڑے اور نقصان سے بچنے کے لیے زندگی میں تقسیم کرنا	۱۱۲۹۲
۱۵۶ زندگی میں وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا	۱۱۲۹۳
۱۵۸ والد صاحب کے انتقال کے بعد پہلے لڑکے کی شادی کریں یا ترکہ تقسیم کریں؟	۱۱۲۹۴
۱۵۹ تقسیم میں ملکیت کا اعتبار ہے نہ کہ قیمت کا	۱۱۲۹۵
۱۶۱ ترکہ کی تقسیم کس وقت کے اعتبار سے ہوگی؟	۱۱۲۹۶
۱۶۲ میراث کی ادائیگی میں کس دن کی قیمت کا اعتبار ہے؟	۱۱۲۹۷
۱۶۵ قرض اندازی کے ذریعہ مشترکہ موروثہ حصہ کی تعیین	۱۱۲۹۸
۱۶۶ میت کا قرض کون ادا کرے، نیز تقسیم جائیداد کے لیے قرض اندازی	۱۱۲۹۹
۱۶۸ موروثی مکان کو چھڑانے میں صرف شدہ رقم کا حکم	۱۱۳۰۰
۱۶۹ ایک وارث کے حصہ میں کم قیمت کی جائیداد آئے تو کیا حکم ہے؟	۱۱۳۰۱
۱۷۰ دو بھائیوں کے درمیان فرنٹ کے حصہ کی زمین کی تقسیم	۱۱۳۰۲
۱۷۲ بھائیوں کی آپسی تقسیم کے بعد بھتیجے کا بچا کی ملکیت میں دعویٰ کرنا	۱۱۳۰۳
۱۷۳ تین سوگڑ میں بنے دو منزلہ مکان کی دو لڑکوں کے درمیان تقسیم	۱۱۳۰۴

۱۷۴	تقسیم کے بعد دوسرے بھائی کی ملکیت میں حصہ داری کا دعویٰ	۱۱۳۰۵
۱۷۶	الاشاہ کی مشکل عبارت کا حل اور دو عورتوں کی میراث کا معامہ	۱۱۳۰۶
۱۷۸	صحیح شخص کی تفصیل	
۱۷۸	مریض شخص کی تفصیل	

۱۸۰	(۲) باب: میت کے قرض کا بیان	
-----	-----------------------------	--

۱۸۰	قرض کی ادائیگی کیلئے مکان کو فروخت کرنے سے اولاد کو روکنے کا حق نہیں	۱۱۳۰۷
۱۸۱	قرض کی ادائیگی تقسیم میراث پر مقدم ہے	۱۱۳۰۸
۱۸۲	اولاً قرض کی ادائیگی کی جائے اس کے بعد ترکہ تقسیم ہو	۱۱۳۰۹
۱۸۳	شوہر کے انتقال کے بعد مہر و جہیز کا حکم	۱۱۳۱۰
۱۸۴	دین مہر میں دیئے گئے مکان کی تقسیم	۱۱۳۱۱
۱۸۵	دین مہر بیوی کی ملک ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی	۱۱۳۱۲
۱۸۷	دین مہر میں ایک حصہ دینے کے بعد بقیہ حصوں میں وراثت کا مطالبہ کرنا ..	۱۱۳۱۳
۱۸۸	ادائے مہر کے بعد ہبہ کرنے کی اجازت ہے	۱۱۳۱۴
۱۸۹	مہر میں طے شدہ تین سو گرز زمین میں شوہر کے بھائی بہنوں کا حصہ	۱۱۳۱۵
۱۹۰	تقسیم ترکہ سے قبل زکوٰۃ نکالنا	۱۱۳۱۶
۱۹۲	میت کے متروکہ مال سے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا	۱۱۳۱۷
۱۹۳	حصص کی تقسیم صرف ترکہ میں ہوگی	۱۱۳۱۸
۱۹۵	ترکہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۱۳۱۹

۱۹۸	(۳) باب: ترکہ اور تقسیم	
-----	-------------------------	--

۱۹۸	متروکہ مال باپ کی ملکیت کہلائے گا یا بیٹی کی	۱۱۳۲۰
۱۹۹	والد اور لڑکے کی قیمت سے خریدے گئے مکان میں لڑکی کا حصہ ...	۱۱۳۲۱
۲۰۱	باپ کی ماتحتی میں رہ کر کمائے ہوئے سرمایہ کی اولاد مالک نہیں	۱۱۳۲۲

۲۰۲ مال مشترک کی تقسیم	۱۱۳۲۳
۲۰۳ مشترک کاروبار میں کسی شریک کے لگ سے کمائے ہوئے مال میں وراثت ..	۱۱۳۲۴
۲۰۵ والد اور اولاد کے مشترک مال کی والد کے انتقال کے بعد تقسیم	۱۱۳۲۵
۲۰۶ شرکت میں ملنے والا منافع مرحوم کے تمام شرعی ورثاء کا حصہ ہے ...	۱۱۳۲۶
۲۰۷ فروخت شدہ مکان میں وراثت جاری نہیں ہوگی	۱۱۳۲۷
۲۰۹ کیا فروخت شدہ جائیداد ترکہ ہے؟	۱۱۳۲۸
۲۱۱ مقبوضہ اور فروخت شدہ جائیداد کی قیمت ترکہ میں شامل ہوگی	۱۱۳۲۹
۲۱۳ شیء مرہون میں وراثت کا حکم	۱۱۳۳۰
۲۱۵ موہوبہ مکان میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۱۱۳۳۱
۲۱۶ مصلحتاً دوسرے کے نام سے خریدی گئی اشیاء ترکہ میں شامل ہوں گی ...	۱۱۳۳۲
۲۲۰ پرانی اور نئی جائیداد کی تقسیم	۱۱۳۳۳
۲۲۱ گھریا جائیداد میں درخت ہو تو اس کی تقسیم	۱۱۳۳۴
۲۲۲ کھیتی باڑی میں بہنوں کا بھی حق ہے	۱۱۳۳۵
۲۲۴ کیا بیوی کے حج کیلئے جمع کردہ رقم ترکہ میں شامل ہوگی؟	۱۱۳۳۶
۲۲۶ پہلی بیوی کے نام بیمہ پالیسی میں جمع شدہ رقم کا حکم	۱۱۳۳۷
۲۲۸ بچوں کے نام سے کی گئی پالیسی بھی مرحوم کے ترکہ میں شامل ہوگی ...	۱۱۳۳۸
۲۲۹ وارث کے لیے وصیت کردہ ایفڈیٹر ہے	۱۱۳۳۹
۲۳۱ مرحوم کے اسکول کی آمدنی جمع وارثین کے درمیان تقسیم ہوگی	۱۱۳۴۰
۲۳۲ ایکسیڈنٹ میں ملنے والی رقم کا مستحق کون؟	۱۱۳۴۱
۲۳۳ ایکسیڈنٹ میں ملنے والی معاوضہ کی رقم ترکہ ہے	۱۱۳۴۲
۲۳۴ کمپنی کی طرف سے ملنے والی رقم ترکہ میں شامل ہوگی	۱۱۳۴۳
۲۳۵ حادثاتی موت میں سرکاری معاوضہ میراث ہے یا نہیں؟	۱۱۳۴۴

۲۳۷	سرکاری ملازم کو ملنے والی پینشن میراث ہے یا بیوی کا حق تبرع؟ ...	۱۱۳۴۵
۲۳۷	پنشن میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟	۱۱۳۴۶
۲۳۹	کیا پرائیویٹ فنڈ بیوی کو ملے گا؟	۱۱۳۴۷
۲۳۹	ایک شخص کے ترکہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۱۳۴۸
۲۴۳	میت کی متروکہ جائیداد اور زیورات کی تقسیم	۱۱۳۴۹
۲۴۵	شوہر کے انتقال پر جہیز، زیورات اور بچے کا حکم	۱۱۳۵۰
۲۴۸	جہیز، مہر، منگنی وغیرہ کی رقومات کا حکم	۱۱۳۵۱
۲۵۰	مرحومہ کے زیورات، مہر، جہیز وغیرہ کی شرعی تقسیم	۱۱۳۵۲

۲۵۲	(۴) باب الوصیة قبل الموت	
-----	--------------------------	--

۲۵۲	تقسیم ترکہ قبل نفاذ وصیت کا حکم	۱۱۳۵۳
۲۵۴	مرض الوفات کی وصیت کا حکم	۱۱۳۵۴
۲۵۶	مرض الموت میں پورا مکان مہر میں دینے کا حکم	۱۱۳۵۵
۲۵۷	پورے ترکہ کو کارخیر میں وصیت کرنے کی شرعی حیثیت	۱۱۳۵۶
۲۵۹	وارث کے حق میں ہبہ پر شرعی ثبوت کے ساتھ وصیت کا ثبوت ہوتا؟ ...	۱۱۳۵۷
۲۶۱	وراثت کے متعلق وصیت بنانا	۱۱۳۵۸
۲۶۳	وارثین کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی	۱۱۳۵۹
۲۶۵	وارث کے حق میں وصیت	۱۱۳۶۰
۲۶۷	والدہ کی موت کے بعد وصیت کا حکم	۱۱۳۶۱
۲۶۹	مورث کا بیٹوں کو مکان کی وصیت کرنا	۱۱۳۶۲
۲۷۱	اولاد کو محروم کر کے پوری جائیداد بیوی کے نام وصیت کرنا	۱۱۳۶۳
۲۷۳	ایک بیوی اور اس کی اولاد کے لیے میراث سے متعلق وصیت کرنا	۱۱۳۶۴
۲۷۶	مرحوم کا بھتیجوں کے لیے وصیت کرنا	۱۱۳۶۵

۲۷۸ پھوپھی کا اپنا حصہ بھتیجیوں کے نام وصیت کرنا	۱۱۳۶۶
۲۷۹ شوہر کا بیوی و اولاد کے لیے میراث میں وصیت کرنا	۱۱۳۶۷
۲۹۰ مرحوم بیٹی کا حصہ اس کی لڑکی کے لیے وصیت کرنا	۱۱۳۶۸
۲۸۱ بھانجہ اور بہن کے حق میں وصیت اور ترکہ کی تقسیم	۱۱۳۶۹
۱۸۳ مؤنث اولاد کو محروم کر کے زینہ اولاد کے لیے وصیت کرنا	۱۱۳۷۰
۲۸۵ ہبہ شدہ مکان کے علاوہ میں وراثت اور وصیت کا نفا	۱۱۳۷۱

۲۸۷	(۵) باب موانع الإرث	
-----	----------------------------	--

۲۸۷ اہل اسلام کے حق میں اختلاف دارین موانع ارث نہیں	۱۱۳۷۲
 اختلاف دارین کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان موانع ارث کا حکم	۱۱۳۷۳
۲۸۸ جاری نہیں ہوتا	
۲۹۱ پاکستان ہجرت کرنے سے حق میراث ختم نہیں ہوتا	۱۱۳۷۴
۲۹۳ ہندو مذہب اختیار کرنے والی لڑکی وراثت سے محروم ہو جائے گی ..	۱۱۳۷۵
۲۹۴ مرتدہ کا اپنا حصہ بھتیجے کے نام کرنا	۱۱۳۷۶
۲۹۵ عیسائی مسلمان کا وارث نہیں	۱۱۳۷۷
۲۹۷ جائیداد کی تقسیم سے متعلق چند سوالات و جوابات	۱۱۳۷۸

۳۰۰	(۶) باب ذوی الفروض	
-----	---------------------------	--

۳۰۰ والدین کی میراث میں بیٹی کا حصہ	۱۱۳۷۹
۳۰۰ باپ کی میراث میں بیوی اور بیٹی کا حصہ	۱۱۳۸۰
۳۰۱ والدین کے ترکہ میں بہنوں کا حصہ	۱۱۳۸۱
۳۰۳ ایک لڑکے اور تین لڑکیوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم	۱۱۳۸۲
۳۰۴ والدہ کے زیور کی بھائی اور پانچ بہنوں کے درمیان تقسیم	۱۱۳۸۳
۳۰۵ بھائی بہنوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم کا ایک مسئلہ	۱۱۳۸۴

- ۱۱۳۸۵ والدین، تین بیٹے اور ایک بیٹی کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۳۰۷
- ۱۱۳۸۶ بیوی کا شوہر کے ترکہ میں کتنا حصہ ہے؟ وغیرہ سے متعلق چند سوالات ... ۳۰۸
- ۱۱۳۸۷ میت کے ترکہ میں بیوی اور بھتیجوں کو کتنا ملے گا؟ ۳۱۲
- ۱۱۳۸۸ شوہر اور والدین کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۳۱۳
- ۱۱۳۸۹ شوہر کی دو حالتیں ہیں ۳۱۴
- ۱۱۳۹۰ بیوی کے متروکہ مال میں شرعی حق ۳۱۵
- ۱۱۳۹۱ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کس کس چیز کی مالک ہوگی؟ ۳۱۷
- ۱۱۳۹۲ بیوی اولاد کی عدم موجودگی میں شوہر کے چوتھائی حصہ کی حقدار ۳۱۸
- ۱۱۳۹۳ ورثہ میں محض ایک بہن موجود ہو تو تقسیم ترکہ ۳۱۹
- ۱۱۳۹۴ ایک لڑکا لڑکی کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۳۲۰
- ۱۱۳۹۵ مرحومہ کے وارثین میں شوہر، لڑکا اور باپ ہو تو ترکہ کی تقسیم ۳۲۱
- ۱۱۳۹۶ تین بیٹے، دو بیٹیاں اور بیوی کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۳۲۲
- ۱۱۳۹۷ بیوی چچیرے بھائی میں ترکہ کی تقسیم ۳۲۳
- ۱۱۳۹۸ بیوی، تین لڑکیوں اور دو بھائیوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم ۳۲۴
- ۱۱۳۹۹ باپ کی جائیداد میں علاقائی بہن کا حصہ ۳۲۶
- ۱۱۴۰۰ بہن اور چچا زاد بھائیوں کے درمیان تقسیم ترکہ کا طریقہ ۳۲۷
- ۱۱۴۰۱ لاپتہ بیٹی کی عدم موجودگی میں وراثت کی تقسیم ۳۲۸
- ۱۱۴۰۲ گم شدہ کا مال ورثہ کے درمیان تقسیم کرنا ۳۳۰
- ۱۱۴۰۳ لاپتہ وراثت کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا ۳۳۱
- ۱۱۴۰۴ مفقود اخیر لڑکے کا حصہ کیا کیا جائے؟ ۳۳۲
- ۱۱۴۰۵ لاپتہ شخص کا باپ کی میراث میں حصہ اور وراثت کا اس کو فروخت کرنے کا حکم ۳۳۴
- ۱۱۴۰۶ ایک نواسے کے علاوہ کوئی نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ۳۳۵

۳۳۶ کیا سسر شرعی وارث ہے؟	۱۱۴۰۷
۳۳۹	(۷) باب العصابات	
۳۳۹ ترکہ میں سب لڑکے برابر حقدار ہیں	۱۱۴۰۸
۳۴۰ دو لڑکوں کے درمیان تقسیم کا طریقہ	۱۱۴۰۹
۳۴۲ ماں کے ترکہ میں سوتیلے بیٹے کا حصہ	۱۱۴۱۰
۳۴۲ شرعی گواہ یا رجسٹری کے بغیر محض دعویٰ سے ملکیت ثابت نہ ہوگی	۱۱۴۱۱
۳۴۳ اولاد کی عدم موجودگی میں بھائیوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟	۱۱۴۱۲
۳۴۴ کیا چچا زاد بھائی اور بہن وارث ہو سکتے ہیں؟	۱۱۴۱۳
۳۴۵ اصحاب الفروض نہ ہونے کی صورت میں چچا زاد بھائی کا حصہ	۱۱۴۱۴
۳۴۶ بھتیجا کے وارث بننے کی شکل	۱۱۴۱۵
۳۴۷ کیا ماموں زاد بھائی، بہن وارث ہو سکتے ہیں؟	۱۱۴۱۶
۳۴۸ بھانجے کے وارث ہونے کی شکل	۱۱۴۱۷
۳۴۸ کیا بھانجہ وارث ہو سکتا ہے؟	۱۱۴۱۸
۳۴۹ ماموں، خالہ وغیرہ شرعی وارث ہیں یا نہیں؟	۱۱۴۱۹
۳۵۰ اکلوتے علاقائی بھائی کا نصف میراث کا دعویٰ کرنا	۱۱۴۲۰
۳۵۱ پاگل بھائی کی دیکھ بھال اور جائیداد کی تقسیم	۱۱۴۲۱
۳۵۲ ورثہ میں صرف ایک لڑکی ہو تو کیا حکم ہے؟	۱۱۴۲۲
۳۵۳ پوتوں کا پھوپھیوں کو حصہ دینا	۱۱۴۲۳
۳۵۶	(۸) باب استحقاق الإرث و عدمہ	
۳۵۶ اولاد کو زندگی میں تقسیم کے مطالبہ کا حق نہیں	۱۱۴۲۴
۳۵۸ موت سے پہلے کسی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی	۱۱۴۲۵
۳۶۱ باپ کی وفات کے بعد جائیداد سے اولاد کا حق متعلق ہوتا ہے	۱۱۴۲۶

- ۱۱۴۲۷ ترکہ میں بلاشبوت دعویٰ داری کا عدم ہے ۳۶۲
- ۱۱۴۲۸ مرحوم کی ملکیت میں اپنا دعویٰ کرنا ۳۶۴
- ۱۱۴۲۹ تمام شرعی ورثاء کو حصہ وراثت دینا لازم ۳۶۵
- ۱۱۴۳۰ جائیدادیں بیٹوں کے درمیان برابری ضروری ہے ۳۶۶
- ۱۱۴۳۱ باپ سے ملی ہوئی جائیداد میں بیٹوں کا برابر کا حصہ ۳۶۹
- ۱۱۴۳۲ جہیز اور زیورات میراث کا بدل نہیں ۳۷۰
- ۱۱۴۳۳ حفاظت کی غرض سے جائیداد کسی وارث کے نام کرنے سے وہ مالک نہ ہوگا ... ۳۷۱
- ۱۱۴۳۴ بیوہ عورت کا اپنا مکان بیچ کر زندگی گزارنا ۳۷۲
- ۱۱۴۳۵ والدہ نے مکان چار لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تو دیگر ورثاء اس میں حق نہیں .. ۳۷۳
- ۱۱۴۳۶ باپ بیٹے نزل کر جس مکان کو چھڑایا ہوا اس میں لڑکیاں حقدار ہیں یا نہیں؟ ۳۷۵
- ۱۱۴۳۷ جن لڑکوں نے باپ سے قرض لے کر مکان بنایا اس میں دیگر ورثاء کا حق نہیں ۳۷۶
- ۱۱۴۳۸ قرض لے کر دوکان کھولنے والے کا انتقال ہو جائے تو دوکان کس کو ملے گی؟ ۳۷۷
- ۱۱۴۳۹ کیا باپ کی زندگی میں ذاتی محنت سے خریدی گئی جائیداد میں دوسرے ورثاء شریک ہیں؟ ۳۷۸
- ۱۱۴۴۰ موروثہ جائیداد وارث کا حق ہے، دیگر لوگوں کو اس میں دباؤ کا حق نہیں ۳۸۰
- ۱۱۴۴۱ داماد کے علاج میں خرچ کی ہوئی رقم کا مطالبہ ترکہ سے کرنا ۳۸۲
- ۱۱۴۴۲ مرحوم کے ترکہ سے شادی کا خرچہ الگ سے نہیں ملے گا ۳۸۴
- ۱۱۴۴۳ بھائی کا اپنی لڑکیوں کے نام بیچ نامہ رجسٹری کرانا ۳۸۵
- ۱۱۴۴۴ باپ کی جائیداد کسی ایک بھائی کی بیوی کے مہر میں دینا ممنوع ۳۸۶
- ۱۱۴۴۵ ماں کے انتقال کے بعد بڑی بیٹی کی بھی موت آجائے تو اس کی اولاد وارث ہوگی یا نہیں؟ ۳۸۸
- ۱۱۴۴۶ کیا دوسری شادی کرنے کے بعد لڑکیوں کا حصہ ختم ہو جائے گا؟ ... ۳۸۹

- ۱۱۴۴۷ لڑکیوں کو صحرائی زمین میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ ۳۹۰
- ۱۱۴۴۸ کیا ماں کے مال کی حقدار صرف لڑکیاں ہیں؟ ۳۹۱
- ۱۱۴۴۹ والدہ کی موت سے قبل فوت شدہ لڑکیوں کا حصہ ۳۹۳
- ۱۱۴۵۰ کیا وراثت میں جنین کو بھی حصہ ملے گا؟ ۳۹۴
- ۱۱۴۵۱ بیوی کے مال میں بچوں کا حصہ ہے یا نہیں؟ ۳۹۶
- ۱۱۴۵۲ دوسری بیوی کی اولاد کی جائیداد میں پہلی بیوی کی اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ ... ۳۹۶
- ۱۱۴۵۳ پہلی بیوی کے لڑکے کا شوہر کی جائیداد میں حصہ ۳۹۷
- ۱۱۴۵۴ پہلی بیوی کا لڑکا شرعی وارث ہے یا نہیں؟ ۳۹۸
- ۱۱۴۵۵ دونوں بیویوں کی اولاد وراثت ہوگی ۴۰۰
- ۱۱۴۵۶ ٹھیکیداری میں سے دونوں بیویوں اور ان کی اولاد کو حصہ ملے گا ۴۰۲
- ۱۱۴۵۷ کیا شوہر کے بنائے ہوئے ہوٹل میں خسر بھی وارث ہے؟ ۴۰۳
- ۱۱۴۵۸ شوہر کے انتقال کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرنے سے وراثت سے محروم نہیں ہوتی ۴۰۴
- ۱۱۴۵۹ شوہر سے الگ رہنے کی وجہ سے بیوی وراثت سے محروم نہیں ہوگی ۴۰۶
- ۱۱۴۶۰ ناشزہ فقہ کی مستحق نہیں ہے لیکن وراثت کی حقدار ہے ۴۰۷
- ۱۱۴۶۱ شوہر کی جگہ بیوی کا ترکہ کا مطالبہ کرنا ۴۰۸
- ۱۱۴۶۲ مرحوم کی بیوی کا زندگی میں ہی حصہ مانگنا ۴۰۹
- ۱۱۴۶۳ بیوی کا شوہر کے والد کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے ۴۱۰
- ۱۱۴۶۴ مطلقہ بیوی کی اولاد شرعی وارث ہیں لیکن مطلقہ وارث نہیں ۴۱۱
- ۱۱۴۶۵ مطلقہ اور اس کے بیٹے کا شوہر کی جائیداد میں حصہ ۴۱۳
- ۱۱۴۶۶ عدت مکمل ہونے کے بعد مطلقہ کا سابق شوہر اس کا وارث نہیں ۴۱۴
- ۱۱۴۶۷ بہن کے حصے میں بھائی کا حق ۴۱۶

۴۱۶ بہن کے نام ایف ڈی میں بھائی کا حصہ	۱۱۴۶۸
۴۱۸ ر بیب وارث نہیں ہے	۱۱۴۶۹
۴۱۸ بھتیجے کو حصہ دینے کی شرعی حیثیت	۱۱۴۷۰
۴۲۰ پوتا شرعی وارث ہے یا نہیں؟	۱۱۴۷۱
۴۲۱ مشترکہ حادثہ میں وفات پانے والا وارث ہے یا نہیں؟	۱۱۴۷۲
۴۲۴ نو مسلمہ اور اس کے بچوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟	۱۱۴۷۳
۴۲۵ تقسیم میراث سے متعلق ایک سوال	۱۱۴۷۴

۴۲۹	(۹) باب الحجب و الحرمان	
-----	--------------------------------	--

۴۲۹ وارث شرعی کو میراث سے محروم کرنے کا حکم	۱۱۴۷۵
۴۳۲ قانوناً بے دخلی کی وجہ سے حق وراثت ختم نہیں ہوتا	۱۱۴۷۶
۴۳۴ دوسرے کو مالک بنائے بغیر اپنا حق چھوڑنے سے حق باطل نہیں ہوتا	۱۱۴۷۷
۴۳۵ ”ہم لوگ وراثت نہیں لیں گے“ کہنے سے حق وراثت ساقط نہیں ہوگا	۱۱۴۷۸
۴۳۷ اپنا حق نہ لینے سے وراثت سے محروم نہیں ہوتا	۱۱۴۷۹
۴۳۹ ”آخرت میں اپنا حق لوں گی“ کہنے سے وراثت سے محروم نہیں ہوتی	۱۱۴۸۰
۴۴۰ اولاد کو عاق کرنے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتی	۱۱۴۸۱
۴۴۲ اپنے بیٹے کو عاق کرنے کی صورت کیا ہوگی؟	۱۱۴۸۲
۴۴۳ زندگی میں اپنی اولاد کو محروم الارث کرنا	۱۱۴۸۳
۴۴۴ نافرمان لڑکے کو وراثت سے محروم کرنا	۱۱۴۸۴
۴۴۵ قانونی پیچیدگی کی وجہ سے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا	۱۱۴۸۵
۴۴۶ والد کا اپنی لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا	۱۱۴۸۶
۴۵۱ لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنا	۱۱۴۸۷
۴۵۲ لڑکیوں کی شادی کرانے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتیں	۱۱۴۸۸

- ۱۱۴۸۹ مرضی سے نکاح کرنے کی بنا پر جائیداد سے محروم کرنا ۴۵۳
- ۱۱۴۹۰ کیا شادی کے بعد لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ۴۵۵
- ۱۱۴۹۱ شادی میں ملنے والے زیورات وغیرہ میراث کا بدل نہیں ۴۵۷
- ۱۱۴۹۲ لڑکیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا ۴۶۰
- ۱۱۴۹۳ تنہائی میں بہنوں سے حصہ نہ لینے کا اقرار کرانا ۴۶۱
- ۱۱۴۹۴ بیٹے کی موجودگی میں بہن وراثت نہیں ۴۶۳
- ۱۱۴۹۵ بھائی کا بہن کو حصہ دینے میں ٹال مٹول کرنا ۴۶۵
- ۱۱۴۹۶ دو بھائیوں کا پوری جائیداد پر قبضہ کر کے باقی بھائی بہنوں کو حصہ نہ دینا ۴۶۶
- ۱۱۴۹۷ والدین کی موجودگی میں بھائی بہن محروم ۴۶۷
- ۱۱۴۹۸ والد کی موجودگی میں بھائی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے ۴۶۸
- ۱۱۴۹۹ باپ کی موجودگی میں بہن بھائی کو وراثت میں سے کچھ نہ ملے گا ... ۴۷۰
- ۱۱۵۰۰ مرحوم کی بیوی کا مرحوم کے والد سے جائیداد مانگنا ۴۷۱
- ۱۱۵۰۱ حقیقیات کی موجودگی میں علاقیت محروم ہو جاتے ہیں ۴۷۲
- ۱۱۵۰۲ حقیقی اولاد کی موجودگی میں سوتیلی اولاد وراثت نہیں ہوتی ۴۷۳
- ۱۱۵۰۳ حقیقی بھائی کی موجودگی میں علاقیت بھائی محروم ۴۷۴
- ۱۱۵۰۴ بھائی کی موجودگی میں بھتیجیوں کا حصہ ۴۷۵
- ۱۱۵۰۵ بھائی کی موجودگی میں بھتیجا، بھتیجی، چچا زاد، خالہ زاد محروم ہوں گے ... ۴۷۶
- ۱۱۵۰۶ کیا بھتیجی باپ کے واسطے سے دادا کی وراثت بن سکتی ہے؟ ۴۷۷
- ۱۱۵۰۷ بھتیجی کی وجہ سے بھتیجیاں، بھانجے اور بھانجیاں محروم ہو جاتی ہیں ... ۴۷۸
- ۱۱۵۰۸ شوہر کا بھتیجہ وراثت نہیں ہے ۴۷۸
- ۱۱۵۰۹ چچا زاد بھائی، حقیقی بہن کی وجہ سے محروم ہو جائے گا ۴۷۹
- ۱۱۵۱۰ شوہر اور ماں باپ کی موجودگی میں بھائی بہن نانا اور خالائیں محروم ۴۸۰

۲۸۲ بیٹے کی موجودگی میں پھوپھی محروم	۱۱۵۱۱
۲۸۳ میت کی اولاد کی موجودگی میں اخیانی بھائی کا حصہ	۱۱۵۱۲
۲۸۴ مرحوم بیٹی کے لڑکے کا نانی کی جائیداد میں حصہ	۱۱۵۱۳
۲۸۵ بیٹی کی موجودگی میں نواسی محروم	۱۱۵۱۴
۲۸۶ سوتیلی وعلاتی بہن کا میراث میں حصہ	۱۱۵۱۵
۲۸۹ کیا بہنوں کی موجودگی میں بھانجے یا بھانجی کو حصہ ملے گا؟	۱۱۵۱۶
۲۹۰ بیٹے کی موجودگی میں نواسے، نواسیاں محروم	۱۱۵۱۷
 شوہر کے انتقال کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے بیوہ وراثت سے محروم نہیں ہوتی	۱۱۵۱۸
۲۹۱ داماد شرعی وارث نہیں اور لاپتہ وارث کا حق محفوظ رکھا جائے گا	۱۱۵۱۹
۲۹۳ والدین کا متوفیہ بچی کے علاج میں خرچ شدہ روپیوں کا مطالبہ کرنا	۱۱۵۲۰
۲۹۴ بیٹے کی موجودگی میں محروم پوتی اور بیوہ بہو کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ	۱۱۵۲۱
۲۹۶ محروم پوتی اور بیوہ کو بطور صلہ رحمی کچھ دینے کا شرعی حکم	۱۱۵۲۲
۲۹۸ پوتے و بہو کے حصہ وراثت، نان و نفقہ اور زیورات کا حکم	۱۱۵۲۳
۲۹۹ دادی کی جانب سے پوتوں کو ملی ہوئی زمین میں پوتوں کا حصہ ہے یا نہیں؟	۱۱۵۲۴
۵۰۲ پوتے کے نام جائیداد کرنے کی شرعی حیثیت	۱۱۵۲۵
۵۰۳ پوتے شرعی وارث نہیں	۱۱۵۲۶
۵۰۷ والد کی حیات میں وفات پانے والی اولاد وارث نہیں	۱۱۵۲۷
۵۰۹ مرحوم بیٹے کی بیوی اور اولاد کا حصہ	۱۱۵۲۸
۵۰۹ کیا لڑکے کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ ملے گا؟	۱۱۵۲۹
۵۱۱ بیٹے کی موجودگی میں یتیم پوتے محروم	۱۱۵۳۰
۵۱۲ دادا کی جائیداد میں پوتوں کا حصہ	۱۱۵۳۱

۵۱۴	شرعی وارث کو تسلیم نہ کرنے سے وہ حصہ وراثت سے محروم نہ ہوگا ...	۱۱۵۳۲
۵۱۷	والد کی موجودگی میں اولاد محروم	۱۱۵۳۳
۵۱۸	زنا سے پیدا شدہ بچہ وراثت کا حقدار نہیں	۱۱۵۳۴
۵۲۰	لے پاک وراثت نہیں	۱۱۵۳۵
۵۲۱	متنہنی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا	۱۱۵۳۶
۵۲۳	مورث کی اولاد کی موجودگی میں لپیلا لک کا حکم	۱۱۵۳۷
۵۲۳	کیا باپ کے متروکہ مال میں متنہنی بیٹے کا حصہ ہے؟	۱۱۵۳۸
۵۲۵	متنہنی کا باپ کی ملکیت میں کوئی حق نہیں	۱۱۵۳۹
۵۲۶	لڑکے کا اپنا حصہ متنہنی کے نام ہبہ کرنا	۱۱۵۴۰

۵۲۸	(۱۰) باب: مالِ حرام میں وراثت کا بیان	
-----	---------------------------------------	--

۵۲۸	کیا سرکاری مقبوضہ زمین میں وراثت جاری ہوگی؟	۱۱۵۴۱
۵۲۹	لاٹری کی رقم سے خریدی گئی جائیداد کا ورثہ کے لیے استعمال	۱۱۵۴۲
۵۳۰	کیا پگڑی میں وراثت جاری ہوگی؟	۱۱۵۴۳
۵۳۱	حق کرایہ داری میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟	۱۱۵۴۴
۵۳۲	کرایہ کی دوکان میں وراثت	۱۱۵۴۵
۵۳۳	وراثت میں ملی سودی رقم، اور اس سے خریدے گئے ترکہ کا حکم	۱۱۵۴۶
۵۳۴	وراثت میں ملی سودی رقم کا حکم	۱۱۵۴۷
۵۳۶	کیا پگڑی کی رقم میں وراثت جاری ہوگی؟	۱۱۵۴۸

۵۳۸	(۱۱) باب التصرف فی التركة	
-----	---------------------------	--

۵۳۸	لڑکی مرحوم والد کا مکان بیچے تو کیا حکم ہے؟	۱۱۵۴۹
۵۳۹	کسی ایک وارث کو ترکہ کی جائیداد کو فروخت کر دینا	۱۱۵۵۰
۵۴۲	تقسیم سے قبل کی وراثت جائیداد کے کسی حصہ کو فروخت کرنا	۱۱۵۵۱

- ۱۱۵۵۲ بیوی کی متروکہ جائیداد میں غیر شرعی تصرف کا حکم ۵۴۵
- ۱۱۵۵۳ باپ کے ترکہ سے بھائیوں کی رضامندی سے خریدی گئی زمین کس کی ملک؟ ۵۴۶
- ۱۱۵۵۴ لڑکی کا اپنے بھائیوں سے چھپ کر کچھ جائیداد والدین کیلئے ایصال ثواب کرنا ۵۴۸
- ۱۱۵۵۵ میت کا کل ترکہ مسجد میں دینے کی وصیت کرنا ۵۴۹
- ۱۱۵۵۶ تقسیم وراثت سے پہلے ورثاء کا اپنا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنا ۵۵۰
- ۱۱۵۵۷ بیٹا باپ کی جائیداد بیچ دے اور پوتا اپنے نام کرا لے تو کیا حکم ہے؟ ۵۵۱
- ۱۱۵۵۸ ترکہ کے مکان کی کسی وارث نے از سر نو تعمیر کی تو تقسیم ترکہ کس طرح ہو؟ .. ۵۵۲
- ۱۱۵۵۹ تقسیم سے پہلے ترکہ میں تصرف، نیز لڑکیوں کی تمام ترکہ میں حصہ داری .. ۵۵۳
- ۱۱۵۶۰ بھائی بہنوں کی شادی کا خرچہ ترکہ سے مجری کرنا ۵۵۶
- ۱۱۵۶۱ شادی کے خرچہ کو متروکہ میراث میں مجری کرنا ۵۵۸
- ۱۱۵۶۲ کسی وارث کے مال کو دھوکہ دے کر اپنے نام جائیداد کرانا ۵۵۹
- ۱۱۵۶۳ ماں کے لیے یتیم بچوں کے ترکہ کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ... ۵۶۱
- ۱۱۵۶۴ تنہا ایک وارث کو کاروبار اپنے نام رجسٹرڈ کرانا جائز نہیں ۵۶۲
- ۱۱۵۶۵ ایک وارث کا دوسرے وارث کے حصہ میں تصرف کا حکم ۵۶۵
- ۱۱۵۶۶ چچا کے کل متروکہ مال میں چچی کا تصرف ۵۶۸
- ۱۱۵۶۷ والد کے مکان میں اقامت پذیر لڑکی سے کرایہ مانگنا ۵۷۰
- ۱۱۵۶۸ تقسیم سے قبل ترکہ میں ہوئے تجارتی نفع کا حکم ۵۷۲
- ۱۱۵۶۹ قبل تقسیم ترکہ میں کسی وارث کے تصرف کا حکم ۵۷۴
- ۱۱۵۷۰ مشترکہ کمائی سے خریدی گئی جائیداد میں سب بھائی برابر کے حقدار ہیں ... ۵۷۶
- ۱۱۵۷۱ کاروبار میں لگائے گئے ترکہ میت کے منافع کے حقدار کون؟ ۵۷۷
- ۱۱۵۷۲ تقسیم سے قبل ترکہ میں ہونے والا نفع سب ورثاء کو درمیان مشترک ہے ... ۵۷۸
- ۱۱۵۷۳ ترکہ مشترک سے خریدی گئی زمین میں دوسرے ورثاء کا حصہ ہے یا نہیں؟ ... ۵۷۹

۵۸۱ میت کے ترکہ میں تجارت کی صورت میں شرکت کا حکم	۱۱۵۷۴
۵۸۵	(۱۲) باب التخرج	
۵۸۵ بدلِ صلح میں وراثت جاری ہوگی	۱۱۵۷۵
۵۸۶ تخرج کے بعد ترکہ میں حق نہیں رہتا، اور تقسیم کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہے	۱۱۵۷۶
۵۸۷ تقسیم کے بعد ایک فریق کا دوسرے سے نیک نامی کے نام پر رقم طلب کرنا	۱۱۵۷۷
۵۸۹ رقم کے ذریعہ مصالحت کرنے والوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں	۱۱۵۷۸
۵۹۰ مصالحت علی الممال کے بعد بقیہ مال کی دو بھائیوں کے درمیان تقسیم	۱۱۵۷۹
۵۹۱ اندازاً بہن کو اس کا حصہ دینے کی شرعی حیثیت	۱۱۵۸۰
۵۹۲ بہنوں کو زمین کے بدلے آٹھ سال بعد اس کی قیمت دینا	۱۱۵۸۱
۵۹۳ ایک وارث کا مکان پر صلح کرنا	۱۱۵۸۲
۵۹۶ جائیداد نہ دے کر لڑکیوں کو ان کے حصہ کی قیمت دینا کیسا ہے؟	۱۱۵۸۳
۵۹۷ شوہر کا بیوی کے بھائیوں سے ان کا حصہ خریدنا	۱۱۵۸۴
۵۹۹ دونوں بہنوں کا جائیداد کے عوض پچاس پچاس ہزار پر مصالحت کرنا	۱۱۵۸۵
۶۰۱	(۱۳) باب المناسخۃ	
۶۰۱ مناسخہ کا ایک مسئلہ	۱۱۵۸۶
۶۰۲	(۱۴) متفرقات	
۶۰۳ تقسیم ترکہ	۱۱۵۸۷
۶۰۷ تقسیم ترکہ کی ایک صورت	۱۱۵۸۸
۶۱۰ والد کی جائیداد کی ۲۷ رسال بعد تقسیم	۱۱۵۸۹
۶۱۱ عورت کا ملکیت کا دعویٰ بلا دلیل معتبر نہیں	۱۱۵۹۰
۶۱۳ وراثت سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۱۵۹۱

۶۱۹	مرحوم کے ترکہ کی تقسیم اور اس کے زیورات وغیرہ میں زکوٰۃ کا حکم	۱۱۵۹۲
۶۲۰	تقسیم ترکہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۱۵۹۳
۶۲۴	تقسیم ترکہ کے ایک مسئلہ کی وضاحت	۱۱۵۹۴
۶۲۸	مرحوم کی بیوی سے شادی کر کے مرحوم کے ترکہ سے اس کو محروم کر دینا	۱۱۵۹۵
۶۳۱	ایک شخص کے ترکہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات	۱۱۵۹۶
۶۳۶	باقر حسین کے ترکہ سے متعلق چند سوالات کا شرعی حکم	۱۱۵۹۷
۶۴۱	ترکہ کی تقسیم سے متعلق ایک سوال اور جواب	۱۱۵۹۸
۶۴۵	متوفیہ کے ترکے اور بچے کا حکم	۱۱۵۹۹
۶۴۷	جائیداد کی تقسیم میں نزاع اور اس کا حل	۱۱۶۰۰

